

جدید و قدیم تفاسیر اور دیگر علوم اسلامیہ پر مشتمل ذخیرہ کتب کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات کے مطالب و معانی اور ان سے حاصل ہونے والے درس و مسائل کا موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق انتہائی آسان بیان



صراط الجنان فی تفسیر القرآن

چھٹی جلد
پارہ 16.17.18

مفسر: شیخ الحدیث والتفسیر، ابو صالح مفتی محمد قاسم قادری عطاری مدظلہ العالی

جدید و قدیم تفاسیر اور دیگر علوم اسلامیہ پر مشتمل ذخیرہ کتب کی روشنی میں قرآن مجید کی آیات کے مطالب و معانی اور ان سے حاصل ہونے والے درس و مسائل کا موجودہ زمانے کے تقاضوں کے مطابق انتہائی آسان بیان، نیز مسلمانوں کے عقائد، دین اسلام کے اوصاف و خصوصیات، اہلسنت کے نظریات و معمولات، عبادات، معاملات، اخلاقیات، باطنی امراض اور معاشرتی برائیوں سے متعلق قرآن و حدیث، اقوال صحابہ و تابعین اور دیگر بزرگان دین کے ارشادات کی روشنی میں ایک جامع تفسیر مع دو ترجموں کے

کَنْزُ الْأَمِيكِنِ فِي تَرْجَمَةِ الْقُرْآنِ

از: اعلیٰ حضرت، مجدد دین و ملت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰنِ

اور

کَنْزُ الْعَرَفَانِ فِي تَرْجَمَةِ الْقُرْآنِ

مع

صِرَاطِ الْجَنَانِ فِي تَفْسِيرِ الْقُرْآنِ

از: شیخ الحدیث و التفسیر، ابوصالح مفتی محمد قاسم قادری عطاری مدظلہ العالی

ناشر

مکتبۃ المدینہ باب المدینہ کراچی

www.dawateislami.net

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام کتاب :	صراط الجنان فی تفسیر القرآن (جلد ششم)
مصنف :	شیخ الحدیث و التفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی ابوالصالح محمد قاسم قادری مدظلہ العالی
پہلی بار :	ربیع الاول ۱۴۴۰ھ، دسمبر 2018ء
تعداد :	10000 (دس ہزار)
ناشر :	مکتبہ المدینہ فیضانِ مدینہ محلہ سوداگران پرانی سبزی منڈی باب المدینہ، کراچی

مکتبہ المدینہ کی شاخیں

01	کراچی: فیضانِ مدینہ پرانی سبزی منڈی باب المدینہ کراچی	UAN: +92 21 111 25 26 92
02	لاہور: داتا دربار مارکیٹ گنج بخش روڈ	042-37311679
03	سردار آباد: (فیصل آباد) امین پور بازار	041-2632625
04	میرپور کشمیر: فیضانِ مدینہ چوک شہیداں میرپور	05827-437212
05	حیدرآباد: فیضانِ مدینہ آفندی ٹاؤن	022-2620123
06	ملتان: نزد پیپل والی مسجد اندرون بوہڑ گیٹ	061-4511192
07	راولپنڈی: فضل داد پلازہ کمیٹی چوک اقبال روڈ	051-5553765
08	نواب شاہ: چکر بازار نزد MCB بینک	0244-4362145
09	سکھر: فیضانِ مدینہ مدینہ مارکیٹ بیراج روڈ	0310-3471026
10	گوجرانوالہ: فیضانِ مدینہ شیخوپورہ موڑ	055-4441919
11	گجرات: مکتبہ المدینہ میلاد (فوارہ چوک)	053-3021911

E.mail: ilmia@dawateislami.net

www.dawateislami.net

مدنی التجا: کسی اور کو یہ کتاب چھاپنے کی اجازت نہیں

تفسیر ”صراط الجنان“ تفسیر القرآن“ کا مطالعہ کرنے کی نیتیں

فرمانِ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: ”نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهِ“ مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔
(المعجم الكبير للطبرانی، ۶/۱۸۵، حدیث: ۵۹۴۲)

دومدنی پھول

بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عملِ خیر کا ثواب نہیں ملتا۔

جتنی اچھی نیتیں زیادہ، اتنا ثواب بھی زیادہ۔

- (1) ہر بار تَعُوذُ ذُو (2) تَسْمِيَةِ سے آغاز کروں گا۔ (3) رضائے الہی کیلئے اس کتاب کا اوّل تا آخر مطالعہ کروں گا۔
- (4) با وضو اور (5) قبلہ رُو مطالعہ کروں گا۔ (6) قرآنی آیات کی درست مخارج کے ساتھ تلاوت کروں گا۔ (7) ہر آیت کی تلاوت کے ساتھ اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھ کر قرآنِ کریم سمجھنے کی کوشش کروں گا اور دوسروں کو اس کی تعلیم دوں گا۔ (8) اپنی طرف سے تفسیر کرنے کے بجائے علمائے کھٹہ کی لکھی گئی تفاسیر پڑھ کر اپنے آپ کو اپنی رائے سے تفسیر کرنے کی وعید سے بچاؤں گا۔ (9) جن کاموں کے کرنے کا حکم ہے وہ کروں گا اور جن سے منع کیا گیا ہے ان سے دور رہوں گا۔
- (10) اپنے عقائد و اعمال کی اصلاح کروں گا اور بد عقیدگی سے خود بھی بچوں گا اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی بچانے کی کوشش کروں گا۔ (11) جن پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کا انعام ہوا ان کی پیروی کرتے ہوئے رضائے الہی پانے کی کوشش کرتا رہوں گا۔
- (12) جن قوموں پر عتاب ہوا ان سے عبرت لیتے ہوئے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خفیہ تدبیر سے ڈروں گا۔ (13) شانِ رسالت میں نازل ہونے والی آیات پڑھ کر اس کا خوب چرچا کر کے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے اپنی محبت و عقیدت میں مزید اضافہ کروں گا۔ (14) جہاں جہاں ”اللہ“ کا نام پاک آئے گا وہاں عَزَّوَجَلَّ اور (15) جہاں جہاں ”سرکار“ کا اسم مبارک آئے گا وہاں صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پڑھوں گا۔ (16) شرعی مسائل سیکھوں گا۔ (17) اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی تو علمائے کرام سے پوچھ لوں گا۔ (18) دوسروں کو یہ تفسیر پڑھنے کی ترغیب دلاؤں گا۔ (19) اس کے مطالعہ کا ثواب آقا صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ساری امت کو ایصال کروں گا۔ (20) کتابت وغیرہ میں شرعی غلطی ملی تو ناشرین کو تحریری طور پر مطلع کروں گا۔ (ناشرین و مصنف وغیرہ کو کتابوں کی اغلاط صرف زبانی بتانا خاص مفید نہیں ہوتا)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(شیخ طریقت امیر اہلسنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی کا نام ہے کہ انہوں نے اس کتاب کو لکھا ہے)
کے صراط الجنان کی پہلی جلد پر دیئے گئے تاثرات)

کچھ صراط الجنان کے بارے میں.....

۱۴۲۲ھ (2002ء) کی بات ہے جب مفتی دعوت اسلامی الحاج محمد فاروق مدنی علیہ رحمۃ اللہ العلیی
”چل مدینہ“ کے قافلے میں ہمارے ساتھ تھے اور اس سفر حج میں مجھے ان کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملا تھا۔ بے حد کم
گو، انتہائی سنجیدہ اور کثرت سے تلاوت قرآن کرنے والی اس نہایت پرہیزگار شخصیت کی عظمت میرے دل میں گھر کر
گئی۔ مکة المکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً میں ہمارا مشورہ ہوا کہ اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت مولانا شاہ امام احمد رضا
خان علیہ رحمۃ الرحمن کے ترجمہ کنز الایمان کی ایک آسان سی تفسیر ہونی چاہئے جس سے کم پڑھے لکھے عوام بھی فائدہ
اٹھا سکیں، الحمد للہ مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی اس بابرکت خدمت کے لئے بخوشی آمادہ ہو گئے۔ مجوزہ تفسیر کا
نام صراط الجنان (یعنی جنتوں کا راستہ) طے ہوا۔ تبرکاً مکة المکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً ہی میں اس عظیم
کام کا آغاز کر دیا گیا، افسوس! مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کی زندگی نے ان کا ساتھ نہ دیا، 6 پاروں پر کام کر کے
وہ (بروز جمعہ ۱۸ محرم الحرام ۱۴۲۷ھ) پردہ فرما گئے۔

اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔


امین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم

چونکہ یہ کام انتہائی اہم تھا لہذا مدنی مرکز کی درخواست پر شیخ الحدیث والتفسیر حضرت علامہ مولانا الحاج مفتی
ابوصالح محمد قاسم قادری مدظلہ العالی نے اس کام کا از سر نو آغاز کیا۔ اگرچہ اس نئے مواد میں مفتی دعوت اسلامی کے کئے
گئے کام کو شامل نہ کیا جاسکا مگر چونکہ بنیاد انہی نے رکھی تھی اور آغاز بھی مکة المکرمہ زادھا اللہ شرفاً و تعظیماً کی پر بہار

فضاؤں میں ہوا تھا اور ”صراط الجنان“ نام بھی وہیں طے کیا گیا تھا لہذا حصولِ برکت کیلئے یہی نام باقی رکھا گیا ہے۔ کنز الایمان اگرچہ اپنے دور کے اعتبار سے نہایت فصیح ترجمہ ہے تاہم اس کے بے شمار الفاظ ایسے ہیں جو اب ہمارے یہاں رائج نہ رہنے کے سبب عوام کی فہم سے بالاتر ہیں لہذا اعلیٰ حضرت، امام اہلسنت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے ترجمہ قرآن کنز الایمان شریف کو من و عن باقی رکھتے ہوئے اسی سے روشنی لیکر دو درحاضر کے تقاضے کے مطابق حضرت علامہ مفتی محمد قاسم صاحب مدظلہ نے مَا شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ ایک اور ترجمے کا بھی اضافہ فرمایا، اس کا نام کنز العرفان رکھا ہے۔ اس کام میں دعوتِ اسلامی کی میری عزیز اور پیاری مجلس المدینۃ العلمیہ کے مدنی علمائے بھی حصہ لیا بالخصوص مولانا ذوالقرنین مدنی سلمہ الغنی نے خوب معاونت فرمائی اور اس طرح صراط الجنان کی 3 پاروں پر مشتمل پہلی جلد (دوسری، تیسری، چوتھی اور پانچویں جلد کے بعد اب پارہ نمبر 16، 17 اور 18 پر مبنی چھٹی جلد) آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ الحاج مفتی محمد قاسم صاحب مدظلہ سمیت اس کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن و صراط الجنان فی تفسیر القرآن کے مبارک کام میں اپنا اپنا حصہ ملانے والوں کو دنیا و آخرت کی خوب خوب بھلائیاں عنایت فرمائے اور تمام عاشقانِ رسول کیلئے یہ تفسیر نفع بخش بنائے۔

اٰمِیْن بِجَاہِ النَّبِیِّ الْاَمِیْنِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ

صَلُّوْا عَلٰی الْحَبِیْبِ ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلٰی مُحَمَّدٍ



عالمِ علمین
پبلسٹی
پبلسٹی
پبلسٹی
پبلسٹی

۶ جمادی الاخریٰ ۱۴۳۳ھ

20-04-2013

فہرست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
45	اعمال میں وزن سے محروم ہونے والے لوگ	1	نیتیں
47	اہل حق علماء کا مذاق اڑانے والوں کو نصیحت	2	کچھ صراط الجنان کے بارے میں
48	جنتی نعمتیں اور سب سے اعلیٰ جنت	16	سورہ ہرک
	سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو بشر کہنے	17	تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی تمنا
53	سے متعلق 3 اہم باتیں	18	مہمان نوازی نہ کرنے کی مذمت
56	ریا کاری کی مذمت پر 4 احادیث		آیت ”قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ“ سے حاصل
57	سورہ مریم	19	ہونے والی معلومات
57	سورہ مریم کا تعارف	20	آیت ”أَمَّا السَّفِينَةُ“ سے حاصل ہونے والی معلومات
57	مقام نزول	22	باطن کا حال جان کر کسی کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں؟
57	رکوع اور آیات کی تعداد		آیت ”فَأَسْرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا تَبَهُمَا“ سے حاصل
57	”مریم“ نام رکھنے کی وجہ	23	ہونے والی معلومات
57	سورہ مریم سے متعلق احادیث	24	یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب
58	سورہ مریم کے مضامین	25	عبرت انگیز عبارات
60	سورہ کہف کے ساتھ مناسبت	26	باپ کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا فائدہ
61	تیک بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے	27	حضرت خضر عَلَي نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ زندہ ہیں
	آہستہ آواز میں دعائے مانگنے کی فضیلت اور دعائے مانگنے کا	28	حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا مختصر تعارف
62	ایک ادب	38	دنیا فنا ہونے سے پہلے یا جوج و ماجوج کا نکلنا
	آیت ”رَبِّ اِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي“ سے حاصل	42	ظاہری اعمال اچھے ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں
64	ہونے والی معلومات	42	خارجیوں کا مختصر تعارف
	سورہ مریم کی آیت 5 اور 6 سے حاصل ہونے والی	44	بدکار سے زیادہ بد نصیب

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو بچپن میں ملنے	66	معلومات
93	والے عظیم ترین فضائل	67	آیت ”يُزَكِّرِيَا إِنَّا نَبِيْرُنَ“ سے متعلق تین باتیں
	حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور حضرت عائشہ	71	حقیقی موثر اللہ تعالیٰ ہے
94	صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی براءت میں فرق	73	ہماری پیدائش کا اصلی مقصد
95	تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی برکات		حضرت تکلی عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اور تاجدار رسالت
96	آدمی کب تک شرعی احکام کا پابند ہے؟	74	صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نرم دلی اور رحمت
	آیت ”وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ“ سے حاصل ہونے والی		نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پاک کرنے
97	معلومات	75	والے ہیں
101	عیسائیوں کے مختلف فرقے اور ان کے عقائد	75	نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا خوفِ خدا
103	اخروی تیاری کی ترغیب	77	لفظ ”جبار“ کے مختلف معنی
105	گناہگاروں کے لئے مقامِ خوف	77	تکبر سے بچنے کی فضیلت اور عاجزی کے فضائل
107	مقامِ صدیق اور مقامِ نبوت میں فرق		ولادت کے دن خوشی کرنے اور وفات کے دن غم کا
108	آز حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا باپ تھا یا چچا؟	79	اظہار نہ کرنے کی وجہ
	آیت ”يَا بَتِ إِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ“ سے	80	حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی فضیلت
111	حاصل ہونے والی معلومات	82	نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے
	سورہ مریم کی آیت نمبر 44 اور 45 سے حاصل ہونے		آیت ”لَا هَبَ لَكَ عِلْمًا ذِكِيًّا“ سے حاصل
112	والی معلومات	84	ہونے والی معلومات
	نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں	86	یوسف نجار کے سوال کا جواب
113	کیلئے درس	87	تمام مخلوقات کو پہلی بار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا
114	آزر کے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ		حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر اللہ تعالیٰ کی عنایت
	آیت ”وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ“	89	و کرم نوازی
115	سے حاصل ہونے والی معلومات	90	چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو چکا ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
134	بیکار باتوں سے پرہیز کریں		آیت ”فَلَمَّا عَتَقَرْتَهُمْ“ سے حاصل ہونے والی
136	اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے	116	معلومات
140	دنیا و آخرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب		حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آزر کے واقعے
142	کفار کے عذاب میں فرق ہوگا	117	سے حاصل ہونے والی معلومات
144	پل صراط سے متعلق چند اہم باتیں	118	حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پانچ صفات
145	پل صراط کا خوفناک منظر	119	کلیم اور حبیب میں فرق
148	نجانے ہم پل صراط سے نجات پا جائیں گے یا نہیں		آیت ”وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ شَاحِبَاتِنَا“ سے حاصل ہونے
149	پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے لئے 13 اعمال	120	والی معلومات
151	دنیوی ترقی کو اخروی بہتری کی دلیل بنانا درست نہیں	121	رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وعدہ وفا کی
154	باقی رہنے والی نیک باتیں		اہل خانہ کو نماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ
	سورہ مریم کی آیت نمبر 77 تا 80 سے حاصل ہونے	122	تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت
156	والی معلومات	123	اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے کی ترغیب
157	کفار کی جاہلانہ اور احمقانہ حرکت	123	نماز فجر کے لئے جگانے کی فضیلت
	آیت ”الْم تَرَانَا أَرْسَلْنَا الشَّيْطَانَ“ سے حاصل	124	حضرت ادریس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مختصر تعارف
158	ہونے والی معلومات	124	درس قرآن اور درس علم دین کے فضائل
159	نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہئے	125	قرآن مجید کا درس دینے سے متعلق اہم تنبیہ
160	اہل جنت کے اعزاز و اکرام سے متعلق 4 روایات	127	اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا شعار
	کافروں کی سزا کے بارے میں سن کر مسلمانوں کو بھی	129	سجدہ تو کر لیا مگر آنسو نہ نکلے
162	ڈرنا چاہئے		آیت ”إِذَا نَسَلْتُمْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ“ سے
	آیت ”وَنَسُوْقِ الْمَجْرِمِيْنَ“ سے حاصل ہونے	129	حاصل ہونے والی معلومات
162	والی معلومات	131	نماز ضائع کرنے کی صورتیں اور 3 وعیدیں
163	اللہ تعالیٰ کے پاس عہد	132	جہنم کی وادی ”غی“ کا تعارف

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
183	ہونے والی معلومات		اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بہت بڑا خطرہ
184	موت اور قیامت کا وقت چھپائے جانے کی حکمت	167	ہوگا
186	سوال پوچھنے کی وجہ لاعلمی ہونا ضروری نہیں	168	محبوبیت کی دلیل اور ولی کی علامت
187	عصار کھنے کے فوائد	169	سورہ مریم کی آیت 97 سے متعلق 13 اہم باتیں
187	عصا کے ساتھ جنت میں چہل قدمی	170	سورہ طہ
190	کلمیم اور حبیب کو دکھائی گئی نشانیوں میں فرق	170	سورہ طہ کا تعارف
	سورہ طہ کی آیت نمبر 29 تا 35 سے حاصل ہونے والی	170	مقام نزول
193	معلومات	170	رکوع اور آیات کی تعداد
194	علماء اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب	170	”طہ“ نام رکھنے کی وجہ
201	نرمی کے فضائل	170	سورہ طہ کے فضائل
202	رحمت الہی کی جھلک	171	سورہ طہ کے مضامین
203	مخلوق سے ایذا کا خوف توکل کے خلاف نہیں	172	سورہ مریم کے ساتھ مناسبت
209	میت کی تدفین کے بعد ایک مستحب عمل		اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی عظمت
211	کفار کے میلے میں جانے کا شرعی حکم	174	قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کا مقصد
224	توبہ کی اہمیت اور اس کی قبولیت	174	عرش پر استوا فرمانے سے متعلق ایک اہم بات
225	کلمیم اور حبیب کی رضا میں فرق	176	برے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب
227	سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے	177	بلند آواز سے ذکر کرنے کا مقصد
228	اللہ تعالیٰ کے لئے راضی یا ناراض ہونا چاہئے	178	زوجہ اہل بیت میں داخل ہے
229	اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ایک سبب	180	آیت ”فَاخَذَ نَعْلَيْكَ“ سے حاصل ہونے والی
232	وعظ و نصیحت کی عمدہ ترتیب		معلومات
240	وقت ایک قیمتی جوہر ہے اسے ضائع نہ کریں	181	آیت ”وَاقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِي“ سے حاصل
243	اہل ایمان کی شفاعت کی دلیل		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
276	سورہ اول پکارا	243	شفاعت سے متعلق 6 احادیث
276	سورہ انبیاء	247	نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے
276	سورہ انبیاء کا تعارف	247	نیک اعمال اور لوگوں کا حال
276	مقام نزول		آیت ”وَلَقَدْ عٰهَدْنَا اِلٰى اٰدَمَ“ سے معلوم ہونے
276	رکوع اور آیات کی تعداد	250	والے عقائد و مسائل
276	”انبیاء“ نام رکھنے کی وجہ		تعظیم کے طور پر غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام اور اس سے
276	سورہ انبیاء کے مضامین	252	بچنا فرض ہے
278	سورہ طہ کے ساتھ مناسبت		شیطان کی حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام سے دشمنی
	اخروی حساب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی	253	کی وجہ
280	روش اور مسلمانوں کا حال		سورہ طہ کی آیت نمبر 117 تا 119 سے حاصل ہونے
281	مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں	254	والی معلومات
282	جب حساب کا وقت قریب ہے تو یہ دیوار نہیں بنے گی		انبیاء کرام عَلَيْهِم الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام کی عصمت سے متعلق
285	اہل باطل اور جھوٹے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے	256	اہلسنت وجماعت کا عقیدہ
287	شرعی معلومات نہ ہونے اور نہ لینے کے نقصانات	258	دنیا میں گمراہی اور آخرت میں بدبختی سے بچنے کا ذریعہ
288	فرض علوم سیکھنے کی ضرورت و اہمیت	263	دونوں جہاں میں گناہ اور نیکی کا نتیجہ
292	سوال کرنا علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے	265	اس امت پر عذاب عام نہ آنے کی وجوہات
295	قرآن مجید کی تعلیمات سے منہ پھیرنے کا انجام		اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صَلَّى اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم
298	کون سی توبہ فائدہ مند ہے؟	268	کی رضا چاہتا ہے
301	فرشتوں کی تسبیح کی کیفیت	270	کفار کی ترقی ان کے لئے آزمائش ہے
301	قرب و شرف رکھنے والوں کا وصف	271	نماز اور مسلمانوں کا حال
304	بدترین اعتراضات اور ان کا انجام	272	اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنے کا انجام
307	فساد کی سب سے بڑی جڑ	273	روزی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
344	برکت والی سرزمین		آیت ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ“ سے معلوم
345	نیک اولاد کا فائدہ	308	ہونے والے مسائل
345	انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر زکوٰۃ فرض نہیں		فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں
	حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر اللہ تعالیٰ کے	310	بھی کریں گے
346	احسانات	311	فرشتوں کا خوفِ خدا
	آیت ”فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَبَجَّيْنَاهُ“ سے دعا کے بارے	313	آسمان و زمین ملے ہوئے ہونے سے کیا مراد ہے؟
349	میں معلوم ہونے والے دو احکام	318	مصیبت آنے پر صبر اور نعمت ملنے پر شکر کرنے کی ترغیب
350	کھیتی والے واقعے سے معلوم ہونے والے مسائل		حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی گستاخی کا
351	مجتہد کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے	320	انجام
352	علم دین کے مالدار پر فضائل	321	جلد بازی کی مذمت اور مستقل مزاجی کی اہمیت
354	انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے پیشے	325	غفلت و عذاب کا عمومی سبب
	حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز پیشہ اختیار کرنے		پہلے کافروں اور اب مسلمانوں پر زمین کے کناروں
355	کے فضائل	326	کی کمی
	حضرت سلیمان عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی بادشاہی اور		آیت ”قُلْ اِنَّمَا اُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ“ سے معلوم
356	عاجزی	327	ہونے والے مسائل
357	”قلاں کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے“ کہنا شرک نہیں	328	غفلت و بدبختی کا شکار لوگوں کا حال
	اللہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی	329	میزان کے خطرے سے نجات پانے والا شخص
358	شان	333	بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی فضیلت
360	حضرت ایوب عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی بیماری	336	باپ دادا کا برا طریقہ عمل کے قابل نہیں
360	آزمائش و امتحان ناراضی کی دلیل نہیں	336	دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں
	حضرت ایوب عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی دعا سے معلوم	336	شریعت کے خلاف کام میں کثرت رائے معتبر نہیں
361	ہونے والے مسائل	344	حضرت لوط عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا مختصر تعارف

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
394	سورۃ حج	362	مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب
394	سورۃ حج کا تعارف	364	حضرت ذوالکفل علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی تھے یا نہیں؟
394	مقام نزول	365	مقبول دعائیہ کلمات
394	رکوع اور آیات کی تعداد	367	حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا مسلمانوں کے لیے بھی ہے
394	”حج“ نام رکھنے کی وجہ	368	حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا سے معلوم ہونے والی باتیں
394	سورۃ حج کے بارے میں حدیث	369	دعائیں قبول ہونے والا بننے کیلئے تین کام کئے جائیں
395	سورۃ حج کے مضامین	370	پاک دامنی عورت کے لئے بہترین وصف ہے
396	سورۃ انبیاء کے ساتھ مناسبت	371	خود ساختہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے
398	قیامت کے ذکر سے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کا حال	372	آیت ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ“ سے معلوم ہونے والے مسائل
400	علم کلام اچھا علم ہے	375	کفار کے انجام میں عبرت و نصیحت
401	شیطان انسانوں اور جنوں سے نجات کی صورت	378	صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی عظمت و شان
403	بد مذہبوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے کی ممانعت	381	سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ
405	انسانی تخلیق کے مراحل	383	سجل کا معنی
406	لوگ	383	انبیاء، صحابہ اور اولیاء کا حشر لباس میں ہوگا
409	آیت ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ“ سے معلوم ہونے والے احکام	386	حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی رحمت
411	دین اسلام دنیوی منفعت کی وجہ سے نہیں بلکہ حق سمجھ کر قبول کیا جائے	388	آیت ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ اور عظمت مصطفیٰ
414	اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے	389	حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی رحمت میں فرق
415	ہدایت حاصل ہونے کا ایک عظیم ذریعہ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
439	حج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟	417	آیت ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا“ سے معلوم ہونے والے مسائل
440	پرہیزگاری کا مرکز	418	عزت و ناموری کسی کی میراث نہیں
443	جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا شرط ہے	419	جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی کیفیت
444	قربانی کا دنیوی اور اخروی فائدہ	420	جہنم کے گرز
445	آیت ”وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا“ پر عمل سے متعلق بزرگان	421	جہنم کو پیدا فرمانے میں حکمت
446	دین کے دو واقعات	423	آیت میں بیان کی گئی جنتی نعمتوں سے متعلق 3 احادیث
447	اونٹ نحر کرنے سے متعلق دو شرعی مسائل	423	مردوں کے لئے ریشم پہننے کی وعیدیں
449	اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر نیک عمل مقبول نہیں	427	انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام شرک سے پاک ہیں
450	حضرت مالک بن دینار رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اور ایک حاجی	427	مسجد تعمیر کرنے اور اسے صاف ستھرا رکھنے کے فضائل
453	عزت و نصرت بالآخر مسلمانوں کے لئے ہے	428	مسجد کا متولی کیسا ہونا چاہئے؟
454	جہاد کی برکت	430	پیدل حج کرنے کے فضائل
455	خلفاء راشدین رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی پاکیزہ سیرت	430	حج کا دینی اور دنیوی فائدہ
459	کی جھلک	432	حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق 4 شرعی مسائل
459	صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی دین اسلام پر استقامت	433	خانہ کعبہ کی شان
462	عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند دو چیزیں	434	مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام
462	دل کے اندھے پن کا نقصان	435	اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کی جائے
462	ظلم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے	435	اولیاء کرام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ کی طرف منسوب جانوروں کا شرعی حکم
462	مبلغین کے لئے نصیحت	436	جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر 4 احادیث
467	آیت ”وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا“ سے معلوم ہونے والے مسائل	438	ایمان کی اہمیت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
492	مقام نزول		راہ خدا میں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت
492	رکوع اور آیات کی تعداد	469	مرنے والے سے افضل ہے
492	”مؤمنون“ نام رکھنے کی وجہ		ظلم کے مطابق سزا دینا عدل و انصاف اور معاف کر
492	سورہ مؤمنون کی فضیلت	472	دینا بہتر ہے
492	سورہ مؤمنون کے مضامین		بدلہ نہ لینے سے متعلق تاجدار رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی
494	سورہ حج کے ساتھ مناسبت	473	عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کی سیرت
	حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایمان پر خاتمہ	474	کافروں کے غلبے سے دل تنگ نہیں ہونا چاہئے
495	ضروری ہے	478	شکر گزار اور ناشکر بندہ
495	سورہ مؤمنون کی ابتدائی دس آیات کی فضیلت	480	ہر باتونی اور جھگڑالو سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے
496	نماز میں ظاہری و باطنی خشوع	483	دل کا آئینہ اور مومن کی علامت
	خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور دو	483	جنت اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال
497	واقعات		اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی اجازت سے عاجز
499	لغو سے کیا مراد ہے؟	485	اور بے بس نہیں
	زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اور اس کے فوائد و		سید المرسلین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ پر رسولوں کا
499	نقصانات	486	چناؤ ختم ہو گیا
501	زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید	488	نیک اعمال کس امید پر کرنے چاہئیں؟
	نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنا کامیابی حاصل		سورہ حج کی آیت نمبر 77 سے متعلق ایک اہم شرعی
502	ہونے کا ذریعہ ہے	488	مسئلہ
504	شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی فضیلت	490	نفس و شیطان کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب
504	شرمگاہ کی شہوت کا علمی اور عملی علاج	492	
505	ہم جنس پرستی، مشیت زنی اور متعہ حرام ہے	492	
506	6 چیزوں کی ضمانت دینے پر جنت کی ضمانت	492	

انبارِ حلال کی تلاش

سورہ مؤمنون

سورہ مؤمنون کا تعارف

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
557	سے برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی مثالیں	507	عظیم الشان عبادت
559	شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے		ہر شخص کے دو مقام ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم
	موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کافر	507	میں
561	دونوں کریں گے	508	اللہ تعالیٰ سے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں
	رسول کریم صَلَّى اللہ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا نسب	510	حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللہ تَعَالَى عَنْهُ کی سعادت
	اس وقت بھی فائدہ دے گا جب رشتے منقطع ہو		انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل
563	جائیں گے	510	ہے
565	جہنم کا ایک عذاب		آیت ”وَقَالَ الْمَلَأْمِنْ قَوْمِهِ“ سے معلوم ہونے
567	جہنمیوں کی فریاد	521	والی باتیں
570	اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت دانشمندی نہیں	522	کافر بہت بڑا بے عقل ہے
572	استغفار کا سردار		جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں
574	سورۃ نور	526	بتلا ہونے کا سبب
574	سورۃ نور کا تعارف		پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور ناپاک و
574	مقام نزول	530	حرام چیزیں کھانے کی مذمت
574	رکوع اور آیات کی تعداد	531	حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی توفیق ملنے کی دعا
574	”نور“ نام رکھنے کی وجہ	531	عبادت کرنے سے کوئی مستغنی نہیں
574	سورۃ نور کے بارے میں احادیث	535	کفار کی ترقی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں
575	سورۃ نور کے مضامین	537	نیکی کرنا اور ڈرنا، ایمان کے کمال کی علامت ہے
576	سورۃ مؤمنون کے ساتھ مناسبت	537	پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال
578	غیر مُحَصَّنُ زانی کی سزا		حضور اقدس صَلَّى اللہ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عظمت
578	زنا کی حد سے متعلق 3 شرعی مسائل	543	پہچاننے کا ایک طریقہ
	حدود نافذ کرنے کے معاملے میں مسلم حکمرانوں کے		رسول کریم صَلَّى اللہ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سیرت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
609	سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا بلند مقام	579	لئے شرعی حکم
	حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی فضیلت	581	زنا کی مذمت
611	اور خصوصیات		بد عقیدہ اور بد کردار لوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے سے
612	دوسروں کے گھر جانے سے متعلق 3 شرعی احکام	584	بچیں
613	کسی کا دروازہ بجانے سے متعلق دو اہم باتیں		پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا
614	دین اسلام کا وصف	585	سے متعلق چند شرعی مسائل
	نگاہیں جھکا کر رکھنے اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچنے	588	بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے شرعی حکم کا خلاصہ
616	کی ترغیب	590	واقعہ افک
620	عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنے کا شرعی حکم	594	بدگمانی سے بچنے کی ترغیب
	اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں صحابیات رَضِيَ اللهُ	596	سب صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عادل ہیں
621	تَعَالَى عَنْهُنَّ کا جذبہ		حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر لگائی گئی
624	پردے کے دینی اور دنیوی فوائد	597	تہمت واضح بہتان تھی
624	پردے کی ضرورت و اہمیت سے متعلق ایک مثال		حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر تہمت
625	پردے کی طرف سے بے پروائی تباہی کا سبب ہے	598	لگانا خالص کفر ہے
627	نکاح کرنے کا شرعی حکم	599	بہتان تراشی کی مذمت
627	تنگدستی دور ہونے اور فراخ دستی حاصل ہونے کا ذریعہ	600	بہتان تراشی کرنے والوں کا رد کرنا چاہئے
	نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے متعلق 2 شرعی	602	اشاعتِ فاحشہ میں ملوث افراد کو نصیحت
630	مسائل	604	شیطان کا پیروکار
631	زنا پر مجبور کئے جانے کی تفصیل		آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ
632	عورتوں کو زنا پر مجبور کرنے والے غور کریں	605	الشَّيْطَانِ“ سے معلوم ہونے والے امور
633	قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب		آیت ”وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ“
635	نور کی مثال کے مختلف معانی	607	سے معلوم ہونے والے مسائل

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
670	مہمان نوازی سے متعلق دو احادیث	637	مسجد سے متعلق 4 احادیث
671	مل کر کھانے کے 3 فضائل	638	صبح یا شام مسجد میں جانے کی فضیلت
671	گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے متعلق دو شرعی مسائل	639	نماز سے متعلق صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کا حال
671	آیت ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ“ سے معلوم ہونے والے اہم امور	640	وقت پر اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل
677	سورۃ فرقان	640	زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل
677	سورۃ فرقان کا تعارف	641	عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے
677	مقام نزول	643	کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے لئے نصیحت
677	رکوع اور آیات کی تعداد	652	آیت ”وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ سے معلوم ہونے والے امور
677	”فرقان“ نام رکھنے کی وجہ	655	دین و دنیا میں کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ
677	سورۃ فرقان کے مضامین	656	اخروی کامیابی کے اسباب کی جامع آیت
678	سورۃ نور کے ساتھ مناسبت	656	ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب
681	مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگز نہیں	658	حضور اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت قبولیت کی چابی ہے
685	اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی خزانے حضور اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے قبضہ میں ہیں	661	خلافت راشدہ کی دلیل
688	حضور اقدس صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے دنیا کے مال و دولت پر فقر کو ترجیح دی	664	لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں؟
696	غربت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے	665	گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی ایک حکمت
697	ماخذ و مراجع	667	فتوے پر عمل کرنے سے تقویٰ پر عمل کرنا زیادہ اولیٰ ہے
702	عظمیٰ فہرست	669	کسی کی غیر موجودگی میں یا اجازت کے بغیر اس کی چیز نہ کھائی جائے

قَالَ أَلَمْ

16

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٤٥﴾

ترجمہ کنزالایمان: کہا میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: کہا: میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔

﴿قَالَ﴾: کہا۔ ﴿﴾ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے فعل پر کلام فرمایا تو آپ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا: اے موسیٰ! علیہ الصلوٰۃ والسلام، میں نے آپ سے نہ کہا تھا کہ آپ ہرگز میرے ساتھ نہ ٹھہر سکیں گے۔ اس بار حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے کلام میں لفظ ”لَكَ“ کا اضافہ فرمایا کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دوسری مرتبہ ان کے فعل پر کلام فرمایا تھا۔^(۱)

قَالَ إِنْ سَأَلْتُكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصِحِّبْنِي ۚ قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٤٦﴾

ترجمہ کنزالایمان: کہا اس کے بعد میں تم سے کچھ پوچھوں تو پھر میرے ساتھ نہ رہنا بیشک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا۔

ترجمہ کنزالعرفان: موسیٰ نے کہا: اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ رکھنا، بیشک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔

1.....خازن، الکہف، تحت الآية: ۷۵، ۳/۲۲۰.

﴿قَالَ: موسىٰ نے کہا۔﴾ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کی بات کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کہا: اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے اپنا ساتھی نہ رکھنا اگرچہ میں آپ کے ساتھ رہنے کا تقاضا کروں اور جب میں تیسری بار آپ کی مخالفت کروں تو بیشک اس صورت میں میری طرف سے آپ کے ساتھ نہ رہنے میں آپ کا عذر پورا ہو چکا۔^(۱)

تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي تَمْنَا

صحیح مسلم میں ہے کہ جب حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعے کا یہ حصہ بیان کیا تو اس موقع پر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”ہم پر اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو، اگر وہ جلدی نہ کرتے تو بہت حیران کن چیزیں دیکھتے لیکن انہیں حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام سے حیا آئی اور کہا: اگر اس مرتبہ کے بعد میں آپ سے کسی شے کے بارے میں سوال کروں تو پھر مجھے ساتھی نہ بنانا، بیشک میری طرف سے تمہارا عذر پورا ہو چکا ہے۔ کاش! حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام صبر کرتے تو بہت عجیب و غریب چیزیں دیکھتے۔“^(۲)

اور ایک روایت میں یوں ہے کہ سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر رحم فرمائے، میری آرزو تھی کہ کاش! حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام صبر کرتے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مزید واقعات سناتا۔“^(۳)

فَانطَلَقَا ^{وقفه} حَتَّىٰ اِذَا آتَيَا اَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطْعَمَا اَهْلُهَا فَاَبَوْا اَنْ يُصِيفُوهُمَا
فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ اَنْ يَنْقُصَ فَاَقَامَهُ ط قَالَ لَوْ شِئْتَ
لَتَّخَذْتَ عَلَيْهِ اَجْرًا ۞

①.....روح البیان، الکہف، تحت الآیة: ۷۶، ۲۸۰/۵.

②.....مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر علیہ السلام، ص ۱۲۹۶، الحدیث: ۱۷۲ (۲۳۸۰).

③.....مسلم، کتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر علیہ السلام، ص ۱۲۹۴، الحدیث: ۱۷۰ (۲۳۸۰).

ترجمہ کنزالایمان: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں والوں کے پاس آئے ان دہقانوں سے کھانا مانگا تو انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی کہ گرا چاہتی ہے اس بندہ نے اسے سیدھا کر دیا موسیٰ نے کہا تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنا ہی چاہتی تھی تو اس نے اسے سیدھا کر دیا، موسیٰ نے کہا: اگر تم چاہتے تو اس پر کچھ مزدوری لے لیتے۔

﴿فَانطَلَقَا﴾: پھر دونوں چلے۔ ﴿اس كَفْتَلُوْا﴾ کے بعد حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام چلنے لگے یہاں تک کہ جب ایک بستی والوں کے پاس آئے تو ان حضرات نے اس بستی کے باشندوں سے کھانا مانگا، انہوں نے ان دونوں کی مہمان نوازی کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جو گرنے والی تھی تو حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے اسے سیدھا کر دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: اگر آپ چاہتے تو اس دیوار کو سیدھی کرنے پر کچھ مزدوری لے لیتے کیونکہ یہ ہماری حاجت کا وقت ہے اور بستی والوں نے ہماری کچھ مہمان نوازی نہیں کی، اس لئے ایسی حالت میں ان کا کام بنانے پر اجرت لینا مناسب تھا۔ اس آیت میں جس بستی کا ذکر ہوا اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اس بستی سے مراد ”انطاکیہ“ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد ”ایلہ“ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اندلس کا ایک شہر ہے۔^(۱)

مہمان نوازی نہ کرنے کی مذمت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مہمان نوازی نہ کرنا انتہائی معیوب اور ناپسندیدہ عمل ہے اور اگر یہ عمل اجتماعی طور پر ہو تو اور بھی مذموم ہو جاتا ہے، جیسا کہ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ بستی بہت بدتر ہے جہاں مہمانوں

1.....حازن، الکھف، تحت الآیة: ۷۷، ۲۲۰/۳، مدارک، الکھف، تحت الآیة: ۷۷، ص ۶۵۹-۶۶۰، ملقطاً.

کی میزبانی نہ کی جائے۔^(۱)

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ
عَلَيْهِ صَبْرًا ۝۴۸

ترجمہ کنزالایمان: کہا یہ میری اور آپ کی جدائی ہے اب میں آپ کو ان باتوں کا پھیر بتاؤں گا جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

ترجمہ کنزالعرفان: کہا: یہ میری اور آپ کی جدائی کا وقت ہے۔ اب میں آپ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ صبر نہ کر سکتے۔

﴿قَالَ:﴾ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی طرف سے تیسری مرتبہ اپنے فعل پر کلام سن کر حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے ان سے فرمایا ”یہ میری اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی جدائی کا وقت ہے۔ اب میں جدا ہونے سے پہلے آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو ان باتوں کا اصل مطلب بتاؤں گا جن پر آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صبر نہ کر سکتے اور ان کے اندر جو راز تھے ان کا اظہار کر دوں گا۔“^(۲)

آیت ”قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

(۱)..... اگر اپنا قریبی ساتھی یا ماتحت شخص کوئی ایسا کام کرے جس کی وجہ سے اسے خود سے دور کرنے کی صورت بنتی ہو تو فوراً اسے دور نہ کر دے بلکہ ایک یا دو مرتبہ اسے معاف کر دیا جائے اور اس سے درگزر کیا جائے اور ساتھ میں مناسب تشبیہ بھی کر دی جائے تاکہ وہ اپنی کوتاہی یا غلطی پر آگاہ ہو جائے اور اگر وہ تیسری بار پھر وہی کام کرے تو اب چاہے تو اسے

①.....خازن، الکہف، تحت الآية: ۷۷، ۲۲۰/۳.

②.....مدارک، الکہف، تحت الآية: ۷۸، ص ۶۶۰، جمل، الکہف، تحت الآية: ۷۸، ۴۴۶/۴، ملتقطاً.

خود سے دور کر دے۔

(2)..... اگر اپنے قریبی ساتھی کو خود سے دور کرے تو اسے دور کرنے کی وجہ بتا دے تاکہ اس کے پاس اعتراض کی کوئی گنجائش نہ رہے۔

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا
وَكَانَ وِرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿۷۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ جو کشتی تھی تو وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی جو دریا میں کام کرتے تھے تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں اور ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا تھا۔

﴿أَمَّا السَّفِينَةُ﴾: وہ جو کشتی تھی۔ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے افعال کی حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے فرمایا ”وہ جو میں نے کشتی کا تختہ اکھاڑا تھا، اس سے میرا مقصد کشتی والوں کو ڈبو دینا نہیں تھا بلکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کشتی دس مسکین بھائیوں کی تھی، ان میں پانچ تو اپنا ہج تھے جو کچھ نہیں کر سکتے تھے اور پانچ تندرست تھے جو دریا میں کام کرتے تھے اور اسی پر ان کے روزگار کا دار و مدار تھا۔ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا اور انہیں واپسی میں اس کے پاس سے گزرنا تھا، کشتی والوں کو اس کا حال معلوم نہ تھا اور اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ صحیح سلامت کشتی کو زبردستی چھین لیتا اور اگر عیب دار ہوتی تو چھوڑ دیتا تھا اس لئے میں نے اس کشتی کو عیب دار کر دیا تاکہ وہ ان غریبوں کے لئے بچ جائے۔^(۱)

آیت ”أَمَّا السَّفِينَةُ“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

1..... تفسیر کبیر، الکہف، تحت الآیة: ۷۹، ۷/۴۹۰-۴۹۱، حازن، الکہف، تحت الآیة: ۷۹، ۳/۲۲۰-۲۲۱، ملتقطاً.

(۱)..... اللہ تعالیٰ اپنے مسکین بندوں پر خاص عنایت اور کرم نوازی فرماتا ہے اور ان پر آنے والے مصائب اور آفات کو دور کرنے میں کفایت فرماتا ہے۔ سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ”مسکین لوگ امیروں سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ اے عائشہ! رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْہَا، مسکین (کے سوال) کو کبھی رذنہ کرنا اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی ہو اور اے عائشہ! رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْہَا، مسکینوں سے محبت رکھنا اور انہیں اپنے قریب کرنا (کہ ایسا کرنے سے) اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنا قرب نصیب فرمائے گا۔“ (۱)

(۲)..... بڑے نقصان اور بڑی تکلیف سے بچنے کے لئے چھوٹے نقصان اور چھوٹی تکلیف کو برداشت کر لینا بہتر ہے، جیسے یہاں مسکینوں نے چھوٹے نقصان یعنی کشتی کا تختہ اکھاڑ دیئے جانے کو برداشت کیا تو وہ بڑے نقصان یعنی پوری کشتی چھن جانے سے بچ گئے۔

وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ فَكَانَ أَبُوهُمُ مِّنْ بَيْنِ فَخْشِيْنَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُعْيَانًا
وَكُفْرًا ۝۸۰ فَأَسْرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكْوَةً وَأَقْرَبَ
رُحْبًا ۝۸۱

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو لڑکا تھا اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ ان کو سرکشی اور کفر پر چڑھاوے۔ تو ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب اس سے بہتر ستھرا اور اس سے زیادہ مہربانی میں قریب عطا کرے۔

ترجمہ کنز العرفان: اور وہ جو لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ لڑکا انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا۔ تو ہم نے چاہا کہ ان کا رب انہیں پاکیزگی میں پہلے سے بہتر اور حسن سلوک اور رحمت و شفقت میں زیادہ مہربان عطا کر دے۔

﴿وَأَمَّا الْعُلَمَاءُ﴾ اور وہ جو لڑکا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنے دوسرے فعل کی حکمت بیان

①..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء ان فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل اغنيائهم، ۱۵۷/۴، الحدیث: ۲۳۵۹۔

کرتے ہوئے حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا کہ وہ لڑکا جسے میں نے قتل کیا تھا، اس کے ماں باپ مسلمان تھے تو ہمیں ڈر ہوا کہ وہ بڑا ہو کر انہیں بھی سرکشی اور کفر میں ڈال دے گا اور وہ اس لڑکے کی محبت میں دین سے پھر جائیں اور گمراہ ہو جائیں گے، اس لئے ہم نے چاہا کہ ان کا رب عَزَّوَجَلَّ اس لڑکے سے بہتر، گناہوں اور نجاستوں سے پاک اور ستھرا اور پہلے سے زیادہ اچھا لڑکا عطا فرمائے جو والدین کے ساتھ ادب سے پیش آئے، ان سے حسن سلوک کرے اور ان سے دلی محبت رکھتا ہو۔^(۱)

یاد رہے کہ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ اندیشہ اس سبب سے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کی وجہ سے اس لڑکے کے باطنی حال کو جانتے تھے۔^(۲) مسلم شریف میں حضرت اُبی بن کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جس لڑکے کو حضرت خضر علیہ الصلوٰۃ والسلام نے قتل کر دیا تھا وہ کافر ہی پیدا ہوا تھا اگر وہ زندہ رہتا تو اپنے ماں باپ کو کفر اور سرکشی میں مبتلا کر دیتا۔“^(۳)

باطن کا حال جان کر کسی کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں؟

یہ بھی یاد رہے کہ ہمارے زمانے میں اگر کوئی ولی کسی کے ایسے باطنی حال پر مطلع ہو جائے کہ یہ آگے جا کر کفر اختیار کر لے گا اور دوسروں کو کافر بھی بنا دے گا اور اس کی موت بھی حالت کفر میں ہوگی تو وہ ولی اس بنا پر اسے قتل نہیں کر سکتا، جیسا کہ امام سُبکی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ باطن کا حال جان کر بچے کو قتل کر دینا حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، انہیں اس کی اجازت تھی۔ اب اگر کوئی ولی کسی بچے کے ایسے حال پر مطلع ہو تو اس کے لئے قتل کرنا جائز نہیں ہے۔^(۴)

﴿خَيْرٌ اٰمَنُهُ زَكْوَةٌ﴾: پاکیزگی میں پہلے سے بہتر۔ مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس کے بدلے ایک مسلمان لڑکا عطا کیا اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بیٹی عطا کی جو ایک نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی اور اس سے نبی علیہ السلام پیدا ہوئے جن کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے ایک اُمت کو ہدایت دی۔^(۵)

①..... روح البیان، الکھف، تحت الآیة: ۸۰-۸۱، ۲۸۵/۵، خازن، الکھف، تحت الآیة: ۸۰-۸۱، ۲۲۱/۳، ملتقطاً.

②..... جمل، الکھف، تحت الآیة: ۸۰، ۴۴۷/۴.

③..... مسلم، کتاب القدر، باب کل مولود یولد یولد علی الفطرة... الخ، ص ۱۴۳، الحدیث: ۲۹ (۲۶۶۱).

④..... جمل، الکھف، تحت الآیة: ۸۰، ۴۴۸/۴.

⑤..... خازن، الکھف، تحت الآیة: ۸۱، ۲۲۱/۳.

آیت ”فَارَدْنَا أَنْ يُّبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

(1)..... بندے کو اللہ عزوجل کی قضا پر راضی رہنا چاہئے کہ اسی میں بہتری ہوتی ہے۔ اسی بات کو ایک اور آیت مبارکہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ

وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ
وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللَّهُ
يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (1)

ترجمہ کنزالعرفان: اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں ناپسند ہو
حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو اور قریب ہے کہ کوئی بات تمہیں
پسند آئے حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو اور اللہ جانتا ہے اور
تم نہیں جانتے۔

(2)..... بسا اوقات اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کی محبوب اور پسندیدہ چیزوں میں سے کوئی چیز لے لیتا ہے کیونکہ اس چیز میں بندے کا نقصان ہوتا ہے اور وہ اس کے نقصان سے غافل ہوتا ہے، پھر اگر وہ صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے تو اللہ تعالیٰ اس چیز کے بدلے اس سے بہتر چیز عطا کر دیتا ہے جس میں مومن بندے کا نفع ہوتا ہے نقصان نہیں ہوتا اور یہ اللہ تعالیٰ کا اپنے مومن بندوں پر ایک بہت بڑا احسان ہے۔ (2)

وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَّابِ بْنِ يَتِيمٍ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ
لَّهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيُخْرِجَا
كَنْزَهُمَا رَاحَةً مِّنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ۗ ذٰلِكَ تَأْوِيلُ
مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿۸۲﴾

1..... بقرہ: ۲۱۶۔

2..... روح البیان، الکہف، تحت الآیة: ۸۱، ۲۸۶/۵، ملخصاً.

ترجمہ کنزالایمان: رہی وہ دیوار وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا یہ پھیر ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بہر حال دیوار (کا جہاں تک تعلق ہے) تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں (یہ سب) آپ کے رب کی رحمت سے ہے اور یہ سب کچھ میں نے اپنے حکم سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ صبر نہ کر سکے۔

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ﴾ اور بہر حال دیوار۔ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے تیسرے فعل یعنی دیوار سیدھی کرنے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا ”اور بہر حال دیوار کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ شہر کے دو یتیم لڑکوں کی تھی جن کے نام اصرم اور صریم تھے اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ وہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور ان کی عقل کامل ہو جائے اور وہ قوی و توانا ہو جائیں اور اپنا خزانہ نکالیں یہ سب اللہ عزوجل کی رحمت سے ہے اور جو کچھ میں نے کیا وہ میری اپنی مرضی سے نہ تھا بلکہ اللہ عزوجل کے حکم سے تھا۔ یہ ان باتوں کا اصل مطلب ہے جس پر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام صبر نہ کر سکے۔^(۱)

یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب

اس سے معلوم ہوا کہ یتیموں کے ساتھ نیکی کرنی چاہئے اور ان کے ساتھ ایسا معاملہ کرنا چاہئے جس میں ان کا بھلا ہو۔ احادیث میں یتیم کے ساتھ نیکی کرنے والے کے لئے بہت اجر و ثواب بیان کیا گیا ہے، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”مسلمانوں میں سے جو شخص کسی یتیم کے کھانے پینے کی کفالت کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا مگر یہ کہ وہ کوئی ایسا گناہ کرے جس کی بخشش نہ ہو۔^(۲) اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ

۱.....بخازن، الکھف، تحت الآیة: ۸۲، ۳/۲۲۱-۲۲۲، ملخصاً.

۲.....ترمذی، کتاب البر والصلۃ، باب ما جاء فی رحمة الیتیم وکفالتہ، ۳/۳۶۸، الحدیث: ۱۹۲۴.

وَاللهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ گھروہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کی عزت کی جاتی ہو۔“^(۱)

﴿وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾ اور اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ ﴿ترمذی شریف کی حدیث میں ہے کہ اس دیوار کے نیچے سونا اور چاندی مدفون تھا۔﴾^(۲)

عبرت انگیز عبارات

حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ اس (خزانے) میں سونے کی ایک تختی تھی، اس پر ایک طرف لکھا تھا ”اس شخص کا حال عجیب ہے جسے موت کا یقین ہو، اسے (اپنی قلیل اور مختصر زندگی پر) خوشی کس طرح ہوتی ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جو قضا و قدر کا یقین رکھتا ہو، اس کو (نعمت چھن جانے اور مصیبت آنے پر) غصہ کیسے آتا ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے رزق کا یقین ہو، وہ کیوں (اسے حاصل کرنے کی) مشقت میں پڑتا ہے۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے حساب کا یقین ہو، وہ (اپنے حساب سے) کیسے غافل رہتا ہے (اور دنیا کا مال و متاع زیادہ کرنے میں کیوں مشغول ہوتا ہے)۔ اس شخص کا حال عجیب ہے جسے دنیا کے زوال و تغیر کا یقین ہو، وہ (اس پر) کیسے مطمئن ہوتا ہے اور اس کے ساتھ لکھا تھا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ“ اور دوسری جانب اس لوح پر لکھا تھا ”میں اللہ ہوں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں یکتا ہوں میرا کوئی شریک نہیں، میں نے خیر و شر کو پیدا کیا، تو اس کے لئے خوشی ہے جسے میں نے خیر کے لئے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر خیر جاری کی، اس کے لئے تباہی ہے جسے میں نے شر کے لئے پیدا کیا اور اس کے ہاتھوں پر شر جاری کیا۔“^(۳)

﴿وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا﴾ اور ان کا باپ نیک آدمی تھا۔ ﴿اس کا نام کا شخ تھا اور یہ شخص پرہیزگار تھا۔﴾^(۴) علماء فرماتے ہیں وہ ان بچوں کا آٹھویں یا دسویں پشت میں باپ تھا۔^(۵)

①..... معجم الكبير، عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنهما... الخ، محمد بن طلحة عن ابن عمر، ۳۸۸/۱۲، الحديث: ۱۳۴۳۴.

②..... ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة الكهف، ۱۰۳/۵، الحديث: ۳۱۶۳.

③..... حازن، الكهف، تحت الآية: ۸۲، ۲۲۱/۳.

④..... حازن، الكهف، تحت الآية: ۸۲، ۲۲۱/۳.

⑤..... فتاویٰ رضویہ، ۲۳/۲۴۰۔

باپ کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا فائدہ

یاد رہے کہ باپ کے تقویٰ اور پرہیزگاری کے نتیجے میں اس کی اولاد در اولاد کو دنیا میں فائدہ ہوتا ہے، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”بے شک اللہ تعالیٰ آدمی کے نیک ہونے کی وجہ سے اس کی اولاد در اولاد کی بہتری فرمادیتا ہے اور اس کی نسل اور اس کے ہمسایوں میں اس کی رعایت فرمادیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردہ پوشی اور امان میں رہتے ہیں۔“^(۱)

اور حضرت محمد بن منکدر رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ بندے کی نیکی سے اس کی اولاد کو اور اس کی اولاد کی اولاد کو اور اس کے کنبہ والوں کو اور اس کے محلہ داروں کو اپنی حفاظت میں رکھتا ہے۔“^(۲)

یونہی باپ کا نیک پرہیزگار ہونا آخرت میں بھی اس کی اولاد کو نفع دیتا ہے، چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ
الْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ عَمَلِهِمْ
مِّنْ شَيْءٍ ۗ^(۳)

ترجمہ کنزالعرفان: اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی (جس) اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی تو ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان (والدین) کے عمل میں کچھ کمی نہ کریں گے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”بیشک اللہ تعالیٰ مومن کی ذریت کو اس کے درجہ میں اس کے پاس اٹھالے گا اگرچہ وہ عمل میں اس سے کم ہوتا کہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔“^(۴)

حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جب آدمی جنت میں جائے گا تو اپنے ماں باپ، بیوی اور اولاد کے بارے میں پوچھے گا۔ ارشاد ہوگا کہ وہ تیرے درجے اور عمل کو نہ پہنچے۔ عرض کرے گا ”اے میرے رب! عَزَّ وَجَلَّ، میں نے اپنے اور ان کے سب کے نفع کے لئے اعمال کئے تھے۔ اس پر حکم ہوگا کہ وہ اس سے ملا دیئے جائیں۔“^(۵)

①.....در منشور، الکھف، تحت الآية: ۸۲، ۴۲۲/۵.

②.....حازن، الکھف، تحت الآية: ۸۲، ۲۲۱/۳.

③.....طور: ۲۱.

④.....جامع الاحادیث، حرف الهمزة، ۴۹۵/۲، الحدیث: ۶۸۳۵.

⑤.....معجم صغیر، باب العین، من اسمه: عبد اللہ، ص ۲۲۹، الجزء الاول.

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”جب عام صالحین کی صلاح (یعنی تقویٰ و پرہیزگاری) ان کی نسل و اولاد کو دین و دنیا و آخرت میں نفع دیتی ہے تو صدیق و فاروق و عثمان و علی و جعفر و عباس و انصار کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی صلاح کا کیا کہنا جن کی اولاد میں شیخ، صدیقی و فاروقی و عثمانی و علوی و جعفری و عباسی و انصاری ہیں۔ یہ کیوں نہ اپنے نسبِ کریم سے دین و دنیا و آخرت میں نفع پائیں گے۔ پھر اللہ اکبر حضرات عَلِيَّهِ سَادَاتِ كِرَامِ اَوْلَادِ اِمَامِ حَضْرَتِ خَاتُونِ جَنَّتِ بَتُولِ زَهْرَا كِه حَضْرَتِ پُرْنُورِ، سَيِّدِ الصَّالِحِيْنَ، سَيِّدِ الْعَالَمِيْنَ، سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کے بیٹے ہیں کہ ان کی شان تو ارفع و اعلىٰ و بلند و بالا ہے۔ (1)

﴿ذٰلِكَ تَاْوِيْلُ مَا: يٰۤاَنۡ بَاتُوْنَ كَا اَصْلٍ مُّطْلَبِ هٖ﴾ حضرت عبداللہ بن احمد نسفی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”بعض لوگ (اس آیت کی وجہ سے) ولی کو نبی پر فضیلت دے کر گمراہ ہو گئے اور درحقیقت ولی کو نبی پر فضیلت دینا کفرِ جلی ہے، ان لوگوں نے یہ خیال کیا کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو حضرت خضر علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے علم حاصل کرنے کا حکم دیا گیا حالانکہ حضرت خضر علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ولی ہیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت خضر علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نبی ہیں اور اگر ایسا نہ ہو جیسا کہ بعض کا گمان ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے حق میں ابتلا یعنی آزمائش ہے۔ (2)

حضرت خضر علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام زندہ ہیں

یہاں یہ یاد رہے کہ اکثر علماء کا موقف یہ ہے، نیز مشائخ صوفیہ اور اصحابِ عرفان کا اس پر اتفاق ہے کہ حضرت خضر علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام زندہ ہیں۔ شیخ ابو عمرو بن صلاح نے اپنے فتاویٰ میں فرمایا کہ حضرت خضر علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام جمہور علماء و صالحین کے نزدیک زندہ ہیں۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت خضر اور حضرت الیاس عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام دونوں زندہ ہیں اور ہر سال زمانہ حج میں ملتے ہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ حضرت خضر علی نَبِيْنَا وَعَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے چشمہ حیات میں غسل فرمایا اور اس کا پانی پیا۔ واللہ تعالیٰ اعلم (3)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”چار نبی زندہ ہیں کہ اُن کو وعدہ الہیہ ابھی آیا ہی

1..... فتاویٰ رضویہ، ۲۳/۲۳۳-۲۳۴۔

2..... مدارك، الكهف، تحت الآية: ۸۲، ص ۶۶۱۔

3..... مخازن، الكهف، تحت الآية: ۸۲، ۲۲۲/۳۔

نہیں، یوں تو ہر نبی زندہ ہے: إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَ عَلَى الْأَرْضِ أَنْ تَأْكُلَ أَجْسَادَ الْأَنْبِيَاءِ فَنَبِيُّ اللَّهِ حَتَّى يُرْزَقَ - بے شک اللہ نے حرام کیا ہے زمین پر کہ انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے جسموں کو خراب کرے تو اللہ کے نبی زندہ ہیں روزی دیئے جاتے ہیں۔^(۱) أَنْبِيَاءَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر ایک آن کو محض تصدیق وعدۃ الہیہ کے لیے موت طاری ہوتی ہے، بعد اس کے پھر ان کو حیاتِ حقیقی جسٹی دُنوی عطا ہوتی ہے۔ خیر ان چاروں میں سے دو آسمان پر ہیں اور دو زمین پر۔ خضر والیاس عَلَيْهِمَا السَّلَامُ زمین پر ہیں اور ادریس وَعِيسَى عَلَيْهِمَا السَّلَامُ آسمان پر۔^(۲)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْقُرْنَيْنِ ۖ قُلْ سَأَتْلُوا عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا ۙ

ترجمہ کنزالایمان: اور تم سے ذوالقرنین کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ میں تمہیں اس کا مذکور پڑھ کر سناتا ہوں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور آپ سے ذوالقرنین کے متعلق سوال کرتے ہیں۔ تم فرماؤ: میں عنقریب تمہارے سامنے اس کا ذکر پڑھ کر سناتا ہوں۔

﴿وَيَسْأَلُونَكَ﴾: اور آپ سے سوال کرتے ہیں۔ ﴿سورة بنی اسرائیل کی آیت نمبر 85 کی تفسیر میں بیان ہوا تھا کہ کفارِ مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے اصحابِ کہف اور حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے بارے میں سوال کیا۔ سورة کہف کی ابتدا میں اصحابِ کہف کا قصہ تفصیل سے بیان کر دیا گیا اور اب حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔

حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا مختصر تعارف

آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا نام اسکندر اور ذوالقرنین لقب ہے۔ مفسرین نے اس لقب کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں، ان میں سے 4 یہاں بیان کی جاتی ہیں:

(1)..... آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سورج کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ تک پہنچے تھے۔

①..... ابن ماجہ، کتاب الجنائز، باب ذکر وفاته ودفنه صلى الله عليه وسلم، ۲/ ۲۹۱، الحدیث: ۱۶۳۷.

②..... ملفوظات اعلیٰ حضرت، حصہ چہارم، ص ۲۸۴۔

(2)..... آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے سر پر دو چھوٹے ابھار سے تھے۔

(3)..... انہیں طاہری و باطنی علوم سے نوازا گیا تھا۔

(4)..... یہ ظلمت اور نور میں داخل ہوئے تھے۔

یہ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام کے خالہ زاد بھائی ہیں، انہوں نے اسکندر یہ شہر بنایا اور اس کا نام اپنے نام پر رکھا۔ حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے وزیر اور صاحبِ لواء تھے۔ دنیا میں چار بڑے بادشاہ ہوئے ہیں، ان میں سے دو مومن تھے، حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور حضرت سلیمان علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام اور دو کافر تھے نمرود اور نخت نصر، اور پانچویں بڑے بادشاہ حضرت امام مہدی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ہوں گے، ان کی حکومت تمام روئے زمین پر ہوگی۔ حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی نبوت میں اختلاف ہے، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے فرمایا کہ وہ نہ نبی تھے نہ فرشتے بلکہ اللہ عزوجل سے محبت کرنے والے بندے تھے، اللہ عزوجل نے انہیں محبوب بنایا۔⁽¹⁾

إِنَّمَا كُنَّا لَهٗ فِي الْأَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا^(۸۳)

ترجمہ کنزالایمان: بیشک ہم نے اسے زمین میں قابو دیا اور ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان عطا فرمایا۔

﴿إِنَّمَا كُنَّا لَهٗ فِي الْأَرْضِ وَاتَيْنَاهُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا﴾ بیشک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا۔ ارشاد فرمایا کہ بیشک ہم نے حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کا ایک سامان یا اس کے حصول کا ایک طریقہ عطا فرمایا اور جس چیز کی مخلوق کو حاجت ہوتی ہے اور جو کچھ بادشاہوں کو ملک اور شہر فتح کرنے اور دشمنوں کے ساتھ جنگ کرنے میں درکار ہوتا ہے وہ سب عنایت کیا۔⁽²⁾

①..... جمل، الکھف، تحت الآية: ۸۳، ۴/۵۱، مدارك، الکھف، تحت الآية: ۸۳، ص ۶۶۱، قرطبي، الکھف، تحت الآية:

۸۳، ۵/۳۴، الجزء العاشر، حازن، الکھف، تحت الآية: ۸۳، ۳/۲۲۲-۲۲۳.

②..... حازن، الکھف، تحت الآية: ۸۴، ۳/۲۲۳.

فَاتَّبَعْ سَبَبًا ۝۸۵ حَتَّىٰ إِذَا بَدَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنٍ حَيَّةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا ۗ قُلْنَا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّمَا أَنْتَ تُعَذِّبُ وَإِنَّمَا أَنْتَ تُتَّخَذُ فِيهِمْ حُسْنًا ۝۸۶

ترجمہ کنز الایمان: تو وہ ایک سامان کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج ڈوبنے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کچھڑ کے چشمے میں ڈوبتا پایا اور وہاں ایک قوم ملی ہم نے فرمایا اے ذوالقرنین یا تو تو انہیں سزا دے یا ان کے ساتھ بھلائی اختیار کرے۔

ترجمہ کنز العرفان: تو وہ ایک راستے کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج کے غروب ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک سیاہ کچھڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا تو ہم نے فرمایا: اے ذوالقرنین! یا تو تو انہیں سزا دے یا ان کے بارے میں بھلائی اختیار کرو۔

﴿سَبَبًا: سبب﴾ سبب سے مراد وہ چیز ہے جو مقصود تک پہنچنے کا ذریعہ ہو خواہ وہ علم ہو، قدرت ہو یا آلات ہوں، تو حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے جس مقصد کا ارادہ کیا اسی کا سبب اختیار کیا، چنانچہ جب آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے مغرب کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو اس کے لئے وہ راستہ اختیار کیا جو انہیں وہاں تک پہنچا دے، جیسا کہ اس آیت میں ہے، اور جب انہوں نے مشرق کی طرف جانے کا ارادہ کیا تو وہ اس راستے پر چلے جو انہیں مشرق تک پہنچا دے۔^(۱)

﴿وَجَدَهَا تَعْرُبُ فِي عَيْنٍ حَيَّةٍ﴾ اسے ایک سیاہ کچھڑ کے چشمے میں ڈوبتا ہوا پایا۔ ﴿حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ﴾ کے سفر کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ انہوں نے کتابوں میں دیکھا تھا کہ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے بیٹے سام کی اولاد میں سے ایک شخص چشمہ حیات سے پانی پئے گا اور اس کو موت نہ آئے گی۔ یہ دیکھ کر وہ چشمہ حیات کی طلب میں مغرب و مشرق کی طرف روانہ ہوئے، اس سفر میں آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ساتھ حضرت خضر علی نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بھی

1.....مدارك، الكهف، تحت الآية: ۸۵، ص ۶۶۲، بیضاوی، الكهف، تحت الآية: ۸۵، ۳/۵۲۰، ملقطاً.

تھے، وہ تو چشمہ حیات تک پہنچ گئے اور انہوں نے اس میں سے پی بھی لیا مگر حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے مقدر میں نہ تھا اس لئے انہوں نے وہ چشمہ نہ پایا۔ اس سفر میں مغرب کی جانب روانہ ہوئے تو جہاں تک آبادی ہے وہ سب منزلیں طے کر ڈالیں اور مغرب کی سمت میں وہاں تک پہنچے جہاں آبادی کا نام و نشان باقی نہ رہا، وہاں انہیں سورج غروب ہوتے وقت ایسا نظر آیا گویا کہ وہ سیاہ چشمہ میں ڈوبتا ہے جیسا کہ دریائی سفر کرنے والے کو پانی میں ڈوبتا معلوم ہوتا ہے۔⁽¹⁾

﴿وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا﴾ اور اس چشمے کے پاس ہی ایک قوم کو پایا۔ ﴿حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس چشمے کے پاس ہی ایک ایسی قوم کو پایا جو شکار کئے ہوئے جانوروں کے چمڑے پہنے تھے، اس کے سوا ان کے بدن پر اور کوئی لباس نہ تھے اور دریائی مردہ جانور ان کی غذا تھے۔ یہ لوگ کافر تھے۔ اللہ تعالیٰ نے الہام کے طور پر فرمایا: اے ذوالقرنین! یا تو تو انہیں سزا دے اور ان میں سے جو اسلام میں داخل نہ ہو اس کو قتل کر دے یا اگر وہ ایمان لائیں تو ان کے بارے میں بھلائی اختیار کر اور انہیں احکام شرع کی تعلیم دے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے یہ کلام اپنے کسی نبی عَلَيْهِ السَّلَام سے فرمایا اور انہوں نے حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے یہ بات کہی۔⁽²⁾

قَالَ أَمَّا مَنْ ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَىٰ رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ
عَذَابًا نُّكَرًا ﴿٨٧﴾ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءٌ الْحُسْنَىٰ
وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ﴿٨٨﴾

ترجمہ کنزالایمان: عرض کی کہ وہ جس نے ظلم کیا اسے تو ہم عنقریب سزا دیں گے پھر اپنے رب کی طرف پھیرا جائے گا وہ اسے بری مار دے گا۔ اور جو ایمان لایا اور نیک کام کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور عنقریب ہم اسے آسان کام کہیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: کہا: بہر حال جس نے ظلم کیا تو عنقریب ہم اسے سزا دیں گے پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا

1..... مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ص ٦٦٢، جمل، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ٤/٤٥٢-٤٥٣، ملقطاً.

2..... مدارك، الكهف، تحت الآية: ٨٦، ص ٦٦٢.

جائے گا تو وہ اسے بہت برا عذاب دے گا۔ اور بہر حال جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا تو اس کا بدلہ بھلائی ہے اور عنقریب ہم اس کو آسان کام کہیں گے۔

﴿قَالَ﴾: کہا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملنے کے بعد ان نبی عَلَیْهِ السَّلَام سے عرض کی یا اپنے پاس موجود خاص ساتھیوں سے کہا ”بہر حال جس نے کفر و شرک اختیار کیا اور میری دعوت کو ٹھکرا کر ایمان نہ لایا تو عنقریب ہم اسے قتل کر دیں گے، یہ تو اس کی دُنْیوی سزا ہے، پھر وہ قیامت کے دن اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف لوٹا یا جائے گا تو وہ اسے جہنم کا بہت برا عذاب دے گا اور جو ایمان لایا اور اس نے ایمان کے تقاضوں کے مطابق نیک عمل کیا تو اس کیلئے جزا کے طور پر بھلائی یعنی جنت ہے اور عنقریب ہم اس ایمان والے کو آسان کام کہیں گے اور اس کو ایسی چیزوں کا حکم دیں گے جو اس پر سہل ہوں دشوار نہ ہوں۔^(۱)

ثُمَّ اتَّبَعْ سَبَبًا ۝۸۹ حَتَّىٰ إِذَا بَدَغَ مَطْلِعُ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَطْلُعُ عَلَىٰ قَوْمٍ لَّمْ نَجْعَلْ لَهُم مِّنْ دُونِهَا سَبْرًا ۝۹۰ كَذٰلِكَ ۙ وَقَدْ اَحْطٰنَا بِمَا لَدٰیْهِ خُبْرًا ۝۹۱

ترجمہ کنز الایمان: پھر ایک سامان کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج نکلنے کی جگہ پہنچا سے ایسی قوم پر نکلتا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی۔ بات یہی ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔

ترجمہ کنز العرفان: پھر وہ ایک راستے کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب سورج طلوع ہونے کی جگہ پہنچا تو اسے ایک ایسی قوم پر طلوع ہوتا ہوا پایا جن کے لیے ہم نے سورج سے کوئی آڑ نہیں رکھی تھی۔ بات اسی طرح ہے اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔

1..... ابو سعود، الکھف، تحت الآیة: ۸۷-۸۸، ۳/۳، ۴۰، مدارك، الکھف، تحت الآیة: ۸۷-۸۸، ص ۶۶۲، جلالین، الکھف، تحت الآیة: ۸۷-۸۸، ص ۲۵۱، ملقطاً.

﴿ثُمَّ: پھر۔﴾ یعنی حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مشرق کی طرف ایک راستے کے پیچھے چلے۔^(۱)

﴿سَيِّئًا: آڑ۔﴾ مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ قوم اس جگہ پر تھی جہاں ان کے اور سورج کے درمیان کوئی چیز پہاڑ درخت وغیرہ حائل نہ تھی اور نہ وہاں زمین کی نرمی کی وجہ سے کوئی عمارت قائم ہو سکتی تھی اور وہاں کے لوگوں کا یہ حال تھا کہ طلوع آفتاب کے وقت زمین کے اندر بنائے ہوئے تہ خانوں میں گھس جاتے تھے اور زوال کے بعد نکل کر اپنا کام کاج کرتے تھے۔^(۲)

﴿كَذَلِكَ: بات اسی طرح ہے۔﴾ یعنی حضرت ذوالقرنین کی بادشاہی کی وسعت اور ان کا بلند مرتبہ جو ہم نے بیان کیا ان کا معاملہ اسی طرح ہے۔ مفسرین نے ”كَذَلِكَ“ کے معنی میں یہ بھی کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے جیسا مغربی قوم کے ساتھ سلوک کیا تھا ایسا ہی اہل مشرق کے ساتھ بھی کیا کیونکہ یہ لوگ بھی ان کی طرح کافر تھے تو جوان میں سے ایمان لائے اُن کے ساتھ احسان کیا اور جو کفر پر اڑے رہے انہیں سزا دی۔^(۳)

﴿وَقَدْ أَحْطَيْنَا بِالذَّيْبِ خَيْرًا: اور جو کچھ اس کے پاس تھا سب کو ہمارا علم محیط ہے۔﴾ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ حضرت ذوالقرنین کے پاس جو فوج، لشکر، آلات جنگ اور سامان سلطنت وغیرہ تھا سب ہمارے علم میں ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جب ہم نے حضرت ذوالقرنین کو اقتدار عطا کیا تو اس وقت اس کے پاس جتنی ملک داری کی قابلیت اور امور مملکت سرانجام دینے کی لیاقت تھی سب ہمیں معلوم تھی۔^(۴)

ثُمَّ اتَّبَعَ سَبَبًا ۙ حَتَّىٰ إِذَا بَدَغَبَيْنَ السَّدَّيْنِ وَجَدَ مِنْ دُونِهِنَّ
قَوْمًا ۙ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا ۙ

ترجمہ کنزالایمان: پھر ایک سامان کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے بیچ پہنچا ان سے ادھر کچھ ایسے لوگ پائے کہ کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔

①.....جلالین، الکہف، تحت الآیة: ۸۹، ص ۲۵۱.

②.....خازن، الکہف، تحت الآیة: ۹۰، ۲۲۴/۳، روح البیان، الکہف، تحت الآیة: ۹۰، ۲۹۴/۵، ملقطاً.

③.....روح البیان، الکہف، تحت الآیة: ۹۱، ۲۹۵/۵.

④.....خازن، الکہف، تحت الآیة: ۹۱، ۲۲۴/۳.

ترجمہ کنزالعرفان: پھر وہ ایک اور راستے کے پیچھے چلا۔ یہاں تک کہ جب دو پہاڑوں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان پہاڑوں کے آگے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے۔

﴿ثُمَّ: پھر﴾ حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ جب مشرق و مغرب تک پہنچ گئے تو اب کی بار انہوں نے شمال کی جانب سفر شروع فرمایا یہاں تک کہ وہ دو پہاڑوں کے درمیان تک جا پہنچے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ علم اور قدرت کی وجہ سے واقع ہوا۔ (1)

﴿وَجَدَ: اس نے پایا﴾ جب حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ شمال کی جانب اس جگہ پہنچے جہاں انسانی آبادی ختم ہو جاتی تھی تو وہاں دو بڑے عالیشان پہاڑ دیکھے جن کے اُس طرف یا جوج ماجوج کی قوم آباد تھی جو کہ دو پہاڑوں کے درمیانی راستے سے اس طرف آکر قتل و غارت کیا کرتی تھی۔ یہ جگہ ترکستان کے مشرقی کنارہ پر واقع تھی۔ یہاں حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ایک ایسی قوم کو پایا جو کوئی بات سمجھتے معلوم نہ ہوتے تھے کیونکہ اُن کی زبان عجیب و غریب تھی اس لئے اُن کے ساتھ اشارہ وغیرہ کی مدد سے بہ مشقت بات کی جاسکتی تھی۔ (2)

قَالُوا يَا ذَا الْقُرْنَيْنِ إِنَّ يَا جُوجَ وَمَا جُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَىٰ أَنْ تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا ﴿٩٧﴾

ترجمہ کنزالایمان: انہوں نے کہا اے ذوالقرنین بیشک یا جوج و ماجوج زمین میں فساد مچاتے ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس پر کہ آپ ہم میں اور ان میں ایک دیوار بنا دیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: انہوں نے کہا، اے ذوالقرنین! بیشک یا جوج اور ماجوج زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے کچھ مال مقرر کر دیں اس بات پر کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دیں۔

1.....تفسیر کبیر، الکھف، تحت الآیة: ۹۲، ۴۹۸/۷، حازن، الکھف، تحت الآیة: ۹۲-۹۳، ۲۲۴/۳.

2.....روح البیان، الکھف، تحت الآیة: ۹۳، ۲۹۶-۲۹۷/۵، حازن، الکھف، تحت الآیة: ۹۳، ۲۲۴/۳، ملقطاً.

﴿قَالُوا: انہوں نے کہا۔﴾ ان لوگوں نے کسی ترجمان کے ذریعے یا بلا واسطہ حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے اس طور پر گفتگو کی کہ آپ ان کا کلام سمجھ سکتے تھے۔ آپ کا ان لوگوں کی زبان کو سمجھ لینا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جملہ اسباب میں سے ہے۔^(۱)

﴿إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ: بیشک یا جوج اور ماجوج۔﴾ یہ یافث بن نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی اولاد سے فساد کی گروہ ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے، زمین میں فساد کرتے تھے، بہار کے موسم میں نکلتے تھے تو کھیتیاں اور سبزے سب کھا جاتے اور ان میں سے کچھ نہ چھوڑتے تھے اور خشک چیزیں لاد کر لے جاتے تھے، یہ لوگ آدمیوں کو کھا لیتے تھے اور درندوں، وحشی جانوروں، سانپوں اور بچھوؤں تک کو کھا جاتے تھے۔ حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے لوگوں نے ان کی شکایت کی کہ وہ زمین میں فساد مچانے والے لوگ ہیں تو کیا ہم آپ کے لیے اس بات پر کچھ مال مقرر کر دیں کہ آپ ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنادیں تاکہ وہ ہم تک نہ پہنچ سکیں اور ہم ان کے شر و ایذا سے محفوظ رہیں۔^(۲)

قَالَ مَا مَكَّنِّي فِيهِ رَبِّي خَيْرٌ فَأَعِينُونِي بِقُوَّةٍ أَجْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رَادِمًا ۙ ۹۵ اَتُونِي زُبَرَ الْحَدِيدِ ۙ حَتَّىٰ إِذَا سَاوَىٰ بَيْنَ الصَّدَفَيْنِ قَالَ انْفُخُوا ۙ حَتَّىٰ إِذَا جَعَلَهُ نَارًا ۙ قَالَ اَتُونِي أُفْرِغْ عَلَيْهِ قِطْرًا ۙ ۹۶ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا ۙ ۹۷

توجیہ کنزالایمان: کہا وہ جس پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے بہتر ہے تو میری مدد طاقت سے کرو میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط آڑ بنا دوں۔ میرے پاس لوہے کے تختے لاؤ یہاں تک کہ وہ جب دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں سے برابر کر دی کہا دھونکو یہاں تک کہ جب اُسے آگ کر دیا کہا لاؤ میں اس پر گلا ہوا تانبہ اوندیل دوں۔ تو یا جوج و ماجوج اس

①..... ابو سعود، الکھف، تحت الآیة: ۹۴، ۴/۳، ۴۰، ۴۱.

②..... بخازن، الکھف، تحت الآیة: ۹۴، ۴/۳، ۲۲۴-۲۲۵، روح البیان، الکھف، تحت الآیة: ۹۴، ۵/۲۹۷-۲۹۸، ملتقطاً.

پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔

ترجہ کنز العرفان: ذوالقرنین نے کہا: جس چیز پر مجھے میرے رب نے قابو دیا ہے وہ بہتر ہے تو تم میری مدد قوت کے ساتھ کرو، میں تمہارے اور ان کے درمیان ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ یہاں تک کہ جب وہ دیوار دونوں پہاڑوں کے کناروں کے درمیان برابر کر دی تو ذوالقرنین نے کہا: آگ دھنکاؤ۔ یہاں تک کہ جب اُس لوہے کو آگ کر دیا تو کہا: مجھے دو تا کہ میں اس گرم لوہے پر پگھلایا ہوا تانبہ اُنڈیل دوں۔ تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے اور نہ اس میں سوراخ کر سکے۔

﴿قَالَ: كَمَا﴾ حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ان سے فرمایا ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کے فضل سے میرے پاس کیشمال اور ہر قسم کا سامان موجود ہے تم سے کچھ لینے کی حاجت نہیں، البتہ تم جسمانی قوت کے ساتھ میری مدد کرو اور جو کام میں بتاؤں وہ انجام دو، میں تم میں اور ان میں ایک مضبوط رکاوٹ بنا دوں گا۔^(۱)

﴿اَتَوْنِي زُبْرَ الْحَدِيدِ﴾ میرے پاس لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ ﴿ان لوگوں نے عرض کی: پھر ہمارے متعلق کیا خدمت ہے؟ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا ”میرے پاس پتھر کے سائز کے لوہے کے ٹکڑے لاؤ۔ جب وہ لے آئے تو اس کے بعد ان سے بنیاد کھدوائی، جب وہ پانی تک پہنچی تو اس میں پتھر پگھلائے ہوئے تانبے سے جمائے گئے اور لوہے کے تختے اوپر نیچے چن کر ان کے درمیان لکڑی اور کونکہ بھر دیا اور آگ دے دی اس طرح یہ دیوار پہاڑ کی بلندی تک اونچی کر دی گئی اور دونوں پہاڑوں کے درمیان کوئی جگہ نہ چھوڑی گئی، پھر اوپر سے پگھلایا ہوا تانبہ دیوار میں پلا دیا گیا تو یہ سب مل کر ایک سخت جسم بن گیا۔^(۲)

﴿فَمَا اسطَاعُوا أَنْ يَظْهَرُوهُ﴾ تو یاجوج و ماجوج اس پر نہ چڑھ سکے۔ ﴿جب حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے دیوار مکمل کر لی تو یاجوج اور ماجوج آئے اور انہوں نے اس دیوار پر چڑھنے کا ارادہ کیا تو اس کی بلندی اور ملامت کی وجہ سے اس پر نہ چڑھ سکے، پھر انہوں نے نیچے سے اس میں سوراخ کرنے کی کوشش کی تو اس دیوار کی سختی اور موٹائی کی وجہ

①..... مدارك، الكهف، تحت الآية: ۹۵، ص ۶۶۳-۶۶۴، حازن، الكهف، تحت الآية: ۹۵، ۲۲۵/۳، ملقطاً.

②..... حازن، الكهف، تحت الآية: ۹۶، ۲۲۵/۳-۲۲۶، مدارك، الكهف، تحت الآية: ۹۶، ص ۶۶۴، جلالين، الكهف، تحت الآية: ۹۶، ص ۲۵۲، ملقطاً.

سے اس میں سوراخ نہ کر سکے۔ (1)

قَالَ هَذَا رَاحَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءٍ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا ۝۹۸

ترجمہ کنزالایمان: کہا یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: ذوالقرنین نے کہا: یہ میرے رب کی رحمت ہے پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا تو اسے پاش پاش کر دے گا اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے۔

﴿قَالَ:﴾ کہا۔ ﴿حضرت ذوالقرنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ﴾ نے کہا کہ یہ دیوار میرے رب عَزَّوَجَلَّ کی رحمت اور اس کی نعمت ہے کیونکہ یہ یا جوج اور ماجوج کے نکلنے میں رکاوٹ ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آئے گا اور قیامت کے قریب یا جوج ماجوج کے خروج کا وقت آ پہنچے گا تو میرا رب عَزَّوَجَلَّ اس دیوار کو پاش پاش کر دے گا اور میرے رب عَزَّوَجَلَّ نے ان کے نکلنے کا جو وعدہ فرمایا ہے وہ اور اس کے علاوہ ہر وعدہ سچا ہے۔ (2)

یا جوج اور ماجوج کے نکلنے سے متعلق ترمذی شریف میں حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”یا جوج ماجوج روزانہ اس دیوار کو کھودتے رہتے ہیں حتیٰ کہ جب اسے توڑنے کے قریب ہوتے ہیں تو ان کا سردار کہتا ہے: اب واپس چلو، باقی کل توڑ لیں گے۔ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ اسے پہلے سے بہتر کر دیتا ہے یہاں تک کہ جب ان کی مدت پوری ہو جائے گی اور اللہ تعالیٰ انہیں لوگوں پر بھیجنا چاہے گا تو ان کا سردار کہے گا: واپس لوٹ جاؤ، اِنْ شَاءَ اللهُ! کل تم اسے توڑ ڈالو گے۔ (یہ بات)

1..... روح البیان، الکہف، تحت الآیة: ۹۷، ۲۹۹/۵.

2..... حازن، الکہف، تحت الآیة: ۹۸، ۲۲۶/۳، جلائین، الکہف، تحت الآیة: ۹۸، ص ۲۵۲، ملنقطاً.

وہ استثناء (یعنی اِنْ شَاءَ اللّٰهُ) کے ساتھ کہے گا۔ (دوسرے دن) جب وہ واپس آئیں گے تو اسے ویسے ہی پائیں گے جس طرح چھوڑ کر گئے تھے، چنانچہ وہ اسے توڑ کر باہر لوگوں پر نکل آئیں گے۔^(۱)

دنیا فنا ہونے سے پہلے یا جوج و ما جوج کا نکلنا

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لکھتے ہیں ”بعد قتل و جال حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام کو حکم الہی ہوگا کہ مسلمانوں کو کوہ طور پر لے جاؤ، اس لیے کہ کچھ ایسے لوگ ظاہر کیے جائیں گے، جن سے لڑنے کی کسی کو طاقت نہیں۔ مسلمانوں کے کوہ طور پر جانے کے بعد یا جوج و ما جوج ظاہر ہوں گے، یہ اس قدر کثیر ہوں گے کہ ان کی پہلی جماعت بُحَيْرَةُ طَبْرِيَّةٍ پر (جس کا طول دس میل ہوگا) جب گزرے گی، اُس کا پانی پی کر اس طرح سکھا دے گی کہ دوسری جماعت بعد والی جب آئے گی تو کہے گی: کہ یہاں کبھی پانی تھا!۔ پھر دنیا میں فساد و قتل و غارت سے جب فرصت پائیں گے تو کہیں گے کہ زمین والوں کو تو قتل کر لیا، آؤ اب آسمان والوں کو قتل کریں، یہ کہہ کر اپنے تیر آسمان کی طرف پھینکیں گے، خدا کی قدرت کہ اُن کے تیر اوپر سے خون آلودہ گریں گے۔ یہ اپنی انہیں حرکتوں میں مشغول ہوں گے اور وہاں پہاڑ پر حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام مع اپنے ساتھیوں کے محصور ہوں گے، یہاں تک کہ اُن کے نزدیک گائے کے سر کی وہ وقعت ہوگی جو آج تمہارے نزدیک سوا شریفیوں کی نہیں، اُس وقت حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام مع اپنے ہمراہیوں کے دعا فرمائیں گے، اللّٰهُ تَعَالَى اُن کی گردنوں میں ایک قسم کے کیڑے پیدا کر دے گا کہ ایک دم میں وہ سب کے سب مرجائیں گے، اُن کے مرنے کے بعد حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام پہاڑ سے اتریں گے، دیکھیں گے کہ تمام زمین اُن کی لاشوں اور بدبو سے بھری پڑی ہے، ایک بالشت بھی زمین خالی نہیں۔ اُس وقت حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ السَّلَام مع ہمراہیوں کے پھر دعا کریں گے، اللّٰهُ تَعَالَى ایک قسم کے پرند بھیجے گا کہ وہ ان کی لاشوں کو جہاں اللّٰهُ (عَزَّ وَجَلَّ) چاہے گا پھینک آئیں گے اور اُن کے تیر و کمان و ترکش کو مسلمان سات برس تک جلائیں گے۔^(۲)

وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ يَمُوجُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ

1.....ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة الكهف، ۱۰۴/۵، الحدیث: ۳۱۶۴.

2.....بہار شریعت، حصہ اول، معاد و حشر کا بیان، ۱/۱۲۳-۱۲۵۔

فَجَبَعْنَهُمْ جَبْعًا ۱۰۰

ترجمہ کنزالایمان: اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر ریلادے گا اور صور پھونکا جائے گا تو ہم ان سب کو اکٹھا کر لائیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر سیلاب کی طرح آئے گا اور صور میں پھونک ماری جائے گی تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے۔

﴿وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَئِذٍ﴾ اور اس دن ہم انہیں چھوڑ دیں گے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ جب دیوار ٹوٹ جائے گی تو اس دن ہم یاجوج اور ماجوج کو اس طرح چھوڑ دیں گے کہ ان کا ایک گروہ دوسرے پر اس طرح آئے گا جس طرح پانی کی لہر ایک دوسرے پر آتی ہے اور وہ اپنی کثیر تعداد کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہوں گے۔^(۱)

﴿وَنُفِخَ فِي الصُّورِ﴾ اور صور میں پھونک ماری جائے گی۔ ﴿اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یاجوج ماجوج کا نکلنا قرب قیامت کے علامات میں سے ہے۔^(۲)

﴿فَجَبَعْنَهُمْ جَبْعًا﴾ تو ہم سب کو جمع کر لائیں گے۔ ﴿یعنی ہم قیامت کے دن تمام مخلوق کو عذاب و ثواب کے لئے جمع کر لائیں گے۔^(۳)

وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ لِلْكَافِرِينَ عَرْضًا ۱۰۱

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔

①.....خازن، الکہف، تحت الآية: ۹۹، ۲۲۶/۳.

②.....خازن، الکہف، تحت الآية: ۹۹، ۲۲۶/۳.

③.....مدارك، الکہف، تحت الآية: ۹۹، ص ۶۶، ۴، روح البيان، الکہف، تحت الآية: ۹۹، ۳۰/۵، ملتقطاً.

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم اس دن جہنم کافروں کے سامنے لائیں گے۔

﴿وَعَرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَئِذٍ: اور ہم اس دن جہنم لائیں گے۔﴾ یعنی جس دن ہم تمام مخلوق کو جمع کریں گے اس دن جہنم

کافروں کے سامنے لائیں گے تاکہ وہ اسے صاف دیکھیں اور اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں۔⁽¹⁾

ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ۝ إِذَا

رَأَوْهُمْ مِّنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغَيُّظًا

وَزَفِيرًا ۝ (2)

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کیلئے

بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دور کی جگہ

سے دیکھے گی تو کافراں کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے۔

اور حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے

ارشاد فرمایا ”قیامت کے دن جہنم کو لایا جائے گا، اس کی ستر ہزار لگا میں ہوں گی اور ہر لگام کو ستر ہزار فرشتے پکڑ کر کھینچ رہے

ہوں گے۔“⁽³⁾

الَّذِينَ كَانَتْ أَعْيُنُهُمْ فِي غِطَاءٍ عَنِ ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ

سَبْعًا ۝

ترجمہ کنزالایمان: وہ جن کی آنکھوں پر میری یاد سے پردہ پڑا تھا اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور حق بات سن نہ سکتے تھے۔

﴿الَّذِينَ: وہ لوگ جو۔﴾ اس سے پہلی آیت میں کفار کے بارے میں فرمایا کہ ہم قیامت کے دن ان کے سامنے جہنم لائیں گے،

1..... ابو سعود، الکھف، تحت الآية: ١٠٠، ٤٠٧/٣.

2..... فرقان: ١١، ١٢.

3..... مسلم، کتاب الجنة وصفة نعيمها واهنئها، باب في شدة حر نار جهنم وبعد قعرها وما تأخذ من المعذبين، ص ١٥٢٣،

الحديث: ٢٩ (٢٨٤٢).

اب اس آیت میں کافروں کے بارے میں مزید فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی آنکھیں میری یاد سے پردے میں تھیں اور وہ آیاتِ الہیہ اور قرآن، ہدایت و بیان، دلائلِ قدرت اور ایمان سے اندھے بنے رہے اور ان میں سے کسی چیز کو وہ نہ دیکھ سکے اور اپنی بدبختی کی وجہ سے رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ساتھ عداوت رکھنے کے باعث حق بات سن نہ سکتے تھے۔ (۱)

أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَّخِذُوا عِبَادِي مِنْ دُونِي أَوْلِيَاءَ ۗ إِنَّا أَعْتَدْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلًا ﴿۱۰۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا کافر یہ سمجھے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنالیں گے بیشک ہم نے کافروں کی مہمانی کو جہنم تیار کر رکھی ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں کو میرے سوا حمایتی بنالیں گے بیشک ہم نے کافروں کی مہمانی کینے جہنم تیار کر رکھی ہے۔

﴿أَفَحَسِبَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: تو کیا کافر سمجھتے ہیں۔ ﴿اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافر یہ سمجھتے ہیں کہ میرے بندوں جیسے حضرت عیسیٰ، حضرت عزیر علیہما الصلوٰۃ والسلام اور فرشتوں کو میرے سوا حمایتی بنالیں گے اور ان سے کچھ نفع پائیں گے؟ ان کا یہ گمان فاسد ہے، بلکہ وہ بندے نہیں اپنا دشمن سمجھتے اور ان سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ (۲) اور کافروں کا گمان فاسد ہونے کی وجہ صاف ظاہر ہے کہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام، اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم اور ملائکہ، ایمان والوں کے مددگار ہو کر ان کی شفاعت کریں گے نہ کہ کافروں کی۔

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ﴿۱۰۳﴾

①.....حازن، الکہف، تحت الآیۃ: ۱۰۱، ۱۰۲/۳-۲۲۶-۲۲۷.

②.....روح البیان، الکہف، تحت الآیۃ: ۱۰۲، ۱۰۳/۵، حازن، الکہف، تحت الآیۃ: ۱۰۲، ۱۰۳/۳، ملتقطاً.

ترجہ کنزالایمان: تم فرماؤ کیا ہم تمہیں بتادیں کہ سب سے بڑھ کر ناقص عمل کن کے ہیں۔

ترجہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: کیا ہم تمہیں بتادیں کہ سب سے زیادہ ناقص عمل والے کون ہیں؟

﴿قُلْ: تم فرماؤ۔﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا ہم تمہیں بتادیں کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے عمل کرنے میں مشقتیں اٹھائیں اور یہ امید کرتے رہے کہ ان اعمال پر فضل و عطا سے نوازے جائیں گے مگر اس کی بجائے ہلاکت و بربادی میں جا پڑے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا وہ لوگ یہودی اور عیسائی ہیں۔ بعض مفسرین نے کہا کہ وہ راہب لوگ ہیں جو گرجوں میں خلوت نشین رہتے تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ نے فرمایا کہ یہ لوگ اہل حروراء یعنی خارجی لوگ ہیں۔⁽¹⁾ اور حقیقت میں سب ایک ہی مفہوم کی مختلف تعبیریں ہیں کیونکہ اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو عبادت یا ظاہری اچھے اعمال میں محنت و مشقت تو کرتا ہے لیکن اس کے ساتھ کسی ایسی چیز کا مرتکب بھی ہوتا ہے جس سے اس کا عمل مردود ہو جائے جیسے کفر۔

ظاہری اعمال اچھے ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں

اس سے اشارہ یہ معلوم ہوا کہ کسی کے ظاہری اعمال اچھے ہونا اس کے حق پر ہونے کی دلیل نہیں، اور صحیح بخاری میں تو خارجیوں سے متعلق صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سے ارشاد فرمایا ”تم اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر جانو گے، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔“⁽²⁾

خارجیوں کا مختصر تعارف

خارجیوں میں سب سے پہلا اور ان میں سب سے بدتر شخص ذُو الْخُوْبِرِہ تسمی تھا۔ اس نے حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی تقسیم پر اعتراض کر کے آپ کی شان میں گستاخی کی تھی۔ اس کے اور اس کے ساتھیوں کے بارے

1.....خازن، الکھف، تحت الآیة: ١٠٣، ٢٢٧/٣، روح البیان، الکھف، تحت الآیة: ١٠٣، ٤/٥، ٣٠، ملقطاً.

2.....بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، ٥٠٣/٢، الحدیث: ٣٦١٠.

میں حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے انہیں خارجی یعنی دین سے نکل جانے والا کہا جاتا ہے۔ یہ لوگ ظاہری طور پر بڑے عبادت گزار، شب بیدار تھے اور ان کی عبادت و ریاضت اور تلاوت قرآن میں مشغولیت دیکھ کر صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بھی حیران ہوتے تھے لیکن ان کے عقائد و نظریات انتہائی باطل تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا عقیدہ یہ تھا کہ جو کبیرہ گناہ کرے وہ مشرک ہے اور جو ان کے اس عقیدے کا مخالف ہو وہ بھی مشرک ہے۔ ان ظالموں نے حضرت علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ کو بھی مَعَاذَ اللهُ مشرک قرار دے دیا تھا اور نہروان کے مقام پر آپ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ سے جنگ کی تھی۔ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ ان کی تمام تر ظاہری عبادت و ریاضت، تقویٰ و طہارت اور رات رات بھر تلاوت قرآن کرنے کو خاطر میں نہ لائے اور ان کے باطل عقائد کی وجہ سے ان کے ساتھ جنگ کی اور انہیں قتل کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ کسی کی لمبی لمبی اور ظاہری خشوع و خضوع سے بھرپور نمازیں، رقت انگیز اور درد بھری آواز میں قرآن مجید کی تلاوتیں، اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذابات سے ڈرانے والے وعظ اور نصیحتیں اور دیگر ظاہری نیک اعمال اس وقت تک قابل قبول نہیں جب تک اس کے عقائد درست نہ ہوں، لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ وہ بد عقیدہ اور بد مذہب شخص کی کثرت عبادت، تقویٰ و طہارت اور دیگر نیک نظر آنے والی چیزوں سے ہرگز متاثر نہ ہو اور نہ ہی ان چیزوں کو دیکھ کر ان کی طرف مائل ہو بلکہ ان سے ہمیشہ دور رہے کہ اسی میں اس کی دنیا و آخرت کی بھلائی ہے۔

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يُحْسَبُونَ أَنَّهم
يُحْسِنُونَ صُنْعًا ﴿١٠٤﴾

ترجمہ کنزالایمان: ان کے جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں گم گئی اور وہ اس خیال میں ہیں کہ ہم اچھا کام کر رہے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ لوگ جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی حالانکہ وہ یہ گمان کر رہے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں۔

﴿الَّذِينَ﴾: وہ لوگ۔ اس سے پہلی آیت میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے والے لوگوں کی خبر دینے کے بارے میں فرمایا، اب اس آیت میں فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی ساری کوشش دنیا کی زندگی میں برباد ہوگئی اور عمل باطل ہو گئے حالانکہ وہ اس گمان میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں جو انہیں آخرت میں نفع دے گا۔^(۱)

بدکار سے زیادہ بد نصیب

یہ آیت مبارکہ بنیادی طور پر تو کافروں کے متعلق ہے لیکن اس سے اشارتاً یہ بھی معلوم ہوا کہ بدکار سے زیادہ بد نصیب وہ نیکوکار ہے جو محنت مشقت اٹھا کر نیکیاں کرے مگر اس کی کوئی نیکی اس کے کام نہ آئے، وہ اس دھوکے میں رہے کہ میں نیکوکار ہوں۔ ہم اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں۔

أُولَئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَإِبَائِمْ رَأْيِهِمْ وَ لِقَائِهِمْ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا ۝۱۰۵

ترجمہ کنزالایمان: یہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیتیں اور اس کا ملنا نہ مانا تو ان کا کیا دھرا سب اکارت ہے تو ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی تول نہ قائم کریں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔

﴿أُولَئِكَ﴾: یہ لوگ۔ ارشاد فرمایا کہ کثیر نیک اعمال کے باوجود خسارے کا شکار ہونے والے، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا، رسول اور قرآن پر ایمان نہ لائے اور مرنے کے بعد اٹھائے جانے، حساب، ثواب اور عذاب کے منکر رہے تو ان کے سب اعمال برباد ہو گئے اور انہیں ان اعمال پر کوئی ثواب نہ ملے گا۔^(۲)

①..... روح البیان، الکہف، تحت الآیة: ۱۰۴، ۳۰۴/۵.

②..... روح البیان، الکہف، تحت الآیة: ۱۰۵، ۳۰۵/۵، خازن، الکہف، تحت الآیة: ۱۰۵، ۲۲۷/۳، ملتقطاً.

﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾: پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ ﴿وزن قائم نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن ان کے ظاہری نیک اعمال کی کوئی قدر و قیمت ہوگی اور نہ ہی ان میں کوئی وزن ہوگا اور جب میزانِ عمل میں ان کے ظاہری نیک اعمال اور کفر و معصیت کا وزن ہوگا تو تمام ظاہری نیک اعمال بے وزن ثابت ہوں گے کیونکہ نیک اعمال کی قدر و قیمت اور ان میں وزن کا دار و مدار ایمان اور اخلاص پر ہے اور جب یہ لوگ ایمان اور اخلاص سے ہی خالی ہیں تو ان کے اعمال میں وزن کہاں سے ہوگا۔ کفار کے اعمال کے بارے میں ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ
هَبَاءً مَّنْثُورًا (۱)

ترجمہ کنزالعرفان: اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح (بے وقعت) بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں نظر آتے ہیں۔

اور حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”قیامت کے دن ایک بہت ہی موٹے تازے آدمی کو جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا تو (اتنا بھاری بھر کم ہونے کے باوجود) اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کا وزن ایک چھھر کے پر کے برابر بھی نہ ہوگا، اور فرمایا کہ یہ آیت پڑھ لو

﴿فَلَا تُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا﴾: پس ہم ان کے لیے قیامت کے دن کوئی وزن قائم نہیں کریں گے۔ (۲)

اعمال میں وزن سے محروم ہونے والے لوگ

یاد رہے کہ کافروں کے ظاہری نیک اعمال تو قیامت کے دن بے وزن ہی ہوں گے البتہ بعض مسلمان بھی ایسے ہوں گے جو اپنے نیک اعمال میں وزن سے محروم ہو جائیں گے، جیسا کہ حضرت ثوبان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”میں اپنی امت میں سے ان قوموں کو جانتا ہوں کہ جب وہ قیامت کے دن آئیں گے تو ان کی نیکیاں تہامہ کے پہاڑوں کی مانند ہوں گی لیکن اللہ تعالیٰ انہیں روشن دان سے نظر آنے والے

۱..... فرقان: ۲۳۔

۲..... بخاری، کتاب التفسیر، باب اولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقاءه فحبطت اعمالهم، ۲۷۰/۳، الحدیث: ۴۷۲۹۔

غبار کے بکھرے ہوئے ذروں کی طرح (بے وقعت) کر دے گا۔ حضرت ثوبان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عرض کی: یا رسولَ اللهُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ہمارے سامنے ان لوگوں کا صاف صاف حال بیان فرما دیجئے تاکہ ہم معلومات نہ ہوتے ہوئے ان لوگوں میں شریک نہ ہو جائیں۔ سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”وہ تمہارے بھائی، تمہارے ہم قوم ہوں گے۔ راتوں کو تمہاری طرح عبادت کیا کریں گے لیکن وہ لوگ تنہائی میں برے افعال کے مرتکب ہوں گے۔“ (1)

اور حضرت ابو حذیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے آزاد کردہ غلام حضرت سالم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں، رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”قیامت کے دن کچھ لوگ ایسے آئیں گے کہ ان کے پاس تہامہ کے پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، یہاں تک کہ جب انہیں لایا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو روشن دان سے نظر آنے والے غبار کے ذروں کی طرح (بے وقعت) کر دے گا، پھر انہیں جہنم میں ڈال دے گا۔ حضرت سالم نے عرض کی: یا رسولَ اللهُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، میرے ماں باپ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر قربان ہو جائیں! ہمیں ان لوگوں کا حال بتا دیجئے؟ ارشاد فرمایا ”وہ لوگ نماز پڑھتے ہوں گے، روزے رکھتے ہوں گے لیکن جب ان کے سامنے کوئی حرام چیز پیش کی جائے تو وہ اس پر کود پڑیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال باطل فرما دے گا۔“ (2)

اور حضرت ابو سعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا کہ قیامت کے دن بعض لوگ ایسے اعمال لائیں گے جو ان کے خیالوں میں مکہ مکرمہ کے پہاڑوں سے زیادہ بڑے ہوں گے لیکن جب وہ تولے جائیں گے تو ان میں وزن کچھ نہ ہوگا۔ (3)

ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَأَتَّخَذُوا آيَتِي وَسُلْطَانًا هُزُوًا ﴿۱۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: یہ ان کا بدلہ ہے جہنم اس پر کہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کی ہنسی بنائی۔

1..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب ذکر الذنوب، ۴/۴۸۹، الحدیث: ۴۲۴۵.

2..... حلیۃ الاولیاء، سالم مولیٰ ابی حذیفہ، ۱/۱۳۳، الحدیث: ۵۷۵.

3..... حازن، الکھف، تحت الآیة: ۱۰۵، ۳/۲۲۷.

ترجمہ کنزالعرفان: یہ ان کا بدلہ ہے جہنم، کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور میری آیتوں اور میرے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔

﴿ذَلِكَ جَزَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا﴾ ارشاد فرمایا کہ یہ جہنم ان کا بدلہ ہے کیونکہ انہوں نے کفر کیا اور جس چیز پر ایمان لانا اور جس کا اقرار کرنا ضروری تھا اس کا انکار کیا اور انہوں نے قرآن پاک، اللہ تعالیٰ کی دیگر کتابوں اور اس کے رسولوں کو ہنسی مذاق بنا لیا۔⁽¹⁾ اس سے معلوم ہوا کہ تمام کفروں سے بڑھ کر کفر نبی کی توہین اور ان کا مذاق اڑانا ہے جس کی سزا دنیا و آخرت دونوں میں ملتی ہے۔

اہل حق علماء کا مذاق اڑانے والوں کو نصیحت

حضرت علامہ اسماعیل حقی دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”یاد رکھو! علماء، انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے وارث ہیں اور ان کے علوم انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے علوم سے حاصل شدہ ہیں تو جس طرح باعمل علماء، انبیاء اور مُرْسَلِينَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے اعمال اور علوم کے وارث ہیں اسی طرح علماء کا مذاق اڑانے والے ابو جہل، عقبہ بن ابی معیط اور ان جیسے دیگر کافروں کے مذاق اڑانے میں وارث ہیں۔⁽²⁾ اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنے کی شدید ضرورت ہے جو میڈیا پر اپنی نجی محفلوں میں اہل حق علمائے کرام کا مذاق اڑانے میں لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقلمند سلیم عطا فرمائے۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ كَانَتْ لَهُمْ جَنَّاتُ الْفِرْدَوْسِ

نُزُلًا ۝ خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حَوْلًا ۝

ترجمہ کنزالایمان: بیشک جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے فردوس کے باغ ان کی مہمانی ہے۔ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے ان سے جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔

①.....روح البیان، الکہف، تحت الآية: ١٠٦، ٣٠٥/٥.

②.....روح البیان، الکہف، تحت الآية: ١٠٦، ٣٠٥/٥.

ترجہ کنز العرفان: بیشک جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کئے ان کی مہمانی کیلئے فردوس کے باغات ہیں۔ وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بیشک جو لوگ ایمان لائے۔ ﴿اس سے پہلے کافروں کی جہنم میں مہمانی کا ذکر ہوا اور اب یہاں سے وہ چیز بیان کی جا رہی ہے جس سے ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب ملتی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک جو لوگ دنیا میں ایمان لائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اچھے اعمال کئے تو ان کی مہمانی کے لئے فردوس کے باغات ہیں۔⁽¹⁾

جنتی نعمتیں اور سب سے اعلیٰ جنت

یاد رہے کہ اہل جنت کے لئے اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں تیار کی ہیں وہ انسان کے تصور سے بھی زیادہ ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٌ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ⁽²⁾

ترجہ کنز العرفان: تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لئے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے۔

اور حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے اپنے نیک بندوں کے لئے ایسی نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا اور نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا خطرہ گزرا۔“ اگر تم چاہو تو یہ آیت پڑھ لو ”فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةٍ أَعْيُنٌ“⁽³⁾

اور ز پر تفسیر آیت میں جس جنت کا ذکر ہوا، اس کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جب اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے مانگو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنتوں میں سب کے درمیان اور سب سے بلند ہے اور اس پر رحمن عَزَّ وَجَلَّ کا عرش ہے اور اسی سے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔“⁽⁴⁾

①.....تفسیر کبیر، الکہف، تحت الآیة: ١٠٧، ٥٠٢/٧، روح البیان، الکہف، تحت الآیة: ١٠٧، ٣٠٥/٥، ملخصاً.

②.....سجدہ: ١٧.

③.....بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، ٣٩١/٢، الحدیث: ٣٢٤٤.

④.....بخاری، کتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاہدین فی سبیل اللہ... الخ، ٢٥٠/٢، الحدیث: ٢٧٩٠.

حضرت عبادہ بن صامت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جنت میں سو درجے ہیں، ہر دو درجوں کے درمیان زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے اوپر والا درجہ ہے، اس سے جنت کی چار نہریں پھوٹتی ہیں، اس سے اوپر عرش ہے اور جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس ہی مانگا کرو۔“ (1)

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”فردوس بلند جنت ہے، درمیانی اور سب سے بہتر جنت ہے۔“ (2)

حضرت کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا ”فردوس جنتوں میں سب سے اعلیٰ ہے اس میں نیکیوں کا حکم کرنے والے اور بدیوں سے روکنے والے عیش کریں گے۔“ (3)

﴿لَا يَبْغُونَ عَنْهَا حِوَلًا﴾: ان سے کوئی دوسری جگہ بدلنا نہ چاہیں گے۔ یعنی دنیا میں انسان کیسی ہی بہتر جگہ میں ہو، وہ اس سے اور اعلیٰ و ارفع جگہ کی طلب رکھتا ہے لیکن یہ بات وہاں جنت میں نہ ہوگی کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے انہیں بہت اعلیٰ و ارفع جگہ حاصل ہے۔ (4)

قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لَّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَنْ تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا ﴿١٠٩﴾

ترجمہ کنزالایمان: تم فرمادو اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لئے سیاہی ہو تو ضرور سمندر ختم ہو جائے گا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوں گی اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لے آئیں۔

1.....ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة درجات الجنة، ٢٣٨/٤، الحديث: ٢٥٣٩.

2.....ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة المؤمنین ١١٨/٥، الحديث: ٣١٨٥.

3.....خازن، الکہف، تحت الآية: ١٠٧، ٢٢٧/٣.

4.....روح البیان، الکہف، تحت الآية: ١٠٨، ٣٠٦/٥.

ترجمہ کنز العرفان: تم فرما دو: اگر سمندر میرے رب کی باتوں کے لیے سیاہی ہو جاتا تو ضرور سمندر ختم ہو جاتا اور میرے رب کی باتیں ختم نہ ہوتیں، اگرچہ ہم اس کی مدد کیلئے اسی سمندر جیسا اور لے آتے۔

﴿قُلْ﴾ تم فرما دو۔ ﴿اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے علم و حکمت کے کلمات لکھے جائیں اور ان کے لئے تمام سمندروں کا پانی سیاہی بنا دیا جائے اور تمام مخلوق لکھے تو وہ کلمات ختم نہ ہوں اور یہ تمام پانی ختم ہو جائے اور اتنا ہی اور بھی ختم ہو جائے۔ مدعا یہ ہے کہ اس کے علم و حکمت کی کوئی انتہاء نہیں۔ شان نزول: حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے کہا: اے محمد! (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) آپ کا خیال ہے کہ ہمیں حکمت دی گئی اور آپ کی کتاب میں ہے کہ جسے حکمت دی گئی اُسے خیر کثیر دی گئی، پھر آپ کیسے فرماتے ہیں کہ تمہیں تھوڑا علم دیا گیا ہے! اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جب آیت کریمہ ”وَمَا أَوْتِيْتُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيْلًا“ نازل ہوئی تو یہودیوں نے کہا کہ ہمیں تو ریت کا علم دیا گیا اور اس میں ہر شے کا علم ہے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ مدعا یہ ہے کہ ہر شے کا علم بھی علم الہی کے حضور قلیل ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے علم سے اتنی بھی نسبت نہیں رکھتا جتنی ایک قطرے کو سمندر سے ہو۔ (1)

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنبَاءِ الْهَكْمِ إِلَهُ وَوَاحِدٌ فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا ۝

ترجمہ کنز الایمان: تو فرماؤ ظاہر صورتِ بشری میں تو میں تم جیسا ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو جسے اپنے رب سے ملنے کی امید ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی بندگی میں کسی کو شریک نہ کرے۔

ترجہ کنز العرفان: تم فرماؤ: میں (ظاہراً) تمہاری طرح ایک بشر ہوں مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو جو اپنے رب سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔

قُلْ: تم فرماؤ۔ ﴿حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں ”اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو عاجزی کی تعلیم دی اور انہیں یہ کہنے کا حکم دیا کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں (یعنی جیسے تم انسان ہو اسی طرح میں بھی انسان ہوں) البتہ مجھے (تم پر) یہ خصوصیت حاصل ہے کہ میری طرف وحی آتی ہے اور وحی کے سبب اللہ تعالیٰ نے مجھے اعلیٰ مقام عطا کیا ہے۔ (1)﴾

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”(کافر) انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو اپنا سا بشر مانتے تھے اس لئے ان کی رسالت سے منکر تھے کہ

مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَمَا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ (2)

تم تو ہمارے جیسے آدمی ہو اور رحمن نے کوئی چیز نہیں اتاری، تم صرف جھوٹ بول رہے ہو۔

واقعی جب ان خُبَّاء کے نزدیک وحی نبوت باطل تھی تو انہیں اپنی اسی بشریت کے سوا کیا نظر آتا؟ لیکن ان سے زیادہ دل کے اندھے وہ (ہیں جو) کہ وحی و نبوت کا اقرار کریں اور پھر انہیں (یعنی انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو) اپنا ہی سا بشر جانیں، زید کو ”قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ“ سوچھا اور ”يُوحَىٰ إِلَيَّ“ نہ سوچھا جو غیر متناہی فرق ظاہر کرتا ہے، زید نے اتنا ہی ٹکڑا لیا جو کافر لیتے تھے، انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی بشریت جبریل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ملکیت سے اعلیٰ ہے، وہ ظاہری صورت میں ظاہر بینوں کی آنکھوں میں بشریت رکھتے ہیں جس سے مقصود خلق کا ان سے اُنس حاصل کرنا اور ان سے فیض پانا (ہے) ولہذا ارشاد فرماتا ہے

وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلًا وَلَلَبَسْنَا عَلَيْهِمْ مَا يَلْبَسُونَ (3)

اور اگر ہم فرشتے کو رسول کر کے بھیجتے تو ضرور اسے مرد ہی کی شکل میں بھیجتے اور ضرور انہیں اسی شبہ میں رکھتے جس دھوکے میں اب ہیں۔

(اس سے) ظاہر ہوا کہ انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ظاہری صورت دیکھ کر انہیں اوروں کی مثل سمجھنا ان کی بشریت کو اپنا

1.....خازن، الکہف، تحت الآية: ۱۱۰، ۳/۲۲۸.

2.....یس: ۱۵.

3.....انعام: ۹.

سا جاننا، ظاہر بینوں (اور) کو باطنوں کا دھوکا ہے (اور) یہ شیطان کے دھوکے میں پڑے ہیں۔۔۔ ان کا کھانا پینا سونا یہ افعال بشری اس لئے نہیں کہ وہ ان کے محتاج ہیں، حاشا (یعنی برگز نہیں، آپ تو ارشاد فرماتے ہیں) ”لَسْتُ كَأَحَدِكُمْ أَنِّي أَبَيْتُ عِنْدَ رَبِّي يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِي“ میں تمہاری طرح نہیں ہوں میں اپنے رب کے ہاں رات بسر کرتا ہوں وہ مجھے کھلاتا بھی ہے اور پلاتا بھی ہے۔ (ت) (بلکہ) ان کے یہ افعال بھی اقامتِ سنت و تعلیمِ امت کے لئے تھے کہ ہر بات میں طریقہ محمودہ لوگوں کو عملی طور سے دکھائیں، جیسے ان کا سہو و نسیان۔ حدیث میں ہے ”إِنِّي لَا أُنْسِي وَلَكِنْ أُنْسِي لِيَسْتَنِّي بِي“ میں بھولتا نہیں بھلایا جاتا ہوں تاکہ حالتِ سہو میں امت کو طریقہ سنت معلوم ہو۔ عمرو نے سچ کہا کہ یہ قول (إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ) حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے اپنی طرف سے نہ فرمایا بلکہ اس کے فرمانے پر مامور ہوئے، جس کی حکمتِ تعظیم تو واضح، و تائیسِ اُمت، و سدِّ غَلْوِ نصرانیت (یعنی عاجزی کی تعلیم، امت کے لئے انسیت کا حصول اور عیسائی جیسے اپنے نبی کی شان بیان کرنے میں حد سے بڑھ گئے مسلمانوں کو اس سے روکنا) ہے، اول، دوم ظاہر، اور سوم یہ کہ مسجِدِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامِ کو ان کی امت نے ان کے فضائل پر خدا اور خدا کا بیٹا کہا، پھر فضائلِ محمدیہ عَلَي صَاحِبِهَا أَفْضَلُ الصَّلَاةِ وَ النَّحِيَّةِ کی عظمتِ شان کا اندازہ کون کر سکتا ہے، یہاں اس غلو کے سدِّ باب (روکنے) کے لئے تعلیم فرمائی گئی کہ کہو ”میں تم جیسا بشر ہوں خدا یا خدا کا بیٹا نہیں، ہاں ”يُوحَى إِلَيَّ“ رسول ہوں، دفعِ اِفْرَاطِ نصرانیت کے لئے پہلا کلمہ تھا اور دفعِ تفریطِ اِبْلِيسِيَّتِ کے لئے دوسرا کلمہ، اسی کی نظیر ہے جو دوسری جگہ ارشاد ہوا

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا مِّثْلَ سَائِرِ الْبَشَرِ (۱) تم فرما دو پاکی ہے میرے رب کو میں خدا نہیں، میں تو انسان رسول ہوں۔

انہیں دونوں کے دفع کو کلمہ شہادت میں دونوں لفظِ کریم جمع فرمائے گئے ”أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ“ میں اعلان کرتا ہوں کہ حضرت محمد صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ (ت) بندے ہیں خدا نہیں، رسول ہیں خدا سے جدا نہیں، شَيْطَانَتِ اس کی کہ دوسرا کلمہ امتیازِ اعلیٰ چھوڑ کر پہلے کلمہ تو واضح پر اقتصار کرے۔ (۲)

صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”صورتِ خاصہ میں کوئی بھی آپ (صَلَّى

①..... بنی اسرائیل: ۹۳۔

②..... فتاویٰ رضویہ، ۱۴/۲۲۲-۲۶۵۔

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) کا مثل نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) کو حسن و صورت میں بھی سب سے اعلیٰ و بالا کیا اور حقیقت و روح و باطن کے اعتبار سے تو تمام انبیاء (عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) اوصافِ بشر سے اعلیٰ ہیں، جیسا کہ شفاء قاضی عیاض (قاضی عیاض رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كِتَابُ "شَفَاء") میں ہے اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے شرح مشکوٰۃ میں فرمایا کہ انبیاء عَلَيْهِمُ السَّلَام کے اجسام و ظواہر تو حدِ بشریت پر چھوڑے گئے اور ان کے ارواح و بواطن بشریت سے بالا اور ملاءِ اعلیٰ سے متعلق ہیں۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے سورۃِ الْاِنشَاء کی تفسیر میں فرمایا کہ آپ کی بشریت کا وجود اصلاً نہ رہے اور غلبہ انوارِ حق آپ پر علی اللہ و ام حاصل ہو۔ بہر حال آپ (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) کی ذات و کمالات میں آپ کا کوئی بھی مثل نہیں۔ اس آیتِ کریمہ میں آپ کو اپنی ظاہری صورتِ بشریہ کے بیان کا اظہار تواضع کے لئے حکم فرمایا گیا، یہی فرمایا ہے حضرت ابن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے۔^(۱)

ترا مسندِ ناز ہے عرشِ بریں ترا محرمِ راز ہے روحِ امیں تو ہی سرورِ ہر دو جہاں ہے شہا ترِ امثل نہیں ہے خدا کی قسم

سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو بشر کہنے سے متعلق 3 اہم باتیں

یہاں تاجدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو بشر کہنے سے متعلق 3 اہم باتیں یاد رکھیں:

پہلی بات یہ کہ کسی کو جانتے نہیں کہ وہ حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو اپنے جیسا بشر کہے کیونکہ جو کلمات عزت و عظمت والے اصحابِ عاجزی کے طور پر فرماتے ہیں انہیں کہنا دوسروں کے لئے روا نہیں ہوتا۔ حضرت علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں "واضح رہے کہ یہاں ایک ادب اور قاعدہ ہے جسے بعض اصفیا اور اہل تحقیق نے بیان کیا ہے اور اسے جان لینا اور اس پر عمل پیرا ہونا مشکلات سے نکلنے کا حل اور سلامت رہنے کا سبب ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی مقام پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی خطاب، عتاب، رعب و دبدبہ کا اظہار یا بے نیازی کا وقوع ہو مثلاً آپ ہدایت نہیں دے سکتے، آپ کے اعمال ختم ہو جائیں گے، آپ کے لئے کوئی شے نہیں، آپ حیاتِ دنیوی کی زینت چاہتے ہیں، اور اس کی مثل دیگر مقامات، یا کسی جگہ نبی کی طرف سے عبدیت، انکساری، محتاجی و عاجزی اور مسکینی کا ذکر آئے مثلاً میں تمہاری طرح بشر ہوں، مجھے اسی طرح غصہ آتا ہے جیسے عبد کو آتا ہے اور میں نہیں جانتا اس دیوار کے ادھر کیا ہے، میں نہیں جانتا میرے ساتھ اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا، اور اس کی مثل دیگر مقامات۔ ہم امتیوں اور

①..... خزائن العرفان، الکھف، تحت الآیۃ: ۱۱۰، ص ۵۶۹۔

غلاموں کو جائز نہیں کہ ان معاملات میں مداخلت کریں، ان میں اشتراک کریں اور اسے کھیل بنائیں، بلکہ ہمیں پاس ادب کرتے ہوئے خاموشی و سکوت اور توقّف کرنا لازم ہے، مالک کا حق ہے کہ وہ اپنے بندے سے جو چاہے فرمائے، اس پر اپنی بلندی و غلبہ کا اظہار کرے، بندے کا بھی یہ حق ہے کہ وہ اپنے مالک کے سامنے بندگی اور عاجزی کا اظہار کرے، دوسرے کی کیا مجال کہ وہ اس میں دخل اندازی کرے اور حد ادب سے باہر نکلنے کی کوشش کرے، اس مقام پر بہت سے کمزور اور جاہل لوگوں کے پاؤں پھسل جاتے ہیں جس سے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ محفوظ رکھنے والا اور مدد کرنے والا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔^(۱)

دوسری بات یہ کہ جسے اللہ تعالیٰ نے فضائلِ جلیلہ اور مراتبِ رفیعہ عطا فرمائے ہوں، اُس کے ان فضائل و مراتب کا ذکر چھوڑ کر ایسے عام وصف سے اس کا ذکر کرنا جو ہر خاص و عام میں پایا جائے، اُن کمالات کو نہ ماننے کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ اس لئے سلامتی اسی میں ہے کہ فضیلت و مرتبے پر فائز ہستی کا ذکر اس کے فضائل اور ان اوصاف کے ساتھ کیا جائے جن کی وجہ سے وہ دوسروں سے ممتاز ہے اور یہی نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ کا طریقہ ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ فرماتے ہیں: تاجدارِ رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم قبرستان میں تشریف لے گئے تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے فرمایا ”السَّلَامُ عَلَیْکُمْ دَارَ قَوْمٍ مُؤْمِنِیْنَ“ بے شک اگر اللہ نے چاہا تو ہم تم سے ملنے والے ہیں، میری خواہش ہے کہ ہم اپنے (دینی) بھائیوں کو دیکھیں۔ صحابہ کرام رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُمْ نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، کیا ہم آپ کے (دینی) بھائی نہیں؟ ارشاد فرمایا ”(دینی بھائی ہونے کے ساتھ تمہاری خصوصیت یہ ہے کہ) تم میرے صحابہ ہو اور ہمارے (صرف دینی) بھائی وہ ہیں جو ابھی تک نہیں آئے۔“^(۲)

اسی طرح حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِیَ اللہُ تَعَالٰی عَنْہُ نے فرمایا ”جب تم رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر درود بھیجا کرو تو اچھی طرح بھیجا کرو، تمہیں کیا پتہ کہ شاید وہ حضور پر نور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے پیش کیا جاتا ہو۔ لوگوں نے عرض کی: تو ہمیں سکھا دیجئے۔ آپ نے فرمایا: یوں پڑھا کرو ”اللّٰهُمَّ اجْعَلْ صَلَاتَكَ وَرَحْمَتَكَ وَبَرَکَاتِكَ عَلٰی سَیِّدِ الْمُرْسَلِیْنَ وَامَامِ الْمُتَّقِیْنَ وَخَاتَمِ النَّبِیِّیْنَ مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُولِكَ اِمَامِ الْخَیْرِ

①.....مدارج النبوت، باب سوم در بیان فضل و شرافت، وصل در ازالہ شبہات، ۸۳/۱-۸۴.

②.....مسلم، کتاب الطہارۃ، باب استحباب اطالۃ الغرۃ والتحصیل فی الوضوء، ص ۱۵۰، الحدیث: ۳۹ (۲۴۹).

وَقَائِدِ الْخَيْرِ وَرَسُولِ الرَّحْمَةِ اللَّهُمَّ ابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا يَغْبِطُهُ بِهِ الْأَوْلُونَ وَالْآخِرُونَ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ“ (1)

اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہنے میں راہ سلامت یہ ہے کہ نہ تو آپ کی بشریت کا مطلقاً انکار کیا جائے اور نہ ہی کسی امتیازی وصف کے بغیر آپ کی بشریت کا ذکر کیا جائے بلکہ جب حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کا ذکر کیا جائے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو افضل البشر یا سید البشر کہا جائے یا یوں کہا جائے کہ آپ کی ظاہری صورت بشری ہے اور باطنی حقیقت بشریت سے اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَیْهِ فرماتے ہیں ”جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صورت ظاہری بشری ہے (اور) حقیقت باطنی بشریت سے ارفع و اعلیٰ ہے، یا یہ (کہے) کہ حضور اوروں کی مثل بشر نہیں، وہ سچ کہتا ہے اور جو مطلقاً حضور سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے، قال تعالیٰ

قُلْ سُبْحَانَ رَبِّيَ هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرًا رَسُولًا (2) تم فرماؤ: میرا رب پاک ہے میں تو صرف اللہ کا بھیجا ہوا ایک آدمی ہوں۔ (3)

تیسری بات یہ کہ قرآن کریم میں جا بجا کفار کا طریقہ بتایا گیا ہے کہ وہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو اپنے جیسا بشر کہتے تھے اور اسی سے وہ گمراہی میں مبتلا ہوئے لہذا جس مسلمان کے دل میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی ادنیٰ رمتق بھی باقی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ کفار کا طریقہ اختیار کرنے سے بچے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے جیسا بشر سمجھ کر گمراہوں کی صف میں داخل ہونے کی کوشش نہ کرے۔

﴿ اِنَّمَا الْهُنَمُ اللهُ وَاحِدٌ ﴾ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے۔ یعنی مجھے وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کا کوئی شریک نہیں تو جو اپنے رب عزوجل سے ملاقات کی امید رکھتا ہو اسے چاہیے کہ نیک کام کرے اور اپنے رب عزوجل

1..... ابن ماجہ، کتاب اقامۃ الصلاۃ والنسۃ فیہا، باب الصلاۃ علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۴۸۹/۱، الحدیث: ۶، ۹۰، مسند ابی یعلیٰ، مسند عبد اللہ بن مسعود، ۴۳۸/۴، الحدیث: ۵۲۴۵، ملقطاً.

2..... بنی اسرائیل: ۹۳.

3..... فتاویٰ رضویہ، ۳۵۸/۱۲۔

کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے۔ شرکِ اکبر سے بھی بچے اور ریاء سے بھی جس کو شرکِ اصغر کہتے ہیں۔^(۱)

ریا کاری کی مذمت پر 4 احادیث

موضوع کی مناسبت سے یہاں ریا کاری کی مذمت پر 4 احادیث بھی ملاحظہ ہوں:

(1)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ”اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”میں شریک سے بے نیاز ہوں، جس نے کسی عمل میں میرے ساتھ کسی غیر کو شریک کیا میں اسے اور اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔“⁽²⁾

(2)..... حضرت ابوسعید بن ابوفضالہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ جب قیامت کے دن جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لوگوں کو جمع فرمائے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا: جس نے کسی ایسے عمل میں جو اس نے اللہ کے لئے کیا تھا، کسی کو شریک ٹھہرایا تو اسے اس کا ثواب اسی غیر خدا سے طلب کرنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام شریکوں کے شرک سے بے نیاز ہے۔“⁽³⁾

(3)..... حضرت محمود بن لبید رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”قیامت کے دن جب اللہ عَزَّ وَجَلَّ بندوں کو ان کے اعمال کا بدلہ دے گا تو ریا کاروں سے فرمائے گا: ان کے پاس جاؤ جنہیں دکھانے کے لئے تم دنیا میں عمل کیا کرتے تھے اور دیکھو! کیا تم ان کے پاس کوئی بدلہ یا بھلائی پاتے ہو؟“⁽⁴⁾

(4)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جُبُّ الْحُزْنِ“ سے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی پناہ مانگو۔ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نے عرض کی: ”جُبُّ الْحُزْنِ“ کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: جہنم کی ایک وادی ہے جس سے جہنم (بھی) روزانہ سو مرتبہ پناہ مانگتی ہے۔ ہم نے عرض کی: اس میں کون لوگ داخل ہوں گے؟ ارشاد فرمایا: ”وہ قاری جو اپنے اعمال لوگوں کو دکھانے کے لئے کرتے تھے“⁽⁵⁾۔⁽⁶⁾

①..... حازن، الکھف، تحت الآیة: ۱۱۰، ۲۲۸/۳، مدارک، الکھف، تحت الآیة: ۱۱۰، ص ۶۶۵-۶۶۶، ملقطاً.

②..... مسلم، کتاب الزهد والرقائق، باب من اشرك في عمله غير الله، ص ۱۵۹۴، الحدیث: ۴۶ (۲۹۸۵).

③..... ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة الكهف، ۱۰۵/۵، الحدیث: ۳۱۶۵.

④..... شعب الایمان، الخامس والاربعون من شعب الایمان... الخ، ۳۳۳/۵، الحدیث: ۶۸۳۱.

⑤..... ترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء في الرياء والسمعة، ۱۷۰/۴، الحدیث: ۲۳۹۰.

⑥..... ریا کاری سے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب ”ریا کاری“ (مطبوعہ مکتبہ المدینہ) کا مطالعہ بہت مفید ہے۔

سُورَةُ مَرْيَمَةَ

سورة مریم کا تعارف

مقام نزول

سورة مریم مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔^(۱)

رکوع اور آیات کی تعداد

اس سورت میں 6 رکوع اور 98 آیتیں ہیں۔

”مریم“ نام رکھنے کی وجہ

اس سورت میں حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی عظمت، آپ کے واقعات اور حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام ”سورة مریم“ رکھا گیا ہے۔

سورة مریم سے متعلق احادیث

(1)..... جب چند مسلمانوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی تو کفار مکہ نے تحائف دے کر اپنے دو نمائندے حبشہ بھیجے تاکہ وہ ان مسلمانوں کو وہاں سے واپس لے آئیں جب وہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچے اور اس کے سامنے اپنے آنے کا مقصد بیان کیا تو اس نے کہا کہ میں پہلے ان مسلمانوں کا موقف معلوم کر لوں، چنانچہ مسلمانوں کو جب اس کے دربار میں بلایا گیا اور حضرت جعفر بن ابوطالب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے اس کی گفتگو ہوئی تو اس نے کہا: کیا آپ کے پاس اس کلام کا کوئی حصہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا۔ حضرت جعفر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا، ہاں ہے، پھر اس کے سامنے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سورة مریم کی تلاوت کی، حضرت ام سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں ”اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! نجاشی سورة مریم سن کر اتنا رویا کہ اس کی داڑھی بھیگ گئی اور اس کے دربار میں موجود وہ لوگ جن کے سامنے مصاحف کھلے ہوئے تھے اتنا روئے کہ ان کے مصاحف بھیگ گئے، پھر نجاشی نے کہا: بے شک یہ دین اور جو دین حضرت موسیٰ عَلَيْهِ

1..... حازن، تفسیر سورة مریم... الخ، ۲۲۸/۳.

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لے کر آئے یہ ایک ہی طاق سے نکلے ہیں اور کفار کے نمائندوں سے کہا: تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، خدا کی قسم! میں کبھی بھی انہیں تمہارے حوالے نہیں کروں گا۔^(۱)

(2)..... حضرت ابو مریم غسانی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں، میں نے نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی: یا رسولَ اللهُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آج رات میرے ہاں لڑکی کی ولادت ہوئی ہے۔ حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”آج رات مجھ پر سورہ مریم نازل کی گئی، تم اس کا نام مریم رکھ دو۔ چنانچہ اس لڑکی کا نام مریم رکھ دیا گیا۔^(۲)

سورہ مریم کے مضامین

سورہ مریم کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے واقعات کے ضمن میں اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کے واحد و یکتا ہونے، اللہ تعالیٰ کی قدرت اور قیامت کے دن مخلوق کے دوبارہ زندہ ہونے اور اعمال کی جزاء و سزا ملنے کو ثابت کیا گیا ہے۔ اور اس سورت میں یہ مضامین اور واقعات بیان کئے گئے ہیں:

(1)..... حضرت زکریا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے فرزند حضرت یحییٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، کیونکہ حضرت یحییٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ولادت اس وقت ہوئی جبکہ آپ کے والد حضرت زکریا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کافی زیادہ عمر کو پہنچ چکے تھے اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی والدہ بانجھ تھیں اور ایسی صورت حال میں عادت کے برخلاف حضرت یحییٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ولادت ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ نیز حضرت زکریا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی نیک بیٹی کی مانگی ہوئی دعا مقبول ہونے اور حضرت یحییٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو بچپن میں ہی منصب نبوت سے سرفراز کئے جانے کا ذکر ہے۔

(2)..... اس کے بعد حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ولادت کا واقعہ بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے فطری طریقے سے جداگانہ طریقے سے اپنی نیک بندی حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے اپنے بندے حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو بغیر باپ کے پیدا کر دیا، اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کی دوسری بڑی دلیل ہے کہ انسان کو پیدا کرنا مرد اور عورت

1.....مسند امام احمد، حدیث جعفر بن ابی طالب و هو حدیث الهجرة، ۴۳۱/۱، الحدیث: ۱۷۴۰، ملخصاً.

2.....معجم کبیر، من یکنی ابا مریم، ابو مریم الغسانی... الخ، ۲۲/۲۲ الحدیث: ۸۳۴.

کے ملاپ پر ہی موقوف نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ چاہے تو مرد و عورت کے ملاپ کے بغیر بھی انسان پیدا کر سکتا ہے اور خالق حقیقی اللہ تعالیٰ ہی ہے۔

(3)..... حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ولادت کے وقت حضرت مریم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کو دی جانے والی تسلی اور ان پر کئے جانے والے انعامات ذکر کئے گئے۔

(4)..... یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ولادت کی وجہ سے حضرت مریم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نے کس طرح لوگوں کے طعن و تشنیع اور ملامت کا سامنا کیا اور کس طرح حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے جھولے میں اپنی والدہ کی پاکدامنی بیان کی اور اپنی نبوت کا اعلان فرمایا۔

(5)..... حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ولادت سے یہودیوں اور عیسائیوں میں اختلاف پڑنے کا ذکر ہے۔

(6)..... حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی اپنے عمرنی باپ آزر سے بتوں کی پوجا کے بارے میں ہونے والی بحث بیان کی گئی اور آپ کی زوجہ محترمہ حضرت سارہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کے بانجھ ہونے کے باوجود ان کے ہاں دو بیٹوں حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب عَلَیْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ولادت اور انہیں نبوت ملنے کا ذکر کیا گیا۔

(7)..... طور پر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی اللہ تعالیٰ سے مناجات کرنے اور ان کے بھائی حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو نبوت ملنے کا واقعہ بیان کیا گیا۔

(8)..... حضرت اسماعیل عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا ذکر کیا گیا کہ وہ وعدے کے سچے تھے اور وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی قوم جُرہم کو نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیتے تھے۔ حضرت ادریس عَلَیْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی اولاد میں سے ان انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر انعام فرمایا اور انہیں لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔

(9)..... نیک لوگوں کے بعد آنے والوں کا اپنی نمازیں ضائع کرنے اور اپنی باطل خواہشوں کی پیروی کرنے کا ذکر ہے اور جن لوگوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک عمل کئے ان کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت جبرئیل عَلَیْهِ الصَّلَامُ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی وحی لے کر نازل ہوتے ہیں۔

(10)..... مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرنے والے مشرکین کا ذکر کیا گیا اور انہیں خبر دی گئی کہ ان کا

حشر شیاطین کے ساتھ ہوگا اور انہیں جہنم کے آس پاس گھٹنوں کے بل گرا کر حاضر کیا جائے گا۔

(11)..... مسلمانوں سے قرآن پاک سنتے وقت مشرکین کا موقف بیان کیا گیا اور سابقہ امتوں کی سرکشی اور ایمان قبول کرنے سے تکبر کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نازل ہونے کا ذکر کر کے ان مشرکین کو ڈرایا گیا ہے نیز یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے اور اہل ایمان کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے اور جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کی انہیں عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔

(12)..... یہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ایمان والوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کافروں کو جہنم کی طرف ہانک دے گا۔

سورۃ کہف کے ساتھ مناسبت

سورۃ مریم کی اپنے سے ما قبل سورت ”کہف“ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ جس طرح سورۃ کہف میں انتہائی عجیب و غریب واقعات ذکر کئے گئے جیسے اصحاب کہف کا واقعہ، حضرت موسیٰ اور حضرت خضر علیہما الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ اور حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ، اسی طرح سورۃ مریم میں بھی عجیب و غریب واقعات ذکر کئے گئے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ہاں بڑھاپے میں اور ان کی زوجہ محترمہ کے بانجھ ہونے کے باوجود حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت ہوئی اور حضرت عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کی بغیر والد کے ولادت ہوئی۔⁽¹⁾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان نہایت رحم والا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

كَهَيْعَصَ ۝۱ ذِكْرُ رَاحَتِ رَبِّكَ عَبْدًا زَكِرِيَّا ۝۲

1.....تناسق الدرر، سورۃ مریم، ص ۱۰۱۔

ترجمہ کنزالایمان: یہ مذکور ہے تیرے رب کی اس رحمت کا جو اس نے اپنے بندہ زکریا پر کی۔

ترجمہ کنزالعرفان: کھبِ عَصَّ - یہ تیرے رب کی اپنے بندے زکریا پر رحمت کا ذکر ہے۔

﴿ کھبِ عَصَّ ﴾: یہ حروفِ مُقَطَّعات ہیں، ان کی مراد اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔

﴿ ذِكْرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ ﴾: یہ تیرے رب کی رحمت کا ذکر ہے۔ ﴿ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ﴾، ہم آپ

کے سامنے جو بیان کر رہے ہیں یہ آپ کے رب عَزَّوَجَلَّ کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے حضرت زکریا علیہ

الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ پر فرمائی۔ (1)

نیک بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مراد نیک اور صالح بیٹا عطا فرمانا ہے اور بیٹا عطا فرمانے کے تذکرے کو رحمتِ الہی کا تذکرہ فرمایا گیا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ نیک اور صالح بیٹا اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بڑی رحمت ہے خصوصاً جب کہ بڑھاپے میں عطا ہو۔ یاد رہے کہ نیک اولاد سے جس طرح دنیا میں فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ وہ اپنے والدین کی خدمت کرتی ہے اور بڑھاپے میں ان کا سہارا بنتی ہے، اسی طرح مرنے کے بعد بھی نیک اولاد اپنے والدین کو نفع پہنچاتی ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال مُنْقَطِع ہو جاتے ہیں لیکن تین عمل منقطع نہیں ہوتے (1) صدقہ جاریہ۔ (2) علم نافع۔ (3) نیک اولاد جو اس کے لئے دعا کرتی رہتی ہے۔ (2) لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ جب بھی اللہ تعالیٰ سے اولاد کی دعا مانگے تو نیک اولاد کی دعا مانگے کیونکہ اسے چاہئے کہ وہ اپنی موجودہ اولاد کو بھی نیک بنانے کی کوشش کرے تاکہ جب وہ دنیا سے جائے تو اس کے پیچھے اس کی بخشش کی دعا مانگنے والا بھی کوئی ہو۔

إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝٣

1.....حازن، مریم، تحت الآية: ٢، ٣/٢٢٨.

2.....مسلم، کتاب الوصیة، باب ما يلحق الانسان من الثواب بعد وفاته، ص ٨٨٦، الحدیث: ١٤ (١٦٣١).

ترجیہ کنزالایمان: جب اس نے اپنے رب کو آہستہ پکارا۔

ترجیہ کنزالعرفان: جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔

﴿إِذْ نَادَى رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا﴾: جب اس نے اپنے رب کو آہستہ سے پکارا۔ یعنی حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آہستہ آواز میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، مفسرین نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آہستہ آواز میں دعائیں مانگنے کی چند وجوہات ذکر کی ہیں:

(1)..... آہستہ دعائیں مانگنے میں اخلاص زیادہ ہوتا ہے اور دعائیں مانگنے والا ریاکاری سے محفوظ رہتا ہے اس لئے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آہستہ دعا فرمائی۔

(2)..... لوگ اولاد کی دعائیں مانگنے پر ملامت نہ کریں کیونکہ اس وقت حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر شریف 75 یا 80 سال تھی۔

(3)..... حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی آواز کمزوری کے باعث آہستہ ہو گئی تھی۔⁽¹⁾

آہستہ آواز میں دعائیں مانگنے کی فضیلت اور دعائیں مانگنے کا ایک ادب

اس آیت میں حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے آہستہ دعائیں مانگنے کا ذکر ہے، آہستہ دعائیں مانگنے کی فضیلت کے بارے میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”آہستہ آواز میں دعا کرنا 70 بلند آواز کے ساتھ دعاؤں کے برابر ہے۔“⁽²⁾

نیز اس سے معلوم ہوا کہ آہستہ آواز میں دعائیں مانگنا دعا کے آداب میں سے ہے۔ اسی ادب کی تعلیم دیتے ہوئے ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أَدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً⁽³⁾

ترجیہ کنزالعرفان: اپنے رب سے گڑگڑاتے ہوئے اور آہستہ

آواز سے دعا کرو۔

①..... مدارك، مریم، تحت الآیة: ٣، ص ٦٦٧، حازن، مریم، تحت الآیة: ٣، ٢٢٩/٣، ملتقطاً.

②..... مسند الفردوس، باب الدال، ٢١٤/٢، الحدیث: ٣٠٤٦.

③..... اعراف: ٥٥.

اور حضرت علامہ مولانا نقی علی خاں دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ دَعَا کے آداب بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ”دعا نرم و پست آواز سے ہو کہ اللہ تعالیٰ سمیع و قریب ہے، جس طرح چلانے سے سنتا ہے اسی طرح آہستہ (آواز بھی سنتا ہے) اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”بلکہ وہ اسے بھی سنتا ہے جو ہنوز (یعنی ابھی) زبان تک اصلاً نہ آیا یعنی دلوں کا ارادہ، نیت، خطرہ کہ جیسے اس کا علم تمام موجودات و معدومات کو محیط (یعنی گھیرے ہوئے) ہے یونہی اس کے سمع و بصر جمیع موجودات کو عام و شامل ہیں، اپنی ذات و صفات اور دلوں کے ارادات و خطرات اور تمام اعیان و اعراض کائنات ہر شے کو دیکھتا بھی ہے اور سنتا بھی، نہ اس کا دیکھنا رنگ و ضو (یعنی روشنی) سے خاص نہ اس کا سننا آواز کے ساتھ مخصوص۔^(۱) مشورہ: دعا کے فضائل و آداب اور اس سے متعلق دیگر معلومات حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے والد ماجد حضرت علامہ نقی علی خاں دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی شاندار کتاب ”فضائل دعا“^(۲) اور راقم کی کتاب ”فیضان دعا“ کا مطالعہ فرمائیں۔

نوٹ: حضرت زکریا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے دعا مانگنے سے متعلق انتہائی ایمان افروز کلام سورہ ال عمران کی آیت نمبر 37 اور 38 کے تحت مذکور تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيْبًا وَلَمْ أَكُنْ
بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا^(۳)

ترجمہ کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر سے بڑھاپے کا بھبھوکا پھوٹا اور اے میرے رب میں تجھے پکار کر کبھی نامراد نہ رہا۔

ترجمہ کنزالعرفان: عرض کی: اے میرے رب! بیشک میری ہڈی کمزور ہو گئی اور سر نے بڑھاپے کا شعلہ چمکا دیا ہے

①..... فضائل دعا، فصل دوم آداب دعا و اسباب اجابت میں، ص ۷۶-۷۷۔

②..... یہ تسہیل و تخریج کے ساتھ مکتبہ المدینہ نے بھی شائع کی ہے، وہاں سے خرید کر مطالعہ کر سکتے ہیں۔

(بوڑھا ہو گیا ہوں) اور اے میرے رب! میں تجھے پکار کر کبھی محروم نہیں رہا۔

﴿قَالَ: عَرَضَ كِي:﴾ حضرت زکریا عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے دعا مانگنے کا پورا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت زکریا عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی عمر شریف 75 یا 80 سال تک پہنچ چکی تھی مگر آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے پاس اولاد جیسی نعمت نہ تھی اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو اپنے رشتہ داروں میں سے بھی کوئی ایسا نیک صالح مرد نظر نہیں آتا تھا کہ جو آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی وفات کے بعد اس قابل ہو کہ وہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا جانشین بنے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے جو دین کی خدمت آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے سپرد تھی اس کو انجام دے سکے بلکہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے کئی رشتہ دار شریک تھے اور آپ کو خوف تھا کہ کہیں میرے بعد یہ دین میں تبدیلیاں شروع نہ کر دیں اسی وجہ سے آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بہت فکر مند رہا کرتے تھے۔ یہی احساس جب بہت زیادہ بڑھا تو بالآخر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں عرض کر دی کہ مجھے نیک صالح بیٹا عطا فرما جو تیرا بھی پسندیدہ ہو اور وہ میرے بعد میرا وارث بنے اور دین کی خدمت کرے۔

﴿إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي﴾: بے شک میری ہڈی کمزور ہو گئی۔ ﴿حَضْرَتُ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ﴾ نے اپنی دعا کی ابتدا اس طرح کی کہ اے میرے مولیٰ! عَزَّوَجَلَّ، تو جانتا ہے کہ میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور بڑھاپے کی کمزوری اس انتہا کو پہنچ چکی ہے کہ سب سے مضبوط عَضْوُ ہڈی میں کمزوری آگئی ہے اور جب یہ کمزور ہو چکی تو باقی اعضاء کا حال محتاج بیان نہیں اور میرے سر کے بال بھی سفید ہو چکے ہیں، اور اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، آج سے پہلے تیری بارگاہ میں میں نے جو بھی دعائیں کی ہیں تو نے وہ قبول کی ہیں، لہذا مجھے امید ہے کہ تو میری یہ دعا بھی قبول کرے گا۔⁽¹⁾

آیت ”رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوئیں:

(1)..... جب بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے تو پہلے ان امور کو ذکر کیا جائے جن سے دعا مانگنے والے کی عاجزی و انکساری کا اظہار ہو۔

(2)..... اپنی حاجت عرض کرنے سے پہلے اپنے اوپر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی نعمت و رحمت اور لطف و کرم کا ذکر کیا جائے۔

1..... مدارك، مریم، تحت الآية: ٤، ص ٦٦٧-٦٦٨.

(3)..... پہلے جو دعا قبول ہو چکی اسے دوبارہ دعا کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بنایا جائے۔

(4)..... انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اسی لیے ان سے دعائیں کرائی جاتی ہیں، یونہی اولیاء کرام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِمْ سے بھی اسی لئے دعا کرنے کا عرض کیا جاتا ہے کہ ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔

وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا ۝ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ ۖ وَاجْعَلْهُ رَبِّ رَاضِيًّا ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور مجھے اپنے بعد اپنے قرابت والوں کا ڈر ہے اور میری عورت بانجھ ہے تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا دے ڈال جو میرا کام اٹھالے۔ وہ میرا جانشین ہو اور اولادِ یعقوب کا وارث ہو اور اے میرے رب اسے پسندیدہ کر۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک مجھے اپنے بعد اپنے رشتے داروں کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے، تو مجھے اپنے پاس سے کوئی ایسا وارث عطا فرما دے۔ جو میرا جانشین ہو اور یعقوب کی اولاد کا وارث ہو اور اے میرے رب! اسے پسندیدہ بنا دے۔

﴿وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي﴾: اور بیشک میں اپنے بعد اپنے رشتے داروں سے ڈرتا ہوں۔ ﴿رِثَّةِ دَارُونَ﴾ سے مراد چچا زاد بھائی ہیں اور ڈر کی وجہ یہ تھی کہ وہ بنی اسرائیل کے شریر لوگ تھے اور آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو خوف تھا کہیں میری وفات کے بعد یہ لوگ دین میں تبدیلی نہ کر دیں اور صحیح طور پر دین کی خدمت نہ کریں، اس وجہ سے آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے اپنے بعد کے لئے اپنی پشت سے نیک بیٹے کا مطالبہ کیا تا کہ وہ دین کو زندہ رکھنے کے معاملے میں ان کی پیروی کرے، چنانچہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے یوں عرض کی: اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، بیشک مجھے اپنے بعد اپنے رشتے داروں کی طرف سے دین میں تبدیلی کر دینے کا ڈر ہے اور میری بیوی بانجھ ہے جس سے اولاد نہیں ہو سکتی، تو مجھے اپنے

پاس سے کسی سبب کے بغیر کوئی ایسا وارث عطا فرمادے جو میرے علم اور آلِ یعقوب کی نبوت کا وارث ہو (یعنی اسے اس قابل بنادے کہ اس کی طرف وحی کی جاسکے) اور اے میرے رب! عَزَّ وَجَلَّ، اسے ایسا بنادے کہ تو اس سے راضی ہو اور وہ تجھ سے اور تیرے حکم سے راضی ہو۔^(۱) یاد رہے کہ جس وقت آپ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے بیٹے کے لیے دعا کی اس وقت آپ کی زوجہ کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔

﴿وَأَجْعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا﴾ اور اے میرے رب! اسے پسندیدہ بنادے۔ ﴿حَضْرَتُ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ﴾ نے بیٹے کے لیے جو دعا کی تھی اس میں آپ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے دعا کے آخر میں فرمایا تھا کہ اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنانا، اس میں بھی کئی راز پوشیدہ تھے۔ اس میں ہمارے لئے نصیحت یہ ہے کہ جب بھی اولاد کی دعا مانگی جائے تو نیک صالح اولاد کی دعا مانگی جائے، ورنہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دعا مانگی اور قبول ہوئی اور اولاد مل گئی مگر اسی اولاد نے جینا حرام کر دیا ہو۔

سورہ مریم کی آیت 5 اور 6 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات مبارکہ سے یہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں:

- (1)..... حضرت زَكَرِيَّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا نیک صالح بیٹے کے لیے دعا کرنا دین کے لیے تھا، نہ کہ کسی دُنْیوی غرض سے۔
- (2)..... انبیاء عَلِيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی وراثت علم و حکمت ہی ہوتی ہے لہذا آپ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے دعائیں اسی وراثت کا ذکر فرمایا ہے۔
- (3)..... بیٹے کی دعا کرنا سنتِ انبیاء عَلِيهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہے مگر اس لئے کہ وہ توشیحِ آخرت ہو۔ البتہ یہ یاد رہے کہ بیٹی پیدا ہونے پر غم کرنا کفار کا طریقہ ہے۔

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا بُشِّرْتُمْ بِوَعْدِ رَبِّكُمْ قَالُوْا سُبْحٰنَ رَبِّنَا ۗ مَا الْمُرْسَلُوْنَ اِلَيْكُمْ اِلَّا رِجَالٌ مِّمَّنْ قَدْ خَلَوْا مِنۡ قَبْلُ سَيِّئًا ﴿۱۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: اے زکریا! ہم تجھے خوشی سناتے ہیں ایک لڑکے کی جن کا نام یحییٰ ہے اس کے پہلے ہم نے اس نام

1..... مدارك، مریم، تحت الآية: ۵-۶، ص ۶۶۸۔

کا کوئی نہ کیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اے زکریا! ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جس کا نام تجھی ہے، اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا۔

﴿يُزَكِّرِيَا إِنَّا نَبِّشُرُكَ بِعَلِيمٍ﴾: اے زکریا! ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں۔ ﴿اللَّهُ تَعَالَىٰ نَبِّشُرُكَ زَكَرِيَّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ﴾ کی یہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا ”اے زکریا! ہم تجھے ایک لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں جو آپ کی طلب کے مطابق (آپ کے علم اور آل یعقوب کی نبوت کا) وارث ہوگا، اس کا نام تجھی ہے اور اس سے پہلے ہم نے اس نام کا کوئی دوسرا نہ بنایا کہ اس کا نام تجھی رکھا گیا ہو۔^(۱)

آیت ”يُزَكِّرِيَا إِنَّا نَبِّشُرُكَ“ سے متعلق تین باتیں

یہاں اس آیت مبارکہ سے متعلق 3 باتیں قابل ذکر ہیں:

(1)..... سورہ آل عمران کی آیت نمبر 39 میں ذکر ہوا کہ حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے دعا مانگنے کے بعد فرشتوں نے انہیں حضرت تجھی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت دی اور اس آیت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں حضرت تجھی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بشارت دی، اس کے بارے میں امام فخر الدین رازی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”ہوسکتا ہے کہ بشارت دو مرتبہ دی گئی ہو یعنی ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک مرتبہ فرشتوں نے بشارت دی ہو۔“⁽²⁾

(2)..... اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کا نام لے کر پکارا، اسی طرح دیگر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو بھی قرآن مجید میں ان کا نام لے کر پکارا گیا ہے، اس کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”قرآن عظیم کا عام محاورہ ہے کہ تمام انبیائے کرام کو نام لے کر پکارتا ہے، مگر جہاں محمد رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سے خطاب فرمایا ہے حضور کے اوصافِ جلیلہ والقابِ جمیلہ ہی سے یاد کیا ہے (چنانچہ کہیں ارشاد فرمایا)

1..... جلالین، مریم، تحت الآیة: ۷، ص ۲۵۴.

2..... تفسیر کبیر، مریم، تحت الآیة: ۷، ۵۱۲/۷.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ (1)

(کہیں ارشاد فرمایا)

اے نبی ہم نے تجھے رسول کیا۔

يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَدِّعْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ (2)

(کہیں ارشاد فرمایا)

اے رسول پہنچا جو تیری طرف اترا۔

يَا أَيُّهَا الْمُرْمِلُ ۱ قُمْ الْبَيْلَ (3)

(کہیں ارشاد فرمایا)

اے کپڑا اوڑھے لیٹنے والے رات میں قیام فرما۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۱ قُمْ فَأَنْذِرْ (4)

(کہیں ارشاد فرمایا)

اے جھرمٹ مارنے والے کھڑا ہو، لوگوں کو ڈر سنا۔

يَسْ ۱ وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ ۱ إِنَّكَ لَمِنَ

الْمُرْسَلِينَ (5)

اے یس!، یا، اے سردار! مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن

کی، بے شک تو مرسلوں سے ہے۔

(کہیں ارشاد فرمایا)

طَه ۱ مَا أُنزِلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى (6)

اے طہ!، یا، اے پاکیزہ رہنما! ہم نے تجھ پر قرآن اس لیے

نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑے۔

ہرذی عقل جانتا ہے کہ جو ان نداؤں اور ان خطابوں کو سنے گا، یا لہذا بہت حضور سید المرسلین و انبیائے سابقین کا فرق جان لے گا۔۔۔ امام عز الدین بن عبدالستلام وغیرہ علمائے کرام فرماتے ہیں ”بادشاہ جب اپنے تمام اُمرا کو نام لے کر پکارے اور ان میں خاص ایک مقرب کو یوں ندا فرمایا کرے: اے مقرب حضرت، اے نائب سلطنت، اے صاحب عزت، اے سردار مملکت! تو کیا (اس بات میں) کسی طرح محل ریب و شک باقی رہے گا کہ یہ بندہ بارگاہ سلطانی میں سب سے زیادہ عزت و وجاہت والا اور سرکار سلطانی کو تمام عمائد و اراکین سے بڑھ کر پیارا ہے۔“ (7)

(3)..... اللہ تعالیٰ نے حضرت تکلی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کا نام رکھ

③..... مزمل: ۲۰، ۲۱۔

②..... مائدہ: ۶۷۔

①..... احزاب: ۴۵۔

⑥..... طہ: ۲۰، ۲۱۔

⑤..... یس: ۱-۳۔

④..... مدثر: ۲۰، ۲۱۔

⑦..... فتاویٰ رضویہ، رسالہ: محلی الیقین، ۳۰/۱۵۲-۱۵۵۔

دیا۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو بھی یہ فضیلت عطا ہوئی کہ ان کی ولادت سے پہلے ہی ان کا نام بتا دیا گیا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کو جو مقام عطا کیا وہ تمام انبیاءِ کرام عَلَیْہِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے بڑھ کر ہے کہ میثاق کے دن تمام انبیاءِ کرام عَلَیْہِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی محفل میں آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا تذکرہ فرمایا، انسان کی تخلیق کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے ہی آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے اسمِ گرامی کو اپنے نام کے ساتھ عرش کے پایوں پر لکھ دیا اور ان کے اسمِ گرامی کے وسیلے سے جب حضرت آدم عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے دعائمانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو شرفِ قبولیت عطا فرمایا، حضرت ابراہیم عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے ان کے اپنی اولاد میں ہونے کی دعائمانگی اور حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا اسمِ مبارک بتا کر صدیوں پہلے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے دنیا میں تشریف آوری کی بشارت دی اور یہ وہ مرتبہ عظیمی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کے سوا اور کسی کو عطا نہیں فرمایا۔

قَالَ رَبِّ اَنْیَ یَکُوْنُ لِیْ عُلْمٌ وَّکَانَتِ اَمْرًا تِیْ عَاقِرًا وَّاقْدَ بَلَغْتُ
مِنَ الْکِبَرِ عِتِیًّا ۱

ترجمہ کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا میری عورت تو بانجھ ہے اور میں بڑھاپے سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ گیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: عرض کی: اے میرے رب! میرے لڑکا کہاں سے ہوگا حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بڑھاپے کی وجہ سے سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔

﴿قَالَ رَبِّ اَنْیَ یَکُوْنُ لِیْ عُلْمٌ﴾: عرض کی: اے میرے رب میرے لڑکا کہاں سے ہوگا۔ ﴿حَضْرَتِ زَکْرِیَّا عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ﴾ نے جب بیٹے کی خوشخبری سنی تو عرض کی: اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، میرے ہاں لڑکا کس طرح ہوگا کیونکہ میری بیوی نے اپنی اور میری جوانی کے زمانے میں بچہ نہیں جنتا تو اب بڑھاپے کی حالت میں وہ کس طرح جنے گی اور میں بھی بڑھاپے

کی وجہ سے خشک لکڑی کی طرح سوکھ جانے کی حالت کو پہنچ چکا ہوں۔^(۱)

یاد رہے کہ حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس طرح عرض کرنے میں اللہ عزوجل کی قدرت پر کسی عدم یقین کا اظہار نہیں تھا بلکہ معلوم یہ کرنا تھا کہ بیٹا کس طرح عطا کیا جائے گا، کیا ہمیں دوبارہ جوانی عطا کی جائے گی یا اسی عمر میں بیٹا عطا کیا جائے گا۔

نوٹ: حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ کلام سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 40 میں بھی گزر چکا ہے۔

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيْبٍ ۖ وَقَدْ خَلَقْتكَ مِن قَبْلُ
وَلَمْ تَكُ شَيْئًا ۙ

ترجمہ کنزالایمان: فرمایا ایسا ہی ہے تیرے رب نے فرمایا وہ مجھے آسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے اس وقت بنایا جب تو کچھ بھی نہ تھا۔

ترجمہ کنزالعرفان: فرمایا: ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے اور میں نے تو اس سے پہلے تجھے پیدا کیا حالانکہ تم کچھ بھی نہ تھے۔

﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾: فرمایا ایسا ہی ہے۔ ﴿حَضْرَت زَكَرِيَّا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ﴾ کی عرض کے جواب میں یہاں فرمایا گیا کہ بیٹا اسی حالت میں دیا جائے گا اور یہ میرے اوپر بہت آسان ہے کہ میں بڑھاپے کے عوارض دور کر کے آپ میں جوانوں کی سی قوت و توانائی پیدا کر دوں اور آپ کی بیوی کے مرض کو دور کر کے انہیں صحت عطا کر دوں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت تکلی علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے آپ کو اس وقت پیدا کر دیا جب آپ کچھ بھی نہ تھے تو جو رب تعالیٰ معدوم کو موجود کرنے پر قادر ہے وہ بڑھاپے میں اولاد عطا فرمانے پر بھی یقیناً قادر ہے۔

قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً ۗ قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تُكَلِّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا ۙ

①..... روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۸، ۳۱۶/۵-۳۱۷۔

ترجمہ کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب مجھے کوئی نشانی دے دے فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کرے بھلا چنگا ہو کر۔

ترجمہ کنزالعرفان: عرض کی: اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ فرمایا: تیری نشانی یہ ہے کہ تم بالکل تندرست ہوتے ہوئے بھی تین رات دن لوگوں سے کلام نہ کر سکو گے۔

﴿قَالَ رَبِّ اجْعَلْ لِي آيَةً﴾: عرض کی: اے میرے رب! میرے لئے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ ﴿حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جب یہ بتا دیا گیا کہ اسی عمر میں بیٹا عطا ہوگا تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مزید عرض کی: اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، میری بیوی کے حاملہ ہونے کی کوئی نشانی بتادی جائے تاکہ میں اس وقت سے تیری اس عظیم نعمت کا شکر ادا کرنے میں مشغول ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ آپ کے لئے آپ کی زوجہ کے حاملہ ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ صحیح سالم ہونے کے باوجود اور گونگا ہونے کے بغیر تین دن رات لوگوں سے کلام نہ کر سکیں گے۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ ان ایام میں آپ لوگوں سے کلام کرنے پر قادر نہ ہوئے، البتہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہتے تو زبان کھل جاتی تھی۔^(۱)

حقیقی مؤثر اللہ تعالیٰ ہے

اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو گنگ کی بیماری نہ ہوگی کیونکہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اس بیماری سے محفوظ ہیں۔ نیز یہ نشانی بھی بڑی دلچسپ تھی کہ ذِکْرُ اللّٰهِ کریں تو بالکل آسانی سے ہو جائے اور لوگوں سے کلام فرمانا چاہیں تو نہ کر سکیں۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مؤثر حقیقی اللہ عَزَّوَجَلَّ ہے اور بقیہ اشیاء صرف اسباب ظاہری ہیں۔ اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہے تو آگ سے پیاس بجھے اور پانی سے آگ لگے۔ آگ کا جلانا اور پانی کا پیاس بجھانا سب اللہ عَزَّوَجَلَّ کے کرنے سے ہے۔

**فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْبَحْرِ ابِ فَاَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَنْ سَبِّحُوا بُكْرَةً
وَعَشِيًّا ۝**

1..... روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۱۰، ۳۱۷/۵-۳۱۸، خازن، مریم، تحت الآیة: ۱۰، ۳/۲۳۰، ملتقطاً.

ترجمہ کنزالایمان: تو اپنی قوم پر مسجد سے باہر آیا تو انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے تو انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو۔

﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ﴾: پس وہ اپنی قوم کی طرف مسجد سے باہر نکلے۔ ﴿اِیْکَ دِنِ حَضْرَتِ زَکَرِیَّا عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ﴾ اس جگہ سے باہر نکلے جہاں وہ نماز ادا کیا کرتے تھے اور لوگ محراب کے پیچھے انتظار میں تھے کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ ان کے لئے دروازہ کھولیں تو وہ داخل ہوں اور نماز پڑھیں، جب حضرت زَکَرِیَّا عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ باہر آئے تو آپ عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ کا رنگ بدلا ہوا تھا اور آپ گفتگو نہیں فرما سکتے تھے۔ یہ حال دیکھ کر لوگوں نے دریافت کیا: کیا حال ہے؟ آپ عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ نے انہیں اشارہ سے کہا کہ صبح و شام تسبیح کرتے رہو اور عادت کے مطابق فجر و عصر کی نمازیں ادا کرتے رہو، اب حضرت زَکَرِیَّا عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ نے اپنے کلام نہ کر سکنے سے جان لیا کہ آپ کی بیوی صاحبہ حاملہ ہو گئی ہیں۔ (۱)

يَجِبِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ ۖ وَاتَّبِعْ الْحُكْمَ صَبِيًّا ۗ

ترجمہ کنزالایمان: اے یحییٰ! کتاب مضبوط تھام اور ہم نے اسے بچپن ہی میں نبوت دی۔

ترجمہ کنزالعرفان: اے یحییٰ! کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرمادی تھی۔

﴿يَجِبِي خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ﴾: اے یحییٰ! کتاب کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو۔ ﴿اِیْکَ دِنِ حَضْرَتِ یَحْیٰی عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ﴾ کی ولادت کے بعد جب آپ عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ کی عمر دو سال ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”اے یحییٰ! کتاب تو ریت کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو اور اس پر عمل کی بھرپور کوشش کرو اور ہم نے اسے بچپن ہی میں حکمت عطا فرمادی تھی جب کہ آپ کی عمر شریف تین سال کی تھی، اس وقت میں اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالٰی نے آپ کو کامل عقل عطا فرمائی اور آپ کی

①.....بخازن، مریم، تحت الآیة: ۱۱، ۳/۲۳۰، جلالین، مریم، تحت الآیة: ۱۱، ص ۲۵۴، ملتقطاً.

طرف وحی کی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کا یہی قول ہے اور اتنی سی عمر میں فہم و فراست اور عقل و دانش کا کمال، خوارقِ عادات (یعنی انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے معجزات) میں سے ہے اور جب اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ حاصل ہو تو اس حال میں نبوت ملنا کچھ بھی بعید نہیں، لہذا اس آیت میں حکم سے نبوت مراد ہے اور یہی قول صحیح ہے۔ بعض مفسرین نے اس سے حکمت یعنی توریت کا فہم اور دین میں سمجھ بھی مراد لی ہے۔^(۱)

ہماری پیدائش کا اصلی مقصد

حضرت معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ میرے بھائی حضرت محمدی عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر رحم فرمائے، جب انہیں بچپن کی حالت میں بچوں نے کھیلنے کے لئے بلایا تو آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے (ان بچوں سے) کہا: کیا ہم کھیل کے لئے پیدا کئے گئے ہیں؟ (ایسا نہیں ہے، بلکہ ہمیں عبادت کے لئے پیدا کیا گیا ہے اور یہی ہم سے مطلوب ہے۔ جب نابالغ بچہ اس طرح کہہ رہا ہے تو) اس بندے کا قول کیسا ہونا چاہئے جو بالغ ہو چکا ہے۔^(۲)

اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں پیدا کئے جانے کا اصلی مقصد یہ نہیں کہ ہم کھیل کود اور دُنویٰ عیش و لذت میں اپنی زندگی بسر کریں بلکہ ہماری پیدائش کا اصلی مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اسی چیز کو قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ

ترجمہ کنز العرفان: تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بریکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟

أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ^(۳)

اور ارشاد فرمایا کہ

ترجمہ کنز العرفان: اور میں نے جن اور آدمی اسی لئے بنائے کہ میری عبادت کریں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^(۴)

①..... جلالین، مریم، تحت الآية: ۱۲، ص ۲۵۴، حازن، مریم، تحت الآية: ۱۲، ۲۳۰/۳، مدارك، مریم، تحت الآية: ۱۲، ص ۶۶۹، تفسیر کبیر، مریم، تحت الآية: ۱۲، ۵۱۶/۷-۵۱۷، ملقطاً.

②..... ابن عساکر، حرف الیاء، ذکر من اسمه یحیی، یحیی بن زکریا بن نشوی... الخ، ۱۸۳/۶۴.

③..... مومنون: ۱۱۵. ④..... ذاریات: ۵۶.

اللہ تعالیٰ ہمیں فضول اور بیکار کاموں اور اخروی تیاری سے غافل کر دینے والے امور سے بچنے اور ہمیں اپنی اطاعت و عبادت میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا وَزَكَاةً ۖ وَكَانَ تَقِيًّا ۝۱۳

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنی طرف سے مہربانی اور ستھرائی اور کمال ڈرو والا تھا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اپنی طرف سے نرم دلی اور پاکیزگی دی اور وہ (اللہ سے) بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔

﴿وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا﴾ اور اپنی طرف سے نرم دلی دی۔ ﴿وَكَانَ تَقِيًّا﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی 3 صفات بیان فرمائی ہیں۔

- (1)..... اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف سے نرم دلی عطا کی اور ان کے دل میں رِقَّت ورحمت رکھی تاکہ آپ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لوگوں پر مہربانی کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اخلاص کے ساتھ نیک اعمال کرنے کی دعوت دیں۔
- (2)..... اللہ تعالیٰ نے انہیں پاکیزگی دی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ یہاں پاکیزگی سے طاعت و اخلاص مراد ہے۔ اور حضرت قتادہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ پاکیزگی سے مراد عملِ صالح ہے۔ (1)
- (3)..... وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والا تھا۔ آپ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللہ تعالیٰ کے خوف سے بہت گریہ و زاری کرتے تھے یہاں تک کہ آپ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے رخسار مبارک پر آنسوؤں سے نشان بن گئے تھے۔

حضرت یحییٰ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نرم دلی اور رحمت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی نرم دلی اور رحمت ان الفاظ ”وَحَنَانًا مِّنْ لَّدُنَّا“ کے ساتھ بیان فرمائی، اور اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نرم دلی اور امت پر شفقت و رحمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ (2) **ترجمہ کنزالعرفان:** تو اے حبیب! اللہ کی کتنی بڑی مہربانی

1..... بغوی، مریم، تحت الآية: ۱۳، ۱۵۹/۳.

2..... ال عمران: ۱۵۹.

ہے کہ آپ ان کے لئے نرم دل ہیں۔

اور ارشاد فرمایا

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ (1)

ترجمہ کنز العرفان: بیشک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم
رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت
بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے،
مسلمانوں پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بھی کمال درجے کی نرم دلی، امت
کی بھلائی کی حرص اور مسلمانوں پر شفقت و رحمت عطا کی ہے۔

نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاک کرنے والے ہیں

اللہ تعالیٰ نے حضرت تکلی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنی طرف سے انہیں پاکیزگی
دی۔ اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا

ترجمہ کنز العرفان: بیشک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان
فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔
وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک
کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ یہ لوگ
اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ
رَسُولًا مِّنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ۚ
وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ (2)

نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوفِ خدا

اس آیت میں حضرت تکلی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے
والے تھے، اس مناسبت سے یہاں حبیبِ خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خوفِ خدا کی تین روایات ملاحظہ ہوں، چنانچہ

1..... توبہ: ۱۲۸۔

2..... آل عمران: ۱۶۴۔

حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”خدا کی قسم! میں تم سب میں اللہ عَزَّوَجَلَّ سے زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں۔“^(۱)

حضرت براء بن عازب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ہم حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ہمراہ ایک جنازے میں شریک تھے، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی چشمانِ اقدس سے نکلنے والے آنسوؤں سے مٹی نم ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا ”اے بھائیو! اس قبر کے لئے تیاری کرو۔“^(۲)

حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: جب آندھی اور بادل والا دن ہوتا تو رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے چہرہ اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا اور آپ کبھی حجرہ سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے، پھر جب بارش ہو جاتی تو یہ کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا ”(اے عائشہ! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل، اللہ عَزَّوَجَلَّ کا عذاب نہ ہو جو میری امت پر بھیجا گیا ہو۔“^(۳)

وَبَرِّأَبَوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا ۱۴

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور زبردست و نافرمان نہ تھا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا اور وہ متکبر، نافرمان نہیں تھا۔

﴿وَبَرًّا بِأَبَوَالِدَيْهِ﴾: اور وہ اپنے ماں باپ سے اچھا سلوک کرنے والا تھا۔ ﴿اس آیت میں حضرت محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی مزید 3 صفات بیان کی گئی ہیں۔

(1)..... آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ماں باپ کے فرمانبردار اور ان سے اچھا سلوک کرنے والے تھے کیونکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی عبادت کے بعد والدین کی خدمت سے بڑھ کر کوئی طاعت نہیں اور اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول دلالت کرتا ہے:

①.....بخاری، کتاب النکاح، باب الترغيب في النكاح، ۴۲۱/۳، الحدیث: ۵۰۶۳.

②.....ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب الحزن والبكاء، ۴۶۶/۴، الحدیث: ۴۱۹۵.

③.....شعب الایمان، الحدادی عشر من شعب الایمان... الخ، ۵۶۶/۱، الحدیث: ۹۹۴.

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ
إِحْسَانًا (۱)

ترجمہ کنز العرفان: اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے
سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔

(2، 3)..... آپ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تکبر کرنے والے اور اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے نافرمان نہیں بلکہ آپ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ
عاجزی و انکساری کرنے والے اور اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ یہاں جَبَّار کے معنی متکبر کے ہیں اور
ایک قول یہ بھی ہے کہ جَبَّار وہ شخص ہوتا ہے جو غصہ میں مارے اور قتل کرے۔ (2)

لفظ ”جَبَّار“ کے مختلف معنی

یاد رہے کہ جبار کا لفظ جب مخلوق کیلئے آئے تو اس کا معنی متکبر ہوتا ہے اور اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ کیلئے آئے جیسے جبار اس
کی صفت ہے تو اس کا معنی بالکل مختلف ہوتا ہے، جیسے ایک معنی ہے: وہ ذات جو اپنی مخلوق پر عالی ہے۔ دوسرا معنی ہے: وہ
جو معاملات کو سدھار دیتا ہے۔ تیسرا معنی ہے: وہ جو اپنے ارادے میں غالب ہے۔ چوتھا معنی ہے: وہ کہ جس کی سلطنت
میں اس کے حکم کے سوا کسی کا حکم نہ چل سکے۔ یہ سب معانی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے شایانِ شان ہیں۔

تکبر سے بچنے کی فضیلت اور عاجزی کے فضائل

یہاں آیت میں بیان ہوا کہ حضرت تَحْيٰى عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تکبر کرنے والے نہیں تھے، اس مناسبت سے تکبر
سے بچنے کی فضیلت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ثوبان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
نے ارشاد فرمایا ”جو شخص اس حال میں مرا کہ وہ تین چیزوں سے بری تھا: تکبر، خیانت اور دین (قرض)، تو وہ جنت میں داخل
ہوگا۔ (3) نیز عاجزی کے فضائل پر مشتمل 3 احادیث بھی ملاحظہ ہوں:

(1)..... حضرت قتادہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”بے شک
اللہ عَزَّوَجَلَّ نے میری طرف وحی فرمائی کہ تم لوگ اتنی عاجزی اختیار کرو یہاں تک کہ تم میں سے کوئی کسی پر نہ فخر کرے نہ کسی
پر ظلم کرے۔ (4)

1..... بنی اسرائیل ۲۳.

2..... خازن، مریم، تحت الآية: ۱۴، ۲۳، ۳.

3..... ترمذی، کتاب السیر، باب ما جاء في الغول، ۲۰۸/۳، الحدیث: ۱۵۷۸.

4..... مسلم، کتاب الجنة و صفة نعيمها و اهلها، باب الصفات التي يعرف بها في الدنيا اهل الجنة و اهل النار، ص ۱۵۳۳،
الحدیث: ۶۴ (۲۸۶۵).

(2)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”صدقہ مال میں کمی نہیں کرتا اور اللہ عَزَّوَجَلَّ بندے کے دوسروں کو معاف کر دینے کی وجہ سے اس کی عزت میں اضافہ فرمادیتا ہے اور جو شخص اللہ عَزَّوَجَلَّ کے لئے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے بلندی عطا فرماتا ہے۔⁽¹⁾

(3)..... حضرت رُكْبِ مِصْرِي رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”خوشخبری ہے اس کے لئے جو عیب نہ ہونے کے باوجود تواضع اختیار کرے، اور مسکینوں کے بغیر خود کو ذلیل سمجھے، اور اپنا جمع کیا ہوا مال نیک کاموں میں خرچ کرے، اور بے سروسامان اور مسکینوں کو پرہیز کرے اور علم و حکمت والے لوگوں سے میل جول رکھے، اور خوش بختی ہے اس کے لئے جس کی کمائی پاکیزہ ہو، باطن اچھا ہو، ظاہر بزرگی والا ہو اور جو لوگوں کو اپنے شر سے محفوظ رکھے، اور سعادت مندی ہے اس کے لئے جو اپنے علم پر عمل کرے، اپنی ضرورت سے زائد مال کو راہِ خدا میں خرچ کرے اور فضول گوئی سے رک جائے۔⁽²⁾ اللہ تعالیٰ ہمیں تکبر سے بچنے اور عاجزی و انکساری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔⁽³⁾

وَسَلَّمَ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا ١٥

ترجمہ کنز الایمان: اور سلامتی ہے اس پر جس دن پیدا ہوا اور جس دن مرے گا اور جس دن زندہ اٹھایا جائے گا۔

ترجمہ کنز العرفان: اور اس پر سلامتی ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ فوت ہوگا اور جس دن وہ زندہ اٹھایا جائے گا۔

﴿وَسَلَّمَ عَلَيْهِ﴾: اور اس پر سلامتی ہے۔ یعنی جس دن حضرت محمدی عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پیدا ہوئے اس دن ان کے لئے شیطان سے امان ہے کہ وہ عام بچوں کی طرح آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو نہ چھوئے گا اور جس دن آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وفات پائیں گے اس دن ان کے لئے عذابِ قبر سے امان ہے اور جس دن آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو زندہ اٹھایا جائے گا اس دن ان کے لئے قیامت کی سختی سے امان ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ پیدا ہونے، وفات پانے

①.....مسلم، کتاب البر والصلوة والآداب، باب استحباب العفو والتواضع، ص ۱۳۹۷، الحدیث: ۶۹ (۲۵۸۸)۔

②.....معجم الکبیر، باب الرأء، ركب المصری، ۲۱/۵، الحدیث: ۴۶۱۶۔

③.....تکبر سے بچنے اور عاجزی کے فضائل اور دیگر معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب ”تکبر“ (مطبوعہ مکتبہ امدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔

اور زندہ اٹھائے جانے کے یہ تینوں دن بہت وحشت ناک ہیں کیونکہ ان دنوں میں آدمی وہ دیکھتا ہے جو اس سے پہلے اس نے نہیں دیکھا، اس لئے ان تینوں مواقع پر انتہائی وحشت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت تکلی علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اکرام فرمایا کہ انہیں ان تینوں مواقع پر امن و سلامتی عطا فرمائی۔^(۱)

حضرت سفیان بن عیینہ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: کہ انسان کو تین دنوں میں وحشت کا سامنا ہوتا ہے، جب وہ پیدا ہوتا ہے تو وہ ماں کے پیٹ سے باہر آ کر ایک نئی دنیا کا سامنا کرتا ہے اور وہ جب مرتا ہے تو ایسی قوم دیکھتا ہے جسے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا اور جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اپنے آپ کو ایک عظیم محشر میں پائے گا جس کی مثل اس نے کبھی نہ دیکھا ہوگا تو اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت تکلی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان تینوں وقتوں میں امان و سلامتی کا مشرہ دیا۔^(۲) یاد رہے کہ سلامتی تو یقیناً ہر نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہے لیکن بطور خاص اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بشارت دینا ایک جداگانہ فضیلت رکھتا ہے۔

ولادت کے دن خوشی کرنے اور وفات کے دن غم کا اظہار نہ کرنے کی وجہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت تکلی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجا، اس سے معلوم ہوا کہ نبی علیہ السلام کی ولادت کے دن ان پر سلام بھیجنا اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اسی وجہ سے اہلسنت وجماعت بارہ ربیع الاول کے دن اللہ تعالیٰ کے حبیب اور تمام انبیاء کے سردار صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ولادت کا دن مناتے ہیں اور اس دن آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر درود و سلام کی کثرت کرتے ہیں، نظم و نثر کی صورت میں آپ کی شان اور آپ کے فضائل و مناقب بیان کرتے ہیں۔ فی زمانہ کچھ لوگ اسی آیت مبارکہ کو بیان کر کے یہ اعتراض کرتے ہیں کہ حضرت تکلی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی وفات کے دن بھی ان پر سلام بھیجا گیا ہے اس لئے تم جس طرح رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے میلاد کا دن خوشی کا اظہار کر کے مناتے ہو اسی طرح ان کی وفات کا دن بھی غم ظاہر کر کے منایا کرو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اپنی نعمت کا چرچا کرنے اور اپنا فضل و رحمت ملنے پر خوشی منانے کا حکم دیا ہے اور چونکہ حضور پر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے بڑی اللہ تعالیٰ کی کوئی نعمت نہیں اور حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

۱.....حازن، مریم، تحت الآیة: ۱۵، ۳/۲۳۰-۲۳۱.

۲.....بغوی، مریم، تحت الآیة: ۱۵، ۳/۱۵۹.

وَإِلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ اللَّهُ تَعَالَى كَأَسْبَسَةٍ مِنْ بَرِّ الْفَضْلِ وَأَسْبَسَةٍ مِنْ بَرِّ الرَّحْمَةِ هِيَ اسْمٌ لِنَسَبِ اللَّهِ تَعَالَى نَسَبِ الْإِنْسَانِ فِيهِمْ أَيْهَا الْحَبِيبِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عَطَا كَمَا اسْمٌ مِنْ بَرِّ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَمَا مِيلًا وَمُنَاتِي، أَيْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي عَظَمَتِ وَشَانِ كِي كِي كَرْتِي أَوْرَ أَطَّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي دُنْيَا فِي تَشْرِيفِ آوْرِي كِي دُنْ خَوْشِيَا مُنَاتِي هِيَ۔

وَإِذْ كُرِّ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا ۱۶

ترجمہ کنزالایمان: اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب اپنے گھر والوں سے پورب کی طرف ایک جگہ الگ گئی۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کتاب میں مریم کو یاد کرو جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی۔

﴿وَإِذْ كُرِّ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ﴾ اور کتاب میں مریم کو یاد کرو۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ بیان ہوا کہ انہیں بڑھاپے کی حالت میں اور زوجہ کے بانجھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ایک نیک اور صالح بیٹا عطا فرمایا اور یہ واقعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے، اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والا ایک اور انتہائی حیرت انگیز واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”اے پیارے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ قرآن کریم میں حضرت مریم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کا واقعہ پڑھ کر ان لوگوں کو سنائیے تاکہ انہیں ان کا حال معلوم ہو، جب وہ اپنے گھر والوں سے مشرق کی طرف ایک جگہ الگ ہو گئی اور اپنے مکان میں یا بیت المقدس کی شرقی جانب میں لوگوں سے جدا ہو کر عبادت کے لئے خلوت میں بیٹھیں۔“ (۱)

حضرت مریم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کی فضیلت

مریم کے معنی ہیں عابدہ، خادمہ۔ آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا بچپن سے بیت المقدس کی خادمہ تھیں اور وہاں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتی تھیں اور حضرت مریم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کے فضائل میں سے ہے کہ قرآن کریم میں عورتوں میں سے صرف آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کا نام مبارک ذکر کیا گیا ہے، نیز آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کی شان کے بارے میں

۱.....مدارك، مریم، تحت الآية: ۱۶، ص ۶۶۹-۶۷۰.

سورۃ ال عمران میں فرمایا گیا

وَإِذْ قَالَتِ الْمَلِكَةُ لِمَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ
وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ (۱)

ترجمہ کنز العرفان: اور (یاد کرو) جب فرشتوں نے کہا، اے مریم، بیشک اللہ نے تمہیں چن لیا ہے اور تمہیں خوب پاکیزہ کر دیا ہے اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا ہے۔

نوٹ: حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی ولادت اور پرورش کے واقعات سورۃ ال عمران کی آیت نمبر 35 تا 37 میں بیان ہوئے اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی عبادت و ریاضت کا ذکر آیت نمبر 43 میں کیا گیا ہے۔

فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا
بَشَرًا سَوِيًّا ﴿۱۷﴾

ترجمہ کنز الایمان: تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی بھیجا وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کے روپ میں ظاہر ہوا۔

ترجمہ کنز العرفان: تو ان (لوگوں) سے ادھر ایک پردہ کر لیا تو اس کی طرف ہم نے اپنا روحانی (جبرئیل) بھیجا تو وہ اس کے سامنے ایک تندرست آدمی کی صورت بن گیا۔

﴿فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا﴾: تو ان سے ادھر ایک پردہ کر لیا۔ ﴿جَبَّحْتُمُ الْمَاءَ حِجَابًا﴾: جب حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا خلوت میں تشریف لے گئیں تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے اپنے اور گھر والوں کے درمیان پردہ کر لیا، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی طرف حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام کو بھیجا تو آپ عَلَيْهِ السَّلَام حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے سامنے نوجوان، بے ریش، روشن چہرے اور پیچ دار بالوں والے آدمی کی صورت میں ظاہر ہوئے۔ حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام کے انسانی شکل میں آنے کی حکمت یہ تھی کہ حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ان کے کلام سے مانوس ہو جائیں اور

ان سے خوف نہ کھائیں کیونکہ اگر حضرت جبریل علیہ السلام اپنی ملکوتی شکل میں تشریف لاتے تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا خوفزدہ ہو جاتیں اور آپ علیہ السلام کا کلام سننے پر قادر نہ ہوتیں۔^(۱)

نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے۔ حضرت علامہ مفتی احمد یار خان نعیمی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فرماتے ہیں ”حضرت جبریل علیہ السلام فرشتہ ہیں، نور ہیں اور حضرت مریم کے پاس بشری شکل میں ظاہر ہوئے، اس وقت اس بشری شکل کی وجہ سے (حضرت جبریل علیہ السلام) نورانیت سے علیحدہ نہیں ہو گئے۔ صحابہ کرام نے حضرت جبریل کو بشری شکل میں دیکھا، سیاہ زلفیں، سفید لباس، آنکھ، ناک، کان وغیرہ سب موجود ہیں، اس کے باوجود بھی وہ نور تھے، اسی طرح حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت داؤد علیہم السلام کے خدمات میں فرشتے شکل بشری میں گئے۔ رب فرماتا ہے:

(ترجمہ کنز العرفان: اے محبوب! کیا تمہارے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی خبر آئی۔ جب وہ اس کے پاس آئے تو کہا: سلام، (حضرت ابراہیم نے) فرمایا، ”سلام“ (تم) اجنبی لوگ ہو۔)

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثٌ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ
الْبُكْرَمِينَ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَيْهِ فَقَالُوا سَلَامًا
قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ مَّنكُمْ مِّنْكُمْ ۚ (2)

(اور فرماتا ہے)

(ترجمہ کنز العرفان: اور کیا تمہارے پاس ان دعویداروں کی خبر آئی جب وہ دیوار کو دکر مسجد میں آئے۔ جب وہ داؤد پر داخل ہوئے تو وہ ان سے گھبرا گیا۔ انہوں نے عرض کی: ڈریے نہیں ہم دو فریق ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے۔)

هَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا
الْبِحْرَابَ ۚ إِذْ دَخَلُوا عَلَىٰ دَاوُدَ ففَزِعَ
مِنْهُمْ قَالُوا لَا تَخَفْ خَصْمِينَ بَعْضُنَا
عَلَىٰ بَعْضٍ (3)

(اور فرماتا ہے)

(ترجمہ کنز العرفان: اور جب ہمارے فرشتے لوط کے پاس

وَلَمَّا أَنْ جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِئَاءِ بِهِمْ

1.....مدارك، مریم، تحت الآية: ۱۷، ص ۶۷۰، ملقطاً.

2.....ذاریات: ۲۴، ۲۵.

3.....ص: ۲۱، ۲۲.

وَصَاقَ بِهِمْ ذُرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفْ وَلَا تَحْزَنْ قَدْ
 إِنَّا مُنْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا أَمْرَاتِكَ كَانَتْ
 مِنَ الْغَابِرِينَ (۱)

آئے تو انہیں فرشتوں کا آنا برا لگا اور ان کے سبب دل تنگ ہوا
 اور فرشتوں نے کہا: آپ نہ ڈریں اور نہ غمگین ہوں، بیشک ہم
 آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو بچانے والے ہیں سوائے آپ
 کی بیوی کے کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔

ان تمام آیتوں سے معلوم ہوا کہ فرشتے انبیاء کرام کی خدمت میں انسانی شکل بشری صورت میں حاضر ہوتے
 تھے، مگر اس کے باوجود وہ نور بھی ہوتے تھے، غرضیکہ نورانیت و بشریت ضدیں نہیں۔ (۲)

قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ ۝۱۸ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ
 رَبِّكِ ۝۱۹ لَا هَبَ لَكَ عُلْبًا ذِكْيًا ۝۱۹

ترجمہ کنزالایمان: بولی میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ بولا میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں
 کہ میں تجھے ایک ستھرا بیٹا دوں۔

ترجمہ کنزالعرفان: مریم بولی: میں تجھ سے رحمن کی پناہ مانگتی ہوں اگر تجھے خدا کا ڈر ہے۔ کہا: میں تو تیرے رب کا بھیجا
 ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔

﴿قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ﴾: مریم بولی: میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں۔ ﴿﴾ جب حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا
 نے خلوت میں اپنے پاس ایک بے ریش نوجوان کو دیکھا تو خوفزدہ ہو گئیں اور فرمایا کہ میں تجھ سے اللہ عَزَّوَجَلَّ کی پناہ مانگتی
 ہوں، اگر تم میں کچھ خدا خونی ہے تو یہاں سے چلے جاؤ۔ اس کلام سے آپ کی انتہائی پاکدامنی اور تقویٰ کا پتہ چلتا ہے کہ
 آپ نے چیخ کر کسی اور کو آواز نہ دی بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے پناہ مانگی تاکہ اس واقعہ کی کسی کو خبر نہ ہو۔

۱..... عنکبوت: ۳۳۔

۲..... رسائل نعیمیہ، رسالہ نور، ص ۷۸-۷۹۔

﴿قَالَ رَأَيْتَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ﴾ کہا: میں تو تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں۔ ﴿جب حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا خَوْفَزِدَه ہوئیں تو اس وقت حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام نے کہا کہ میں فرشتہ ہوں اور تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں تاکہ میں تمہیں ایک ستر اور پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔

آیت ”لَا هَبَ لَكَ عُلْمًا زَكِيًّا“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوئیں:

- (1)..... اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے اللہ تعالیٰ کے بعض کاموں کو اپنی طرف منسوب کر سکتے ہیں، جیسے کسی کو بیٹا دینا درحقیقت اللہ تعالیٰ کا کام ہے لیکن حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام نے فرمایا کہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔
- (2)..... اللہ تعالیٰ کے بعض کام اس کے بندوں کی طرف منسوب کئے جاسکتے ہیں، لہذا یہ کہنا درست ہے کہ سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جنت دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء اولاد دیتے ہیں، وغیرہ۔
- (3)..... اللہ تعالیٰ اپنے مقبول بندوں کو اولاد عطا کرنے کی طاقت اور اجازت دیتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت و اجازت سے اولاد عطا بھی کرتے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام کو بیٹا دینے کی طاقت اور اجازت دی اور آپ عَلَيْهِ السَّلَام نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی طاقت اور اجازت سے حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو بیٹا عطا کیا۔

قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشْرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۲۰

ترجمہ کنزالایمان: بولی میرے لڑکا کہاں سے ہوگا مجھے تو نہ کسی آدمی نے ہاتھ لگایا نہ میں بدکار ہوں۔

ترجمہ کنزالعرفان: مریم نے کہا: میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔

﴿قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلْمٌ﴾ کہا: میرے لڑکا کہاں سے ہوگا؟ ﴿جب حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام نے جب حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو بیٹے کی خوشخبری دی تو آپ حیران ہو گئیں اور کہنے لگیں: کسی عورت کے ہاں اولاد ہونے کا جو ظاہری سبب

ہے وہ مجھ میں پایا نہیں جا رہا کیونکہ نہ تو میرا کسی سے نکاح ہوا ہے اور نہ ہی میں بدکار عورت ہوں تو پھر میرے ہاں لڑکا کہاں سے ہوگا؟ یاد رہے کہ حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی یہ حیرانی اس وجہ سے نہ تھی کہ آپ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ کام بعید سمجھتی تھیں بلکہ آپ اس لئے حیران ہوئی تھیں کہ باپ کے بغیر اولاد کا ہونا خلافِ عادت تھا اور عادت کے برخلاف کام ہونے پر حیرت زدہ ہو جانا ایک فطرتی امر ہے۔

قَالَ كَذَلِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَ عَلَىٰ هَيِّئٍ ۚ وَنَجَعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَاحِبَةً مِّنَّا ۚ وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا ۝۲۱

ترجمہ کنزالایمان: کہا یونہی ہے تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ مجھے آسان ہے اور اس لیے کہ ہم اسے لوگوں کے واسطے نشانی کریں اور اپنی طرف سے ایک رحمت اور یہ کام ٹھہر چکا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: جبرئیل نے کہا: ایسا ہی ہے۔ تیرے رب نے فرمایا ہے کہ یہ میرے اوپر بہت آسان ہے اور تاکہ ہم اسے لوگوں کیلئے نشانی بنادیں اور اپنی طرف سے ایک رحمت (بنادیں) اور یہ ایسا کام ہے جس کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

﴿قَالَ كَذَلِكَ﴾: جبرئیل نے کہا: ایسا ہی ہے۔ ﴿حَضْرَتُ جِبْرِئِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ﴾ نے جواب دیا: اے مریم! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی ہے کہ وہ آپ کو کسی مرد کے چھوئے بغیر ہی لڑکا عطا فرمائے اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے رب عَزَّ وَجَلَّ نے فرمایا ہے کہ آپ کو بغیر باپ کے بیٹا دینا میرے اوپر بہت آسان ہے، کیونکہ میں اسباب اور واسطوں کا محتاج نہیں ہوں اور آپ کو اس طرح بیٹا دینے میں ایک حکمت یہ ہے کہ ہم اسے لوگوں کیلئے نشانی اور اپنی قدرت کی بُرہان بنا دیں اور ان لوگوں کے لئے اپنی طرف سے ایک رحمت بنادیں جو اس کے دین کی پیروی کریں اور اس پر ایمان لائیں اور یہ ایسا کام ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے علم میں فیصلہ ہو چکا ہے جو کہ اب نہ رد ہو سکتا ہے اور نہ بدل سکتا ہے۔ جب حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو اطمینان ہو گیا اور ان کی پریشانی جاتی رہی تو حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَامُ نے ان کے گریبان میں،، یا،، آستین میں،، یا،، دامن میں،، یا،، منہ میں دم کیا اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اسی

وقت حاملہ ہو گئیں۔ (۱)

فَحَصَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ۲۲

ترجمہ کنزالایمان: اب مریم نے اسے پیٹ میں لیا پھر اسے لیے ہوئے ایک دور جگہ چلی گئی۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر مریم حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔

﴿فَحَصَلَتْهُ فَانْتَبَدَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا﴾ پھر مریم حاملہ ہو گئیں تو اسے لے کر ایک دور کی جگہ چلی گئی۔ ﴿﴾ جب حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو حمل کے آثار ظاہر ہوئے تو اللهُ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو الہام کیا کہ وہ اپنی قوم سے علیحدہ چلی جائیں، اس لئے وہ بیت اللحم میں چلی گئیں۔

یوسف نجار کے سوال کا جواب

منقول ہے کہ سب سے پہلے جس شخص کو حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے حمل کا علم ہوا وہ ان کا چچا زاد بھائی یوسف نجار تھا جو مسجد بیت المقدس کا خادم تھا اور بہت بڑا عابد شخص تھا۔ اس کو جب معلوم ہوا کہ حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا حاملہ ہیں تو اسے نہایت حیرت ہوئی۔ وہ جب چاہتا کہ حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر تہمت لگائے تو اُن کی عبادت و تقویٰ، ان کا ہر وقت کا حاضر رہنا اور کسی وقت غائب نہ ہونا یاد کر کے خاموش ہو جاتا تھا اور جب حمل کا خیال کرتا تو اُن کو بری سمجھنا مشکل معلوم ہوتا۔ بالآخر اُس نے حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے کہا کہ میرے دل میں ایک بات آئی ہے ہر چند چاہتا ہوں کہ زبان پر نہ لاؤں مگر اب صبر نہیں ہوتا ہے، آپ اجازت دیجئے کہ میں کہہ گزروں تاکہ میرے دل کی پریشانی رفع ہو۔ حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے کہا کہ اچھی بات کہو۔ تو اُس نے کہا کہ اے مریم! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، مجھے بتاؤ کہ کیا کھیتی بغیر بیج کے اور درخت بغیر بارش کے اور بچہ بغیر باپ کے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے فرمایا کہ ہاں، کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلے کھیتی پیدا کی وہ بغیر بیج ہی کے پیدا کی اور درخت اپنی

①.....حازن، مریم، تحت الآیة: ۲۱-۲۲، ۳/۲۳۱، مدارك، مریم، تحت الآیة: ۲۱، ص ۶۷۰، روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۲۱، ۵/۳۲۳، ملتقطاً.

قدرت سے بغیر بارش کے اگائے، کیا تو یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پانی کی مدد کے بغیر درخت پیدا کرنے پر قادر نہیں؟ یوسف نے کہا: میں یہ تو نہیں کہتا بے شک میں اس کا قائل ہوں کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر شے پر قادر ہے، جسے گن فرمائے وہ ہو جاتی ہے۔ حضرت مریم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا نے کہا کہ کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور ان کی بیوی کو بغیر ماں باپ کے پیدا کیا۔ حضرت مریم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کے اس کلام سے یوسف کا شبہ رفع ہو گیا اور حضرت مریم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا حمل کے سبب سے ضعیف ہو گئیں تھیں اس لئے حضرت مریم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کی نیابت کے طور پر مسجد کی خدمت وہ سرانجام دینے لگا۔^(۱)

تمام مخلوقات کو پہلی بار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں جتنی مخلوقات پیدا فرمائیں ان تمام کی پہلی بار پیدائش اس نے اپنی قدرتِ کاملہ سے فرمائی اور اس کے بعد جن مخلوقات کی افزائش منظور تھی ان کی افزائش کے لئے ظاہری اسباب مقرر فرمائے اور ان اسباب کے ذریعے مخلوقات کی افزائش ہوئی، نیز اسباب مقرر کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے اظہار کے لئے بعض مخلوقات کو ان کے ظاہری سبب کے بغیر پیدا فرمایا جیسے حضرت حوّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کو حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی پسلی سے پیدا فرمایا اور حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ کائنات میں اشیاء کے پہلی بار وجود میں آنے سے متعلق یہ وہ معتدل نظریہ ہے جو عقل اور شریعت کے عین موافق ہے جبکہ اس کے برعکس دہریوں کے نظریات عقل و نظر کے صریح مخالف ہیں کہ ان کے نظریات کی رُو سے کسی شے کی کوئی ابتداء بنتی ہی نظر نہیں آتی۔

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی چیزوں میں غور و فکر کرنا اور ان چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل تلاش کرنے کے لئے تحقیق اور جستجو کرنا بہت عمدہ کام ہے کیونکہ اس سے اللہ تعالیٰ کی قدرت دلائل کے ساتھ معلوم ہوتی ہے اور یوں کفار کے لئے اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی وحدانیت کا اعتراف کرنے اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی راہیں کھلتی ہیں اور مسلمانوں کا اپنے رب تعالیٰ پر ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے۔

فَإِجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَلَيْتَنِي مِتُّ قَبْلَ هَذَا

①.....حازن، مریم، تحت الآية: ۲۲، ۳/۲۳۲.

وَكَتُ نَسِيًا مِّنْ سِيَا ۲۳

ترجمہ کنزالایمان: پھر اسے جننے کا درد ایک کھجور کی جڑ میں لے آیا بولی ہائے کسی طرح میں اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور بھولی بسری ہو جاتی۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا تو اس نے کہا: اے کاش کہ میں اس سے پہلے مرگئی ہوتی اور میں کوئی بھولی بسری ہو جاتی۔

﴿فَآجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَىٰ جِذْعِ النَّخْلَةِ﴾: پھر بچے کی پیدائش کا درد اسے ایک کھجور کے تنے کی طرف لے آیا۔ ﴿﴾ جب ولادت کا وقت قریب آیا اور درد کی شدت زیادہ ہوئی تو حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا کھجور کے ایک سوکھے درخت کے پاس آ کر بیٹھ گئیں۔ اب درد کی بھی شدت تھی اور دوسری طرف مستقبل کے معاملات بھی تھے کہ اگرچہ میں تو مطمئن ہوں مگر لوگوں کو کیسے مطمئن کروں گی چنانچہ اسی پریشانی کی شدت سے کہا کہ اے کاش میں اس سے پہلے ہی مرگئی ہوتی یا بھولی بسری ہو جاتی تا کہ یہ تمام معاملات پیش نہ آتے۔

فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي قَدْ جَعَلَ رَبُّكِ تَحْتَكِ سَرِيًّا ۲۴

ترجمہ کنزالایمان: تو اسے اس کے تلے سے پکارا کہ غم نہ کھا بیشک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہادی ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو اسے اس کھجور کے درخت کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا بیشک تیرے رب نے تیرے نیچے ایک نہر بہادی ہے۔

﴿فَنَادَاهَا مِنْ تَحْتِهَا أَلَّا تَحْزَنِي﴾: تو اسے اس کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کھا۔ ﴿﴾ جب حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَىٰ عَنْهَا نے درد کی شدت سے مرنے کی تمنا کی تو اس وقت حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام نے وادی کے نیچے سے پکارا کہ غم نہ کرو، اللہ

عَزَّوَجَلَّ نے آپ کے لیے آپ کے قریب ایک نہر بنا دی ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے یا حضرت جبرئیل عَلَيْهِ السَّلَام نے اپنی ایڑی زمین پر ماری تو بیٹھے پانی کا ایک چشمہ جاری ہو گیا، کھجور کا درخت سرسبز ہو کر پھل لایا اور وہ پھل پختہ اور رس دار ہو گئے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس جگہ ایک خشک نہر تھی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے جاری کر دیا اور کھجور کا خشک درخت سرسبز ہو کر پھل دار ہو گیا۔^(۱)

وَهَزِيئِي إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رُطْبًا جَنِيًّا ۝۲۵

ترجمہ کنزالایمان: اور کھجور کی جڑ پکڑ کر اپنی طرف ہلاتے پرتازی پکی کھجوریں گریں گی۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، وہ تم پر عمدہ تازہ کھجوریں گرائے گا۔

﴿وَهَزِيئِي إِلَيْكَ بِجِدْعِ النَّخْلَةِ﴾ اور کھجور کے تنے کو پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ۔ ﴿حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا﴾ سے کہا گیا کہ آپ جس سوکھے تنے کے نیچے بیٹھی ہیں اسے اپنی طرف حرکت دیں تو اس سے آپ پر عمدہ اور تازہ پکی ہوئی کھجوریں گریں گی۔

اس سے معلوم ہوا کہ حمل کی حالت میں عورت کے لئے کھجور کھانا فائدہ مند ہے۔ کھجور میں آئرن بہت ہوتا ہے جو بچے کی صحت و تندرستی میں بہت معاون ہوتا ہے، البتہ اس حالت میں کھجوریں اپنی طبعی حالت کو پیش نظر رکھ کر ہی کم یا زیادہ کھائی جائیں۔

حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر اللہ تعالیٰ کی عنایت و کرم نوازی

اگر بنظر غائر دیکھا جائے تو حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی پیدائش کے وقت سے ہی اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو اپنی قدرتِ کاملہ کے کئی نظارے دکھا کر تسلی دی کہ دیکھو جو ذات تیرے لئے خشک نہر سے پانی جاری کر سکتی ہے اور خشک درخت سے پکی ہوئی کھجوریں طاہر کر سکتی ہے وہ آئندہ بھی تمہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گی لہذا تم اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی کرامتوں، عنایتوں، شفقتوں پر نظر کرو اور غم و پریشانی کا اظہار مت کرو۔

۱..... مدارك، مریم، تحت الآية: ۲۴، ص ۶۷۱، حازن، مریم، تحت الآية: ۲۴، ۲۳۲/۳، ملنقطاً.

فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا ۚ فَاِمَّا تَرِيْنَ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا ۙ فَقُوْلِيْ اِنِّيْ
نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا ۝۲۶

ترجمہ کنزالایمان: تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو کہہ دینا میں نے آج رحمن کا روزہ مانا ہے تو آج ہرگز کسی آدمی سے بات نہ کروں گی۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو (اشارے سے) کہہ دینا کہ میں نے آج رحمن کیلئے روزہ کی نذر مانی ہے تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔

﴿فَكُلِّيْ وَاشْرَبِيْ وَقَرِّيْ عَيْنًا﴾: تو کھا اور پی اور آنکھ ٹھنڈی رکھ۔ ﴿اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے فرمایا گیا کہ آپ کھجوریں کھائیں اور پانی پیئیں اور اپنے فرزند حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے اپنی آنکھ ٹھنڈی رکھیں، پھر اگر آپ کسی آدمی کو دیکھیں کہ وہ آپ سے بچے کے بارے میں دریافت کرتا ہے تو اشارے سے اسے کہہ دیں کہ میں نے آج رحمن کیلئے روزہ کی نذر مانی ہے تو آج ہرگز میں کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔ حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو خاموش رہنے کی نذر ماننے کا اس لئے حکم دیا گیا تا کہ کلام حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام فرمائیں اور ان کا کلام مضبوط حجت ہو جس سے تہمت زائل ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ بیوقوف کے جواب میں خاموش رہنا اور منہ پھیر لینا چاہئے کہ جاہلوں کے جواب میں خاموشی ہی بہتر ہے اور یہ بھی معلوم ہوا کہ کلام کو افضل شخص کے حوالے کر دینا اولیٰ ہے۔^(۱)

چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو چکا ہے

یاد رہے کہ پہلے زمانہ میں بولنے اور کلام کرنے کا بھی روزہ ہوتا تھا جیسا کہ ہماری شریعت میں کھانے اور پینے کا روزہ ہوتا ہے، البتہ ہماری شریعت میں چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے

۱.....خازن، مریم، تحت الآية: ۲۶، ۲۳۳/۳، مدارك، مریم، تحت الآية: ۲۶، ص ۶۷۱-۶۷۲، ملتقطاً۔

ہیں: نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے صومِ وصال (یعنی سحری اور افطار کے بغیر مسلسل روزہ رکھنے) اور چپ کاروزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔^(۱)

فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْبِلُهُ ط قَالَ أَيْرِيمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْءًا فَرِيًّا ۚ يَا حَتَّ هَرُونَ مَا كَانَ أَبُوكَ أَمْرًا سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمَّكَ بَغِيًّا ۚ

ترجمہ کنزالایمان: تو اسے گود میں لیے اپنی قوم کے پاس آئی بولے اے مریم بیشک تو نے بہت بڑی بات کی۔ اے ہارون کی بہن تیرا باپ برا آدمی نہ تھا اور نہ تیری ماں بدکار۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں تو لوگ کہنے لگے: اے مریم! بیشک تو بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہے۔ اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں بدکار تھی۔

﴿فَأْتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْبِلُهُ ط﴾ پھر عیسیٰ کو اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ولادت کے بعد حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا انہیں اٹھائے ہوئے اپنی قوم کے پاس آئیں، جب لوگوں نے حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو دیکھا کہ ان کی گود میں بچہ ہے تو وہ روئے اور غمگین ہوئے، کیونکہ وہ صالحین کے گھرانے کے لوگ تھے اور کہنے لگے: اے مریم! بیشک تم بہت ہی عجیب و غریب چیز لائی ہو۔ اے ہارون کی بہن! نہ تو تیرا باپ عمران کوئی برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں حنہ بدکار عورت تھی تو پھر تیرے ہاں یہ بچہ کہاں سے ہو گیا۔^(۲)

﴿يَا حَتَّ هَرُونَ: اے ہارون کی بہن!﴾ حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو ان کی قوم کے لوگوں نے ہارون کی بہن کہا، اس ہارون سے کون مراد ہے اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ ہارون حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے بھائی کا ہی

①.....مسند امام اعظم، باب العين، روايته عن عدی بن ثابت، ص ۱۹۲۔

②.....خازن، مریم، تحت الآية: ۲۷-۲۸، ۲۳۳/۳۔

نام تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک نہایت نیک و صالح شخص کا نام ہارون تھا اور اس کے تقویٰ اور پرہیزگاری سے تشبیہ دینے کے لیے آپ کو ہارون کی بہن کہا۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے بھائی ہی ہوں اگرچہ ان کا زمانہ بہت بعید تھا اور ایک ہزار سال کا عرصہ ہو چکا تھا مگر آپ ان کی نسل سے تھیں اسی لئے ہارون کی بہن کہہ دیا۔^(۱)

فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ ط قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا ۝۲۹

ترجمہ کنز الایمان: اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کیا وہ بولے ہم کیسے بات کریں اس سے جو پالنے میں بچہ ہے۔

ترجمہ کنز العرفان: اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ وہ بولے: ہم اس سے کیسے بات کریں؟ جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے۔

﴿فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ﴾ اس پر مریم نے بچے کی طرف اشارہ کر دیا۔ جب لوگوں نے حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے تفصیل پوچھنی چاہی تو چونکہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے چپ کا روزہ رکھا ہوا تھا اس لئے آپ نے حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اگر کچھ پوچھنا ہے تو اس بچے سے پوچھ لو یہ جواب دے گا۔ اس پر لوگوں کو غصہ آیا اور انہوں نے کہا کہ جو بچہ ابھی پیدا ہوا ہے وہ کیسے ہم سے بات کرے گا! کیا تم ہم سے مذاق کر رہی ہو؟ یہ گفتگو سن کر حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے دودھ پینا چھوڑ دیا اور بائیں ہاتھ پر ٹیک لگا کر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور سیدھے ہاتھ مبارک سے اشارہ کر کے بات کرنا شروع کی۔^(۲)

قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ ۖ آتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي نَبِيًّا ۝۳۰

ترجمہ کنز الایمان: بچہ نے فرمایا میں ہوں اللہ کا بندہ اس نے مجھے کتاب دی اور مجھے غیب کی خبریں بتانے والا (نبی) کیا۔

①.....خازن، مریم، تحت الآية: ۲۸، ۲۳۲/۳، مدارك، مریم، تحت الآية: ۲۸، ص ۶۷۲، ملقطاً.

②.....روح البیان، مریم، تحت الآية: ۲۹، ۳۳۰/۵، خازن، مریم، تحت الآية: ۲۹، ۲۳۳/۳-۲۳۴، ملقطاً.

ترجمہ کنز العرفان: بچے نے فرمایا: بیشک میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔

﴿قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ: بیشک بچے نے فرمایا میں اللہ کا بندہ ہوں۔﴾ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے لوگوں سے بات کرنا شروع کی اور فرمایا، میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور مجھے نبی بنایا ہے۔ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے اگرچہ کلام کر کے اپنی والدہ ماجدہ سے تہمت کو دور کرنا تھا مگر آپ نے پہلے خود کو اللہ عَزَّوَجَلَّ کا بندہ قرار دیا تاکہ کوئی انہیں خدا اور خدا کا بیٹا نہ کہے کیونکہ آپ کی نسبت یہ تہمت لگائی جانے والی تھی اور یہ تہمت اللہ تعالیٰ پر لگتی تھی، اس لئے منصب رسالت کا تقاضا یہی تھا کہ والدہ کی برأت بیان کرنے سے پہلے اس تہمت کو رفع فرمادیں جو اللہ تعالیٰ کے جناب پاک میں لگائی جائے گی اور اسی سے وہ تہمت بھی اٹھ گئی جو والدہ پر لگائی جاتی کیونکہ اللہ تعالیٰ اس مرتبہ بے عظیمہ کے ساتھ جس بندے کو نوازتا ہے، بالیقین اس کی ولادت اور اس کی فطرت نہایت پاک و طاہر بناتا ہے۔^(۱)

﴿الْتَمَى الْكِتَابَ: اس نے مجھے کتاب دی ہے۔﴾ اس کتاب سے انجیل مراد ہے۔ حضرت حسن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا قول ہے کہ آپ والدہ کے پیٹ ہی میں تھے کہ آپ کو توریت کا الہام فرمایا گیا تھا اور جھولے میں تھے جب آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو نبوت عطا کر دی گئی اور اس حالت میں آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا کلام فرمانا آپ کا معجزہ ہے۔ بعض مفسرین نے آیت کے معنی میں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نبوت اور کتاب ملنے کی خبر تھی جو عنقریب آپ کو ملنے والی تھی۔^(۲)

نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو بچپن میں ملنے والے عظیم ترین فضائل

- علامہ اسماعیل حقی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”اللہ تعالیٰ نے چار بچوں کو چار چیزوں کے ساتھ فضیلت عطا کی
- (۱)..... حضرت یوسف عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو کنویں میں وحی کے ساتھ فضیلت دی۔
 - (۲)..... حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو جھولے میں کلام کرنے کے ساتھ فضیلت دی۔
 - (۳)..... حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو فہم سے فضیلت دی۔
 - (۴)..... حضرت یحییٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو بچپن میں نبوت عطا کر کے فضیلت دی۔

①.....خازن، مریم، تحت الآية: ۳۰، ۲۳۴/۳.

②.....خازن، مریم، تحت الآية: ۳۰، ۲۳۴/۳، مدارك، مریم، تحت الآية: ۳۰، ص ۶۷۲، ملتقطاً.

اور سب سے عظیم فضیلت اور سب سے بڑی نشانی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو عطا کی کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ولادت کے وقت سجدہ فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے سینے کو کشادہ فرمایا، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ولادت کے وقت حوروں اور فرشتوں کو خادم بنایا اور ولادت سے پہلے ہی عالم ارواح میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو نبوت سے سرفراز فرمادیا اور یہ عظمت و فضیلت آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہی کا خاصہ ہے۔^(۱)

حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی براءت میں فرق

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر بہتان لگا تو ان کی عفت و پاکیزگی خود حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے بیان فرمائی۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی زوجہ رَمُطْبَرَه حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے ساتھ ہونے والا معاملہ ملاحظہ ہو، چنانچہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: حضرت والد ماجد ”سُرُورُ الْقُلُوبِ فِي ذِكْرِ الْمَحْبُوبِ“ میں فرماتے ہیں ”حضرت یوسف کو دودھ پیتے بچے، اور حضرت مریم کو حضرت عیسیٰ کی گواہی سے لوگوں کی بدگمانی سے نجات بخشی، اور جب حضرت عائشہ پر بہتان اٹھا، خود ان کی پاک دامنی کی گواہی دی، اور سترہ آیتیں نازل فرمائیں، اگر چاہتا ایک ایک درخت اور پتھر سے گواہی دلواتا، مگر منظور یہ ہوا کہ محبوبہ محبوب کی طہارت و پاکی پر خود گواہی دیں اور عزت و امتیاز ان کا بڑھائیں۔^(۲)

وَجَعَلَنِي مُبْرَكًا آيِنَ مَا كُنْتُ ۖ وَأَوْصِنِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا
دُمْتُ حَيًّا ۝۳۱

ترجمہ کنز الایمان: اور اس نے مجھے مبارک کیا میں کہیں ہوں اور مجھے نماز و زکوٰۃ کی تاکید فرمائی جب تک جیوں۔

①.....روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۳۰، ۳۳۰/۵.

②.....فتاویٰ رضویہ، رسالہ: تجلی الیقین، ۱۶۹/۳۰۔

ترجبتہ کنز العرفان: اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں اور اس نے مجھے نماز اور زکوٰۃ کی تاکید فرمائی ہے جب تک میں زندہ رہوں۔

﴿وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا﴾ اور اس نے مجھے مبارک بنایا ہے۔ ﴿حَضْرَتِ عِيسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ﴾ نے فرمایا کہ مجھے نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مجھے لوگوں کے لئے نفع پہنچانے والا، خیر کی تعلیم دینے والا، اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا اور اس کی توحید اور عبادت کی دعوت دینے والا بنایا ہے خواہ میں کہیں بھی ہوں اور جب تک میں زمین پر زندہ رہوں تب تک اس نے مجھے نماز کا مکلف ہونے پر اسے قائم کرنے اور زکوٰۃ کے قابل مال ہونے کی صورت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔^(۱)

تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي بَرَكَات

حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے مبارک ہونے کا خود اعلان فرمایا جبکہ حضور پر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی برکات کو خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ترجبتہ کنز العرفان: بیشک اللہ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول مبعوث فرمایا جو انہی میں سے ہے۔ وہ ان کے سامنے اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ^(۲)

اور ارشاد فرماتا ہے:

ترجبتہ کنز العرفان: بیشک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ^(۳)

①.....بخازن، مریم، تحت الآية: ۳۱، ۳/۲۳۴، مدارك، مریم، تحت الآية: ۳۱، ص ۶۷۲، ملتنقطاً.

②.....ال عمران: ۱۶۴.

③.....توبه: ۱۲۸.

پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔

اور ارشاد فرماتا ہے

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ
وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ
فَاسْتَعْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَعْفَرُوا الرَّسُولَ لَوَجَدُوا
اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا (1)

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے کوئی رسول نہ بھیجا مگر اس لئے کہ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت کی جائے اور اگر جب وہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے تھے تو اے حبیب! تمہاری بارگاہ میں حاضر ہو جاتے پھر اللہ سے معافی مانگتے اور رسول (بھی) ان کی مغفرت کی دعا فرماتے تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا، مہربان پاتے۔

اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر رحمت و شفقت کی انتہا اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت و عبادت کی دعوت دینے کا جذبہ ایسا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب!

ترجمہ کنزالعرفان: اگر وہ اس بات پر ایمان نہ لائیں تو ہو سکتا ہے کہ تم ان کے پیچھے غم کے مارے اپنی جان کو ختم کر دو۔

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسِكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ
يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (2)

سر دست یہ چند آیات ذکر کی ہیں ورنہ قرآن مجید میں سینکڑوں آیات ایسی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات کو بیان فرمایا ہے۔

آدمی کب تک شرعی احکام کا پابند ہے؟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب تک آدمی زندہ ہے اور کوئی ایسا شرعی عذر نہیں پایا جا رہا جس سے عبادت ساقط ہو جائے تب تک شریعت کی طرف سے لازم کی گئی عبادات اور دیئے گئے احکامات کا وہ پابند ہے۔ اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی نصیحت ہے جو شیطان کے بہکاوے میں آ کر لوگوں سے یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت کے اتنے اعلیٰ مقام پر فائز ہو چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت لازم نہیں رہی اور ہر حرام و ناجائز چیز ہمارے لئے مباح ہو چکی ہے۔ جب مخلوق

1.....النساء: ۶۴۔

2.....کہف: ۶۔

میں اللہ تعالیٰ کی سب سے زیادہ معرفت رکھنے والی اور سب سے مقرب ہستیوں یعنی انبیاء و رُسُل عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے عبادات ساقط نہیں ہوتیں بلکہ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ مقرب بندے اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھنے والے یعنی ہمارے آقا، محمد مصطفیٰ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ سے بھی عبادات ساقط نہیں ہوتیں تو آج کل کے جاہل اور بناوٹی صوفیا کس منہ سے کہتے ہیں کہ ہم سے عبادات ساقط ہو چکی ہیں۔ ایسے بناوٹی صوفی شریعت کے نہیں بلکہ شیطان کے پیروکار ہیں اور اس کی دی ہوئی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے لوگوں کے دین مذہب اور ایمان پر ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے شریروں کے شر سے ہمیں محفوظ فرمائے، آمین۔

وَبَرًّا بِوَالِدَتِي وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا ۳۲

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا اور مجھے زبردست بد بخت نہ کیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور (مجھے) اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا (بنایا) اور مجھے متکبر، بدنصیب نہ بنایا۔

﴿وَبَرًّا بِوَالِدَتِي﴾: اور اپنی ماں سے اچھا سلوک کرنے والا۔ ﴿لَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِيًّا﴾: یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے میری والدہ کا خدمت گزار بنایا ہے اور مجھے حق بات کے خلاف تکبر کرنے والا اور بدنصیب نہیں بنایا بلکہ عاجزی اور انکساری کرنے والا بنایا ہے۔

آیت ”وَبَرًّا بِوَالِدَتِي“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوتیں:

(1)..... حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی والدہ ماجدہ بدکاری کی تہمت سے بری ہیں کیونکہ اگر وہ کوئی بدکار عورت ہوتی تو ایک معصوم رسول کو ان کے ساتھ بھلائی کرنے اور ان کی تعظیم کرنے کا حکم نہ دیا جاتا۔

(2)..... حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں کیونکہ آپ عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو اپنی والدہ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اس سے ماں کا مرتبہ بھی معلوم ہوا کہ انبیاء کرام عَلَیْہِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو بھی اُن سے حسن سلوک کفرمایا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ انبیاء کرام عَلَیْہِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو فطرت کے اعتبار سے ہی ماں سے حسن

سلوک کرنے والا بناتا ہے۔

(3)..... انبیاء کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ بدعتیگی، بد عملی، بد خلقی اور سخت دلی سے معصوم ہوتے ہیں کیونکہ بد عقیدہ اور بد عمل لوگ بد بخت ہوتے ہیں۔

وَالسَّلَامُ عَلٰی یَوْمٍ وُلِدْتُ وَیَوْمٍ اَمُوتُ وَیَوْمٍ اُبْعَثُ حَیًّا ۳۳

ترجمہ کنزالایمان: اور وہی سلامتی مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن مروں گا اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں گا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور مجھ پر سلامتی ہو جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن وفات پاؤں اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں۔

﴿وَالسَّلَامُ عَلٰی﴾: اور مجھ پر سلامتی ہو۔ ﴿﴾ آخر میں حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ نے ویسا ہی کلام کیا جو گزشتہ رکوع میں حضرت یحییٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ میں جس دن پیدا ہوا اس دن مجھ پر سلامتی ہو، جس دن وفات پاؤں اس دن مجھ پر سلامتی ہو اور جس دن زندہ اٹھایا جاؤں اس دن مجھ پر سلامتی ہو۔ جب حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ نے یہ کلام فرمایا تو تمام لوگ خاموش ہو گئے اور ان کو آپ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کی والدہ ماجدہ کے نیک، پرہیزگار ہونے پر یقین آ گیا کہ جو بچہ اس طرح کی باتیں کر رہا ہے اس کی والدہ ہمارے لگائے ہوئے الزامات سے بری ہیں، اس کلام کے بعد آپ خاموش ہو گئے اور دوبارہ اسی وقت کلام کیا جب دوسرے بچوں کی طرح بولنے کی عمر تک پہنچ گئے۔ (1) اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی عَلَیْہِ الصَّلَامُ ولادت، زندگی، وفات، حشر ہر جگہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے امن میں رہتے ہیں۔

ذٰلِكَ عِیْسٰی ابْنُ مَرْیَمَ جَوَّلَ الْحَقِّ الَّذِیْ فِیْہِ یُبْتَرُونَ ۳۳

ترجمہ کنزالایمان: یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا سچی بات جس میں شک کرتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: یہ ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا۔ سچی بات جس میں یہ شک کر رہے ہیں۔

1..... حازن، مریم، تحت الآیة: ۳۳، ۳/۲۳۴.

﴿ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ﴾: یہ عیسیٰ مریم کا بیٹا ہے۔ ﴿گزشتہ آیات میں حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ولادت کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا تا کہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی ولادت کی اصل حقیقت واضح ہو، اب اس آیت مبارکہ سے حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے متعلق جو یہودی اور عیسائی عقیدہ رکھتے ہیں اس کی وضاحت شروع کی گئی تا کہ اس بارے میں بھی اصل حقیقت واضح ہو کہ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے متعلق ان کے عقیدے کیا ہیں۔ یہودی تو مَعَاذَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو جادو گر، وَلَدُ الرِّثَانَا کہتے تھے اور عیسائی حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے بیٹے ہیں اور اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کے برگزیدہ نبی اور بندے ہیں جیسا کہ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے پیدا ہوتے ہی فرمایا ”إِنِّي عَبْدُ اللَّهِ“ میں اللّٰهُ کا بندہ ہوں، اور یوں آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے تمام باطل نظریات کا رد کر دیا۔

مَا كَانَ لِلّٰهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ سُبْحٰنَهُ ۗ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ

لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ۗ ﴿۳۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اللّٰهُ کو لائق نہیں کہ کسی کو اپنا بچہ ٹھہرائے پاکی ہے اس کو جب کسی کام کا حکم فرماتا ہے تو یونہی کہ اس سے فرماتا ہے ہو جاوہ فوراً ہو جاتا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللّٰهُ کیلئے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے، ”ہو جا“ تو وہ فوراً ہو جاتا ہے۔

﴿مَا كَانَ لِلّٰهِ أَنْ يَتَّخِذَ مِنْ وَّلَدٍ﴾: اللّٰهُ کیلئے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے۔ ﴿اس آیت مبارکہ میں عیسائیوں کے اس عقیدے کی تردید ہے کہ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کے بیٹے ہیں، چنانچہ اللّٰهُ تَعَالَىٰ اولاد سے اپنی پاکی بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ اللّٰهُ تَعَالَىٰ کی شان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اپنا بیٹا بنائے اور وہ عیسائیوں کے لگائے گئے بہتان سے پاک ہے۔ اس کی شان تو یہ ہے کہ جب وہ کسی کام کا فیصلہ فرماتا ہے تو اسے صرف یہ فرماتا ہے، ”ہو جا“ تو

وہ کام فوراً ہو جاتا ہے، اور جو ایسا قادرِ مُطَلَق ہو اسے بیٹے کی کیا حاجت ہے اور اسے کسی کا باپ کس طرح قرار دیا جاسکتا ہے۔

وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُواهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ ﴿۳۶﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور عیسیٰ نے کہا بیشک اللہ رب ہے میرا اور تمہارا تو اس کی بندگی کرو یہ راہ سیدھی ہے۔

ترجمہ کنز العرفان: اور عیسیٰ نے کہا بیشک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے تو اس کی عبادت کرو۔ یہ سیدھا راستہ ہے۔

﴿وَإِنَّ اللَّهَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ﴾ اور بیشک اللہ میرا اور تمہارا رب ہے۔ ﴿اس آیت میں مذکور کلام حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا ہے، چنانچہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے فرمایا: بیشک اللہ عَزَّوَجَلَّ میرا اور تمہارا رب ہے، اس کے سوا اور کوئی رب نہیں، تو تم صرف اسی کی عبادت کرو اور اللہ تعالیٰ کے جو احکامات میں نے تم تک پہنچائے یہ ایسا سیدھا راستہ ہے جو جنت کی طرف لے کر جاتا ہے۔ (۱)

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ مَّشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿۳۷﴾

ترجمہ کنز الایمان: پھر جماعتیں آپس میں مختلف ہو گئیں تو خرابی ہے کافروں کے لیے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔

ترجمہ کنز العرفان: پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا تو کافروں کے لئے خرابی ہے ایک بڑے دن کی حاضری سے۔

﴿فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ﴾ پھر گروہوں کا آپس میں اختلاف ہو گیا۔ ﴿حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے بارے میں حقیقتِ حال واضح ہو جانے کے باوجود لوگوں میں ان کے متعلق کئی فرقے بن گئے حالانکہ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا اپنی دودھ پینے کی عمر میں کلام کرنا اور کلام کرنے میں سب سے پہلے ہی اس اختلاف کی بیج کنی کرنا کہ میں ایک بندہ ہوں، اور مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ خدایا خدا کا بیٹا نہیں ہوں واضح طور پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کے خاص بندے

①.....خازن، مریم، تحت الآیة: ۳۶، ۳/۲۳۵.

اور رسول ہیں۔

عیسائیوں کے مختلف فرقے اور ان کے عقائد

سورہ نساء آیت 171 کی تفسیر میں تفسیر خازن کے حوالے سے مذکور ہو چکا کہ عیسائی چار بڑے فرقوں میں تقسیم ہو گئے تھے (1) یعقوبیہ۔ (2) ملاکانیہ۔ (3) نسطوریہ۔ (4) مرقوسیہ۔ ان میں سے ہر ایک حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام کے بارے میں جداگانہ کفریہ عقیدہ رکھتا تھا۔ یعقوبیہ اور ملاکانیہ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام کو خدا کہتے تھے۔ نسطوریہ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے جبکہ مرقوسیہ فرقے کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ تین میں سے تیسرے ہیں، اور اس جملے کا کیا مطلب ہے اس میں بھی ان میں اختلاف تھا، بعض تین اقنوم (یعنی وجود) مانتے تھے اور کہتے تھے کہ باپ، بیٹا، روح القدس تین ہیں اور باپ سے ذات، بیٹے سے حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام اور روح القدس سے ان میں حلول کرنے والی حیات مراد لیتے تھے گویا کہ ان کے نزدیک الہ تین تھے اور اس تین کو ایک بتاتے تھے۔ بعض کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام ناسوتیت (یعنی انسانیت) اور الوہیت کے جامع ہیں، ماں کی طرف سے ان میں ناسوتیت آئی اور باپ کی طرف سے الوہیت آئی "تَعَالَى اللَّهُ عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًّا كَبِيرًا" (اللہ تعالیٰ ظالموں کی بات سے پاک اور بہت ہی بلند و بالا ہے) یہ فرقہ ہندی عیسائیوں میں ایک یہودی نے پیدا کی جس کا نام بولس تھا، اُس نے انہیں گمراہ کرنے کے لیے اس طرح کے عقیدوں کی تعلیم دی۔ (1)

البتہ تفسیر مدارک میں سورہ مریم کی اسی آیت کے تحت عیسائیوں کے تین فرقوں کا ذکر ہے اور اس میں ملاکانیہ فرقے کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ کہتا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، مخلوق ہیں اور نبی ہیں۔ (2)

نیز صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے بھی اسی مقام پر تین فرقوں کا ذکر کیا ہے اور ملاکانیہ فرقے کا عقیدہ بیان کرنے کے بعد لکھا ہے کہ یہ فرقہ مومن تھا۔ (3)

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا: تو کافروں کے لئے خرابی ہے۔﴾ یعنی ان گروہوں میں سے جو کافر ہیں جب یہ قیامت کے بڑے دن حاضر ہوں گے تو ان کے لئے شدید عذاب ہے۔

1.....خازن، النساء، تحت الآية: ۱۷۱، ۱/۴۵۴.

2.....مدارک، مریم، تحت الآية: ۳۷، ص ۶۷۳.

3.....خزان العرفان، مریم، تحت الآية: ۳۷، ص ۵۷۴.

أَسْبَغُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ لَيَوْمَ يَأْتُونَ نَنَا لَكِنِ الظُّلْمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۳۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: کتنا سنیں گے اور کتنا دیکھیں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے مگر آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔

ترجمہ کنزاعرفان: اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن ہمارے پاس حاضر ہوں گے لیکن آج ظالم کھلی گمراہی میں ہیں۔

﴿أَسْبَغُ بِهِمْ وَأَبْصِرُ﴾: اس دن کتنا سنتے اور دیکھتے ہوں گے۔ یعنی قیامت کے دن جب کافر ہمارے پاس حاضر ہوں گے تو اس دن خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے لیکن چونکہ انہوں نے دنیا میں حق کے دلائل کو نہیں دیکھا اور اللہ تعالیٰ کی وعیدوں کو نہیں سنا تو اس دن کا دیکھنا اور سننا انہیں کچھ نفع نہ دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ کلام ڈرانے کے طور پر ہے کہ اس دن (وہ اپنے بارے میں) ایسی ہولناک باتیں سنیں اور دیکھیں گے جن سے ان کے دل پھٹ جائیں گے، لیکن آج دنیا میں ظالم کھلی گمراہی میں ہیں، نہ حق دیکھتے ہیں نہ حق سنتے ہیں بلکہ بہرے اور اندھے بنے ہوئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو الہ اور معبود ٹھہراتے ہیں حالانکہ انہوں نے صراحت کے ساتھ اپنے بندہ ہونے کا اعلان فرمایا ہے۔

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ

لَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور انہیں ڈرناؤ پچھتاوے کے دن کا جب کام ہو چکے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور وہ نہیں مانتے۔

ترجمہ کنزاعرفان: اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔

﴿وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ﴾: اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ کافروں کو اس دن سے ڈرائیں جس میں لوگ حسرت کریں گے، غمزدہ ہوں گے اور نیک و بد تمام لوگ پچھتائیں

گے اور اس دن اس طرح فیصلہ کر دیا جائے گا کہ جنتیوں کو جنت میں اور دوزخیوں کو دوزخ میں پہنچا کر موت کو بھی ذبح کر دیا جائے گا کہ اب ہر شخص ہمیشہ کیلئے اپنی جگہ رہے اور کسی کو موت نہ آئے، انہیں ایسا سخت دن درپیش ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اس دن کے لئے کچھ فکر نہیں کرتے اور نہ ہی اس دن کو مانتے ہیں۔^(۱)

قیامت کے دن کی اس کیفیت کے بارے میں حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ” (جب اہل جنت، جنت میں داخل ہو جائیں گے اور دوزخی دوزخ میں رہ جائیں گے تو) موت کو ایک سر مٹی مینڈھے کی شکل میں لایا جائے گا، اسے جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا کیا جائے گا، پھر ایک منادی ندا کرے گا: اے اہل جنت! پس وہ گردن اٹھا کر دیکھیں گے تو ان سے کہا جائے گا: کیا تم اسے جانتے ہو؟ وہ کہیں گے: ہاں! جانتے ہیں، یہ تو موت ہے (کیونکہ سب اسے مرتے وقت دیکھ چکے ہوں گے) پھر کہا جائے گا: اے دوزخیو! کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ وہ جھانک کر دیکھیں گے اور کہیں گے: ہاں، یہ موت ہے۔ پھر موت (کے مینڈھے) کو ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا (اور اسے ذبح کر کے) کہا جائے گا: اے اہل جنت! تمہیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہے اور (اس میں کسی کے لئے) موت نہیں ہوگی۔ اے اہل جہنم! تم نے دوزخ میں ہمیشہ رہنا ہے اور اب تمہیں موت نہیں آئے گی۔ پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے یہ آیت تلاوت فرمائی:

وَأَنْذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ
وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

ترجمہ کنز العرفان: اور انہیں پچھتاوے کے دن سے ڈراؤ
جب فیصلہ کر دیا جائے گا اور وہ غفلت میں ہیں اور نہیں مانتے۔“

اور ہاتھ سے دنیا کی طرف اشارہ فرمایا (کہ دنیا کا شیدائی غفلت میں ہے)۔^(۲)

اُخْرَى تِيَارِي كِي تَرْغِيبِ

اس آیت میں قیامت کے دن کے بارے میں ارشاد ہوا کہ وہ ایسا دن ہے جس میں لوگ حسرت کریں گے اور پچھتائیں گے اور لوگوں کا حال بیان ہوا کہ وہ اس دن کی تیاری سے غافل ہیں اور اس دن کو ماننے پر تیار نہیں، ان کے بارے میں ایک اور مقام پر ارشاد باری تعالیٰ ہے:

①..... روح البیان، مریم، تحت الآية: ۳۹، ۳۳۵/۵، مدارك، مریم، تحت الآية: ۳۹، ص ۶۷۴، ملقطاً.

②..... مسلم، کتاب الحنة و صفة نعيمها و اهلها، باب النار يدخلها الجبارون... الخ، ص ۱۵۲۶، الحدیث: ۴۰ (۲۸۴۹).

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بِلِقَاءِ اللَّهِ ۖ حَتَّىٰ إِذَا
جَاءَتْهُمْ السَّاعَةُ بَغْتَةً قَالُوا يَا حَسْرَتَنَا عَلَىٰ
مَا فَرَّطْنَا فِيهَا وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَىٰ
ظُهُورِهِمْ ۗ أَلَا سَاءَ مَا يَزْمِرُونَ (۱)

ترجمہ کنز العرفان: بیشک ان لوگوں نے نقصان اٹھایا جنہوں
نے اپنے رب سے ملنے کو جھٹلایا یہاں تک کہ جب ان پر اچانک
قیامت آئے گی تو کہیں گے: ہائے افسوس اس پر جو ہم نے اس کے
ماننے میں کوتاہی کی اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ اپنی پیٹھ پر
لا دے ہوئے ہوں گے۔ خبردار، وہ کتنا برابر بوجھ اٹھائے ہوئے ہیں۔

اور ان کا انجام بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا وَرَأَوْا بِالْحَيَاةِ
الدُّنْيَا وَاطْمَأَنَّنُوا بِالَّذِينَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا
غٰفِلُونَ ﴿۱﴾ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ النَّارُ بِمَا كَانُوا
يَكْسِبُونَ (۲)

ترجمہ کنز العرفان: بیشک وہ لوگ جو ہم سے ملنے کی امید نہیں
رکھتے اور دنیا کی زندگی پسند کر بیٹھے ہیں اور اس پر مطمئن ہو گئے ہیں
اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں۔ ان لوگوں کا ٹھکانا ان کے
اعمال کے بدلے میں دوزخ ہے۔

لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ حسرت و پچھتاوے اور عذاب کا دن آنے سے پہلے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں
اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت میں اپنی زندگی بسر
کرنا شروع کر دے اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات دیئے ان کی پیروی میں لگ جائے، چنانچہ اسی چیز کا حکم
دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَإِنِّي بَوَّأْتُ لَكُمُ الْبَيْتَ الْمَقَامِيَّ وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۲﴾
وَإِنِّي بَوَّأْتُ لَكُمُ الْبَيْتَ الْمَقَامِيَّ وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۳﴾
وَإِنِّي بَوَّأْتُ لَكُمُ الْبَيْتَ الْمَقَامِيَّ وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۴﴾
وَإِنِّي بَوَّأْتُ لَكُمُ الْبَيْتَ الْمَقَامِيَّ وَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۵﴾

ترجمہ کنز العرفان: اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو اور اس
وقت سے پہلے اس کے حضور گردن رکھو کہ تم پر عذاب آئے پھر
تمہاری مدد نہ کی جائے۔ اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین
چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی
اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں خبر (بھی) نہ ہو۔

۱..... انعام: ۳۱.

۲..... یونس: ۸، ۷.

جَنَّبَ اللَّهُ وَانْ كُنْتُ لِمَنِ السَّخِرِينَ (1)

(پھر ایسا نہ ہو) کہ کوئی جان یہ کہے کہ ہائے افسوس ان کوتاہیوں پر جو میں نے اللہ کے بارے میں کیں اور بیشک میں مذاق اڑانے والوں میں سے تھا۔

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی اخروی تیاری کے لئے بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، امین۔

إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِنَّا يُرْجَعُونَ ۝۶

ترجمہ کنزالایمان: بیشک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور وہ ہماری ہی طرف پھریں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے اور ہماری ہی طرف انہیں لوٹایا جائے گا۔

﴿إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا﴾: بیشک زمین اور جو کچھ اس پر ہے سب کے وارث ہم ہوں گے۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت سب کچھ فنا ہو جائے گا اور میری ذات کے سوا کوئی باقی رہے گا نہ کسی کی ظاہری ملکیت باقی ہوگی (اور جب لوگوں کو زندہ کیا جائے گا تو) انہیں ہماری ہی طرف لوٹایا جائے گا اور ہم انہیں ان کے اعمال کی جزا دیں گے۔ (2)

گناہگاروں کے لئے مقام خوف

اس آیت میں گناہگاروں کے لئے عظیم ڈر اور تنبیہ ہے کہ دنیا میں انہوں نے جس رب تعالیٰ کی نافرمانیاں کی ہیں اور اس کے دیئے ہوئے احکامات کو پامال کیا ہے قیامت کے دن انہیں اسی کی بارگاہ میں لوٹ کر جانا ہے اور اسی کے حضور پیش ہو کر اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور وہ لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزا دے گا تو گناہگار لوگ اپنے اعمال کو سامنے رکھتے ہوئے ان کی جزا پر خود ہی غور کر لیں کہ وہ کیا ہوگی، اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنا رحم نہ فرمایا اور ان کے گناہوں کو نہ بخشا تو انہیں جہنم کے انتہائی دردناک عذابات سہنے پڑیں گے، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب

1..... زمر ۵۴-۵۶.

2..... مدارك، مریم، تحت الآية: ۴۰، ص ۶۷۴.

کے لئے پیش ہونے سے پہلے اپنے اعمال کی اصلاح کر لے تاکہ اسے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اچھی جزا ملے۔

وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ ۗ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿۳۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بیشک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں بتاتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو بیشک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔

﴿وَادْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِبْرَاهِيمَ﴾ اور کتاب میں ابراہیم کو یاد کرو۔ امام فخر الدین رازی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ فرماتے ہیں:

اس سورت کا (بنیادی) مقصد توحید، رسالت اور حشر کو بیان کرنا ہے اور توحید کا انکار کرنے والے وہ لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو (اپنا) معبود مانتے تھے، پھر ان لوگوں کے بھی دو گروہ تھے، ایک گروہ زندہ اور عقل و فہم رکھنے والے انسان کو معبود مانتا تھا اور یہ عیسائیوں کا گروہ ہے، اور ایک گروہ بے جان اور عقل و فہم نہ رکھنے والی جمادات کو معبود مانتا تھا اور یہ بتوں کے پجاریوں کا گروہ ہے اور یہ دونوں گروہ اگرچہ گمراہی میں مشترک تھے لیکن دوسرا گروہ (پہلے کے مقابلے میں) زیادہ گمراہ تھا، چنانچہ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے پہلے گروہ کی گمراہی بیان فرمائی اور اب یہاں سے دوسرے گروہ کی گمراہی بیان فرما رہا ہے، چنانچہ جب حضرت زکریا اور حضرت عیسیٰ عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے واقعے کا اختتام ہوا تو گویا کہ ارشاد فرمایا ”اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ نے حضرت زکریا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا حال ذکر کر دیا اور اب حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا حال بیان کریں۔ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا حال بیان کرنے کا حکم دینے کی وجہ یہ ہے کہ تمام لوگ اس بات سے واقف تھے کہ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ کی قوم اور آپ کے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کتابوں کا مطالعہ کرنے اور پڑھنے لکھنے میں مشغول نہ تھے تو جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے یہ واقعہ کسی کی زیادتی کے بغیر جیسا واقع ہوا تھا ویسا ہی بیان کر دیا تو یہ غیب کی خبر ہوئی اور سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (کا غیب کی خبر دینا آپ) کی نبوت کی دلیل اور آپ کا معجزہ ہوا۔^(۱)

یہاں بطور خاص حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا واقعہ بیان کرنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عرب کے

1.....تفسیر کبیر، مریم، تحت الآیة: ۴۱، ۵۴۱/۷۔

مشرکین اپنے آپ کو ملتِ ابراہیمی کے پیروکار کہتے تھے، اس میں انہیں سمجھایا جا رہا ہے کہ اگر تم ملتِ ابراہیمی کے پیروکار ہو تو بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام تو بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے بلکہ وہ تو اللہ عزوجل کی عبادت کیا کرتے تھے اور اس میں کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے۔ اگر تم ملتِ ابراہیمی پر قائم ہو تو ان کے دین کو اپناؤ اور بت پرستی چھوڑو۔

﴿إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا﴾: بیشک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔ ﴿آیت کے اس حصے میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام ہمیشہ سچ بولتے تھے اور نبوت کے مرتبے پر بھی فائز تھے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ صدیق کے معنی ہیں کثیر التصدیق یعنی جو اللہ تعالیٰ اور اس کی وحدانیت کی، اس کے انبیاء اور اس کے رسولوں علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اور مرنے کے بعد اٹھنے کی تصدیق کرے اور احکام الہیہ بجالائے وہ صدیق ہے۔^(۱) یاد رہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے سچے ہونے کے وصف کو بطور خاص بیان کرنے کی یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ بعض لوگوں کو چند واقعات کی وجہ سے شبہ ہوتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کلام ان مواقع پر حقیقت کے مطابق نہیں تھا۔ ان کی تفہیم کیلئے بطور خاص آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سچا فرمایا گیا۔

مقامِ صدیق اور مقامِ نبوت میں فرق

یہاں آیت کی مناسبت سے صدیق اور نبی میں اور صدیق اور ولی میں فرق ملاحظہ ہو، چنانچہ علامہ احمد صاوی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ہر نبی صدیق ہے لیکن اس کا عکس نہیں (یعنی ہر صدیق نبی نہیں، اسی طرح) ہر صدیق ولی ہے لیکن اس کا عکس نہیں (یعنی ہر ولی صدیق نہیں) کیونکہ صِدِّيقِيَّتِ کا مرتبہ نبوت کے مرتبے کے نیچے (اور اس کے قریب) ہے۔^(۲) اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد انسانوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا ہے کیونکہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ انبیاء اور رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد صِدِّيقِيَّتِ کے سب سے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں۔

إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي

①.....خازن، مریم، تحت الآية: ۴۱، ۲۳۶/۳.

②.....صاوی، مریم، تحت الآية: ۴۱، ۱۲۳۷/۴.

عَنْكَ شَيْئًا ۴۲

ترجمہ کنزالایمان: جب اپنے باپ سے بولا اے میرے باپ کیوں ایسے کو پوجتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ کچھ تیرے کام آئے۔

ترجمہ کنزاعرفان: جب اپنے باپ سے فرمایا: اے میرے باپ! تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو جو نہ سنتا ہے اور نہ دیکھتا ہے اور نہ تجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے۔

﴿اذْقَالَ لِأَبِيهِ يَا بَت لِمَ تَعْبُدُ﴾: جب اپنے باپ سے فرمایا: اے میرے باپ! تم کیوں ایسے کی عبادت کر رہے ہو۔ ﴿اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے بت پرست (عربی) باپ آزر سے فرمایا ”عبادت معبود کی انتہائی تعظیم ہے اور اس کا وہی مستحق ہو سکتا ہے جو اوصاف و کمال والا اور نعمتیں دینے والا ہو اور وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے جس کا کوئی شریک نہیں، اس لئے عبادت کا مستحق بھی صرف وہی ہے، جبکہ تم جن بتوں کی عبادت کر رہے ہو ان کا حال یہ ہے کہ یہ نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں اور نہ ہی تمہارے کسی کام آسکتے ہیں بلکہ یہ خود تمہارے محتاج ہیں کہ اپنی جگہ سے دوسری جگہ بھی نہیں جاسکتے اور تم نے خود انہیں اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے تو ایسی ناکارہ اور لاچار مخلوق کی عبادت کرنا اور اس کے سامنے اپنا سر جھکانا اور اس سے کسی بھی قسم کے نفع نقصان کی امید رکھنا انتہائی حماقت کے سوا کچھ نہیں ہے۔

آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا باپ تھا یا چچا؟

قرآن پاک میں کئی مقامات پر ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے والد کو تو حید کی دعوت دی اور بت پرستی سے منع کیا اور سورہ انعام کی آیت نمبر 74 میں اس کا نام آزر بھی مذکور ہے، اب حل طلب معاملہ یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حقیقی باپ تھا یا نہیں، چنانچہ اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، بعض مفسرین کے نزدیک آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حقیقی باپ تھا، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد کا نام تارح ہے اور اس کا لقب آزر ہے، بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قومی زبان میں

ان کے باپ کا نام تاریخ تھا اور دوسری زبانوں میں تاریخ کو آزر بولا جاتا تھا، بعض کہتے ہیں کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے باپ کا نام نہیں بلکہ قوم کے بڑے بت کا نام آزر تھا اور بعض کہتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے والد کا نام تاریخ تھا جبکہ آزر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا کا نام تھا اور بڑوں کی یہ عادت معروف تھی کہ وہ چچا کو باپ کہہ کر پکارتے تھے۔ اور یہ آخری بات ہی درست ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا حقیقی باپ نہیں بلکہ چچا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک سے ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نور پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک عورتوں کے رحموں کی طرف منتقل ہوا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام چونکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد سے ہیں اس لئے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حقیقی والد کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ کیسے ہو سکتے ہیں، چنانچہ علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”علماء اہلسنت میں سے ایک جَم غفیر کی رائے یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا والد نہ تھا کیوں کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے آباؤ اجداد میں کوئی کافر نہ تھا، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ ”میں ابتدا ہی سے آخر تک پاک لوگوں کی پشتوں سے پاک خواتین کے رحموں میں منتقل ہوتا چلا آیا ہوں جبکہ مشرک تو نجس ہیں۔ اور امام رازی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کا یہ کہنا کہ یہ شیعہ کا مذہب ہے درست نہیں۔ امام رازی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اچھی طرح چھان بین نہیں کی اس لیے ان سے یہ غلطی ہو گئی۔ علماء اہلسنت کی اکثریت کا قول یہ ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا کا نام ہے اور ”أَبُ“ کا لفظ چچا کے معنی میں عام استعمال ہوتا ہے۔^(۱)

صدر الافاضل سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: قاموس میں ہے کہ آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے چچا کا نام ہے۔ امام علامہ جلال الدین سیوطی (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) نے ”مَسَالِكُ الْحُنَفَاءُ“ میں بھی ایسا ہی لکھا ہے۔ چچا کو باپ کہنا تمام ممالک میں معمول ہے بالخصوص عرب میں، قرآن کریم میں ہے (جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے) ”تَعْبُدُ الْهَكَ وَالْهِيَ ابَائِكَ اِبْرَاهِمَ وَاسْحٰقَ الْهٰوَاِ اِحٰدًا“ اس میں حضرت اسماعیل (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کو حضرت یعقوب (علیہ الصلوٰۃ والسلام) کے آباء میں ذکر کیا گیا ہے باوجودیکہ آپ عم (یعنی چچا) ہیں۔ حدیث شریف میں بھی حضرت سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو أَبُ (یعنی باپ) فرمایا، چنانچہ

1..... روح المعانی، الانعام، تحت الآیة: ۷۴، ۴/۲۵۳.

ارشاد کیا ”رُدُّوْا عَلَيَّ أَبِي“ اور یہاں اَبِي سے حضرت عباس (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) مراد ہیں۔ (1) لہذا ثابت ہوا کہ آیت میں حضرت ابراہیم عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے باپ (آزر) سے ان کا چچا مراد ہے حقیقی والد مراد نہیں ہیں۔

يَا بَتِّ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ فَاتَّبِعْنِيْ اَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا ۝۳۳

ترجمہ کنزالایمان: اے میرے باپ! بیشک میرے پاس وہ علم آیا جو تجھے نہ آیا تو تو میرے پیچھے چلا آ میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اے میرے باپ! بیشک میرے پاس وہ علم آیا جو تیرے پاس نہیں آیا تو تو میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا۔

﴿يَا بَتِّ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ﴾: اے میرے باپ! بیشک میرے پاس وہ علم آیا۔ ﴿حضرت ابراہیم عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے آزر کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ بیشک میرے پاس میرے رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے اس کی معرفت کا وہ علم آیا ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، تو تو میرا دین قبول کر کے میری پیروی کر، میں تجھے سیدھی راہ دکھا دوں گا جس سے تو اللہ تعالیٰ کے قرب کی اس منزل تک پہنچ سکے گا جو مقصود ہے۔

اس آیت میں حضرت ابراہیم عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے جس علم کا ذکر ہوا اس کے بارے میں ایک قول تفسیر میں ذکر ہوا کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ اس علم سے مراد وہ وحی ہے جو فرشتہ حضرت ابراہیم عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے پاس لے کر آتا تھا، یا، اس سے مراد آخرت کے اُمور اور اخروی ثواب و عذاب کا علم ہے، یا، اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور صرف اللہ تعالیٰ کے الہ ہونے اور صرف اسی کے عبادت کا مستحق ہونے کا علم ہے۔ (2) ان اقوال میں باہم کوئی تضاد نہیں ہے کہ حقیقت میں آپ عَلِيهِ الصَّلَامُ کو یہ سارے علوم عطا کئے گئے۔

1..... خزائن العرفان، الانعام، تحت الآية: ۷۴، ص ۲۶۱۔

2..... البحر المحيط، مریم، تحت الآية: ۴۳، ۱۸۲/۶۔

آیت ”يَا بَتِّ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

- (1)..... اگر کوئی شخص عمر میں بڑا ہوا اور اسے دین کا علم حاصل نہ ہو جبکہ اس کی اولاد یا قریبی عزیزوں میں سے کوئی عمر میں اگرچہ چھوٹا ہے لیکن وہ دین کا علم رکھتا ہو تو اس سے علم دین سیکھنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرنی چاہئے۔
- (2)..... اگر چھوٹی عمر والا بڑی عمر والے کو کوئی اچھی نصیحت کرے تو چھوٹی عمر کی وجہ سے اس کی اچھی نصیحت کو نظر انداز کرنے کی بجائے اسے قبول کرنا چاہئے۔

يَا بَتِّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ ۖ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا ۝^{۴۴} يَا بَتِّ اِنِّي
أَخَافُ أَنْ يَسَّكَ عَذَابٌ مِّنَ الرَّحْمَنِ فَتَكُونَ لِلشَّيْطَانِ وَلِيًّا ۝^{۴۵}

ترجمہ کنزالایمان: اے میرے باپ شیطان کا بندہ نہ بن بیشک شیطان رحمن کا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمن کا کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا رفیق ہو جائے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اے میرے باپ! شیطان کا بندہ نہ بن، بیشک شیطان رحمن کا بڑا نافرمان ہے۔ اے میرے باپ! میں ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمن کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے تو تو شیطان کا دوست ہو جائے۔

﴿يَا بَتِّ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانَ﴾: اے میرے باپ! شیطان کا بندہ نہ بن۔ ﴿حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آزر سے تیسری بات یہ ارشاد فرمائی کہ تو شیطان کا بندہ نہ بن اور اس کی فرمانبرداری کر کے کفر و شرک میں مبتلا نہ ہو، بیشک شیطان رحمن عَزَّوَجَلَّ کا بڑا نافرمان ہے اور نافرمان کی اطاعت کا انجام یہ ہے کہ یہ اطاعت کرنے والے کو بھی نافرمان بنا دیتی ہے اور نعمت سے محروم کر کے مشقت و عذاب میں مبتلا کر دیتی ہے۔^(۱)

﴿يَا بَتِّ اِنِّي أَخَافُ﴾: اے میرے باپ! میں ڈرتا ہوں۔ ﴿حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے آزر سے مزید فرمایا:

1..... حازن، مریم، تحت الآیة: ۴۴، ۲۳۶/۳، روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۴۴، ۳۳۶/۵، ملتقطاً۔

مجھے ڈر ہے کہ اگر تو رحمن عَزَّوَجَلَّ کی نافرمانی کرتے اور شیطان کی پیروی کرتے ہوئے کفر کی حالت میں ہی مر گیا تو تجھے رحمن عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے کوئی عذاب پہنچے گا اور تو لعنت میں اور جہنم کے عذاب میں شیطان کا رفیق اور دوست بن جائے گا۔^(۱)

سورہ مریم کی آیت نمبر 44 اور 45 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوئیں

- (1)..... اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے والے کی پیروی کرنا بندے کے نافرمان بننے کا ایک سبب ہے لہذا ایسے لوگوں کی پیروی کی جائے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اطاعت گزار اور فرمانبردار ہوں۔
- (2)..... بندے کو چاہئے کہ اگر اس کے اہل خانہ یا عزیز رشتہ داروں میں سے جو لوگ اللہ تعالیٰ کے احکام پر عمل نہیں کرتے یا عمل کرنے میں سُستی کرتے ہیں تو انہیں احسن انداز میں اس کی ترغیب دے اور اس حوالے سے انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بھی ڈرائے۔

قَالَ أَرَأَيْتَ إِنْ أَخْبَرْتَنِي بِأَبْرَاهِيمَ لَئِنْ لَمْ تَنْتَهَ لَأَرْجُبَنَّكَ
وَأَهْجُرَنِي مَلِيًّا ۴۶

ترجمہ کنزالایمان: بولا کیا تو میرے خداؤں سے منہ پھیرتا ہے اے ابراہیم! بیشک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر اڑا کروں گا اور مجھ سے زمانہ دراز تک بے علاقہ ہو جا۔

ترجمہ کنزالعرفان: بولا: کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم! بیشک اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کیلئے مجھے چھوڑ دے۔

﴿قَالَ﴾ بولا۔ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی لطف آمیز نصیحت اور دل پذیر ہدایت سے آزر نے نفع نہ اٹھایا اور وہ اس کے جواب میں بولا: کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرتا ہے؟ اے ابراہیم! بیشک اگر تو بتوں کی مخالفت کرنے، انہیں برا کہنے اور ان کے عیب بیان کرنے سے باز نہ آیا تو میں تجھے پتھر ماروں گا اور تو عرصہ دراز کیلئے مجھ سے کلام کرنا

1..... نحازن، مریم، تحت الآية: ۴۵، ۲۳۶/۳، روح البیان، مریم، تحت الآية: ۴۵، ۳۳۶/۵، ملتقطاً.

چھوڑ دے تاکہ میرے ہاتھ اور زبان سے امن میں رہے۔^(۱)

نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں کیلئے درس

امام فخر الدین رازی دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا نصیحت کرنے کا انداز اور ان کے جواب میں آزر کا طرزِ عمل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اس لئے بیان فرمایا تاکہ مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دل ہلکا ہو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جان جائیں کہ جاہلوں کا یہ مذموم طرزِ عمل (کوئی آج کا نہیں بلکہ) عرصہ دراز سے چلا آ رہا ہے۔^(۲)

اس میں ان مسلمانوں کے لئے بھی درس ہے جو دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینے کا فریضہ سرانجام دے رہے ہیں کہ اگر اس دوران انہیں کسی کافر یا کسی مسلمان کی طرف سے کسی ناقابلِ برداشت سلوک کا سامنا کرنا پڑے تو وہ رنجیدہ ہو کر اس فریضہ کی بجائے آوری کو چھوڑ نہ دیں بلکہ ایسے موقع پر انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات کو یاد کریں کہ ان بزرگ ترین ہستیوں نے کس طرح اسلام کی دعوت دی اور انہیں نافرمان اور سرکش کفار کی طرف سے کیسی کیسی اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا لیکن انہوں نے تمام تر تکلیفوں کے باوجود دین اسلام کی دعوت دینے کو نہیں چھوڑا تو ہم بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے دین اسلام اور اس کے احکام کی دعوت دینا نہیں چھوڑیں گے۔ اس سے اِنْ شَاءَ اللَّهُ دل کو تسلی ملے گی اور اسے مزید تقویٰ حاصل ہوگی۔

قَالَ سَلَّمَ عَلَيْكَ جَسَّاسْتَعْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿۳۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: کہا بس تجھے سلام ہے قریب ہے کہ میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا بیشک وہ مجھ پر مہربان ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: فرمایا: بس تجھے سلام ہے۔ عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا بیشک وہ مجھ پر

①.....خازن، مریم، تحت الآية: ۴۶، ۲۳۷/۳.

②.....تفسیر کبیر، مریم، تحت الآية: ۴۶، ۴۴۵/۷.

بڑا مہربان ہے۔

﴿قَالَ سَلِّمْ عَلَيْكَ﴾: فرمایا: بس تجھے سلام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے چچا آزر کا جواب سن کر فرمایا ”تجھے دور ہی سے سلام ہے۔ عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب عزوجل سے معافی مانگوں گا کہ وہ تجھے توبہ اور ایمان کی توفیق دے کر تیری مغفرت فرمادے، بیشک وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے۔ (1)

آزر کے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے چچا آزر کے لئے جو مغفرت کی دعا فرمائی اس کا ذکر سورہ شعراء کی آیت نمبر 86 میں ہے اور یہاں یہ یاد رہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اپنے چچا آزر سے یہ کہنا کہ ”عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے معافی مانگوں گا“ اس وجہ سے تھا کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس کے ایمان لانے کی توقع تھی اور جب آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اس کا ایمان نہ لانا واضح ہو گیا تو اس کے بعد آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام آزر سے بیزار ہو گئے اور پھر کبھی اس کے لئے مغفرت کی دعا نہ کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنز العرفان: اور ابراہیم کا اپنے باپ کی مغفرت کی دعا

کرنا صرف ایک وعدے کی وجہ سے تھا جو انہوں نے اس سے کر لیا تھا پھر جب ابراہیم کے لئے یہ بالکل واضح ہو گیا کہ وہ اللہ کا دشمن ہے تو اس سے بیزار ہو گئے۔ بیشک ابراہیم بہت آہ و زاری کرنے والا، بہت برداشت کرنے والا تھا۔

وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ اِبْرٰهٖمَ لِاٰبِيْهِ اِلَّا عَنْ

مَوْعِدَةٍ وَّوَعَدَهَا اٰيٰٓآهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهٗ اَنَّهُ عَدُوٌّ

لِلّٰهِ تَبَرَّ اَمْنُهٗ ۗ اِنَّ اِبْرٰهٖمَ لَوٰ اٰهٖ حَلِيْمٌ (2)

وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ وَأَدْعُوا رَبِّيَّ عَسَىٰ أَلَّا أَكُونَ

بِدُعَاءِ رَبِّيَّ شَقِيًّا ﴿٣٨﴾

1.....حازن، مریم، تحت الآیة: ۴۷، ۳/۲۳۷.

2.....توبہ: ۱۱۴.

ترجمہ کنزالایمان: اور میں ایک کنارے ہو جاؤں گا تم سے اور ان سب سے جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو اور اپنے رب کو پوجوں گا قریب ہے کہ میں اپنے رب کی بندگی سے بد بخت نہ ہوں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور میں تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن (بتوں) کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں۔ قریب ہے کہ میں اپنے رب کی عبادت کی وجہ سے بد بخت نہ ہوں گا۔

﴿وَأَعْتَزِلْكُمْ﴾ اور میں تم لوگوں سے جدا ہوتا ہوں۔ ﴿حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ میں بابل شہر سے شام کی طرف ہجرت کر کے تم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو ان سے جدا ہوتا ہوں اور میں اپنے رب عزوجل کی عبادت کرتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا اور مجھ پر احسان فرمائے۔ پھر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے عاجزی اور انکساری کرتے ہوئے فرمایا: قریب ہے کہ میں اپنے رب عزوجل کی عبادت کی وجہ سے بد بخت نہ ہوں گا۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ جیسے تم بتوں کی پوجا کر کے بدنصیب ہوئے، خدا کے پرستار کے لئے یہ بات نہیں کیونکہ اس کی بندگی کرنے والا بد بخت اور محروم نہیں ہوتا۔^(۱)

آیت ”وَأَعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہونیں:

- (1)..... کافروں، بد مذہبوں کے ساتھ رہنے اور ان کے ساتھ نشست برخواست رکھنے سے بچنا چاہئے، جیسے یہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ذکر ہوا کہ وہ اپنے کافر چچا سے علیحدہ ہو گئے تھے۔
- (2)..... اپنا دین نہیں چھپانا چاہئے جیسے یہاں ذکر ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنا دین صاف اور واضح طور پر بیان کر دیا کہ وہ صرف اس اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جو ان کا خالق ہے۔
- (3)..... اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والا بدنصیب نہیں ہو سکتا بلکہ بدنصیب تو وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرے۔

①..... حازن، مریم، تحت الآیة: ۴۸، ۲۳۷/۳، مدارك، مریم، تحت الآیة: ۴۸، ص ۶۷، ملتقطاً۔

فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَ

يَعْقُوبَ ۖ وَكَلَّمْنَا نَبِيًّا ۝۲۹

ترجمہ کنزالایمان: پھر جب ان سے اور اللہ کے سوا ان کے معبودوں سے کنارہ کر گیا ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا کیے اور ہر ایک کو غیب کی خبریں بتانے والا کیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر جب ابراہیم لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن (بتوں) کی وہ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے اسے اسحاق اور (اس کے بعد) یعقوب عطا کئے اور ان سب کو ہم نے نبی بنایا۔

﴿فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ﴾: پھر جب ابراہیم لوگوں سے جدا ہو گئے۔ ﴿وَرَشَدًا﴾ فرمایا کہ پھر جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام مقدس سرزمین کی طرف ہجرت کر کے لوگوں سے اور اللہ کے سوا جن بتوں کی وہ لوگ عبادت کرتے تھے ان سے جدا ہو گئے تو ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرزند حضرت اسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے بعد پوتے حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام عطا کئے تاکہ وہ ان سے اُنسیت حاصل کریں اور ان سب کو ہم نے مقام نبوت سے سرفراز فرما کر احسان فرمایا۔ (۱)

یاد رہے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام، حضرت اسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام سے بڑے ہیں، لیکن چونکہ حضرت اسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام بہت سے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کے والد ہیں، اس لئے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر فرمایا گیا۔

آیت ”فَلَمَّا عَتَزَلَهُمْ“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں:

(1)..... حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عمر شریف اتنی دراز ہوئی کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے پوتے

1..... خازن، مریم، تحت الآیة: ۴۹، ۲۳۷/۳، مدارك، مریم، تحت الآیة: ۴۹، ص ۶۷۶، ملقطاً.

حضرت یعقوب عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو دیکھا۔

(2)..... اللہ تعالیٰ کے لئے ہجرت کرنے اور اپنے گھر بار کو چھوڑنے کی حضرت ابراہیم عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو یہ جزا ملی کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بیٹے اور پوتے عطا فرمائے۔

وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا ۝۵

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کے لیے سچی بلند ناموری رکھی۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی اور ان کیلئے سچی بلند شہرت رکھی۔

﴿وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِّنْ رَّحْمَتِنَا﴾ اور ہم نے انہیں اپنی رحمت عطا کی۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں دنیا و آخرت کی عظیم ترین نعمت نبوت عطا کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا میں وسیع رزق اور اولاد عطا کی اور ان کیلئے سچی بلند شہرت رکھی کہ ہر دین والے مسلمان ہوں خواہ یہودی یا عیسائی سب ان کی ثنا و تعریف کرتے ہیں اور مسلمانوں میں تو نمازوں کے اندران پر اور ان کی آل پر درود پڑھا جاتا ہے۔⁽¹⁾

حضرت ابراہیم عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور آزر کے واقعے سے حاصل ہونے والی معلومات

اس واقعے سے چار باتیں معلوم ہوئیں

- (1)..... حق کی طرف ہدایت دینے والے کے لئے ضروری ہے کہ وہ نرم مزاج اور اچھے اخلاق والا ہو کیونکہ عام طور پر جو بات سختی سے کہی جاتی ہے، سننے والا اس سے منہ پھیر لیتا ہے البتہ جہاں سختی کا موقع ہو وہاں اسی کو بروئے کار لایا جائے۔
- (2)..... اپنے سے بڑے مرتبے والے کی پیروی کی جائے۔ یاد رہے کہ اطاعت و فرمانبرداری میں سے سب سے بڑا مرتبہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کا ہے اور صحابہ و ائمہ دین کی پیروی بھی درحقیقت اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ کی ہی پیروی ہے۔
- (3)..... جو شخص دنیا و آخرت میں ظاہری و باطنی سلامتی چاہتا ہے وہ برے ساتھیوں اور بد مذہب لوگوں سے جدا ہو جائے۔

1..... خازن، مریم، تحت الآیة: ۵۰، ۲۳۷/۳، مدارك، مریم، تحت الآیة: ۵۰، ص ۶۷۶، ملتقطاً.

(4)..... جو شخص اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر اپنی پسندیدہ چیز چھوڑ دے تو اللہ تعالیٰ اسے اس چیز سے بہت بہتر اور زیادہ پسندیدہ بدل عطا فرماتا ہے اور اس سے پہلی چیز کے چھوٹنے پر ہونے والی وحشت اُٹسیت میں بدل جاتی ہے۔

وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا ﴿۵۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو بیشک وہ چنا ہوا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتانے والا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو، بیشک وہ چنا ہوا بندہ تھا اور وہ نبی رسول تھا۔

﴿وَإِذْ كُنَّا فِي الْكِتَابِ مُوسَى﴾ اور کتاب میں موسیٰ کو یاد کرو۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات بیان کی گئیں اور اب یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات بیان فرمائی جا رہی ہیں، دوسرے لفظوں میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ خلیل اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات بیان کرنے کے بعد اب کلیم اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پانچ صفات

اس رکوع میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پانچ صفات بیان کی گئی ہیں۔

- (1)..... آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام اللہ عزوجل کے چنے ہوئے اور برگزیدہ بندے تھے۔
 - (2)..... آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام رسول و نبی تھے۔
 - (3)..... آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا۔
 - (4)..... آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنا قرب بخشا۔
 - (5)..... آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خواہش پر آپ کے بھائی حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نبوت عطا کی۔
- حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت یعقوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں اسی لئے ان کا ذکر حضرت اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام سے پہلے فرمایا تا کہ داد اور پوتے کے ذکر میں فاصلہ نہ ہو۔⁽¹⁾ ورنہ حضرت اسماعیل

①..... روح المعانی، مریم تحت الآیة: ۵۱، ۵۵۹/۸۔

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے بہت پہلے کے ہیں۔

وَنَادَيْتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْسَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ۝۵۲

ترجمہ کنزالایمان: اور اسے ہم نے طور کی داہنی جانب سے ندا فرمائی اور اسے اپنا راز کہنے کو قریب کیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا اور ہم نے اسے اپنا راز کہنے کیلئے مقرب بنایا۔

﴿وَنَادَيْتُهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْسَنِ﴾ اور ہم نے اسے طور کی دائیں جانب سے پکارا۔ ﴿طُورًا﴾ پہاڑ کا نام ہے جو مصر اور مدین کے درمیان ہے۔ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو مدین سے آتے ہوئے طور کی اس جانب سے جو حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے دائیں طرف تھی ایک درخت سے ندا دی گئی

ترجمہ کنزالعرفان: اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں، تمام جہانوں

يُؤْتِي رَأْيِيَ أَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ (1)

کا پالنے والا۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے بلا واسطہ کلام فرمایا اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کلیم اللہ کے شرف سے نوازے گئے۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو مرتبہ قرب عطا فرمایا گیا، حجاب اٹھادیئے گئے یہاں تک کہ آپ نے قلموں کے چلنے کی آواز سنی اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی قدر و منزلت بلند کی گئی۔ (2)

کلیم اور حبیب میں فرق

یہاں اللہ تعالیٰ کے کلیم حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور اللہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے مقام و مرتبے کا فرق ملاحظہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے کوہ طور پر جو کلام فرمایا اسے اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ذریعے سب پر ظاہر فرمادیا لیکن اللہ تعالیٰ نے معراج کی رات لامکاں میں اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے جو کلام فرمایا وہ کسی کو نہ بتایا بلکہ یہ ارشاد فرما کر سب سے چھپا دیا کہ

1.....قصص: ۳۰۔

2.....خازن، مریم، تحت الآية: ۵۲، ۲۳۷/۳-۲۳۸۔

فَاَوْحَىٰ اِلَىٰ عَبْدِهٖ مَا اَوْحَىٰ (۱)

ترجمہ کنزالعرفان: پھر اس نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی۔

وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا ﴿۵۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون عطا کیا غیب کی خبریں بتانے والا (نبی)۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔

﴿وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا اَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا﴾ اور ہم نے اپنی رحمت سے اسے اس کا بھائی ہارون بھی دیا جو نبی تھا۔ یعنی جب حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میرے گھر والوں میں سے میرے بھائی ہارون کو میرا وزیر بنا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی اور اپنی رحمت سے حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو نبوت عطا کی۔ (۲)

آیت ”وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتیں

(۱)..... نبوت کسی نہیں یعنی اپنی کوشش سے کسی کو نبوت نہیں مل سکتی بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے فضل اور اس کی رحمت سے جسے اللہ تعالیٰ چاہے صرف اسے ملتی ہے۔

(۲)..... حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کا ایسا مقام حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کے صدقے ان کے بھائی حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو نبوت عطا فرمادی۔ اس سے اللہ تعالیٰ کے پیاروں کی عظمت کا پتہ لگا کہ ان کی دعا سے وہ نعمت ملتی ہے جو بادشاہوں کے خزانوں میں نہ ہو تو اگر ان کی دعا سے اولاد یا دنیا کی دیگر نعمتیں مل جائیں تو کیا مشکل ہے۔ البتہ اب ختم نبوت ہو چکی تو اب کسی کو نبوت نہیں مل سکتی۔

وَ اذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِسْبَعِيلَ ۗ اِنَّهٗ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ

①..... النجم: ۱۰۔

②..... خازن، مریم، تحت الآية: ۵۳، ۲۳۸/۳۔

رَسُولًا نَبِيًّا ج

ترجمہ کنزالایمان: اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بیشک وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول تھا غیب کی خبریں بتاتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو بیشک وہ وعدے کا سچا تھا اور غیب کی خبریں دینے والا رسول تھا۔

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ﴾ اور کتاب میں اسماعیل کو یاد کرو۔ ﴿حَضْرَتِ اسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَضْرَتِ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَ فَرَزَنْدِ هِيں اَوْر سَيِّدِ الْمَرْسَلِيْنَ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ اَپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كِي اَوْلَادِ سَے هِيں۔ اس آیت میں حضرت اسماعیل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَ دُو وُصْفِ بِيَانِ كَئِي كَئِي۔

(1).....آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَدَے كَ سَچَے تَھَے۔ يَادِرْ هَے كَ تَمَامِ اَنْبِيَاءِ كِرَامِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَدَے كَ سَچَے هِي هَوْتِے هِيں مَگر اَپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَا خُصُوصِي طُورِ پَر ذِكْرُ كَرْنِے كِي وَجْهِ يَهْ هَے كَ اَپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اس وَصْفِ مِيں بَہْتِ زِيَادَہ مَمْتَاَزِ تَھَے، چِنَا نَچَے اِيك مَرْتَبَہ اَپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُو كُوْنِي شَخْصِ كَہ گِيَا جَب تَك مِيں نَہِيں آتَا اَپ يَہِيں تَھَہَرِيں تُو اَپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اس كَ اَنْتِظَارِ مِيں 3 دِن تَك وِہِيں تَھَہَرِے رَہَے۔ اِسي طَرَح (جَب حَضْرَتِ اِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اَپ كُو اللّٰهُ تَعَالٰى كَ حَكْمِ سَے ذِيح كَرْنِے لَگَے تُو) ذِيح كَ وَقْتِ اَپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَے صَبْرُ كَرْنِے كَا وَعَدَہ فَرَمَا يَا تَھَا، اس وَعَدَے كُو جِس شَانِ سَے پُورَا فَرَمَا يَا اُس كِي مِثَالِ نَہِيں مِلْتِي۔ (1)

(2).....آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غَيْبِ كِي خَبْرِيں دِينِے وَا لَے رَسُوْلِ تَھَے۔ اَپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كُو رَسُوْلِ اَوْر نَبِي فَرَمَا يَا گِيَا هَے، اس مِيں بَنِي اِسْرَائِيْل كَے اِن لُوگوں كِي تَرِيْدِ كَرْنَا مَقْصُودِ تَھَا جُو يَہ سَجَھْتِے تَھَے كَہ نُبُوْتِ صَرَفِ حَضْرَتِ اِسْحَاقِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَ لِيے هَے اَوْر حَضْرَتِ اسْمَاعِيلِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَبِي نَہِيں هِيں۔

رَسُولِ اَكْرَمِ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي وَعَدَہ وَفَائِي

اوپر بيان ہوا کہ حضرت اسماعیل کسی جگہ پر 3 دن تک ایک شخص کے انتظار میں ٹھہرے رہے، اسی طرح کا ایک واقعہ سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں بھی احادیث کی کتابوں میں موجود ہے، چنانچہ حضرت عبد اللہ

1.....خازن، مریم، تحت الآية: ۵۴، ۳/۲۳۸۔

بن ابوالحمساء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: بعثت سے پہلے میں نے نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے کوئی چیز خریدی اور اس کی کچھ قیمت میری طرف باقی رہ گئی تھی۔ میں نے وعدہ کیا کہ اسی جگہ لا کر دیتا ہوں، میں بھول گیا اور تین دن کے بعد یاد آیا، میں گیا تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اسی جگہ موجود تھے۔ ارشاد فرمایا ”اے نوجوان! تو نے مجھے تکلیف دی ہے، میں تین دن سے یہاں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔“^(۱)

وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ۝۵۵

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا اور اپنے رب کو پسند تھا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور وہ اپنے رب کے ہاں بڑا پسندیدہ بندہ تھا۔

﴿وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ﴾: اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ حضرت اسماعیل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اپنے گھر والوں اور اپنی قوم جرہم کو جن کی طرف آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مبعوث تھے نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیتے تھے اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اپنی طاعت و اعمال، صبر و استقلال اور احوال و خصال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے بڑے پسندیدہ بندے تھے۔

اہل خانہ کو نماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سیرت

سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مختلف مواقع پر اپنے اہل خانہ کو نماز وغیرہ کی تلقین فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت عبد اللہ بن سلام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں ”جب حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اہل خانہ پر کوئی تنگی آتی تو آپ انہیں نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرماتے۔“^(۲)

حضرت ثابت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: جب حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اہل خانہ کو کوئی حاجت پہنچتی تو آپ اپنے اہل خانہ کو فرماتے: اے اہل خانہ! نماز پڑھو، نماز پڑھو۔^(۳)

①..... ابوداؤد، کتاب الادب، باب فی العدة، ۴/ ۴۸۸، الحدیث: ۴۹۹۶۔

②..... معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ۱/ ۲۵۸، الحدیث: ۸۸۶۔

③..... الزهد لابن حنبل، ص ۳۵، الحدیث: ۴۹۔

حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں ”نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آٹھ ماہ تک حضرت علی كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے ”الصَّلَاةُ رَحِمَكُمُ اللهُ، اِنَّمَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“ نماز پڑھو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے ہر ناپاکی دور فرمادے اور تمہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دے۔ (1)

اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے کی ترغیب

معلوم ہوا کہ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا اللہ تعالیٰ کے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی سنت ہے لہذا ہمیں بھی چاہئے کہ ہم اپنے گھر والوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیں اور اس کے علاوہ ان تمام کاموں کا بھی حکم دیں جو جہنم سے نجات ملنے کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمة كُنْزِ الْعِرْفَانِ: اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے، طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (2)

نماز فجر کے لئے جگانے کی فضیلت

نماز فجر کے لئے جگانا حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سنت ہے، چنانچہ حضرت ابو بکر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں، میں سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ نماز فجر کیلئے نکلا تو آپ جس سوتے ہوئے شخص کے پاس سے گزرتے اُسے نماز کیلئے آواز دیتے یا اپنے پاؤں مبارک سے ہلا دیتے۔ (3) لہذا جو خوش نصیب انسان کسی کو فجر کی نماز کے لئے جگاتا ہے تو وہ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اس ادا کو ادا کر رہا ہے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اِدْرَيسَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ﴿٥٦﴾

1..... ابن عساکر، حرف العین، حرف الطاء فی آباء من اسمہ علی، علی بن ابی طالب... الخ، ۱۳۶/۴۲.

2..... تحریم: ۶۰.

3..... ابوداؤد، کتاب التطوع، باب الاضطجاع، ۳۳/۲، الحدیث: ۱۲۶۴.

ترجمہ کنزالایمان: اور کتاب میں اور لیس کو یاد کرو بیشک وہ صدیق تھا غیب کی خبریں دیتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کتاب میں اور لیس کو یاد کرو بیشک وہ بہت ہی سچا نبی تھا۔

﴿وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيْسَ﴾ اور کتاب میں اور لیس کو یاد کرو۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ﴾، آپ ہماری اس کتاب میں حضرت ادريس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا ذکر فرمائیں، بیشک وہ بہت ہی سچے نبی تھے۔

حضرت ادريس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا مختصر تعارف

آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا نام اخنوخ ہے اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے والد کے دادا ہیں۔ حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے بعد آپ ہی پہلے رسول ہیں۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے والد حضرت شیث بن آدم عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں۔ سب سے پہلے جس شخص نے قلم سے لکھا وہ آپ ہی ہیں۔ کپڑوں کو سینے اور سہلے ہوئے کپڑے پہننے کی ابتدا بھی آپ ہی سے ہوئی، آپ سے پہلے لوگ کھالیں پہنتے تھے۔ سب سے پہلے ہتھیار بنانے والے، ترازو اور پیمانے قائم کرنے والے اور علم نجوم اور علم حساب میں نظر فرمانے والے بھی آپ ہی ہیں اور یہ سب کام آپ ہی سے شروع ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ پر تیس صحیفے نازل کئے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دینے کی وجہ سے آپ کا نام ادريس ہوا۔⁽¹⁾

درس قرآن اور درس علم دین کے فضائل

حضرت ادريس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہونے والے صحیفوں کا کثرت سے درس دیا کرتے تھے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کا درس دینا انبیاء کرام عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی سنت ہے، اس مناسبت سے یہاں قرآن مجید کا درس دینے کی فضیلت اور علم دین کا درس دینے کے دو فضائل ملاحظہ ہوں:

(1)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے اور ایک دوسرے کو اس کا

1..... حازن، مریم، تحت الآية: ۵۶، ۲۳۸/۳، مدارك، مریم، تحت الآية: ۵۶، ص ۶۷۷، روح البیان، مریم، تحت الآية: ۵۶، ۳۴۱/۵، ملقطاً.

- درس دیتے ہیں تو ان پر سکون نازل ہوتا ہے، رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کا ذکر فرشتوں میں فرماتا ہے۔ (1)
- (2)..... حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”وہ عالم جو صرف فرض نماز پڑھ کر بیٹھ جاتا پھر لوگوں کو علم دین سکھاتا ہے اس کی بزرگی اس عابد پر جو دن کو روزہ رکھتا اور رات کو قیام کرتا ہے، ایسی ہے جیسے میری فضیلت تمہارے ادنیٰ پر۔“ (2)

- (3)..... حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں ”رات میں ایک گھڑی علم کا پڑھنا پڑھانا پوری رات (عبادت کرتے ہوئے) بیدار رہنے سے افضل ہے۔“ (3)

قرآن مجید کا درس دینے سے متعلق اہم تشبیہ

یاد رہے کہ جو شخص عالم نہیں اس کا درس قرآن دینا جائز نہیں ہاں اگر وہ کسی سنی، صحیح العقیدہ ماہر عالم کی لکھی ہوئی تفسیر سے صرف وہی الفاظ پڑھ کر سناتا ہے جو انہوں نے لکھے ہیں اور اس کی اپنی طرف سے کوئی وضاحت یا تشریح نہیں کرتا تو یہ جائز ہے، یونہی علماء میں سے بھی انہیں ہی درس قرآن دینا چاہئے جنہوں نے معتبر علماء کرام کی تفاسیر، احادیث اور ان کی شروحات، فقہی احکام اور دیگر ضروری علوم کا معتد بہا (اچھا خاصا) مطالعہ کیا ہو۔ درس قرآن دینے والا ہر شخص ان 3 احادیث کو ضرور اپنے پیش نظر رکھے

- (1)..... حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جو قرآن میں علم کے بغیر کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنالے۔“ (4)
- (2)..... حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جو قرآن میں اپنی رائے سے کچھ کہے وہ اپنا ٹھکانہ آگ سے بنائے۔“ (5)

- 1..... مسلم، کتاب الذکر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذکر، ص ۱۴۴۷، الحدیث: ۳۸ (۲۶۹۹)۔
- 2..... دارمی، باب من قال: العلم الخشية وتقوى الله، ۱/۱۰۰، الحدیث: ۲۸۹۔
- 3..... دارمی، باب العمل بالعلم وحسن النية فيه، ۱/۹۴، الحدیث: ۲۶۴۔
- 4..... ترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، ۴/۴۳۹، الحدیث: ۲۹۵۹۔
- 5..... ترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، باب ما جاء في الذي يفسر القرآن برأيه، ۴/۴۳۹، الحدیث: ۲۹۶۰۔

(3)..... حضرت جناب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جو قرآن میں اپنی رائے سے کہے پھر ٹھیک بھی کہہ دے تب بھی وہ خطا کر گیا۔“⁽¹⁾

وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا ﴿٥٨﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم نے اسے بلند مکان پر اٹھالیا۔

ترجمہ کنز العرفان: اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھالیا۔

﴿وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا﴾ اور ہم نے اسے ایک بلند مکان پر اٹھالیا۔ حضرت اور لیس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو بلند مکان پر اٹھالینے کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے مرتبے کی بلندی مراد ہے اور ایک قول یہ ہے کہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو آسمان پر اٹھالیا گیا ہے اور زیادہ صحیح یہی قول ہے کہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو آسمان پر اٹھالیا گیا ہے۔⁽²⁾

أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ
حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا
وَاجْتَبَيْنَا إِذِ اتَّخَذُوا الرُّحْنَ خُرُوجًا وَسُجْدًا وَبُكْيَا ﴿٥٨﴾

ترجمہ کنز الایمان: یہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا غیب کی خبریں بتانے والوں میں سے آدم کی اولاد سے اور ان میں جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد سے اور ان میں سے جنہیں ہم نے راہ دکھائی اور جن

1..... ترمذی، کتاب تفسیر القرآن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ما جاء فی الذی یفسر القرآن برأیه، ۴ / ۴۴۰، الحدیث: ۲۹۶۱۔

2..... خازن، مریم، تحت الآية: ۵۷، ۳ / ۲۳۸۔

لیا جب ان پر رحمن کی آیتیں پڑھی جاتیں گر پڑتے سجدہ کرتے اور روتے۔

ترجمہ کنز العرفان: یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا، جو آدم کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا اور ابراہیم اور یعقوب کی اولاد میں سے ہیں اور ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ جب ان کے سامنے رحمن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو یہ سجدہ کرتے ہوئے اور روتے ہوئے گر پڑتے ہیں۔

﴿ **أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ** : یہ وہ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا۔ ﴿ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے سورہ مریم کی ابتدا سے یہاں تک مختلف انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے حالات و واقعات فرداً فرداً بیان فرمائے مگر اب تمام انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا مشترکہ ذکر کیا جا رہا ہے جن میں حضرت ادریس، حضرت نوح، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ شامل ہیں اور یہ وہ مبارک ہستیاں ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا منصب عطا کر کے ان پر اپنا خصوصی احسان فرمایا اور انہیں اپنی طرف ہدایت دی اور انہیں شریعت کی تشریح اور حقیقت کے کشف کے لئے چن لیا۔

﴿ **إِذَا تَلَّوْا عَلَيْهِمْ آيَاتَ الرَّحْمَنِ** : جب ان کے سامنے رحمن کی آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ﴿ اس آیت سے مراد یہ ہے کہ اے لوگو! تم سے پہلے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نسبی شرافت میں بلند رتبہ رکھنے، نفس کے کامل ہونے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب کے مقام پر فائز ہونے کے باوجود جب اپنے اوپر نازل ہونے والی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی آیتیں سنتے تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے رویا کرتے اور سجدے کیا کرتے تھے تو تم بھی ان کی سیرت پر عمل کرو (اور جب قرآن کی آیتیں سنو تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے گریہ و زاری کیا کرو)۔^(۱)

اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا شعار

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی آیات سن کر رونا انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی سنت اور ان کا طریقہ ہے۔ سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بھی قرآن مجید کی آیات سن کر رویا کرتے تھے، جیسا کہ حضرت ابراہیم

1..... روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۵۸، ۳/۵، ۳۴۳، حازن، مریم، تحت الآیة: ۵۸، ۳/۳، ۲۳۹، ملتقطاً.

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَمَاتے ہیں: حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا ”مجھے قرآن پاک سناؤ۔ انہوں نے عرض کی: میں (کس طرح) آپ کو قرآن مجید سناؤں حالانکہ آپ پر قرآن مجید نازل ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا ”میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میں کسی اور سے قرآن کریم سنوں۔ راوی کہتے ہیں: پھر انہوں نے آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو سورۃ نساء کی ابتدائی آیات سنائیں اور جب اس آیت پر پہنچے

فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا (۱)

ترجمہ کنز العرفان: تو کیسا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور اے حبیب! تمہیں ان سب پر گواہ اور نگہبان بنا کر لائیں گے۔

تو سرکارِ دو عالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ (۲)

نیز قرآن کریم کی آیات سن کر روناعارفین کی صفت اور صالحین کا شاعر ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِذَا يَتْلَى عَلَيْهِمْ بَيْرُوتٌ لِّأَذْقَانِ سُجَّدًا ۝ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا ۝ وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا ۝ (۳)

ترجمہ کنز العرفان: جب ان کے سامنے اس کی تلاوت کی جاتی ہے تو وہ ٹھوڑی کے بل سجدہ میں گر پڑتے ہیں۔ اور کہتے ہیں ہمارا رب پاک ہے، بیشک ہمارے رب کا وعدہ پورا ہونے والا تھا۔ اور وہ روتے ہوئے ٹھوڑی کے بل گرتے ہیں اور یہ قرآن ان کے دلوں کے جھکنے کو اور بڑھا دیتا ہے۔

(یہ آیت سجدہ ہے، اسے زبان سے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔)

اور حضور پر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بھی اپنی امت کو اس کی تعلیم دی ہے، جیسا کہ حضرت سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”یہ قرآن غم کے ساتھ نازل ہوا تھا، جب تم اسے پڑھو تو روؤ اور اگر رونہ سکو تو رونے کی شکل بنا لو۔“ (۴)

۱..... النساء: ۴۱.

۲..... مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل استماع القرآن... الخ، ص ۴۰۱، الحدیث: ۲۴۸ (۸۰۰).

۳..... بنی اسرائیل: ۱۰۷-۱۰۹.

۴..... ابن ماجہ، کتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في حسن الصوت بالقرآن، ۱۲۹/۲، الحدیث: ۱۳۳۷.

اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ جب بھی قرآن مجید کی تلاوت کرے تو اپنے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کی گرفت و عذاب کو یاد کر کے رویا کرے اور اگر اسے رونا نہ آئے تو رونے والوں جیسی صورت بنالے۔

سجدہ تو کر لیا مگر آنسو نہ نکلے

یاد رہے کہ زیر تفسیر آیت ان آیات میں سے ہے جنہیں پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔ یہاں اسی آیت سے متعلق دو حکایات ملاحظہ ہوں:

(1)..... حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی تلاوت اور (سجدہ کرنے کے بعد) فرمایا ”یہ سجدے ہیں تو رونا کہاں ہے؟“ (1)

(2)..... حضرت عبدالرحمن بن ابولیلی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے سورہ مریم کی تلاوت کی، جب وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”خَسُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا“ پر پہنچے تو انہوں نے سجدہ تلاوت کیا اور جب سجدے سے سر اٹھایا تو فرمایا ”یہ سجدہ ہے تو رونا کہاں ہے؟“ (2) ان بزرگوں کے اس قول سے یہ بھی مراد ہو سکتا ہے کہ سجدہ کر کے رونے والے لوگ اب کہاں ہیں؟ اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ سجدہ تو کر لیتے ہیں لیکن ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر نہیں ہوتیں۔ ان بزرگوں کے یہ فرمان دراصل ہماری تربیت اور اصلاح کے لئے ہیں، اے کاش! ہمیں بھی تلاوت قرآن کے وقت اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونا نصیب ہو جائے۔

آیت ”إِذَا نَسَلْتُمْ عَلَيْكُمْ آيَةُ الرَّحْمَنِ“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس سے تین باتیں معلوم ہوتیں:

- (1)..... اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرنا اور تلاوت کرا کر سننا دونوں ہی پسندیدہ طریقے ہیں۔
- (2)..... اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت خشوع و خضوع کے ساتھ کرنا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہے۔
- (3)..... اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ یا سن کر عذاب کے خوف یا دل کے ذوق کی وجہ سے گریہ و زاری کرنا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور اس کے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی سنت ہے۔

①..... شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في البكاء عند قراءة، ۳۶۵/۲، الحديث: ۲۰۵۹.

②..... شرح البخاري لابن بطال، كتاب فضائل القرآن، باب البكاء عند قراءة القرآن، ۲۸۲/۱۰.

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهْوَاتِ فَسُوفَ يَلْقَوْنَ غِيًّا ۝۵۹

ترجمہ کنزالایمان: تو ان کے بعد ان کی جگہ وہ ناخلف آئے جنہوں نے نمازیں گنوائیں اور اپنی خواہشوں کے پیچھے ہوئے تو عنقریب وہ دوزخ میں غی کا جنگل پائیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کیا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کی تو عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔

﴿فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ﴾: تو ان کے بعد وہ نالائق لوگ ان کی جگہ آئے۔ ﴿اس آیت میں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے بعد آنے والے ناخلف اور نالائق لوگوں کی دو خرابیاں بیان کی گئی ہیں۔ (1)..... انہوں نے نمازیں ضائع کیں۔ اس سے مراد فرض نمازیں چھوڑ دینا یا نماز کا وقت گزار کر نماز پڑھنا مراد ہے، مثلاً ظہر کی نماز عصر میں اور عصر کی مغرب میں پڑھنا۔ (2)..... اپنی خواہشوں کی پیروی کی۔ یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو ترجیح دی اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کی بجائے گناہوں کو اختیار کیا۔ (1) ایسے لوگوں کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے مجھ سے پہلے جس امت میں بھی جو نبی بھیجا اس نبی کے لئے اس امت میں سے کچھ مددگار اور اصحاب ہوتے تھے جو اپنے نبی کے طریقہ کار پر کار بند رہتے، پھر ان صحابہ کے بعد کچھ نالائق لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے اپنے کام کے خلاف بات کی اور جس کا حکم دیا گیا اس کے خلاف کام کیا لہذا جس شخص نے ہاتھوں سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے ان کے خلاف زبان سے جہاد کیا وہ مومن ہے، اور جس نے دل سے ان کے خلاف جہاد کیا وہ بھی مومن ہے اور اس کے بعد رائی کے دانہ برابر بھی ایمان کا کوئی درجہ نہیں۔ (2)“

1.....خازن، مریم، تحت الآیة: ۵۹، ۳/۲۴۰.

2.....مسلم، کتاب الایمان، باب بیان کون النہی عن المنکر من الایمان... الخ، ص ۴۴، الحدیث: ۸۰ (۵۰).

نماز ضائع کرنے کی صورتیں اور 3 وعیدیں

اس آیت میں نمازیں ضائع کرنے کو سب سے پہلے اور دیگر گناہوں کو بعد میں ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ نمازیں ضائع کرنا گناہوں کی جڑ ہے۔ نمازیں ضائع کرنے کی کئی صورتیں ہیں، جیسے نماز نہ پڑھنا، بے وقت پڑھنا، ہمیشہ نہ پڑھنا، ریاکاری سے پڑھنا اور نیت کے بغیر نماز شروع کر دینا وغیرہ۔ احادیث میں نماز ضائع کرنے کی بہت وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 3 وعیدیں درج ذیل ہیں۔

(1)..... حضرت نوفل بن معاویہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے۔“ (1)

(2)..... حضرت اُمّ ایمن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے، حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”قصداً نماز ترک نہ کرو کیونکہ جو قصداً نماز ترک کر دیتا ہے، اللہ عزّوجلّ اور رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اس سے بری الذمہ ہیں۔“ (2)

(3)..... حضرت عقبہ بن عامر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”عنقریب میری امت سے کتاب والے اور دودھ والے ہلاک ہوں گے۔ میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، کتاب والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا ”یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی کتاب کو اس لئے سیکھیں گے تاکہ اس کے ذریعے ایمان والوں سے جھگڑا کریں۔ میں نے پھر عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، دودھ والوں سے کیا مراد ہے؟ ارشاد فرمایا ”یہ وہ لوگ ہیں جو خواہشات کی پیروی کریں گے اور اپنی نمازیں ضائع کریں گے۔“ (3)

﴿فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا﴾ عنقریب وہ جہنم کی خوفناک وادی غی سے جا ملیں گے۔ آیت کے اس حصے میں نمازیں ضائع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے مقابلے میں اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے والوں کا انجام بیان کیا گیا کہ وہ عنقریب جہنم کی خوفناک وادی غی میں ڈال دیئے جائیں گے۔

①..... بخاری، کتاب المناقب، باب علامات النبوة فی الاسلام، ۵۰/۲، الحدیث: ۳۶۰۲.

②..... مسند امام احمد، مسند القبائل، حدیث ام ایمن رضی اللہ عنہا، ۳۸۶/۱۰، الحدیث: ۲۷۴۳۳.

③..... مستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورة مریم، سیہلک من امتی اهل الكتاب واهل اللبن، ۱۲۶/۳، الحدیث: ۳۴۶۹.

جہنم کی وادی ”غی“ کا تعارف

حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: غی جہنم میں ایک وادی ہے جس کی گرمی سے جہنم کی وادیاں بھی پناہ مانگتی ہیں۔ یہ اُن لوگوں کے لئے ہے جو زنا کے عادی اور اس پر مُصر ہوں، جو شراب کے عادی ہوں، جو سود خور اور سود کے عادی ہوں، جو والدین کی نافرمانی کرنے والے ہوں اور جو جھوٹی گواہی دینے والے ہوں۔^(۱)

صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: غی جہنم میں ایک وادی ہے، جس کی گرمی اور گہرائی سب سے زیادہ ہے، اس میں ایک کنواں ہے، جس کا نام ”هَبْهَبُ“ ہے، جب جہنم کی آگ بجھنے پر آتی ہے، اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کنویں کو کھول دیتا ہے، جس سے وہ بدستور بھڑکنے لگتی ہے۔ قَالَ اللهُ تَعَالَى: (اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا)

كَلْبَاخِبَتْ زِدْنَهُمْ سَعِيرًا
جب بجھنے پر آئے گی ہم انھیں اور بھڑک زیادہ کریں گے۔“

یہ کنواں بے نمازوں اور زانیوں اور شرابیوں اور سود خواروں اور ماں باپ کو ایذا دینے والوں کے لیے ہے۔^(۲)

إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلِيكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ
وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا ۖ

ترجمہ کنز الایمان: مگر جو تائب ہوئے اور ایمان لائے اور اچھے کام کئے تو یہ لوگ جنت میں جائیں گے اور انہیں کچھ نقصان نہ دیا جائے گا۔

ترجمہ کنز العرفان: مگر جنہوں نے توبہ کی اور ایمان لائے اور نیک کام کئے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی۔

﴿إِلَّا مَنْ تَابَ﴾: مگر جنہوں نے توبہ کی۔ ﴿وَعَمِلَ صَالِحًا﴾: ارشاد فرمایا کہ نمازیں ضائع کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی بجائے گناہوں

①..... بغوی، مریم، تحت الآية: ۵۹، ۳/۱۶۸.

②..... بہار شریعت، حصہ سوم، نماز کا بیان، ۱۱/۳۳۴۔

کو اختیار کرنے والے تو جہنم کی خوفناک وادی غی میں جائیں گے مگر جنہوں نے کفر و شرک اور دیگر گناہوں سے توبہ کر لی اور کفر کی جگہ ایمان کو اختیار کیا اور اس کے بعد نیک کام کئے تو یہ لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی اور ان کے اعمال کی جزا میں کچھ بھی کمی نہ کی جائے گی۔^(۱) اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافر کے لئے پہلے کفر سے بیزاری کا اظہار کرنا، پھر ایمان لانا اور پھر نیک اعمال کرنا ضروری ہیں۔

جَنَّتِ عَدْنِ الَّتِي وَعَدَ الرَّحْمَنُ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ ۗ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًا ۝۶۱

ترجمہ کنزالایمان: بسنے کے باغ جن کا وعدہ رحمن نے اپنے بندوں سے غیب میں کیا بیشک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں (داخل ہوں گے) جن کا وعدہ رحمن نے اپنے بندوں سے ان کے دیکھے بغیر فرمایا ہے۔ بیشک اس کا وعدہ آنے والا ہے۔

﴿جَنَّتِ عَدْنِ﴾: ہمیشہ رہنے کے باغوں میں۔ یعنی جنہوں نے توبہ کی، ایمان لائے اور نیک اعمال کئے وہ ہمیشہ رہنے کے ان باغوں میں داخل ہوں گے جن کا وعدہ رحمن نے اپنے ان بندوں سے فرمایا ہے اس حال میں کہ جنت ان سے غائب ہے اور ان کی نظر کے سامنے نہیں یا اس حال میں کہ وہ جنت سے غائب ہیں اور اس کا مشاہدہ نہیں کرتے اور یہ محض اس کی خبر ملنے سے ہی اس پر ایمان لے آئے ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ نے جنت کا جو وعدہ فرمایا ہے اس کا وہ وعدہ یقینی طور پر آنے والا ہے۔^(۲)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلًا ۖ وَلَهُمْ فِيهَا بُكْرًا وَعِشَاءً ۝۶۲

ترجمہ کنزالایمان: وہ اس میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام اور انہیں اس میں ان کا رزق ہے صبح و شام۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے مگر سلام اور ان کیلئے اس میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔

①.....روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۶۰، ۳۴۵/۵۔

②.....روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۶۱، ۳۴۵/۵۔

﴿لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا﴾: وہ ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے۔ یعنی جن باغات کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے وعدہ فرمایا ہے ان کا وصف یہ ہے کہ جنتی ان باغات میں کوئی بیکار بات نہ سنیں گے، البتہ وہ فرشتوں کا یا آپس میں ایک دوسرے کا سلام سنیں گے اور ان کیلئے جنت میں صبح و شام ان کا رزق ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جنت میں انہیں دائمی طور پر رزق ملے گا کیونکہ جنت میں رات اور دن نہیں ہیں بلکہ اہل جنت ہمیشہ نور ہی میں رہیں گے۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے دن کی مقدار میں دو مرتبہ جنتی نعمتیں ان کے سامنے پیش کی جائیں گی (ابتدائے وہ خود جس وقت جتنا چاہیں گے کھائیں گے، ان پر کوئی پابندی نہ ہوگی)۔^(۱)

بیکار باتوں سے پرہیز کریں

اللہ تعالیٰ نے اپنی عظیم الشان نعمتوں کے گھر جنت کو فضول اور بیکار باتوں سے پاک فرمایا ہے، اس سے معلوم ہوا دنیا میں رہتے ہوئے بھی ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ بیکار باتوں سے بچتا رہے اور فضول کلام سے پرہیز کرے۔ اللہ تعالیٰ کامل ایمان والوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا^(۲)
ترجمہ کنزالعرفان: اور جب کسی بیہودہ بات کے پاس سے گزرتے ہیں تو اپنی عزت سنبھالتے ہوئے گزر جاتے ہیں۔

اور ارشاد فرماتا ہے

وَإِذَا سَبَعُوا اللَّغْوًا عَرُضُوا عَنْهُ وَقَالُوا النَّآءُ
أَعْمَالُنَا وَلكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ
لَا تَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ^(۳)
ترجمہ کنزالعرفان: اور جب بیہودہ بات سنتے ہیں اس سے منہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں: ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں اور تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں۔ بس تمہیں سلام، ہم جاہلوں (کی دوستی) کو نہیں چاہتے۔

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا

①..... روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۶۲، ۲۴۵/۵.

②..... فرقان: ۷۲.

③..... قصص: ۵۵.

” (یہ بات) آدمی کے اسلام کے حسن سے ہے کہ وہ لایعنی چیز کو چھوڑ دے۔^(۱) اللہ تعالیٰ ہمیں بیکار باتوں اور فضول کلام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔

تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا ۝۶۳

ترجمہ کنزالایمان: یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: یہ وہ باغ ہے جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے اسے کریں گے جو پرہیزگار ہو۔

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ﴾: یہ وہ باغ ہے۔ یعنی جس جنت کے اوصاف بیان ہوئے یہ وہ باغ ہے جو ہم اپنے ان بندوں کو عطا کریں گے جو پرہیزگار ہو۔ اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ ہم نے جنت میں کفار کے ایمان لانے کی صورت میں ان کے لئے جو مکانات تیار کئے ہیں ان کا وارث ہم اپنے پرہیزگار بندوں کو کریں گے۔^(۲) یاد رہے کہ جنت متقی اور پرہیزگار مسلمان کو ملے گی اور گناہگار مسلمانوں کو بھی جو جنت ملے گی وہ ان کے گناہوں کی معافی یا خاتمے کے بعد ہی ملے گی یعنی جنت میں داخل ہوتے وقت وہ بھی گناہوں سے پاک ہو چکے ہوں گے۔

وَمَا نَنْزِلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ

ذَلِكَ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ۝۶۴

ترجمہ کنزالایمان: (اور جبریل نے محبوب سے عرض کی) ہم فرشتے نہیں اترتے مگر حضور کے رب کے حکم سے اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے اور حضور کا رب بھولنے والا نہیں۔



①.....ترمذی، کتاب الزہد، ۱۱-باب، ۱۴۲/۴، الحدیث: ۲۳۲۵۔

②.....روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۶۳، ۳۴۶/۵، حازن، مریم، تحت الآیة: ۶۳، ۲۴۰/۳، ملقطاً۔

ترجمہ کنز العرفان: اور ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ سب اسی کا ہے جو ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے اور جو اس کے درمیان ہے اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔

﴿وَمَا تَنْزَلُ إِلَّا بِأَمْرِ رَبِّكَ﴾ ہم فرشتے صرف آپ کے رب کے حکم سے ہی اترتے ہیں۔ ﴿اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَام سے فرمایا: اے جبریل! عَلَيْهِ السَّلَام، تم جتنا ہمارے پاس آتے ہو اس سے زیادہ کیوں نہیں آتے؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔^(۱) اور حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَام نے اللہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ہم فرشتے صرف آپ کے رب عَزَّوَجَلَّ کے حکم سے ہی اترتے ہیں اور تمام جگہوں کا وہی مالک ہے، ہم ایک مکان سے دوسرے مکان کی طرف نقل و حرکت کرنے میں اس کے حکم و مشیت کے تابع ہیں، وہ ہر حرکت و سکون کا جاننے والا اور غفلت و نسیان سے پاک ہے، اس لئے وہ جب چاہے گا ہمیں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی خدمت میں بھیجے گا۔^(۲)

اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ وہ کچھ بھول جائے۔ اس سے ان لوگوں کو اپنے طرزِ عمل پر غور کرنے کی سخت ضرورت ہے جو مذاق میں کسی بوڑھے کے بارے میں یا کسی چیز کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو اسے بھول ہی گیا ہے۔ یہ کہنا صریح کفر ہے اور ایسا کہنے والا کافر ہے۔

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدْهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِهِ ۗ
هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَيًّا ۙ

ترجمہ کنز الایمان: آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے سب کا مالک تو اسے پوجو اور اس کی بندگی پر ثابت

①.....بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائكة، ۳۸۴/۲، الحدیث: ۳۲۱۸.

②.....مدارك، مریم، تحت الآية: ۶۴، ص ۶۷۹.

رہو کیا اس کے نام کا دوسرا جانتے ہو۔

ترجیہ کنز العرفان: آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا رب (وہی ہے) تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، کیا تم اللہ کا کوئی ہم نام جانتے ہو؟

﴿رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: آسمانوں اور زمین کا رب۔ ﴿یعنی اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ﴾، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا مالک آپ کا رب عَزَّ وَجَلَّ ہی ہے، آپ اسی کی عبادت کرتے رہیں اور اس کی عبادت پر ڈٹ جائیں، کیا آپ اللہ تعالیٰ کا کوئی ہم نام جانتے ہیں؟ یعنی کسی کو اس کے ساتھ نام کی شرکت بھی نہیں اور اس کی وحدانیت اتنی ظاہر ہے کہ مشرکین نے بھی اپنے کسی باطل معبود کا نام ”اللہ“ نہیں رکھا۔

اس آیت مبارکہ میں فرمایا گیا کہ اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ، اس سے معلوم ہوا کہ خوشی و غم ہر حال میں ہمیشہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہی حکم ہے اور یہی بارگاہِ خدا عَزَّ وَجَلَّ میں محبوب ہے، صرف خوشی یا صرف غم میں عبادت کرنا کمال نہیں۔ آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ربوبیت بیان کر کے عبادت کا حکم دینے میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا بندے کو پالنا، نعمتیں پہنچانا اور بتدریج مرتبہ کمال تک پہنچانا بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ بندے احسان مندی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔

وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ إِذَا مَاتَ لَسَوْفَ أُخْرَجَ حَيًّا ۖ

ترجیہ کنز الایمان: اور آدمی کہتا ہے کیا جب میں مر جاؤں گا تو ضرور عنقریب جلا کر نکالا جاؤں گا۔

ترجیہ کنز العرفان: اور آدمی کہتا ہے: کیا جب میں مر جاؤں گا تو عنقریب مجھے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا؟

﴿وَيَقُولُ الْإِنْسَانُ﴾: اور آدمی کہتا ہے۔ ﴿اس آیت میں انسان سے مراد وہ کفار ہیں جو موت کے بعد زندہ کئے جانے کے منکر تھے جیسے اُبی بن خلف اور ولید بن مغیرہ اور ان جیسے تمام کفار، انہیں لوگوں کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ یہ کافر انسان مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا مذاق اڑاتے اور اسے جھٹلاتے ہوئے کہتا ہے کہ کیا جب میں

مر جاؤں گا تو عنقریب مجھے قبر سے زندہ کر کے ضرور نکالا جائے گا؟^(۱)

أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْئًا ۝۲۷

ترجمہ کنزالایمان: اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے بنایا اور وہ کچھ نہ تھا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کیا آدمی کو یاد نہیں کہ ہم نے اس سے پہلے اسے پیدا کیا حالانکہ وہ کوئی شے نہ تھا۔

﴿أَوَلَا يَذْكُرُ الْإِنْسَانُ﴾ اور کیا آدمی کو یاد نہیں۔ ﴿اللَّهُ تَعَالَى﴾ نے اس کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو مردوں کے زندہ کرنے پر اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کا منکر ہے، کیا اُس نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ ہم نے اسے اس وقت بنا دیا جب وہ بالکل معدوم تھا تو جب اصلاً معدوم ہونے کے باوجود ہم اسے وجود اور زندگی دے سکتے ہیں تو اگر ہم مردے کو زندہ کر دیں تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے حالانکہ اب تو اس کی اصل موجود ہے۔

اس آیت کی مناسبت سے یہاں ایک حدیث قدسی ملاحظہ ہو، صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ”اللَّهُ تَعَالَى ارشاد فرماتا ہے ”انسان نے مجھے جھٹلایا اور یہ اس کے لیے مناسب نہیں، اور اس نے مجھے گالی دی جبکہ یہ بھی اس کے لیے مناسب نہیں۔ پس اس کا جھٹلانا تو یہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ ہمیں دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا جیسا کہ ہمیں پہلے پیدا کیا گیا، حالانکہ پہلی دفعہ بنانا میرے لئے دوبارہ زندہ کرنے سے زیادہ آسان نہیں ہے اور اس کا گالی دینا یہ ہے جو وہ کہتا ہے کہ خدا کا بیٹا بھی ہے، حالانکہ میں اکیلا ہوں، بے نیاز ہوں، نہ میں نے کسی کو جنا اور نہ مجھے کسی نے جنا، اور کوئی ایک بھی میری برابری کرنے والا نہیں۔“^(۲)

فَوَرَأَيْكَ لَئِذَا خُشِنَتْ لَهُمُ السُّيُوفُ وَالشَّيْطَانُ ثُمَّ لَنَحْنُ لَهُمْ حَوْلَ جَهَنَّمَ جِثِيًّا ۝۲۸

①.....خازن، مریم، تحت الآية: ۶۶، ۲۴۱/۳، جلالین، مریم، تحت الآية: ۶۶، ص ۲۵۸، ملتقطاً.

②.....بخاری، کتاب التفسیر، سورة قل هو الله احد، ۱-باب، ۳۹۴/۳، الحدیث: ۴۹۷۴.

ترجمہ کنز الایمان: تو تمہارے رب کی قسم ہم انہیں اور شیطانوں سب کو گھیر لائیں گے اور انہیں دوزخ کے آس پاس حاضر کریں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

ترجمہ کنز العرفان: تو تیرے رب کی قسم! ہم انہیں اور شیطانوں کو جمع کر لیں گے پھر انہیں دوزخ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے۔

﴿فَوَرَأَيْتُكَ لَمَنْ خَشَرْتَهُمْ﴾: تو تمہارے رب کی قسم! ہم انہیں جمع کر لیں گے۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِہٖ وَسَلَّمَ، آپ کے رب کی قسم! ہم مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کا انکار کرنے والے کافروں کو قیامت کے دن زندہ کر کے انہیں گمراہ کرنے والے شیطانوں کے ساتھ اس طرح جمع کر لیں گے کہ ہر کافر شیطان کے ساتھ ایک زنجیر میں جکڑا ہوگا، پھر انہیں دوزخ کے آس پاس اس حال میں حاضر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مشاہدہ کر کے دہشت کے مارے ان سے کھڑا ہونا مشکل ہو جائے گا اور وہ گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔^(۱) اور کافروں کی ایسی ذلت و رسوائی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور سعادت مند بندے اس بات پر بہت خوش ہو رہے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس ذلت سے نجات عطا فرمائی جبکہ ان کے دشمن کفار ان کی سعادت و خوش بختی دیکھ کر حسرت و افسوس اور انہیں برا بھلا کہنے پر خود کو ملامت کر رہے ہوں گے۔

یاد رہے کہ قیامت کے دن لوگوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ اس دن کی شدت اور حساب کی سختی دیکھ کر ہر دین والا زانو کے بل گرا ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً^(۲)
ترجمہ کنز العرفان: اور تم ہر گروہ کو زانو کے بل گرے ہوئے دیکھو گے۔

اور ایک وقت ایسا آئے گا کہ کافروں کو جب جہنم کے قریب حاضر کیا جائے گا تو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مشاہدہ کر کے گھٹنوں کے بل گر جائیں گے جیسا کہ زیر تفسیر آیت میں بیان ہوا، تو ان دونوں آیات میں جدا جدا احوال کا بیان ہے

①.....خازن، مریم، تحت الآیة: ۶۸، ۲۴۱/۳-۲۴۲، روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۶۸، ۳۴۹/۵.

②.....سورۃ جاثیہ: ۲۸.

اس لئے ان میں کوئی تعارض نہیں۔

دنیا و آخرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب

اس آیت کی تفسیر میں بیان ہوا کہ کافر اور اسے گمراہ کرنے والا شیطان ایک ساتھ زنجیر میں جکڑا ہوگا، اس مناسبت سے ہم یہاں دنیا اور آخرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا ایک سبب بیان کرتے ہیں، چنانچہ جو شخص قرآن مجید سے اس طرح اندھا بن جائے کہ اس کی ہدایتوں کو دیکھے نہ ان سے فائدہ اٹھائے، اللہ تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرے اور اس کی گرفت اور عذاب سے بے خوف ہو جائے، دُنیوی زندگی کی لذتوں اور آسائشوں میں زیادہ مشغولیت اور اس کی فانی نعمتوں اور نفسانی خواہشات میں انہماک کی وجہ سے قرآن سے منہ پھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتا ہے جو دنیا میں اسے حلال کاموں سے روک کر اور حرام کاموں کی ترغیب دے کر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے منع کر کے اور اس کی نافرمانی کا حکم دے کر گمراہ کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اسے کفر کی اندھیری وادیوں میں دھکیل کر حالت کفر میں مروا تا ہے اور پھر یہی شیطان قیامت کے دن بھی اس کے ساتھ ہوگا کہ ان دونوں کو ایک ساتھ زنجیر میں جکڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

وَمَنْ يَّعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِصْ لَهُ
شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ ۝ وَإِنَّهُمْ لَيَبْصُرُونَهُمْ
عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ ۝
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ نَقَالَ يَلَيْتُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ
بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَيَنْسُ الْقَرِينَ (۱)

ترجمہ کنزالعرفان: اور جو رحمن کے ذکر سے منہ پھیرے تو ہم اس پر ایک شیطان مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی رہتا ہے۔ اور بیشک وہ شیاطین ان کو راستے سے روکتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے رہتے ہیں کہ وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ یہاں تک کہ جب وہ کافر ہمارے پاس آئے گا تو (اپنے ساتھی شیطان سے) کہے گا: اے کاش! میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کے برابر دوری ہو جائے تو تو کتنا ہی برا ساتھی ہے۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

وَقَيْصًا لَهُمْ قُرْنَاءَ فَرِيضُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے کافروں کیلئے کچھ ساتھی مقرر کر

أَيُّدِيهِمْ وَمَا خَلَقَهُمْ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْقَوْلُ فِي
أَمْرِ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمْ مِنَ الْجِنَّ وَالْإِنْسِ
إِنَّهُمْ كَانُوا خَسِرِينَ (۱)

دیئے تو انہوں نے ان کے لئے ان کے آگے اور ان کے پیچھے کو
خوبصورت بنا دیا۔ ان پر بات پوری ہو گئی جو ان سے پہلے گزرے
ہوئے جنوں اور انسانوں کے گروہوں پر ثابت ہو چکی ہے۔ بیشک
وہ نقصان اٹھانے والے تھے۔

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا
”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی موت سے ایک سال پہلے اس پر ایک شیطان مقرر کر
دیتا ہے تو وہ جب بھی کسی نیک کام کو دیکھتا ہے وہ اسے برا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس پر عمل نہیں کرتا اور جب بھی
وہ کسی برے کام کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اچھا معلوم ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ اس پر عمل کر لیتا ہے۔“ (۲)

اس میں خاص طور پر کفار اور عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لئے نصیحت ہے کہ وہ ایسے کام کرنے سے بچیں جن
کی وجہ سے شیطان کو ان کا ساتھی بنا دیا جائے کیونکہ شیطان انتہائی برا ساتھی ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے
وَمَنْ يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا (۳)
ترجمہ کنز العرفان: اور جس کا ساتھی شیطان بن جائے تو کتنا
برساتھی ہو گیا۔

اور جس کا ساتھی شیطان ہو وہ اپنے انجام پر خود ہی غور کر لے کہ کیسا ہوگا۔

ثُمَّ لَنَنْزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا (۶۹) ثُمَّ لَنَحْنُ
أَعْلَمُ بِالَّذِينَ هُمْ أَوْلَىٰ بِهَا صِلِيًّا (۷۰)

ترجمہ کنز الایمان: پھر ہم ہر گروہ سے نکالیں گے جو ان میں رحمن پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ پھر ہم خوب جانتے
ہیں جو اس آگ میں بھوننے کے زیادہ لائق ہیں۔

①..... حم السجده: ۲۵۔

②..... مسند الفردوس، باب الالف، ۲۴۵/۱، الحدیث: ۹۴۸۔

③..... النساء: ۳۸۔

ترجمہ کنز العرفان: پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمن پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا۔ پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں جو آگ میں جلنے کے زیادہ لائق ہیں۔

﴿ثُمَّ لَنُنزِعَنَّ مِنْ كُلِّ شِيعَةٍ﴾ پھر ہم ہر گروہ سے اسے نکالیں گے۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ جہنم کے آس پاس کفار کو جمع کرنے کے بعد ہم کفار کے ہر گروہ سے اسے نکالیں گے جو ان میں رحمن کی نافرمانی کرنے پر سب سے زیادہ بے باک ہوگا تا کہ جہنم میں سب سے پہلے اُسے داخل کیا جائے جو سب سے زیادہ سرکش اور کفر میں زیادہ شدید ہو اور بعض روایات میں ہے کہ کفار سب کے سب جہنم کے گرد زنجیروں میں جکڑے طوق ڈالے ہوئے حاضر کئے جائیں گے پھر جو کفر و سرکشی میں زیادہ سخت ہوں گے وہ پہلے جہنم میں داخل کئے جائیں گے اور انہیں باقی کافروں کے مقابلے میں عذاب بھی زیادہ سخت ہوگا۔^(۱)

کفار کے عذاب میں فرق ہوگا

یاد رہے کہ کفر اگرچہ یکساں ہے کہ ”الْكُفْرُ مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ“ یعنی کفر ایک ہی ملت ہے، مگر کفار مختلف قسم کے ہیں کہ بعض ان میں سے وہ ہیں جو خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور بعض وہ ہیں جو کسی کی پیروی کر کے گمراہ ہوئے تو ان میں ہر قسم کے کافر کو اس قسم کا عذاب ہوگا جس کا وہ مستحق ہے جیسے گمراہ گمراہوں کو پیروی کرنے والے کفار کے مقابلے میں دگنا عذاب ہوگا، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنز العرفان: جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کی راہ سے روکا ہم ان کے فساد کے بدلے میں عذاب پر عذاب کا اضافہ کر دیں گے۔

الَّذِينَ كَفَرُوا وَاصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ زِدْنَاهُمْ عَذَابًا فَوْقَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يُفْسِدُونَ^(۲)

اور ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنز العرفان: اور بیشک ضرور اپنے بوجھ اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ اور بوجھ اٹھائیں گے۔

وَلِيَحْمِلْنَ أُنْقَالَهُمْ وَأُنْقَالًا مَعَ أُنْقَالِهِمْ^(۳)

①.....بخاری، مریم، تحت الآية: ۶۹، ۲۴۲/۳.

②.....نحل: ۸۸.

③.....عنکبوت: ۱۳.

﴿ثُمَّ لَنَحْنُ أَعْلَمٌ﴾: پھر ہم انہیں خوب جانتے ہیں۔ ﴿یعنی ہم خوب جانتے ہیں کہ کون سا کافر جہنم کے کس طبقہ کے لائق ہے اور کون سا کافر جہنم کے شدید عذاب کا مستحق ہے اور کون سا نہیں اور کسے پہلے جہنم میں پھینکا جائے گا اور کسے بعد میں۔﴾

وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ﴿٤١﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور تم میں کوئی ایسا نہیں جس کا گزر دوزخ پر نہ ہو تمہارے رب کے ذمہ پر یہ ضرور ٹھہری ہوئی بات ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ یہ تمہارے رب کے ذمہ پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔

﴿وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا﴾: اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔ ﴿اس آیت سے متعلق مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے 3 قول درج ذیل ہیں:

(1)..... اس آیت میں کافروں سے خطاب ہے (اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے۔)
 (2)..... اس میں خطاب تمام لوگوں سے ہے اور جہنم پر وارد ہونے سے مراد جہنم میں داخل ہونا ہے البتہ (جنت میں جانے والے) مسلمانوں پر جہنم کی آگ ایسے سرد ہو جائے گی جیسے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر دنیا میں آگ سرد ہوئی تھی اور ان کا یہ داخلہ عذاب پانے کے طور پر نہ ہوگا اور نہ ہی یہ وہاں خوفزدہ ہوں (بلکہ ان کا یہ داخلہ صرف اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کی تصدیق کے لئے ہوگا۔) (1)

(3)..... علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”اس آیت میں خطاب عام مخلوق سے ہے (یعنی اس خطاب میں نیک و بد تمام لوگ داخل ہیں) اور جہنم پر وارد ہونے سے (نیک و بد) تمام لوگوں کا جہنم میں داخل ہونا مراد نہیں (بلکہ اس سے مراد جہنم کے اوپر سے گزرنا ہے، جیسا کہ) حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سے روایت ہے کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط پر سے گزرنا ہے جو کہ جہنم کے اوپر بچھایا گیا ہے۔ (2)



1..... تاویلات اهل السنه، مريم، تحت الآية: ۷۱، ۳/۲۷۴-۲۷۵.

2..... البحر المحيط، مريم، تحت الآية: ۷۱، ۶/۱۹۷.

﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَسْبًا مَّقْضِيًّا﴾: یہ تمہارے رب کے ذمہ پر حتمی فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ ﴿یعنی جہنم پر وارد ہونا اللہ تعالیٰ کا وہ حتمی فیصلہ ہے جو اس نے اپنے تمام بندوں پر لازم کیا ہے۔﴾

پل صراط سے متعلق چند اہم باتیں

اس آیت کی تفسیر میں پل صراط سے گزرنے کا بھی ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں پل صراط سے متعلق چند اہم باتیں ملاحظہ ہوں، چنانچہ صدر الشریعہ مفتی امجد علی اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”صراط حق ہے۔ یہ ایک پل ہے کہ پشتِ جہنم پر نصب کیا جائے گا۔ بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہوگا۔ جنت میں جانے کا یہی راستہ ہے۔ سب سے پہلے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ گزر فرمائیں گے، پھر اور انبیاء و مرسلین، پھر یہ اُمت پھر اور امتیں گزریں گی اور حسبِ اختلافِ اعمالِ پل صراط پر لوگ مختلف طرح سے گزریں گے، بعض تو ایسے تیزی کے ساتھ گزریں گے جیسے بجلی کا کوندا کہ ابھی چمکا اور ابھی غائب ہو گیا اور بعض تیز ہوا کی طرح، کوئی ایسے جیسے پرند اڑتا ہے اور بعض جیسے گھوڑا دوڑتا ہے اور بعض جیسے آدمی دوڑتا ہے، یہاں تک کہ بعض شخص سرین پر گھسٹتے ہوئے اور کوئی چیونٹی کی چال جائے گا اور پل صراط کے دونوں جانب بڑے بڑے آنکڑے (اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) ہی جانے کہ وہ کتنے بڑے ہونگے) لٹکتے ہوں گے، جس شخص کے بارے میں حکم ہوگا اُسے پکڑ لیں گے، مگر بعض تو زخمی ہو کر نجات پا جائیں گے اور بعض کو جہنم میں گرا دیں گے اور یہ ہلاک ہوا۔ یہ تمام اہلِ محشر تو پل پر سے گزرنے میں مشغول، مگر وہ بے گناہ، گناہگاروں کا شفیق پل کے کنارے کھڑا ہوا بکمالِ گریہ و زاری اپنی اُمتِ عاصی کی نجات کی فکر میں اپنے رب سے دُعا کر رہا ہے: ”رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ“ اِلهی! ان گناہگاروں کو بچالے بچالے۔ اور ایک اسی جگہ کیا! حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) اُس دن تمام موطن میں دورہ فرماتے رہیں گے، کبھی میزان پر تشریف لے جائیں گے، وہاں جس کے حسنات میں کمی دیکھیں گے، اس کی شفاعت فرما کر نجات دلوائیں گے اور فوراً ہی دیکھو تو حوضِ کوثر پر جلوہ فرما ہیں، پیاسوں کو سیراب فرما رہے ہیں اور وہاں سے پل پر رونق افروز ہوئے اور گرتوں کو بچایا۔ غرض ہر جگہ اُنھیں کی دوہائی، ہر شخص اُنھیں کو پکارتا، اُنھیں سے فریاد کرتا ہے اور اُن کے سوا کس کو پکارے...؟! کہ ہر ایک تو اپنی فکر میں ہے، دوسروں کو کیا پوچھے، صرف ایک یہی ہیں، جنہیں اپنی کچھ فکر نہیں اور تمام عالم کا بار ان کے ذمے۔^(۱)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس وقت کی منظر کشی کرتے ہوئے کیا خوب فرماتے ہیں:

①..... بہار شریعت، حصہ اول، معاد و حشر کا بیان، ۱۲۷-۱۲۹۔

آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے
 نعمتِ خلد اپنے صدقے میں لٹاتے جائیں گے
 خود وہ گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے
 لوحِ دل سے نقشِ غم کو اب مٹاتے جائیں گے
 رَبِّ سَلِّمْ کی صدا پر وجد لاتے جائیں گے

پیشِ حقِ مژدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے
 کچھ خبر بھی ہے فقیر و آج وہ دن ہے کہ وہ
 خاک اُفتادو! بس اُن کے آنے ہی کی دیر ہے
 آنکھ کھولو غمزدو دیکھو وہ گریاں آئے ہیں
 پائے کو باں پل سے گزریں گے تری آواز پر

پلِ صراط کا خوفناک منظر

یاد رہے کہ پلِ صراط سے گزرنے کا مرحلہ انتہائی مشکل اور اس کا منظر بہت خوفناک ہے، امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: (جب قیامت کے دن) لوگوں کو پلِ صراط کی طرف لے جایا جائے گا جو کہ جہنم کے اوپر بنایا ہوا ہے اور وہ تلوار سے زیادہ تیز، بال سے زیادہ باریک ہے۔ تو جو شخص اس دنیا میں صراطِ مستقیم پر قائم رہا وہ آخرت میں پلِ صراط پر ہلکا ہوگا اور نجات پا جائے گا اور جو دنیا میں استقامت کی راہ سے ہٹ گیا، گناہوں کی وجہ سے اس کی پیٹھ بھاری ہوئی اور وہ نافرمانی کرتا رہا تو پہلے قدم پر ہی وہ پلِ صراط سے پھسل کر (جہنم میں) گر جائے گا۔ تو اے بندے! ذرا سوچ کہ اس وقت تیرا دل کس قدر گھبرائے گا جب تو پلِ صراط اور اس کی باریکی دیکھے گا، پھر اس کے نیچے جہنم کی سیاہی پر تیری نظر پڑے گی، اس کے نیچے آگ کی چیخ اور اس کا غصے میں آنا سننے گا اور کمزور حالت کے باوجود تجھے پلِ صراط پر چلنا ہوگا، چاہے تیرا دل بے قرار ہو، قدم پھسل رہے ہوں اور پیٹھ پر اتنا وزنی بوجھ ہو جو زمین پر چلنے سے رکاوٹ ہے۔ نیز پلِ صراط کی باریکی پر چلنا تو ایک طرف رہا، اس وقت تیری کیا حالت ہوگی، جب تو اپنا ایک پاؤں اس پل پر رکھے گا اور اس کی تیزی کو محسوس کرے گا، لیکن (نہ چاہتے ہوئے بھی) دوسرا قدم اٹھانے پر مجبور ہوگا اور تیرے سامنے لوگ پھسل پھسل کر گر رہے ہوں گے اور جہنم کے فرشتے انہیں کانٹوں اور مڑے ہوئے سرے والے لوہے سے پکڑ رہے ہوں گے اور تو ان کی طرف دیکھ رہا ہوگا کہ وہ کس طرح سر نیچے اور پاؤں اوپر کئے ہوئے جہنم میں جا رہے ہوں گے تو یہ کس قدر خوفناک منظر ہوگا اور تجھے سخت مقام پر چڑھائی کرنی اور تنگ راستے سے گزرنا ہوگا۔ تو اپنی حالت کے بارے میں سوچ کہ جب تو اس پر چلے گا اور چڑھے گا اور بوجھ کی وجہ سے تیری پیٹھ بھاری ہو رہی گی اور اپنے دائیں بائیں لوگوں کو جہنم میں گرتے ہوئے دیکھ رہا ہوگا۔ رسول کریم

صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، اے میرے رب! بچالے، اے میرے رب! بچالے، پکار رہے ہوں گے، تباہی اور خرابی کی پکار جہنم کی گہرائی سے تیری طرف آرہی ہوگی، کیونکہ بے شمار لوگ پل صراط سے پھسل چکے ہوں گے، اس وقت اگر تیرا قدم بھی پھسل گیا تو کیا ہوگا.....؟ اس وقت ندامت بھی تجھے کوئی فائدہ نہ دے گی اور تو بھی ہائے خرابی، ہائے ہلاکت پکار رہا اور یوں کہہ رہا ہوگا کہ میں اسی دن سے ڈرتا تھا، کاش! میں نے اپنی (اس) زندگی کے لیے کچھ آگے بھیجا ہوتا۔ کاش! میں رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوتا۔ ہائے افسوس! میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا۔ کاش! میں مٹی ہو گیا ہوتا۔ کاش! میں بھولا بسرا ہو جاتا۔ کاش! میری ماں نے ہی مجھے پیدا نہ کیا ہوتا۔ اس وقت آگ کے شعلے تجھے اچک لیں گے اور ایک منادی اعلان کر دے گا ”اِحْسُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُون“ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔^(۱) اب چیخنے چلانے، رونے، فریاد کرنے اور مدد مانگنے کے سوا تیرے پاس کوئی راستہ نہ ہوگا۔

اے بندے! تو اس وقت تو اپنی عقل کو کس طرح دیکھتا ہے حالانکہ یہ تمام خطرات تیرے سامنے ہیں؟ اگر تیرا ان باتوں پر عقیدہ نہیں تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ تو دیر تک (یعنی ہمیشہ کیلئے) کفار کے ساتھ جہنم میں رہنا چاہتا ہے اور اگر تو ان باتوں پر ایمان رکھتا ہے لیکن غفلت کا شکار ہے اور اس کے لیے تیاری میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اس میں تیرا نقصان اور سرکشی کتنی بڑی ہے۔ ایسے ایمان کا تجھے کیا فائدہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے اور اس کی نافرمانی چھوڑنے کے ذریعے تجھے اس کی رضا جوئی کی خاطر کوشش کی ترغیب نہیں دیتا، اگر بالفرض تیرے سامنے پل صراط سے گزرنے کے خوف سے پیدا ہونے والی دل کی دہشت کے سوا کچھ نہ ہو، اگرچہ تو سلامتی کے ساتھ ہی گزر جائے تو یہ ہولناک خوف اور رعب کیا کم ہے۔^(۲)

امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مزید فرماتے ہیں: قیامت کے ہولناک حالات میں وہی شخص زیادہ محفوظ ہوگا جو دنیا میں اس کی فکر زیادہ کرے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ ایک بندے پر دو خوف جمع نہیں کرتا، تو جو آدمی دنیا میں ان خوفوں سے ڈرا وہ آخرت کے دن ان سے محفوظ رہے گا، اور خوف سے ہماری مراد عورتوں کی طرح کا خوف نہیں ہے کہ سنتے وقت دل نرم ہو جائے اور آنسو جاری ہو پھر جلد ہی اسے بھول جاؤ اور اپنے کھیل کود میں مشغول ہو جاؤ، کیونکہ اس بات کا خوف سے

①.....مومنون: ۱۰۸۔

②.....احیاء علوم الدین، کتاب ذکر الموت وما بعده، الشطر الثانی، صفة الصراط، ۲۸۵/۵۔

کوئی تعلق نہیں بلکہ جو آدمی کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ اس سے بھاگتا ہے اور جو شخص کسی چیز کی امید رکھتا ہے وہ اسے طلب کرتا ہے، تو تجھے وہی خوف نجات دے گا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے اور اس کی اطاعت پر آمادہ کرے۔ نیز عورتوں کی طرح دل نرم ہونے سے بھی بڑھ کر بے وقوفوں کا خوف ہے کہ جب وہ ہولناک مناظر کے بارے میں سنتے ہیں تو فوراً ان کی زبان پر استعاذہ (یعنی اَعُوذُ بِاللّٰهِ) جاری ہوتا ہے اور وہ کہتے ہیں میں اللہ تعالیٰ کی مدد چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتا ہوں۔ یا اللہ! بچالینا، بچالینا۔ اس کے باوجود وہ گناہوں پر ڈٹے رہتے ہیں جو ان کی ہلاکت کا باعث ہیں۔ شیطان ان کے پناہ مانگنے پر ہنستا ہے جس طرح وہ اس آدمی پر ہنستا ہے جسے صحرا میں کوئی درندہ پھاڑنا چاہتا ہو اور اس کے پیچھے ایک قلعہ ہو، جب وہ دور سے درندے کی داڑھیوں اور اس کے حملہ کرنے کو دیکھے تو زبان سے کہنے لگے کہ میں اس مضبوط قلعے میں پناہ لیتا ہوں اور اس کی مضبوط دیواروں اور سخت عمارت کی مدد چاہتا ہوں اور وہ یہ کلمات اپنی جگہ بیٹھے ہوئے صرف زبان سے کہتا رہے تو یہ بات کس طرح اسے درندے سے بجائے گی.....؟ تو آخرت کا بھی یہی حال ہے کہ اس کا قلعہ صرف سچے دل سے ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ کہنا ہے اور سچائی کا معنی یہ ہے کہ اس کا مقصود صرف اللہ تعالیٰ ہو اور اس کے علاوہ کوئی مقصود و معبود نہ ہو، اور جو شخص اپنی خواہش کو معبود بنا لیتا ہے تو وہ تو حید میں سچائی سے دور ہوتا ہے اور اس کا معاملہ خود خطرناک ہے۔ اگر تم ان باتوں سے عاجز ہو تو اللہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے محبت کرنے والے بن جاؤ، آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سنت کی تعظیم کے حریص ہو جاؤ۔ امت کے نیک لوگوں کے دلوں کی رعایت کا شوق رکھنے والے ہو جاؤ اور ان کی دعاؤں سے برکت حاصل کرو تو ممکن ہے کہ تمہیں نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور ان نیک لوگوں کی شفاعت سے حصہ ملے اور اس وجہ سے تم نجات پا جاؤ اگرچہ تمہاری پونجی کم ہو۔^(۱)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اللَّهُ تَعَالَى کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اور انہی کے الفاظ میں ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ

یا الہی جب چلوں تاریک راہِ پل صراط
یا الہی جب سر شمشیر پر چلنا پڑے
آفتابِ ہاشمی نور الہدیٰ کا ساتھ ہو
رَبِّ سَلِّمْ کہنے والے غمزدہ کا ساتھ ہو

۱..... احیاء علوم الدین، کتاب ذکر الموت و ما بعدہ، الشطر الثانی، صفحہ الصراط، ۲۸۶-۲۸۷.

ثُمَّ نَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًا ﴿٤٢﴾

ترجمہ کنزالایمان: پھر ہم ڈروالوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں چھوڑ دیں گے گھٹنوں کے بل گرے۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر ہم ڈرنے والوں کو بچالیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے چھوڑ دیں گے۔

﴿ثُمَّ نَجِّى الَّذِينَ اتَّقَوْا﴾ پھر ہم ڈرنے والوں کو بچالیں گے۔ اس سے پہلی والی آیت کی تفسیر میں ایک قول گزرا کہ جہنم پر وارد ہونے سے مراد پل صراط سے گزرنا ہے، اُس کے مطابق اس آیت کی تفسیر یہ ہے کہ جب تمام مخلوق پل صراط سے گزرے گی اور کفار و گناہگار مسلمان جہنم میں گر رہے ہوں گے اس وقت اللہ تعالیٰ اہل ایمان میں سے ان لوگوں کو جہنم میں گرنے سے بچالے گا جنہوں نے دنیا میں پرہیزگاری اختیار کی اور وہ کافروں کو جہنم میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا چھوڑ دے گا۔ یاد رہے کہ بعض کفار مسلمان جو پل صراط سے جہنم میں گر جائیں گے انہیں گناہوں کی سزا پوری ہونے کے بعد جہنم سے نکال لیا جائے گا جبکہ کافر ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔

نجانے ہم پل صراط سے نجات پا جائیں گے یا نہیں

ہمارے بزرگانِ دین دنیا میں ہر طرح سے تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے اور نیک اعمال کی کثرت کرنے کے باوجود پل صراط سے نجات پانے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بہت خوفزدہ رہا کرتے تھے، چنانچہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن رواحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اپنی زوجہ محترمہ کی گود میں اپنا سر رکھے ہوئے تھے کہ اچانک رونے لگے، انہیں روتا دیکھ کر زوجہ بھی رونے لگیں۔ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ان سے پوچھا: تم کیوں روتی ہو؟ انہوں نے جواب دیا: میں نے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو روتا دیکھا تو مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا ”مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان یاد آ گیا کہ **”وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا“** اور تم میں سے ہر ایک دوزخ پر سے گزرنے والا ہے۔“ تو مجھے نہیں معلوم کہ میں جہنم سے نجات پا جاؤں گا یا نہیں۔^(۱)

اسی طرح ایک دن حضرت حسن بصری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے بیٹھے تو لوگ ان کے قریب

1..... مستدرک، کتاب الاحوال، برد الناس النار ثم يصدرون عنها باعمالهم، ۵/ ۸۱۰، الحدیث: ۸۷۸۶۔

آنے کے لئے ایک دوسرے کو دھکیلنے لگے، اس پر آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: اے میرے بھائیو! آج تم میرا قرب پانے کے لئے ایک دوسرے کو دھکے دے رہے ہو، کل قیامت میں تمہارا کیا حال ہوگا جب پرہیزگاروں کی مجالس قریب ہوں گی جبکہ گنہگاروں کی مجالس کو دور کر دیا جائے گا، جب کم بوجھ والوں (یعنی نیک لوگوں) سے کہا جائے گا کہ تم پل صراط عبور کر لو اور زیادہ بوجھ والوں (یعنی گناہگاروں) سے کہا جائے گا کہ تم جہنم میں گر جاؤ۔ آہ! میں نہیں جانتا کہ میں زیادہ بوجھ والوں کے ساتھ جہنم میں گر پڑوں گا یا تھوڑے بوجھ والوں کے ساتھ پل صراط پار کر جاؤں گا۔^(۱)

یونہی ایک بار خلیفہ عادل حضرت عمر بن عبدالعزیز رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کی لونڈی نے نیند سے بیدار ہو کر عرض کی: اے امیر المؤمنین! رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، میں نے ابھی ایک خواب دیکھا ہے۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا: وہ خواب بیان کرو۔ لونڈی نے عرض کی: میں نے خواب میں دیکھا کہ جہنم بھڑک رہا ہے اور اس کی پشت پر پل صراط قائم کر دیا گیا ہے، اتنے میں بنی امیہ کے خلیفہ عبدالملک کو لایا گیا، وہ پل صراط پر چند قدم چلا اور جہنم میں گر گیا، پھر ولید بن عبدالملک کو لایا گیا تو وہ بھی چند قدم چل کر جہنم میں گر گیا، پھر خلیفہ سلیمان بن عبدالملک کو لایا گیا تو وہ بھی تھوڑی دور پل صراط پر چل کر جہنم میں اوندھا ہو کر گر پڑا۔ آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے بے قرار ہو کر پوچھا: پھر کیا ہوا؟ لونڈی نے عرض کی: اے امیر المؤمنین! رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، پھر آپ لائے گئے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر بن عبدالعزیز رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ چیخ مار کر بے ہوش ہو گئے اور لونڈی ان کے کان کے قریب جا کر کہنے لگی: اے امیر المؤمنین! رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ، میں نے دیکھا کہ آپ پل صراط سے پار ہو کر نجات پا گئے، خدا کی قسم! آپ سلامتی کے ساتھ پل صراط سے پار ہو گئے، مگر حضرت عمر بن عبدالعزیز رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ برابر پاؤں پٹخ پٹخ کر چیخ مارتے اور روتے رہے۔^(۲) اللہ تعالیٰ ہمیں بھی پل صراط سے گزرنے کے معاملے میں اپنی فکر کرنے اور ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جن کی وجہ سے پل صراط سے گزرنا آسان ہوں۔^(۳)

پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے لئے 3 اعمال

یہاں پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے ساتھ پل صراط پار کر جانے کے لئے 3 اعمال ملاحظہ ہوں:

- ①..... بحر الدموع، الفصل السادس: تنبيه الغافلين من نسيان الآخرة، ص ۵۳.
- ②..... احیاء علوم الدین، کتاب الخوف والرجاء، بیان احوال الصحابة والتابعین والسلف الصالحین فی شدة الخوف، ۲۳۱/۴.
- ③..... پل صراط سے گزرنے سے متعلق دل میں مزید خوف اور فکر پیدا کرنے کے لئے امیر اہلسنت دامت بركاتہم العالیہ کا رسالہ ”پل صراط کی وہشت“ پڑھنا مفید ہے۔

(1)..... درود شریف پڑھنا:

حضرت عبدالرحمن بن سمرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”میں نے گزشتہ رات عجیب معاملات دیکھے (ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ) میں نے اپنے ایک امتی کو دیکھا جو پل صراط پر کبھی گھسٹ کر چل رہا تھا اور کبھی گھٹنوں کے بل چل رہا تھا، اتنے میں وہ دُرُودِ شَرِيفِ آيا جو اس نے مجھ پر بھیجا تھا، اُس نے اُسے پل صراط پر کھڑا کر دیا یہاں تک کہ اُس نے پل صراط کو پار کر لیا۔⁽¹⁾

(2)..... مسجد میں بکثرت حاضر ہونا:

حضرت ابو درداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”مسجد ہر پرہیزگار کا گھر ہے اور جن کے گھر مسجد میں ہوں اللہ تعالیٰ انہیں اپنی رحمت، رضا، اور پل صراط سے حفاظت کے ساتھ گزار کر اپنی رضا (والے گھر جنت) کی ضمانت دیتا ہے۔⁽²⁾

(3)..... مسلمان کی پریشانی دور کرنا:

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جس نے کسی مسلمان کی ایک پریشانی دور کی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے لئے پل صراط پر نور کی ایسی دو شاخیں بنا دے گا جن کی روشنی سے اتنے عالم روشن ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔⁽³⁾

وَإِذْ أَنْتَلَىٰ عَلَيْهِمُ آيَاتِنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا

أُمَّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مَّقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿٤٣﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جاتی ہیں کافر مسلمانوں سے کہتے ہیں کون سے گروہ کا مکان اچھا اور مجلس بہتر ہے۔

①..... معجم الکبیر، حدیث عبد الرحمن بن سمرہ فی رؤیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ۲۵/۲۸۱، الحدیث: ۳۹.

②..... کتاب الجامع فی آخر المصنف، باب اصحاب الاموال، ۱۱/۱۳۵، الحدیث: ۲۰۱۹۸.

③..... معجم الاوسط، باب العین، من اسمہ عبد اللہ، ۴/۳۸۵، الحدیث: ۴۵۰۴.

ترجمہ کنزالعرفان: اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو کافر ایمان والوں سے کہتے ہیں: دونوں گروہوں میں کس کا مکان بہتر اور مجلس اچھی ہے؟

﴿وَإِذَا تُلِيٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِبَيِّنَاتٍ﴾ اور جب ان کے سامنے ہماری روشن آیات کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ﴿نَضْرِبُ بِنُحُورِهِمْ كَوَافِرًا﴾ اور کفار قریش جو کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے منکر تھے جب ان کے سامنے قیامت قائم ہونے اور اجسام کا حشر ہونے پر دلائل پیش کئے گئے تو انہوں نے بناؤ سنگار کر کے، بالوں میں تیل ڈال کر، کنگھیاں کر کے، عمدہ لباس پہن کر اور فخر و تکبر کے ساتھ ان دلائل کے جواب میں غریب فقیر مسلمانوں سے کہا کہ اے مسلمانو! تم اپنی معاشی حالت پر غور کرو اور ہماری معاشی حالت دیکھو، ہم اعلیٰ قسم کی رہائش گاہوں میں رہتے ہیں، اعلیٰ قسم کے لباس پہنتے ہیں، اعلیٰ قسم کا کھانا کھاتے ہیں اور ہماری محفلیں بھی تمہاری محفلوں سے زیادہ بارونق ہیں اور تمہارا حال ہم سے انتہائی برعکس ہے، اس سے تم سمجھ جاؤ کہ اگر ہم باطل پر ہوتے تو ہمارا حال بدتر اور تمہارا حال ہم سے بہتر ہوتا۔“

یاد رہے کہ اس آیت کا مدعا یہ ہے کہ جب آیات نازل کی جاتی ہیں اور دلائل و براہین پیش کئے جاتے ہیں تو کفار ان میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ان سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس کی بجائے وہ مال و دولت اور لباس و مکان پر فخر و تکبر کرتے ہیں۔

دُنْيوی ترقی کو اُخروی بہتری کی دلیل بنانا درست نہیں

اس آیت میں جو دلیل بیان ہوئی یہ کفار کی وہ دلیل ہے جو فی زمانہ کفار اور ان سے مرعوب مسلمان بھی مسلمانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کافروں کی دُنْيوی اور سائنسی ایجادات میں ترقی کی مثالیں پیش کر کے مسلمانوں کے دلوں میں دین اسلام سے متعلق شکوک و شبہات ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ دُنْيوی عیش و عشرت کو آخرت کی بہتری کی دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے حالانکہ یہ چیزیں کبھی آخرت کا وبال بن جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنی حقیقی بہتری کو پہچاننے کی توفیق نصیب کرے۔ آمین۔

وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَحْسَنُ أَثَانًا وَرِئِيًّا ﴿٤٣﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں کھپادیں کہ وہ ان سے بھی سامان اور نمود میں بہتر تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جو ساز و سامان میں اور دکھائی دینے میں ان سے زیادہ اچھے تھے۔

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ﴾ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دنیوی مال و دولت یا عزت و شہرت ہونا کسی کے حق پر ہونے کی کوئی دلیل نہیں، تم سے پہلے تم سے زیادہ مالدار لوگ آئے اور انہوں نے تم سے بھی زیادہ خوبصورت اور مضبوط رہائش گاہیں بنائیں جیسے فرعون ہامان، قارون اور ان کے ساتھی وغیرہ، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے خوبصورت اور مضبوط مکانات تباہ و برباد کر دیئے اور ان کو نشانِ عبرت بنا دیا۔ لہذا تم بھی غور کرو اور اپنی اصلاح کر لو کیونکہ دنیا کا مال و دولت ہونا کامیابی کے لیے کافی نہیں۔ اسی کی کچھ جھلک ہم اپنے قریب زمانے میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک سلطنت کبھی اتنی بڑی تھی کہ اس کی حکومت میں سورج غروب نہ ہوتا تھا لیکن آج وہ چھوٹے سے رقبے پر رہ گئی، یونہی ایک ملک آدھی دنیا کا مالک بننے کا دعویٰ کرتا پھر رہا تھا لیکن بالآخر تباہ و برباد ہوا اور کمزور سے ملک سے ذلیل و خوار ہو کر نکالا گیا اور اب دوبارہ وہ اپنی روٹی پانی کی فکر میں پڑا ہوا ہے۔

قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَبْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّىٰ إِذَا سَأَلُوا مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَذَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ ۖ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرُّ مَكَانًا
وَأَضْعَفُ جُنْدًا ﴿۴۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمن خوب ڈھیل دے یہاں تک کہ جب وہ دیکھیں وہ چیز جس کا انہیں وعدہ دیا جاتا ہے یا تو عذاب یا قیامت تو اب جان لیں گے کہ کس کا برادر جہ ہے اور کس کی فوج کمزور۔

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمن خوب ڈھیل دیدے یہاں تک کہ جب وہ اس چیز کو دیکھیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا تو عذاب اور یا قیامت تو وہ جان لیں گے کہ کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے؟

﴿قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَاةِ﴾: تم فرماؤ: جو گمراہی میں ہو۔ ﴿اس آیت میں کافروں کے نظریے کا ایک اور جواب دیا گیا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ مال و منال پر فخر کرنے والے ان کافروں سے ارشاد فرما دیں کہ جو گمراہی میں ہو تو اسے رحمن عَزَّوَجَلَّ دنیا میں لمبی عمر اور زیادہ مال دے کر خوب ڈھیل دیتا ہے یہاں تک کہ جب وہ گمراہ لوگ اس چیز کو دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا تو دنیا میں قتل و قید کا عذاب اور یا قیامت کا دن جس میں وہ جہنم میں داخل ہوں گے تو اس وقت وہ جان لیں گے کہ مسلمانوں اور کافروں میں سے کس کا درجہ برا اور کس کی فوج کمزور ہے؟^(۱)

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَةُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا ۝۷۶

ترجمہ کنزالایمان: اور جنہوں نے ہدایت پائی اللہ انہیں اور ہدایت بڑھائے گا اور باقی رہنے والی نیک باتوں کا تیرے رب کے یہاں سب سے بہتر ثواب اور سب سے بھلا انجام۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے اور باقی رہنے والی نیک باتیں تیرے رب کے ہاں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں۔

﴿وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى﴾: اور ہدایت پانے والوں کی ہدایت کو اللہ اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ ﴿گمراہ لوگوں کا حال بیان کرنے کے بعد اب یہاں سے ہدایت پانے والوں کا حال بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی اور ایمان سے مشرف ہوئے، اللہ تعالیٰ انہیں اس پر استقامت عطا فرما کے اور مزید بصیرت و توفیق دے کر ان کی ہدایت کو اور بڑھا دے گا اور ان کے ایمان، عمل اور یقین میں مزید اضافہ فرما دے گا۔^(۲)

①.....خازن، مریم، تحت الآية: ۷۵، ۲۴۵/۳، روح البیان، مریم، تحت الآية: ۷۵، ۳۵۲/۵-۳۵۳، ملقطاً.

②.....مدارك، مریم، تحت الآية: ۷۶، ص ۶۸۲، روح البیان، مریم، تحت الآية: ۷۶، ۳۵۲/۵، ملقطاً.

﴿وَالْبَقِيَّةُ الصَّالِحَاتُ﴾ اور باقی رہنے والی نیک باتیں۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، باقی رہنے والی نیک باتیں آپ کے رب عَزَّوَجَلَّ کی بارگاہ میں ثواب کے اعتبار سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے زیادہ اچھی ہیں جبکہ کفار کے اعمال سب نکلے اور باطل ہیں۔

باقی رہنے والی نیک باتیں

مفسرین فرماتے ہیں کہ طاعتیں، آخرت کے تمام اعمال، پنجگانہ نمازیں، اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید اور اس کا ذکر اور دیگر تمام نیک اعمال یہ سب باقیاتِ صالحات ہیں کہ مومن کے لئے باقی رہتے ہیں اور کام آتے ہیں، اسی طرح ہر وہ نیکی جو دنیا میں برباد نہ ہو جائے وہ باقیاتِ صالحات میں داخل ہے۔^(۱)

یہاں باقیاتِ صالحات سے متعلق ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت ابوسلمہ بن عبد الرحمن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ایک دن تشریف فرما تھے، آپ نے ایک خشک لکڑی لے کر درخت کے پتے گرائے، پھر فرمایا ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَسُبْحَانَ اللَّهِ“ کہنے سے گناہ اس طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں۔ اے ابودرداء! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، اس سے پہلے کہ تمہارے اور ان کلمات کے درمیان کوئی چیز (یعنی موت) حائل ہو جائے تم ان کلمات کو یاد کر لو یہ باقیاتِ صالحات ہیں اور یہ جنت کے خزانوں میں سے ہیں۔^(۲)

أَفْرَعَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا وَقَالَ لَأُوتِينَ مَالًا وَوَلَدًا ۗ أَطَّلَعَ
الْغَيْبَ أَمْ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ۗ كَلَّا ۗ سَنَكْتُبُ مَا يَقُولُ
وَنَسُدُّ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۗ وَنَرِيهِ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا ۗ

ترجمہ کنز الایمان: تو کیا تم نے اسے دیکھا جو ہماری آیتوں سے منکر ہوا اور کہتا ہے مجھے ضرور مال و اولاد ملیں گے۔

①.....خازن، مریم، تحت الآية: ۷۶، ۲۴۵/۳، مدارك، مریم، تحت الآية: ۷۶، ص ۶۸۲، ملتقطاً.

②.....ابن عساکر، حرف العين، عويمر بن زيد بن قيس... الخ، ۱۵۰/۴۷.

کیا غیب کو جھانک آیا ہے یا رحمن کے پاس کوئی قرار رکھا ہے۔ ہرگز نہیں اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے۔ اور جو چیزیں کہہ رہا ہے ان کے ہمیں وارث ہوں گے اور ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔

ترجیہ کذا العرفان: تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور کہتا ہے، مجھے ضرور مال اور اولاد دیئے جائیں گے۔ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے یا اس نے رحمن کے پاس کوئی عہد کر رکھا ہے؟ ہرگز نہیں! اب ہم لکھ رکھیں گے جو وہ کہتا ہے اور اسے خوب لمبا عذاب دیں گے۔ اور وہ جو چیزیں کہہ رہا ہے اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ ہمارے پاس تنہا آئے گا۔

﴿**أَفَرَأَيْتَ الَّذِي كَفَرَ بِآيَاتِنَا:** تو کیا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا۔﴾ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حضرت خباب بن ارت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَا زَمَانَهُ جَاهِلِيَّةٍ مِثْلِ عَاصِ بْنِ وَائِلٍ سَهْمِيٍّ بِرَقْرَضٍ تَهَاوَاهُ اس کے پاس تقاضے کو گئے تو عاص نے کہا کہ میں تمہارا قرض ادا نہ کروں گا جب تک کہ تم محمد (مُصْطَفَى صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) سے پھر نہ جاؤ اور کفر اختیار نہ کرو۔ حضرت خباب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ تو مرے اور مرنے کے بعد زندہ ہو کر اٹھے۔ وہ کہنے لگا: کیا میں مرنے کے بعد پھر اٹھوں گا؟ حضرت خباب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کہا: ہاں۔ عاص نے کہا: تو پھر مجھے چھوڑیے یہاں تک کہ میں مر جاؤں اور مرنے کے بعد پھر زندہ ہوں اور مجھے مال و اولاد ملے جب ہی میں آپ کا قرض ادا کروں گا۔ اس پر یہ آیات کریمہ نازل ہوئیں۔^(۱)

چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کے ساتھ کفر کیا اور وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتا ہے کہ اگر میں دوبارہ زندہ ہوا تو آخرت میں مجھے ضرور مال اور اولاد دیئے جائیں گے۔ کیا اسے غیب کی اطلاع مل گئی ہے اور اُس نے لوح محفوظ میں دیکھ لیا ہے کہ آخرت میں اسے مال اور اولاد ملے گی یا اللہ تعالیٰ نے اس سے کوئی وعدہ کیا ہوا ہے جس سے اسے معلوم ہو گیا ہے کہ وہ قیامت میں بھی خوشحال ہوگا۔ ہرگز نہیں، وہ نہ تو غیب جانتا ہے اور نہ ہی اس کے پاس کوئی عہد ہے بلکہ یہ

①.....بخاری، کتاب الاجارة، باب هل يؤاجر الرجل نفسه من مشرك... الخ، ۲/۸، الحدیث: ۲۲۷۵، مسلم، کتاب صفة القيامة والجنة والنار، باب سؤال اليهود النبي صلى الله عليه وسلم عن الروح... الخ، ص ۱۵۰۲، الحدیث: ۳۵ (۲۷۹۵)۔

شخص جھوٹا اور بدکار ہے اور جو بات یہ کہہ رہا ہے اُسے ہمارے فرشتوں نے لکھ لیا ہے اور قیامت کے دن ہم اسے اس کا بدلہ دیں گے اور ہم اسے مال و اولاد کے بدلے خوب لمبا عذاب دیں گے جس کا وہ مستحق ہے اور اس کی ہلاکت کے بعد مال و اولاد سب سے اس کی ملکیت اور اس کا نصرف اُٹھ جائے گا اور اس کے ہم وارث ہوں گے اور وہ قیامت کے دن ہمارے پاس تنہا اور خالی ہاتھ آئے گا اور آخرت میں دنیا سے زیادہ ملنا تو دور کی بات، دنیا میں جو مال اور اولاد اس کے ساتھ ہے اُس وقت وہ بھی اس کے ساتھ نہ ہوگا۔^(۱)

سورہ مریم کی آیت نمبر 77 تا 80 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات سے دو باتیں معلوم ہوتیں:

- (1)..... شریعت کے احکام کا مذاق اڑانا کفار کا طریقہ ہے۔ اس سے وہ لوگ اپنے طرزِ عمل پر غور کر لیں جو حدود و قصاص اور نکاح و طلاق وغیرہ سے متعلق شریعت کے احکام کا مذاق اڑاتے اور انہیں انسایت سوز احکام ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
- (2)..... مرنے کے بعد اور قیامت کے دن کفار کا مال و اولاد انہیں کچھ کام نہ آئے گا۔ یاد رہے کہ مومن کا مال اور اس کی اولاد کے ساتھ یہ معاملہ نہ ہوگا بلکہ اسے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی خاطر راہِ خدا میں خرچ کیا ہو مال بھی کام آئے گا اور اس کی نیک اولاد سے بھی اسے فائدہ حاصل ہوگا۔

وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ۝۸۱

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ کے سوا اور خدا بنا لئے کہ وہ انہیں زور دیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لئے تاکہ وہ ان کیلئے سفارشی بن جائیں۔

﴿وَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ إِلَهَةً﴾ اور انہوں نے اللہ کے سوا کئی اور معبود بنا لئے۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں حشر و نشر کا مسئلہ بیان ہوا اور اب یہاں سے بتوں کے پجاریوں کا رد کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ قریش کے مشرکوں نے اللہ

1..... مدارك، مریم، تحت الآية: ۷۷-۸۰، ص ۶۸۲-۶۸۳، حازن، مریم، تحت الآية: ۷۷-۸۰، ۳/۲۴۵-۲۴۶، روح البیان، مریم، تحت الآية: ۷۷-۸۰، ۵/۳۵۴، ملقطاً.

تعالیٰ کی بجائے بتوں کو اپنا معبود بنا لیا اور وہ اس امید پر ان کی عبادت کرنے لگے کہ وہ ان کیلئے سفارشی بن جائیں اور ان کی مدد کریں اور انہیں عذاب سے بچائیں۔^(۱)

كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۝۸۲

ترجمہ کنزالایمان: ہرگز نہیں کوئی دم جاتا ہے کہ وہ ان کی بندگی سے منکر ہوں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: ہرگز نہیں! عنقریب وہ (جھوٹے معبود) ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور وہ ان کے مخالف ہو جائیں گے۔

﴿ **كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ:** ہرگز نہیں! عنقریب وہ ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ ﴾ اس آیت میں کافروں کا رد کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا بلکہ عنقریب وہ بت جنہیں یہ پوجتے تھے ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے اور انہیں جھٹلائیں گے اور ان پر لعنت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں بولنے کی قوت دے گا اور وہ کہیں گے: یارب! انہیں عذاب دے کہ انہوں نے تیرے سوا کسی اور کی عبادت کی ہے۔^(۲)

کفار کی جاہلانہ اور احمقانہ حرکت

اس سے معلوم ہوا کہ کفار کی یہ انتہا درجے کی جاہلانہ اور احمقانہ حرکت ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا بنا لیا اور یہ سمجھنا شروع کر دیا کہ ہمارے ہاتھوں سے بنائے ہوئے خدا ہمیں عزت بخشیں گے اور ہمیں نفع دیں گے، حالانکہ ان کے بنائے ہوئے خدا نہ تو انہیں دنیا میں کسی قسم کا نفع اور عزت بخش سکتے ہیں اور نہ آخرت میں بلکہ بروز قیامت تو وہ خود ان کی عبادت کے منکر ہو جائیں گے اور کہیں گے کہ ہمیں تمہاری عبادت کی خبر ہی نہیں اور ان کی بندگی سے اپنی براءت اور بیزاری کا اظہار کر دیں گے اور ان کے دشمن بن جائیں گے اور یوں عزت بڑھانے کی بجائے ان کی ذلت اور رسوائی کا سبب بنیں گے۔ اس انسان پر انتہائی افسوس ہے جو عقل و شعور رکھنے کے باوجود بے جان اور

①.....خازن، مریم، تحت الآیة: ۸۱، ۲۴۶/۳، مدارك، مریم، تحت الآیة: ۸۱، ص ۶۸۳، ملقطاً.

②.....خازن، مریم، تحت الآیة: ۸۲، ۲۴۶/۳، مدارك، مریم، تحت الآیة: ۸۲، ص ۶۸۳، ملقطاً.

بے فائدہ بتوں کی پوجا تو کرے اور اس رب تعالیٰ کی عبادت نہ کرے جو خود بھی زندہ ہے اور دوسروں کو زندگی عطا بھی کرتا ہے اور ہر طرح کی ذلت سے بچانے اور عزت عطا کرنے کی قدرت بھی رکھتا ہے۔

أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤْتُهُمْ آسْرًا ۝۸۳

ترجمہ کنزالایمان: کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب اچھالتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے کہ وہ انہیں خوب ابھارتے ہیں۔

﴿أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ﴾: کیا تم نے نہ دیکھا کہ ہم نے کافروں پر شیطان بھیجے۔ ﴿گزشہ آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے کافروں کی گمراہیوں اور آخرت میں ان کے حسرت ناک انجام کا بیان فرمایا اور اب اس کا سبب بیان کیا جا رہا ہے کہ آخر کس وجہ سے وہ حق کے خلاف اس طرح کی باتیں کرتے تھے اور دلائل ہونے کے باوجود سمجھتے نہیں تھے۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ ہم نے کافروں پر شیطانوں کو چھوڑ دیا اور ان پر شیطانوں کو مُسَلِّط کر دیا جو کہ انہیں طرح طرح کے وسوسے دلا کر گناہوں پر خوب ابھارتے ہیں۔ اس آیت میں نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو تسلی بھی دی گئی ہے کہ اے پیارے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ اس وجہ سے پریشان نہ ہوں کہ کفار آپ کی دعوت قبول کیوں نہیں کر رہے کیونکہ آپ کی دعوت میں کوئی کمی نہیں بلکہ ان کافروں پر شیطان مُسَلِّط ہیں جو انہیں گناہوں پر ابھار رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ آپ کی دعوت قبول نہیں کر رہے۔

آیت ”أَلَمْ تَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيْطِينَ“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے چار باتیں معلوم ہوئیں:

- (1)..... بد عملی کی وجہ سے انسان پر شیطان مُسَلِّط ہوتا ہے۔
- (2)..... برے ساتھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہیں۔
- (3)..... بری باتوں کی رغبت دینا شیطان اور شیطانی لوگوں کا کام ہے۔

(4).....شیطان کسی کو کفر پر مجبور نہیں کرتا بلکہ کفر پر ابھارتا ہے، اس کے برخلاف انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان کے وارث کسی کو ایمان قبول کرنے پر مجبور نہیں کرتے بلکہ وہ بھی صرف انہیں ایمان کی دعوت اور ترغیب دیتے ہیں۔ اب جو عقل والے ہیں وہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور جو شہوت پرست اور نفس کے بندے ہوتے ہیں وہ شیطان کی دعوت کو قبول کرتے ہیں اور کھلم کھلا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے مقابلہ پر تکل جاتے ہیں اور جہنم کی ابدی سزا کے مستحق ہو جاتے ہیں۔

فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ ۖ إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَذَابًا ۝۱۳

ترجمہ کنزالایمان: تو تم ان پر جلدی نہ کرو ہم تو ان کی گنتی پوری کرتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو تم ان پر جلدی نہ کرو، ہم تو ان کیلئے گنتی کر رہے ہیں۔

﴿فَلَا تَعْجَلْ عَلَيْهِمْ: تو تم ان پر جلدی نہ کرو۔﴾ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ، آپ مسلمانوں کو کافروں کے شر سے بچانے اور زمین کو ان کے فساد سے پاک کرنے کی خاطر کافروں کی ہلاکت کی دعا کرنے میں جلدی نہ فرمائیں، ہم تو ان کے لئے گنتی کر رہے ہیں۔

اس سے جزا کے لئے اعمال کی گنتی کرنا مراد ہے یا فنا کے لئے سانسوں کی گنتی کرنا، یادوں، مہینوں اور برسوں کی وہ مدت گنتی کرنا مراد ہے جو ان کے عذاب کے واسطے مقرر ہے۔^(۱)

نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہئے

اس آیت میں کلام اگرچہ کفار کے بارے میں ہے البتہ اس میں مسلمانوں کے لئے بھی یہ نصیحت ہے کہ وہ نیک اعمال کرنے میں تاخیر سے کام نہ لیں بلکہ ان میں جلدی کریں کیونکہ ان کی سانسیں بھی گنی جا رہی ہیں۔ چنانچہ حضرت حسن بصری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اپنے وعظ میں فرمایا کرتے کہ ”جلدی کرو جلدی کرو، یہ چند سانس ہیں اگر رک گئے تو تم وہ اعمال

①.....روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۸۴، ۳۵۵/۵، مدارک، مریم، تحت الآیة: ۸۴، ص ۶۸۳، حازن، مریم، تحت الآیة: ۸۴، ۲/۳، ۶/۳، ملقطاً.

نہیں کر سکو گے جو تمہیں اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے نفس کی فکر کرتا اور اپنے گناہوں پر روتا ہے، پھر آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے یہ آیت پڑھی ”إِنَّمَا نَعُدُّ لَهُمْ عَدًّا“ ہم تو ان کیلئے گنتی کر رہے ہیں۔ اس سے مراد سانس ہیں اور آخری عدد جان کا نکلنا ہے، پھر گھر والوں سے جدائی ہے اور قبر میں داخل ہونے کی آخری گھڑی ہے۔^(۱) اللہ تعالیٰ ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے میں جلدی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

يَوْمَ نَحْشُرُ السَّائِقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ۱۵

ترجمہ کنزالایمان: جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمن کی طرف لے جائیں گے مہمان بنا کر۔

ترجمہ کنزالعرفان: یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمن کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔

﴿يَوْمَ نَحْشُرُ السَّائِقِينَ﴾ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو لے جائیں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ اپنی قوم کو ترغیب دینے اور ڈرانے کے طور پر وہ دن یادلائیں جس دن ہم پرہیزگاروں اور اطاعت شعاروں کو ان کے اس رب کی بارگاہ میں مہمان بنا کر جمع کریں گے جو اپنی وسیع رحمت کے ساتھ انہیں ڈھانپنے ہوئے ہے۔^(۲)

اہل جنت کے اعزاز و اکرام سے متعلق 4 روایات

اس آیت میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے پرہیزگار اور اطاعت گزار بندوں کے اعزاز و اکرام کا ذکر ہوا اور قبروں سے اٹھ کر میدانِ محشر میں جانے، وہاں ٹھہرنے، پھر وہاں سے جنت میں جانے کے عرصہ کے دوران ان کے اعزاز و اکرام کا ذکر کثیر احادیث میں بھی کیا گیا ہے ان میں سے 4 روایات درج ذیل ہیں۔

(1)..... حضرت علی المرتضیٰ کَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: اللہ کی قسم! پرہیزگاروں کو ان کے قدموں پر نہیں لایا جائے گا اور نہ ہی انہیں ہانک کر لایا جائے گا بلکہ انہیں جنت کی

①..... احیاء علوم الدین، کتاب ذکر الموت وما بعده، الباب الثانی فی طول الاصل وفضیلة قصر الاصل... الخ، بیان المبادرة الی العمل وحذر آفة التاخیر، ۲۰۵/۵-۲۰۶۔

②..... روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۸۵، ۲۰۶/۵۔

اونٹنیوں پر لایا جائے گا جن کی مثل مخلوق نے دیکھی ہی نہ ہوگی، ان کے کجاوے سونے کے ہوں گے اور ان کی مہاریں زبرد کی ہوں گی۔ پرہیزگار ان پر بیٹھے رہیں گے یہاں تک کہ وہ جنت کا دروازہ کھٹکھٹائیں گے۔^(۱)

(۲)..... حضرت ابوسعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: پرہیزگاروں کو ان اونٹنیوں پر سوار کر کے لایا جائے گا جن کے کجاوے زمر اور یا قوت کے ہوں گے اور جو رنگ وہ چاہیں گے اسی کے ہوں گے۔^(۲)

(۳)..... حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جب پرہیزگار لوگ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے حضور حاضر ہوں گے تو ان کی عزت کی جائے گی، انہیں نعمتیں بخشی جائیں گی، انہیں سلام پیش کیا جائے گا اور ان کی شفاعت قبول کی جائے گی۔^(۳)

(۴)..... جامع البیان میں ہے کہ مومن جب قبر سے نکلے گا تو ایک حسین اور خوشبودار صورت اس کا استقبال کرے گی اور مومن سے کہے گی کہ کیا تو مجھے پہچانتا ہے؟ مومن کہے گا نہیں، بے شک! اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تجھے بہت پاکیزہ خوشبودی اور تیری بہت حسین صورت بنائی۔ وہ صورت کہے گی تو بھی دنیا میں اسی طرح تھا، میں تیرا نیک عمل ہوں، میں دنیا میں بہت عرصہ تک تجھ پر سوار رہا اور آج تو مجھ پر سوار ہو جا۔^(۴)

وَأَسْوَقُ الْبُجْرَمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا ۝۸۶

ترجمہ کنزالایمان: اور مجرموں کو جہنم کی طرف ہانکیں گے پیاسے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔

﴿وَأَسْوَقُ الْبُجْرَمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا﴾ اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔ قیامت کے دن پرہیزگار مسلمان تو مہمان بنا کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع کئے جائیں گے جبکہ کافروں کا حال یہ ہوگا کہ انہیں ان کے کفر کی وجہ سے ذلت و توہین کے ساتھ پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانکا جائے گا۔

①..... البعث لابن ابی داؤد، ص ۵۲، الحدیث: ۵۶.

②..... درمنثور، مریم، تحت الآیة: ۸۵، ۵۳۸/۵.

③..... درمنثور، مریم، تحت الآیة: ۸۵، ۵۳۸/۵.

④..... جامع البیان، مریم، تحت الآیة: ۸۵، ۳۸۰/۸.

کافروں کی سزا کے بارے میں سن کر مسلمانوں کو بھی ڈرنا چاہئے

یاد رہے کہ ایسی آیات جن میں کافروں کی کوئی سزا بیان کی گئی ہو ان میں مسلمانوں کے لئے بھی بڑی عبرت اور نصیحت ہوتی ہے اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ جب بھی اس طرح کی آیات پڑھے یا سنے تو اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر کرے۔ ایسی آیات سن کر ہمارے بزرگانِ دین کا کیا حال ہوتا تھا اس سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت مسور بن مخرمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ شَدَّتْ خَوْفَ كِي وَجْهٍ سَعَةَ قُرْآنِ پاك میں سے کچھ سننے پر قادر نہ تھے، یہاں تک کہ ان کے سامنے ایک حرف یا کوئی آیت پڑھی جاتی تو وہ چیخ مارتے اور بے ہوش ہو جاتے، پھر کئی دن تک انہیں ہوش نہ آتا۔ ایک دن قبیلہ خشم کا ایک شخص ان کے سامنے آیا اور اس نے یہ آیات پڑھیں، ”يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَنِ وَفْدًا ﴿٨٥﴾ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وَفْدًا“ یاد کرو جس دن ہم پرہیزگاروں کو رحمن کی طرف مہمان بنا کر لے جائیں گے۔ اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاسے ہانکیں گے۔^(۱) یہ سن کر آپ نے فرمایا ”آہ! میں مجرموں میں سے ہوں اور متقی لوگوں میں سے نہیں ہوں، اے قاری! دو بارہ پڑھو۔ اس نے پھر پڑھا تو آپ نے ایک نعرہ مارا اور آپ کی روح قفسِ عنصری سے پرواز کر گئی۔^(۲)

آیت ”وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتیں

- (۱)..... کافروں کا دوزخ میں داخلہ انتہائی ذلت و رسوائی سے اور مومنوں کا جنت میں داخلہ انتہائی عزت و احترام سے ہوگا۔
- (۲)..... کافر میدانِ محشر میں پیاسے ہوں گے۔ یاد رہے کہ مومنوں کے لئے حوضِ کوثر کی نہر میدانِ محشر میں آئے گی جس سے مُرْتَدِّينَ روک دیئے جائیں گے، یونہی ہر نبی کے امتیوں کیلئے ان کے نبی کا حوض ہوگا۔

لَا يَبْلُغُونَ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ اتَّخَذَ عِنْدَ الرَّحْمَنِ عَهْدًا ﴿٨٤﴾

①..... مریم: ۸۵، ۸۶۔

②..... احیاء علوم الدین، کتاب الخوف والرجاء، الشطر الثانی، بیان احوال الصحابة والتابعین والسلف الصالحین فی شدّة الخوف،

ترجیہ کنزالایمان: لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جنہوں نے رحمن کے پاس قرار کر رکھا ہے۔

ترجیہ کنزالعرفان: لوگ شفاعت کے مالک نہیں مگر وہی جس نے رحمن کے پاس عہد لے رکھا ہے۔

﴿لَا يَبْلُغُونَ الشَّفَاعَةَ﴾: لوگ شفاعت کے مالک نہیں۔ ﴿اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے گناہگاروں کی شفاعت کا اذن مل چکا ہے اس کے علاوہ کوئی بندہ کسی گناہگار کی شفاعت کا مالک نہیں۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ مجرموں میں سے کوئی اس بات کا مالک نہیں کہ اس کی شفاعت کی جائے البتہ ان میں سے جو مسلمان ہے اس کی شفاعت ہوگی۔^(۱)

اللہ تعالیٰ کے پاس عہد

یہاں ہم دو ایسے اعمال ذکر کرتے ہیں جنہیں بجالانے والے بندے کا عہد اللہ تعالیٰ کے پاس رکھ دیا جاتا ہے۔

(۱)..... حضرت عبادہ بن صامت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر پانچ نمازیں فرض فرمائی ہیں، جس نے انہیں ادا کیا اور ہلکا سمجھ کر ان میں سے کچھ ضائع نہ کیا تو اس کا اللہ تعالیٰ کے پاس عہد ہے کہ وہ اسے جنت میں داخل فرمائے اور جس نے انہیں ادا نہ کیا تو اس کے لئے اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی عہد نہیں، چاہے وہ اسے عذاب دے یا اسے جنت میں داخل کر دے۔^(۲)

(۲)..... حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو اپنے صحابہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سے یہ کہتے سنا کہ کیا تم اس بات سے عاجز ہو کہ صبح و شام اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ کے پاس سے ایک عہد لو۔ صحابہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وہ کس طرح؟ حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”صبح و شام یہ کہے ”اللَّهُمَّ فَاطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، عَالِمَ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ، إِنِّي أَعْهَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بِأَنِّي أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ وَحْدَكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُكَ وَرَسُولُكَ، فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي فَإِنَّكَ إِن تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي تَبَاعِدْنِي مِنَ الْخَيْرِ

①..... روح البیان، مریم، تحت الآیة: ۸۷، ۳۵۶/۵.

②..... ابو داؤد، کتاب الوتر، باب فیمن لم یوتر، ۸۹/۲، الحدیث: ۱۴۲۰.

وَتُقَرَّبُنِي مِنَ الشَّرِّ، وَإِنِّي لَا أَتَّقِي إِلَّا بِرَحْمَتِكَ، فَاجْعَلْ لِي عِنْدَكَ عَهْدًا تُوفِّيَنِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ“ تو جو شخص یہ کہے گا، اللہ تعالیٰ اس پر مہر لگا کر عرش کے نیچے رکھ دے گا اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ندا کرنے والا ندا کرے گا: کہاں ہیں وہ لوگ جن کا اللہ تعالیٰ کے پاس عہد ہے؟ پس وہ آدمی کھڑا ہوگا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔^(۱)

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۗ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا ۗ^(۸۸)

ترجمہ کنزالایمان: اور کافروں نے رحمن نے اولاد اختیار کی۔ بیشک تم حد کی بھاری بات لائے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کافروں نے کہا: رحمن نے اولاد اختیار کی ہے۔ بیشک تم انتہائی ناپسندیدہ بات لائے ہو۔

﴿وَقَالُوا﴾ اور کافروں نے کہا۔ ﴿اس سے پہلے بتوں کی پوجا کرنے والوں کا رد کیا گیا اور اب ایک بار پھر ان لوگوں کا رد کیا جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد ثابت کرتے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کافروں نے یہ کہا: رحمن نے اولاد اختیار کی ہے۔ اس آیت میں حضرت عزیر علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے یہودی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہنے والے عیسائی اور فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنے والے مشرکین عرب سبھی داخل ہیں۔^(۲)

تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ۗ^(۸۹)

أَنْ دَعَا لِلرَّحْمَنِ وَلَدًا ۗ وَمَا يُبْغِي لِلرَّحْمَنِ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا ۗ^(۹۰)

ترجمہ کنزالایمان: قریب ہے کہ آسمان اس سے پھٹ پڑیں اور زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں ڈھ کر۔ اس پر کہ انہوں نے رحمن کے لیے اولاد بتائی۔ اور رحمن کے لیے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔

①..... قرطبی، مریم، تحت الآية: ۸۷، ۶/۶۳، الجزء الحادی عشر.

②..... تفسیر کبیر، مریم، تحت الآية: ۸۸، ۷/۵۶۶.

ترجمہ کنز العرفان: قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں اور زمین بھی پھٹ جائے اور پہاڑ ٹوٹ کر گر پڑیں۔ کہ انہوں نے رحمن کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا۔ حالانکہ رحمن کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔

﴿تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ﴾: قریب ہے کہ اس سے آسمان پھٹ پڑیں۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لئے اولاد کا دعویٰ کرنا ایسی بے ادبی و گستاخی کا کلمہ ہے کہ اس کی وجہ سے اگر اللہ تعالیٰ غضب فرمائے تو وہ تمام جہان کا نظام درہم برہم کر دے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ کفار نے جب یہ گستاخی کی اور ایسا بے باکانہ کلمہ منہ سے نکالا تو جن و انس کے سوا آسمان، زمین، پہاڑ وغیرہ تمام مخلوق پریشانی سے بے چین ہو گئی اور ہلاکت کے قریب پہنچ گئی، فرشتوں کو غضب ہوا اور جہنم کو جوش آ گیا۔^(۱)

﴿وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَنِ﴾: حالانکہ رحمن کے لائق نہیں۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنا اولاد سے پاک ہونا بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ رحمن کے لائق نہیں کہ اولاد اختیار کرے۔ وہ اس سے پاک ہے اور اس کے لئے اولاد ہونا ممکن نہیں محال ہے کیونکہ بیٹا باپ کا جز، اس کی شبیہ و نظیر اور اس کا مددگار ہوتا ہے جبکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی اس کا جز ہو یا اس کی مثل بنے یا کوئی اس کا مددگار ہو۔

إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۝

ترجمہ کنز الایمان: آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب اس کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔

ترجمہ کنز العرفان: آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں سب رحمن کے حضور بندے ہو کر حاضر ہوں گے۔

﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: آسمانوں اور زمین میں جتنے ہیں۔ ﴿یہ آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ دیگر بناوٹی معبودوں کی نفی کی دلیل بھی بن سکتی ہے اور اس بات کی بھی دلیل بن سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے۔ پہلی صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسمان پر جن فرشتوں کو اپنا معبود مانتے ہیں وہ سب تو

1.....خازن، مریم، تحت الآیة: ۹۰-۹۱، ۲۴۷/۳.

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے اور صرف اسے ہی سجدہ کرتے ہیں تو پھر وہ معبود کس طرح ہو سکتے ہیں۔ دوسری صورت میں اس آیت کا معنی یہ ہوگا کہ قیامت کے دن تمام جن و انس اور فرشتے نیز کفار زمین پر جن لوگوں کو اور آسمان پر جن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد بتاتے ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے کا اقرار کرتے ہوئے اس کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور یہ بات واضح ہے کہ جو کسی کا بندہ ہوتا ہے وہ اس کی اولاد نہیں ہوتا اور جو اولاد ہو وہ اس کا بندہ نہیں ہوتا کیونکہ بندہ ہونا اور اولاد ہونا دونوں جمع ہو ہی نہیں سکتے نیز کوئی اپنی اولاد کا مالک نہیں ہوتا جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو خود اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہے تو وہ اس کی اولاد ہرگز نہیں ہو سکتا۔

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا ۙ (۹۳) وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا ۙ (۹۵)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ ان کا شمار جانتا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے گن رکھا ہے۔ اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور اکیلا حاضر ہوگا۔

ترجمہ کنز العرفان: بیشک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے اور ان کو ایک ایک کر کے خوب گن رکھا ہے۔ اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔

﴿لَقَدْ أَحْصَاهُمْ﴾ بیشک اس نے انہیں گھیر رکھا ہے۔ ﴿لَعْنَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾ کے علم و قدرت نے سب کو گھیر رکھا ہے اور ہر ذی روح کے سانسوں کی، دنوں کی، تمام احوال کی اور جملہ معاملات کی تعداد اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے شمار میں ہے، اس پر کچھ مخفی نہیں سب اس کی تدبیر و قدرت کے تحت ہیں۔ (۱)

﴿وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ اور ان میں ہر ایک روز قیامت اس کے حضور تنہا آئے گا۔ ﴿لَعْنَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ﴾ یعنی قیامت کے دن ہر ایک اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، مال، اولاد اور معین و مددگار کے بغیر تنہا حاضر ہوگا۔ (۲)

۱.....حازن، مریم، تحت الآیة: ۹۴، ۲۴۷/۳-۲۴۸.

۲.....مدارك، مریم، تحت الآیة: ۹۵، ص ۶۸۵.

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا

یاد رہے کہ بروز قیامت جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے اعمال کا حساب دینے کے لئے حاضر ہوگا تو اس وقت دنیا کا مال، اولاد، دوست احباب اور عزیز رشتہ داروں میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اس کی مدد کر سکے گا اور اس وقت بہت بڑا خطرہ ہوگا کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کہا جائے ”ہم نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی اور آج بھی تجھے بخش رہے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ خوشی اور سرور حاصل ہوگا اور پہلے اور بعد والے تم پر رشک کریں گے، یا، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس برے بندے کو پکڑ کر گلے میں طوق ڈالو اور پھر اسے جہنم میں ڈال دو۔ اس وقت تو اتنی بڑی مصیبت میں مبتلا ہوگا کہ اگر آسمان وزمین تجھ پر روئیں تو انہیں مناسب ہے۔ نیز تجھے اس بات پر بہت زیادہ حسرت ہوگی کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور فرمانبرداری میں کوتاہی کی اور تم نے کیسے دنیا کے لئے اپنی آخرت بیچ ڈالی اور اب تیرے پاس کچھ نہیں۔^(۱)

ہم ہیں اُن کے وہ ہیں تیرے تو ہوئے ہم تیرے
ان کی امت میں بنایا انھیں رحمت بھیجا
صدقہ پیارے کی حیا کا کہ نہ لے مجھ سے حساب
اس سے بڑھ کر تری سمت اور وسیلہ کیا ہے
یوں نہ فرما کہ ترا رحم میں دعویٰ کیا ہے
بخش بے پوچھے لجاے کو لجانا کیا ہے

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۙ ﴿۹۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے عنقریب ان کے لیے رحمن محبت کر دے گا۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے عنقریب رحمن ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ۙ﴾ اس سے پہلی آیات میں مختلف اقسام کے کافروں کا رد کیا گیا اور ان کے دُنویٰ و اُخروی احوال کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا اور اب نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک وہ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کئے عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دے گا۔^(۲)

①..... احیاء علوم الدین، کتاب ذکر الموت وما بعدہ، الشطر الثانی، صفة المساء لہ، ۲۸۰/۵۔

②..... تفسیر کبیر، مریم، تحت الآیة: ۹۶، ۵۶۷/۷، حازن، مریم، تحت الآیة: ۹۶، ۲۴۸/۳، ملتقطاً۔

محبوبیت کی دلیل اور ولی کی علامت

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَام کو ندا کی جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت رکھتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو۔ حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَام اس سے محبت کرتے ہیں۔ پھر حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَام آسمانی مخلوق میں ندا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فلاں بندے سے محبت فرماتا ہے لہذا تم بھی اس سے محبت کرو، چنانچہ آسمان والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، پھر زمین والوں میں اس کی مقبولیت رکھ دی جاتی ہے۔^(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ مومنین صالحین و اولیائے کاملین کی مقبولیت عامہ ان کی محبوبیت کی دلیل ہے جیسے کہ حضور غوثِ اعظم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور خواجہ غریب نواز اور تاج بخش علی ہجویری اور دیگر معروف اولیاء کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی عام مقبولیت ان کی محبوبیت کی دلیل ہے۔

نیز اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ولی کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ خلقت اسے ولی کہے اور اس کی طرف قدرتی طور پر دل کو رغبت ہو۔ دیکھ لیں، آج اولیاء اللہ اپنے مزارات میں سو رہے ہیں اور لوگ ان کی طرف کھچے چلے جا رہے ہیں حالانکہ انہیں کسی نے دیکھا بھی نہیں۔

فَاتَّبَعْنَاهُ بِلسَانِكَ لِتُبَشِّرَ بِهِ السُّبْقِينَ وَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا ۙ
وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِّنْ قَرْنٍ ۖ هَلْ نُحِيسُ مِنْهُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ
لَهُمْ رِكَاظًا ۙ

ترجمہ کنز الایمان: تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں یونہی آسان فرمایا کہ تم اس سے ڈروالوں کو خوشخبری دو اور جھگڑالوں کو اس سے ڈرناؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلی کتنی سنگتیں کھپائیں کیا تم ان میں کسی کو دیکھتے ہو یا ان کی بھنک سنتے ہو۔

ترجمہ کنز العرفان: تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرمادیا تاکہ تم اس کے ذریعے متقیوں کو خوشخبری دو

۱..... بخاری، کتاب بدء الخلق، باب ذکر الملائكة، ۳۸۲/۲، الحدیث: ۳۲۰۹.

اور جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے ڈر سناؤ۔ اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں۔ کیا اب تم ان میں کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟

﴿فَاتَّبَعْتَهُ بِلِسَانِكَ: تو ہم نے یہ قرآن تمہاری زبان میں ہی آسان فرمادیا۔﴾ ارشاد فرمایا کہ اے حبیبِ اِصْلَى اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ہم نے یہ قرآن آپ کی زبان عربی میں ہی آسان فرمادیا ہے تاکہ آپ اس کے ذریعے پرہیزگار لوگوں کو (اللہ تعالیٰ کی رحمت و رضا کے حصول اور جنت کی) خوشخبری دیں اور کفارِ قریش کے جھگڑالو لوگوں کو اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر سنائیں۔

سورہ مریم کی آیت 97 سے متعلق 3 اہم باتیں

یہاں اس آیت سے متعلق تین اہم باتیں ملاحظہ ہوں،

(1)..... بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیبِ اِصْلَى اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے لئے قرآن مجید آسان فرمادیا اور یہ آسان فرمانا اس اعتبار سے ہے کہ اسے آپ صْلَى اللّٰهِ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی زبان ”عربی“ میں نازل کیا گیا جس کی وجہ سے فہم قرآن آسان ہو گیا۔

(2)..... اس آیت میں عذابِ الہی سے ڈرنے والوں کو خوشخبری دینے اور جھگڑالو قوم کو ڈرانے کے ذریعے تبلیغ کرنے کا فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ متقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے فضل و رحمت، رضا اور جنت کی بشارت سنا کر اور جھگڑالو قوم کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب کا ڈر سنا کر تبلیغ کرنے سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔

(3)..... قرآن مجید (سرزمینِ عرب میں) عربی زبان میں نازل کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ دنیا میں جس قوم اور علاقے میں اسلام کی تبلیغ کرنی ہو تو اس کے لئے وہاں کی زبان سیکھی جائے تاکہ وہ لوگ اپنی زبان میں کی جانے والی تبلیغ کو آسانی سے سمجھ سکیں اور اسلام کے قریب ہوں۔

﴿وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ: اور ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں۔﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے کفارِ قریش سے پہلے انبیاءِ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو جھٹلانے کی وجہ سے بہت سی امتیں ہلاک کر دیں۔ کیا اب تم ان میں کسی کو پاتے ہو یا ان کی معمولی سی آواز بھی سنتے ہو؟ وہ سب نیست و نابود کر دیئے گئے اسی طرح یہ لوگ اگر وہی طریقہ اختیار کریں گے تو ان کا بھی وہی انجام ہوگا۔

سُورَةُ طه

سورة طہ کا تعارف

مقام نزول

سورة طہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔^(۱)

رکوع اور آیات کی تعداد

اس میں 8 رکوع اور 135 آیتیں ہیں۔

”طہ“ نام رکھنے کی وجہ

”طہ“، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے مبارک ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اس سورت کی ابتداء میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو اس نام سے نداء کی گئی اس مناسبت سے اس سورت کا نام ”طہ“ رکھا گیا ہے۔

سورة طہ کے فضائل

(1)..... حضرت معقل بن یسار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”مجھے سورہ بقرہ ذکر سے عطا کی گئی ہے، سورہ طہ اور سورہ والطور حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی تختیوں سے عطا کی گئی ہیں، سورہ فاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں عرش کے نیچے موجود خزانوں سے عطا کی گئی ہیں اور مُفَصَّل (سورتیں) اضافی دی گئی ہیں۔“⁽²⁾

(2)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے سورہ طہ اور سورہ لیس کے ساتھ حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے کلام فرمایا اور جب فرشتوں نے قرآن سنا تو کہا: اُس امت کو مبارک ہو جس پر یہ کلام نازل ہوگا، اُن سینوں کو مبارک ہو جن میں یہ کلام محفوظ ہوگا اور اُن زبانوں کو مبارک ہو جو یہ کلام پڑھیں گی۔“⁽³⁾

①.....خازن، تفسیر سورة طہ، ۲۴۸/۳۔

②.....معجم الكبير، باب الميم، ابو المليح بن اسامة الهذلي عن معقل بن يسار، ۲۲۵/۲۰، الحديث: ۵۲۵۔

③.....شعب الايمان، التاسع عشر من شعب الايمان... الخ، فصل في فضائل السور والآيات، ذكر سورة بنى اسرائيل والكهف... الخ، ۴۷۶/۲، الحديث: ۲۴۵۰۔

(3)..... حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اسلَام قبول کرنے سے پہلے اسی سورت کی ابتدائی آیات پڑھ کر پکارا اٹھے کہ یہ کس قدر حسین اور عظیم کلام ہے اور اس کے بعد آپ نے اسلَام قبول کر لیا۔⁽¹⁾

سورۃ طہ کے مضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں دین کے عقائد جیسے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور قدرت، اس کے علاوہ نبوت، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جانے اور اعمال کی جزاء و سزا ملنے وغیرہ کو مختلف دلائل سے ثابت کیا گیا ہے اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں:

(1)..... قرآن پاک اس لئے نازل نہیں کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مشقت میں پڑ جائیں بلکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ذمہ داری صرف قرآن پاک کے ذریعے نصیحت کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دینا اور خود کو زیادہ مشقت میں ڈالے بغیر عبادت کرنا ہے۔

(2)..... حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اور فرعون کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا اور اس واقعے میں حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو بچپن میں صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈالے جانے، حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے ساتھ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو جابرو سرکش فرعون کے پاس بھیجنے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں اس سے بحث کرنے، جادو گروں کے ساتھ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا مقابلہ ہونے، حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو اللہ تعالیٰ کی تائید اور مدد ملنے، جادو گروں کے ایمان لانے، حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا دریا میں راستے بنانے والا معجزہ ظاہر ہونے، بنی اسرائیل کے دریا پار کرنے، فرعون اور اس کے لشکر کے ہلاک ہونے، بنی اسرائیل کا اللہ تعالیٰ کی کثیر نعمتوں کی ناشکری کرنے، سامری کا سونے سے ایک بچھڑا بنا کر بنی اسرائیل کو گمراہ کرنے اور حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا اپنے بھائی حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام پر اظہارِ غضب کرنے وغیرہ کا ذکر ہے۔

(3)..... جو قرآن سے منہ پھیرے، اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے اس کے لئے جہنم کی سزا کا بیان ہے۔

(4)..... قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور اس دن مجرموں کے احوال بیان کئے گئے ہیں۔

①..... الروض الانف، ذکر اسلام عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ، ۱۲۲/۲-۱۲۳۔

- (5)..... حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور ابلیس کا واقعہ بیان کیا گیا۔
- (6)..... اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے روگردانی کرنے والے کے انجام کا ذکر ہے۔
- (7)..... نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو کفار کی اذیتوں پر صبر کرنے، اللہ تعالیٰ کی عبادت پر قائم رہنے اور گھر والوں کو نماز کا حکم دینے کی تلقین کی گئی ہے۔
- (8)..... فرمائی معجزات طلب کرنے والے کفار کا رد کیا گیا ہے۔

سورۃ مریم کے ساتھ مناسبت

سورہ طہ کی اپنے سے ما قبل سورت ”مریم“ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ مریم میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے کئی انبیاء کرام عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے واقعات و حالات بیان کیے جن میں سے بعض کے واقعات و حالات تفصیل کے ساتھ بیان کیے گئے جیسے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وغیرہا اور بعض کے مختصر بیان کیے گئے جیسا کہ حضرت موسیٰ، حضرت ادریس عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وغیرہا اور کچھ کی طرف اجمالاً اشارہ کر دیا گیا۔ اب اس سورت میں حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا قصہ تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو کس طرح نبوت سے سرفراز فرمایا گیا اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو کس طرح کے معجزات عطا کیے گئے اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے کس طرح ظالم بادشاہ کو حق کی دعوت دی اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہی کی دعا سے آپ کے بھائی کو نبوت سے نوازا گیا۔^(۱)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

طه ۱ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْفَى ۚ إِلَّا تَذَكَّرَ ۗ لِمَنْ يَخْشَى ۚ

1.....تناسق الدرر، سورۃ طہ، ص ۱۰۲، ملخصاً.

ترجیہ کنزالایمان: اے محبوب ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہ اتارا کہ تم مشقت میں پڑو۔ ہاں اس کو نصیحت جو ڈر رکھتا ہو۔

ترجیہ کنزالعرفان: طہ۔ اے حبیب! ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ مگر یہ اس کے لئے نصیحت ہے جو ڈرتا ہے۔

﴿طہ﴾ یہ حروفِ مقطعات میں سے ہے۔ مفسرین نے اس حرف کے مختلف معنی بھی بیان کئے ہیں، ان میں سے ایک یہ ہے کہ ”طہ“ تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اسماءِ مبارکہ میں سے ایک اسم ہے اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا نام ”محمد“ رکھا ہے اسی طرح آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا نام ”طہ“ بھی رکھا ہے۔^(۱)

﴿مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى﴾: اے محبوب! ہم نے تم پر یہ قرآن اس لیے نہیں نازل فرمایا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں اور ساری ساری رات قیام کرنے کی تکلیف اٹھائیں۔ اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے میں بہت محنت فرماتے تھے اور پوری رات قیام میں گزارتے یہاں تک کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے مبارک قدم سوج جاتے۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَام نے حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ کے حکم سے عرض کی: آپ اپنے پاک نفس کو کچھ راحت دیجئے کہ اس کا بھی حق ہے۔ شانِ نزول کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لوگوں کے کفر اور ان کے ایمان سے محروم رہنے پر بہت زیادہ افسوس اور حسرت کی حالت میں رہتے تھے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے مبارک قلب پر اس وجہ سے رنج و ملال رہا کرتا تھا، تو اس آیت میں فرمایا گیا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ رنج و ملال کی کوفت نہ اٹھائیں کیونکہ قرآن پاک آپ کی مشقت کے لئے نازل نہیں کیا گیا ہے۔^(۲)



①.....تفسیر قرطبی، طہ، تحت الآیة: ۱، ۶/۷۲، الجزء الحادی عشر.

②.....مدارك، طہ، تحت الآیة: ۲، ص ۶۸۶، حازن، طہ، تحت الآیة: ۲، ۳/۲۴۸-۲۴۹، ابو سعود، طہ، تحت الآیة: ۲، ۳/۴۴۸، ملتقطاً.

اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عظمت

اس آیت مبارکہ میں سرکارِ دو عالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اللہ عَزَّوَجَلَّ سے محبت اور شوقِ عبادت کا بیان بھی ہے اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے محبت اور اس کی بارگاہ میں آپ کی عظمت کا بیان بھی ہے کہ حضور پُر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تو اللہ تعالیٰ کی محبت اور عبادت کے شوق میں کثرت سے عبادت کرتے اور مشقت اٹھاتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی مشقت پر آپ کی راحت و آسانی کا حکم نازل فرماتا ہے۔

﴿الْأَنْتَ كَرِيمٌ﴾: مگر یہ اس کیلئے نصیحت ہے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ہم نے آپ پر یہ قرآن اس لیے نازل نہیں فرمایا کہ آپ مشقت میں پڑ جائیں بلکہ یہ قرآن اُس کے لئے نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہی نصیحت سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔^(۱)

تَنْزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَوَاتِ الْعُلَىٰ ط

ترجمہ کنزالایمان: اس کا اتارا ہوا جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔

﴿تَنْزِيلًا﴾: نازل کیا ہوا ہے۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی عظمت بیان فرمائی کہ یہ قرآن اس اللہ عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے جس نے زمینوں اور بلند آسمانوں کو پیدا فرمایا اور جس نے اتنی عظیم مخلوق پیدا فرمائی وہ خالق کتنا عظیم ہوگا اور جب ایسی عظیم ذات نے قرآن مجید نازل فرمایا ہے تو یہ قرآن کتنا عظمت والا ہوگا۔

قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کا مقصد

یہاں قرآن کریم کی عظمت بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ لوگ اس کے معانی میں غور و فکر کریں اور اس کے حقائق میں تدبیر کریں کیونکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ جس پیغام کو بھیجنے والا انتہائی عظیم ہو تو اس پیغام کو بہت اہمیت دی جاتی

①..... روح البیان، طہ، تحت الآية: ۳، ۳۶/۵، حازن، طہ، تحت الآية: ۳، ۲۴۹/۳، ملتقطاً.

ہے اور پوری توجہ سے اسے سنا جاتا ہے اور بھرپور طریقے سے اس کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اور جب قرآن کریم کو نازل فرمانے والا سب سے بڑا عظیم ہے تو اس کی طرف سے بھیجے ہوئے قرآن عظیم کو سب سے زیادہ توجہ کے ساتھ سننا چاہئے اور اس میں انتہائی غور و فکر کرنا اور کامل طریقے سے اس کے دیئے گئے احکام پر عمل کرنا چاہئے۔ افسوس! آج مسلمانوں کی ایک تعداد ایسی ہے جو تلاوت قرآن کرنے سے ہی محروم ہے اور جو تلاوت کرتے بھی ہیں تو وہ درست طریقے سے تلاوت نہیں کرتے اور صحیح طریقے سے تلاوت کرنے والوں کا بھی حال یہ ہے کہ وہ نہ قرآن مجید کو سمجھتے ہیں، نہ اس میں غور و فکر کرتے ہیں اور نہ ہی اس کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔

حضرت فضیل بن عیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: ہماری مصیبت سے بڑی کوئی مصیبت نہیں، ہم میں سے ایک شخص دن رات قرآن مجید پڑھتا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کرتا حالانکہ یہ مکمل قرآن مجید ہماری طرف ہمارے رب کے پیغامات ہیں۔^(۱)

اور حضرت محمد بن کعب قرظی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: جس تک قرآن مجید پہنچ گیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس سے کلام کیا۔ جب وہ اس بات پر قادر ہو جائے تو قرآن مجید پڑھنے ہی کو اپنا عمل قرار نہ دے بلکہ اس طرح پڑھے جس طرح کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر کے اس کے مطابق عمل کرے۔^(۲) اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کرنے، اسے سمجھنے، اس میں غور و فکر کرنے اور اس کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى ۝ لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ

وَمَا يَبۡتۡهُمَا وَمَا تَحۡتَ الْاَرۡضِ ۝

ترجمہ کنزالایمان: وہ بڑی مہر والا اس نے عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اس کا ہے جو کچھ آسمانوں

①..... تنبيه المغترين، الباب الرابع في جملة اخرى من الاخلاق، ومن اخلاقهم رضى الله عنهم كثرة الاستغفار وخوف المقت... الخ، ص ۲۶۱.

②..... احیاء علوم الدین، کتاب آداب تلاوة القرآن، الباب الثالث في اعمال الباطن في التلاوة، ۱/۲۷۸.

میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے نیچے میں اور جو کچھ اس گیلی مٹی کے نیچے ہے۔

ترجمہ کنز العرفان: وہ بڑا مہربان ہے، اس نے عرش پر استواء فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ اسی کی ملک ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی (زمین) کے نیچے ہے۔

﴿الرَّحْمٰنُ﴾: وہ بڑا مہربان ہے۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید نازل کرنے والے کی شان یہ ہے کہ وہ بڑا مہربان ہے اور اس نے اپنی شان کے لائق عرش پر استواء فرمایا ہے اور جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے اور جو کچھ اس گیلی مٹی یعنی زمین کے نیچے ہے سب کا مالک بھی وہی ہے، وہی ان سب کی تدبیر فرماتا اور ان میں جیسے چاہے تصرف فرماتا ہے۔

عرش پر استواء فرمانے سے متعلق ایک اہم بات

اللہ تعالیٰ کے اپنی شان کے لائق عرش پر استواء فرمانے کی تفصیل سورہ اعراف کی آیت نمبر 54 کی تفسیر کے تحت گزر چکی ہے، یہاں اس سے متعلق ایک اہم بات یاد رکھیں، چنانچہ حضرت امام مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ کسی شخص نے آکر اس آیت کا مطلب دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر کس طرح استواء فرمایا تو آپ نے تھوڑے سے تَوَقُّف کے بعد فرمایا ”ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عرش پر استواء فرمایا لیکن اس کی کیفیت کیا تھی وہ ہمارے فہم سے بالاتر ہے البتہ اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کے بارے میں گفتگو کرنا بدعت ہے۔“⁽¹⁾

وَإِنْ تَجْهَرُ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴿٥٤﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اگر تو بات پکار کر کہے تو وہ تو وہ تو بھید کو جانتا ہے اور اسے جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہے۔

ترجمہ کنز العرفان: اور اگر تم بلند آواز سے بولو تو بیشک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے (بھی) جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔

1..... بغوی، الاعراف، تحت الآية: ۵۴، ۱۳۷/۲.

﴿ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى ﴾: تو بیشک وہ آہستہ آواز کو جانتا ہے اور اسے (بھی) جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے۔ ﴿ اس آیت کے دو الفاظ ”السِّرُّ“ اور ”أَخْفَى“ کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، جیسے ایک قول یہ ہے کہ سر وہ ہے جسے آدمی چھپاتا ہے اور ”اس سے زیادہ پوشیدہ“ وہ ہے جسے انسان کرنے والا ہے مگر ابھی جانتا بھی نہیں اور نہ اس سے اس کے ارادے کا کوئی تعلق ہوا، نہ اس تک اس کا خیال پہنچا۔ ایک قول یہ ہے کہ سر سے مراد وہ ہے جسے بندہ انسانوں سے چھپاتا ہے اور ”اس سے زیادہ چھپی ہوئی“ چیز و سوسہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ بندے کا راز وہ ہے جسے بندہ خود جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور ”اس سے زیادہ پوشیدہ“ ربانی اسرار ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے بندہ نہیں جانتا۔^(۱)

برے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب

اس آیت میں بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہماری آہستہ آواز کو جانتا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ پوشیدہ ہے اسے بھی جانتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ظاہری باطنی احوال، آنکھوں کی خیانت، سینوں میں چھپی باتیں اور ہمارے تمام کام جانتا ہے اور ہمارے تمام افعال کو دیکھ بھی رہا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ كُنُونَ^(۲)
ترجمہ کنز العرفان: اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے اور جو تم چھپاتے ہو۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ^(۳)
ترجمہ کنز العرفان: اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور اسے بھی جو سینے چھپاتے ہیں۔

اور ارشاد فرمایا

اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ^(۴)
ترجمہ کنز العرفان: تم جو چاہو کرتے رہو۔ بیشک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔

①.....خازن، طہ، تحت الآية: ۷، ۳/۲۴۹، ملتقطاً.

②.....مائتہ: ۹۹.

③.....مومن: ۱۹.

④.....حم السجدة: ۴۰.

ان آیات میں ہر بندے کے لئے یہ تشبیہ ہے کہ وہ خفیہ اور اعلانیہ، ظاہری اور باطنی تمام گناہوں سے پرہیز کرے کیونکہ کوئی ہمارے گناہوں کو جانے یا نہ جانے اور کوئی انہیں دیکھے یا نہ دیکھے لیکن وہ اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے جو دنیا میں کسی بھی وقت اس کی گرفت فرما سکتا ہے اور اگر اس نے دنیا میں کوئی سزا نہ دی تو وہ آخرت میں جہنم کی دردناک سزا دے سکتا ہے۔ نیز ان آیات میں نیک اعمال کرنے کی ترغیب بھی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے کوئی نیکی چھپ کر کریں یا سب کے سامنے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں اس کی جزا عطا فرمائے گا۔

بلند آواز سے ذکر کرنے کا مقصد

ابوسعید عبد اللہ بن عمر رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے تفسیر بیضاوی میں اس آیت میں مذکور لفظ ”قول“ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور دعا مراد لی ہے اور فرمایا ہے کہ اس آیت میں اس پر تشبیہ کی گئی ہے کہ ذکر و دعا میں جہر اللہ تعالیٰ کو سنانے کے لئے نہیں ہے بلکہ ذکر و نفس میں راسخ کرنے اور نفس کو غیر کے ساتھ مشغول ہونے سے روکنے اور باز رکھنے کے لئے ہے۔^(۱)

اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۖ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ۝۸

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہیں اسی کے ہیں سب اچھے نام۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ سب اچھے نام اسی کے ہیں۔

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾: وہ اللہ ہے، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ معبود حقیقی ہے اس کے سوا کوئی خدا نہیں اور وہ حقیقتاً واحد ہے اور اسماء و صفات کی کثرت اس کی ذات کو تعبیر کرنے کے مختلف ذرائع ہیں۔ یہ نہیں کہ صفات کی کثرت ذات کی کثرت پر دلالت کرے جیسے کسی آدمی کو کہیں کہ یہ عالم بھی ہے اور سخی بھی تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسے عالم بھی کہہ سکتے ہیں اور سخی بھی، نہ یہ کہ دو نام رکھنے سے وہ ایک سے دو آدمی بن گئے۔

وَهَلْ أُنَبِّئُكَ حَدِيثَ مُوسَىٰ ۝۹

1..... بیضاوی، طہ، تحت الآیة: ۷، ۴/۱۴.

ترجمہ کنزالایمان: اور کچھ تمہیں موسیٰ کی خبر آئی۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی۔

﴿وَهَلْ أُنْتِكَ حَدِيثٌ مُوسَى﴾ اور کیا تمہارے پاس موسیٰ کی خبر آئی۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں قرآن مجید اور نبی

کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حالات بیان کئے جا رہے ہیں تاکہ اس سے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو تقویٰ حاصل ہو اور اس سلسلے میں سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا کیونکہ انہیں نبوت و رسالت کے فرائض کی ادائیگی میں جس قدر مشقتوں اور سختیوں کا سامنا کرنا پڑا ہے اس میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کے لئے بہت تسلی ہے، چنانچہ یہاں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اس سفر کا واقعہ بیان فرمایا جا رہا ہے جس میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اجازت لے کر مدین سے مصر کی طرف اپنی والدہ ماجدہ سے ملنے کے لئے روانہ ہوئے تھے، آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اہل بیت ہمراہ تھے اور آپ نے شام کے بادشاہوں (کی طرف سے نقصان پہنچنے) کے اندیشہ سے سڑک چھوڑ کر جنگل میں مسافت طے کرنا اختیار فرمایا، اس وقت زوجہ محترمہ حاملہ تھیں، چلتے چلتے طور پہاڑ کے مغربی جانب پہنچے تو یہاں رات کے وقت زوجہ محترمہ کو درازہ شروع ہوا، یہ رات اندھیری تھی، برف پڑ رہی تھا اور سردی شدت کی تھی، اتنے میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دور سے آگ معلوم ہوئی۔^(۱)

إِذْ رَأَى نَارًا فَقَالَ لِأَهْلِهِ امْكُثُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَّعَلِّي آتِيكُمْ مِنْهَا
بِقَبَسٍ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدًى ①

ترجمہ کنزالایمان: جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی بی بی سے کہا ٹھہرو مجھے ایک آگ نظر پڑی ہے شاید میں تمہارے

1..... تفسیر کبیر، طہ، تحت الآیة: ۹، ۱۵/۸، حازن، طہ، تحت الآیة: ۹، ۲۴۹/۳-۲۵۰، ملنقطاً.

لیے اس میں سے کوئی چنگاری لاؤں یا آگ پر راستہ پاؤں۔

ترجمہ کنزالعرفان: جب اس نے ایک آگ دیکھی تو اپنی اہلیہ سے فرمایا: ٹھہرو، بیشک میں نے ایک آگ دیکھی ہے شاید میں تمہارے پاس اس میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا آگ کے پاس کوئی راستہ بتانے والا پاؤں۔

﴿اِذْ سَأَلْنَا رَبًّا:﴾ جب اس نے ایک آگ دیکھی۔ ﴿﴾ جب حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے آگ دیکھی تو اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا: آپ یہیں ٹھہرو، میں نے ایک جگہ آگ دیکھی ہے، اس لئے میں جاتا ہوں، شاید میں تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی چنگاری لے آؤں یا مجھے آگ کے پاس کوئی ایسا شخص مل جائے جس سے درست راستہ پوچھ کر ہم مصر کی طرف روانہ ہو سکیں۔

زوجہ اہل بیت میں داخل ہے

اس آیت میں حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی زوجہ کو 'اہل' فرمایا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ بیوی اہل بیت میں سے ہوتی ہے اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ازواجِ مطہرات رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اہل بیت میں داخل ہیں۔

فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ يُوْسَىٰ ۖ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ ۖ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى ۖ

ترجمہ کنزالایمان: پھر جب آگ کے پاس آیا ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ۔ بیشک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار ڈال بیشک تو پاک جنگل طویٰ میں ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر وہ جب آگ کے پاس آئے تو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ۔ بیشک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار دے بیشک تو پاک وادی طویٰ میں ہے۔

﴿فَلَمَّا أَتَاهَا:﴾ پھر وہ جب آگ کے پاس آئے۔ ﴿﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت

موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اس آگ کے پاس تشریف لائے تو وہاں آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے ایک سرسبز و شاداب درخت دیکھا جو اوپر سے نیچے تک انتہائی روشن تھا اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جتنا اس کے قریب جاتے اتنا وہ دور ہو جاتا اور جب آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ٹھہر جاتے ہیں تو وہ قریب ہو جاتا، اس وقت آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو ندا فرمائی گئی کہ اے موسیٰ! بیشک میں تیرا رب ہوں تو تو اپنے جوتے اتار دے کہ اس میں عاجزی کا اظہار، مقدس جگہ کا احترام اور پاک وادی کی خاک سے برکت حاصل کرنے کا موقع ہے، بیشک تو اس وقت پاک وادی طویٰ میں ہے۔^(۱)

آیت ”فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت اور اس کی تفسیر سے چار باتیں معلوم ہوتی ہیں:

- (1)..... پاک اور مقدس جگہ پر جوتے اتار کر حاضر ہونا چاہئے کہ یہ ادب کے زیادہ قریب ہے۔
- (2)..... اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اور مناجات کرتے وقت جوتے اتار دینے چاہئیں۔
- (3)..... مقدس جگہ سے برکت حاصل کرنے کے لئے اس کے ساتھ اپنا بدن مس کر سکتے ہیں۔
- (4)..... مقدس جگہ کا ادب و احترام کرنا چاہئے کہ یہ انبیاء کرام عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی سنت ہے۔ اسی وجہ سے انبیاء کرام عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور اولیاء عظام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِم کے مزارات اور اس سرزمین کا ادب کیا جاتا ہے جہاں وہ آرام فرما ہیں۔ ہمارے بزرگان دین مقدس مقامات کا ادب کس طرح کیا کرتے تھے اس سلسلے میں ایک حکایات ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت امام شافعی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے (مدینہ منورہ میں) حضرت امام مالک رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کے دروازے پر خراسان کے گھوڑوں کا ایک ایسا ریوڑ دیکھا کہ میں نے اس سے اچھا نہیں دیکھا تھا۔ میں نے حضرت امام مالک رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے عرض کی: یہ کتنا خوبصورت ہے۔ انہوں نے فرمایا ”اے ابو عبد اللہ! یہ میری طرف سے تمہارے لئے تحفہ ہے۔ میں نے عرض کی: آپ اس میں سے ایک جانور اپنی سواری کے لئے رکھ لیں۔ آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: مجھے اللہ تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں اس مبارک مٹی کو جانور کے (اوپر سوار ہو کر اس کے) کھروں سے روندوں جس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (کاروضہ انور) موجود ہے۔^(۲)

ہاں ہاں رہ مدینہ ہے غافل ذرا تو جاگ
او پاؤں رکھنے والے یہ جا چشم و سر کی ہے

①..... مدارك، طه، تحت الآية: ۱۱-۱۲، ص ۶۸۷.

②..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب الثانی فی العلم المحمود والمذموم واقسامہما... الخ، ۴۸/۱.

وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَبِعْ لِيَا يُوحَىٰ ﴿۱۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور میں نے تجھے پسند کیا اب کان لگا کر سن جو تجھے وحی ہوتی ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور میں نے تجھے پسند کیا تو اب اسے غور سے سن جو وحی کی جاتی ہے۔

﴿وَ اَنَا اخْتَرْتُكَ﴾ اور میں نے تجھے پسند کیا۔ ﴿اللّٰهُ تَعَالَىٰ﴾ نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام سے ارشاد فرمایا کہ میں نے تیری قوم میں سے تجھے نبوت و رسالت کے لئے پسند کر لیا اور تجھے اپنے ساتھ کلام کرنے کے شرف سے مشرف فرمایا تو اب اسے غور سے سن جو تیری طرف وحی کی جاتی ہے۔^(۱)

حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام کی اس فضیلت کا ذکر ایک اور مقام پر صراحت کے ساتھ بھی موجود ہے، چنانچہ

ارشاد فرمایا:

يُوسَىٰ اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلَى النَّاسِ بِرِسَالَتِي
وَبِكَلَامِي فَخُذْ مَا آتَيْنَكَ وَكُنْ مِنَ الشَّاكِرِيْنَ ﴿۲﴾

ترجمہ کنزالعرفان: اے موسیٰ! میں نے اپنی رسالتوں اور اپنے کلام کے ساتھ تجھے لوگوں پر منتخب کر لیا تو جو میں نے تمہیں عطا فرمایا ہے اسے لے لو اور شکر گزاروں میں سے ہو جاؤ۔

نیز حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام نے جو ندا سنی اس کی کیفیت کے بارے میں ایک قول یہ بھی ہے کہ آپ عَلَيْهِ

الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام نے یہ ندا اپنے بدن کے ہر جزو سے سنی اور سننے کی قوت ایسی عام ہوئی کہ پورا جسم اقدس کان بن گیا۔^(۳)

اِنِّىْ اَنَا اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدْنِىْ ۙ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ لِذِكْرِىْ ﴿۱۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک میں ہی ہوں اللہ کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری بندگی کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔

۱..... جلالین، طہ، تحت الآیة: ۱۳، ص ۲۶۱، حازن، طہ، تحت الآیة: ۱۳، ۲۵۰/۳، ملقطاً.

۲..... اعراف: ۱۴۴.

۳..... حازن، طہ، تحت الآیة: ۱۱، ۲۵۰/۳.

ترجمہ کنز العرفان: بیشک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو۔

﴿إِنِّي أَنَا اللَّهُ﴾: بیشک میں ہی اللہ ہوں۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ! عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام، بیشک میں ہی اللہ ہوں اور میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو تم میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھو تا کہ تم اس میں مجھے یاد کرو اور میری یاد میں اخلاص ہو اور میری رضا کے علاوہ کوئی دوسری غرض مقصود نہ ہو، اسی طرح اس میں ریا کا دخل نہ ہو۔ آیت کے آخری حصے ”أَقِمِ الصَّلَاةَ لِنُكْرَمِي“ کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ تم میری نماز قائم رکھو تا کہ میں تجھے اپنی رحمت سے یاد فرماؤں۔^(۱)

آیت ”وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِنُكْرَمِي“ سے حاصل ہونے والی معلومات

اس آیت سے 3 باتیں معلوم ہوتیں

- (1)..... ایمان کے بعد سب سے اہم فریضہ نماز ہے۔
- (2)..... نماز کی ادائیگی اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کی یاد کیلئے ہونی چاہیے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کیلئے۔
- (3)..... نماز ادا کرنے والے بندے کو اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنی رحمت کے ساتھ یاد فرماتا ہے۔

إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكَادُ أُخْفِيهَا لِيَجْزِيَ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا تَسْعَى ⑮

ترجمہ کنز الایمان: بیشک قیامت آنے والی ہے قریب تھا کہ میں اسے سب سے چھپاؤں کہ ہر جان اپنی کوشش کا بدلہ پائے۔

ترجمہ کنز العرفان: بیشک قیامت آنے والی ہے۔ قریب ہے کہ میں اسے چھپا رکھوں تا کہ ہر جان کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے۔

﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾: بیشک قیامت آنے والی ہے۔ ﴿﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک قیامت لازمی طور پر آنے والی ہے اور قریب تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے سب سے چھپا کر رکھتا اور یہ فرما کر بندوں کو اس کے آنے کی خبر بھی نہ دیتا کہ بے شک

①..... خازن، طہ، تحت الآية: ۱۴، ۲۵۰/۳، مدارك، طہ، تحت الآية: ۱۴، ص ۶۸۸، ملنقطاً.

قیامت آنے والی ہے، یعنی لوگوں کو اس بات کا علم ہی نہ ہوتا کہ کوئی قیامت کا دن بھی ہے (اگر ایسا ہوتا تو لوگ بالکل ہی غفلت والا علمی میں مارے جاتے)۔ لیکن اس کے برعکس انہیں قیامت آنے کی خبر دی گئی ہے جس میں حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ ہر جان کو اس کے اچھے برے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا البتہ اس کے ساتھ انہیں مُتَعَتِّینِ وقت نہیں بتایا گیا (کہ وہ بھی کئی اعتبار سے اکثر لوگوں کیلئے غفلت کا سبب بن جاتا لہذا) اس کی جگہ بغير مُعَتِّینِ وقت بتائے محض قیامت کی خبر دیدی تاکہ اُس کے کسی بھی وقت آنے کے خوف سے لوگ گناہوں کو ترک کر دیں، نیکیاں زیادہ کریں اور ہر وقت توبہ کرتے رہیں۔^(۱)

موت اور قیامت کا وقت چھپائے جانے کی حکمت

یاد رہے کہ اس آیت میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ قیامت آئے گی لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کب آئے گی، اسی طرح دیگر آیات میں یہ تو بتایا گیا ہے کہ ہر جاندار کو موت آئے گی لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ کب اور کس وقت آئے گی، اس سے معلوم ہوا کہ قیامت اور موت دونوں کے آنے کا وقت بندوں سے چھپایا گیا ہے اور ان کا وقت چھپانے میں بھی حکمت ہے، جیسے قیامت آنے کا وقت چھپانے کی جو حکمت اوپر بیان ہوئی کہ لوگ اس وجہ سے خوفزدہ رہیں گے اور گناہ چھوڑ کر نیکیاں زیادہ کریں گے اور توبہ کرنے میں مصروف رہیں گے یہی حکمت موت کا وقت چھپانے میں بھی ہے کیونکہ جب کسی انسان کو اپنی عمر ختم ہونے اور موت آنے کا وقت معلوم ہوگا تو وہ اس وقت کے قریب آنے تک گناہوں میں مشغول رہے گا اور جب موت کا وقت آنے والا ہوگا تو وہ گناہوں سے توبہ کر کے نیک اعمال کرنے میں مصروف ہو جائے گا اور اس طرح وہ گناہوں کی سزا پانے سے بچ جائے گا اور جب انسان کو اپنی موت کا وقت ہی معلوم نہ ہوگا تو وہ ہر وقت خوف اور دہشت میں مبتلا رہے گا اور یا تو گناہوں کو مکمل طور پر چھوڑ دے گا یا ہر وقت اس ڈر سے گناہوں سے توبہ کرتا رہے گا کہ کہیں ابھی موت نہ آجائے۔ افسوس! فی زمانہ لوگوں کی اکثریت حشر کے ہولناک دن اور اپنی موت کو یاد کرنے، اپنی آخرت کو بہتر بنانے کی جستجو کرنے اور اپنی موت کے لئے تیاری کرنے سے انتہائی غفلت کا شکار ہے اور قیامت کے دن راحت و چین مل جانے اور دنیا میں اپنی عمر زیادہ ہونے کی لمبی لمبی امیدیں باندھے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور اپنی قبر و آخرت کی بہتری کے لئے فوری طور پر بھرپور کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

نوٹ: یاد رہے کہ قیامت آنے کا وقت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے چھپایا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ

①.....مدارك، طہ، تحت الآية: ۱۵، ص ۶۸۸، ملقطاً.

تعالیٰ نے اپنے کسی بھی بندے کو اس کی اطلاع نہیں دی بلکہ احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو قیامت آنے کا وقت بھی بتا دیا ہے اور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا قیامت کی نشانیاں بیان فرمانا اور اس کا مُتَعَيِّن وقت امت کو نہ بتانا بھی حکمت کے پیش نظر ہے۔

فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَتَرْدَى ۱۶

ترجمہ کنزالایمان: تو ہرگز تجھے اس کے ماننے سے وہ باز نہ رکھے جو اس پر ایمان نہیں لاتا اور اپنی خواہش کے پیچھے چلا پھر تو ہلاک ہو جائے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔

﴿فَلَا يَصُدُّكَ عَنْهَا مَنْ لَّا يُؤْمِنُ بِهَا﴾: تو قیامت پر ایمان نہ لانے والا ہرگز تجھے اس کے ماننے سے باز نہ رکھے۔ ﴿یَصُدُّ﴾ یہاں آیت میں خطاب بظاہر حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے ہے اور اس سے مراد آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی امت ہے۔ چنانچہ گویا کہ ارشاد فرمایا: اے میرے کلیم موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے امتی! قیامت پر ایمان نہ لانے والا اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کی پیروی کرنے والا ہرگز تجھے قیامت کو ماننے سے باز نہ رکھے ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔^(۱)

وَمَا تِلْكَ بِيَدَيْكَ يُوسُفُ ۱۷

ترجمہ کنزالایمان: اور یہ تیرے داہنے ہاتھ میں کیا ہے اے موسیٰ۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اے موسیٰ! یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟

﴿وَمَا تِلْكَ بِيَدَيْكَ يُوسُفُ﴾: اور اے موسیٰ! یہ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ﴿اس سوال کی حکمت یہ ہے کہ

1.....مدارك، طه، تحت الآية: ۱۶، ص ۲۸۸۔

حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اپنے عصا کو دیکھ لیں اور یہ بات قلب میں خوب راسخ ہو جائے کہ یہ عصا ہے تاکہ جس وقت وہ سانپ کی شکل میں ہو تو آپ کے خاطر مبارک پر کوئی پریشانی نہ ہو یا یہ حکمت ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو مانوس کیا جائے تاکہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ سے کلام کی ہیبت کا اثر کم ہو۔^(۱)

سوال پوچھنے کی وجہ لاء علمی ہونا ضروری نہیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ سوال ہمیشہ پوچھنے والے کی لاء علمی کی بنا پر نہیں ہوتا بلکہ اس میں کچھ اور بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ لہذا کسی موقعہ پر حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا کسی سے کچھ پوچھنا حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بے خبر ہونے کی دلیل نہیں۔

قَالَ هِيَ عَصَايَ ۚ أَتَوَكَّوْا عَلَيْهَا وَآهَشُ بِهَا عَلَىٰ غَنِيٍّ وَرِي فِيهَا
مَا رِبُّ أُخْرَى ۝۱۸

ترجمہ کنزالایمان: عرض کی یہ میرا عصا ہے میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میرے اس میں اور کام ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: عرض کی: یہ میرا عصا ہے میں اس پر تکیہ لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور میری اس میں اور بھی کئی ضرورتیں ہیں۔

﴿قَالَ هِيَ عَصَايَ﴾: عرض کی: یہ میرا عصا ہے۔ ﴿حَضْرَتِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ﴾ نے عرض کی: یہ میرا عصا ہے، جب تھک جاتا ہوں تو اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اس سے اپنی بکریوں کے لیے خشک درختوں سے پتے جھاڑتا ہوں اور میری کئی ضروریات میں بھی یہ میرے کام آتا ہے جیسے اس کے ذریعے توشہ اور پانی اٹھانا، مؤذی جانوروں کو دفع کرنا اور دشمنوں سے لڑائی میں کام لینا وغیرہ۔ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا اپنے عصا کے ان فوائد کو بیان کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے

①..... مدارك، طه، تحت الآية: ۱۷، ص ۶۸۸.

(1) شکر کے طور پر تھا۔

عصار کھنے کے فوائد

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے پاس عصار کھنا انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی سنت ہے اور اس سے کئی فوائد حاصل ہوتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں ”عصار کھنے میں چھ فضیلتیں ہیں۔ (1) یہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی سنت ہے، (2) صلح کی زینت ہے، (3) دشمنوں کے خلاف ہتھیار ہے، (4) کمزوروں کا مددگار ہے، (5) منافقین کے لیے پریشانی کا باعث ہے، (6) عبادت میں زیادتی کا باعث ہے۔ (2)

عصا کے ساتھ جنت میں چہل قدمی

تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بھی عصا مبارک استعمال فرمایا کرتے تھے، اسی سلسلے میں ایک بہت پیاری حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ جب حضرت عبد اللہ بن انیس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے خالد بن سفیان ہزلی کو قتل کر دیا اور اس کا سر کاٹ کر مدینہ منورہ لائے اور تاجدارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے قدموں میں ڈال دیا تو حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت عبد اللہ بن انیس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی بہادری اور جان بازی سے خوش ہو کر انہیں اپنا عصا عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ تم اسی عصا کو ہاتھ میں لے کر جنت میں چہل قدمی کرو گے۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، قیامت کے دن یہ مبارک عصا میرے پاس نشانی کے طور پر رہے گا۔ چنانچہ انتقال کے وقت انہوں نے یہ وصیت فرمائی کہ اس عصا کو میرے کفن میں رکھ دیا جائے۔ (3)

قَالَ الْقَهَّابُ يُوسَى ١٩ ۞ فَالْقَهَّابُ إِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى ۞ قَالَ خُذْهَا

وَلَا تَخَفْ ۞ سَعِيدٌ هَا سِيرَتَهَا الْأُولَى ۞ ۲٠

ترجمہ کنزالایمان: فرمایا اسے ڈال دے اے موسیٰ۔ تو موسیٰ نے اسے ڈال دیا تو جھبی وہ دوڑتا ہوا سانپ ہو گیا۔ فرمایا

1.....خازن، طہ، تحت الآية: ١٨، ٢٥١/٣، مدارك، طہ، تحت الآية: ١٨، ص ٦٨٨، ملتقطاً.

2.....قرطبی، طہ، تحت الآية: ١٨، ٨٩/٦، الجزء الحادى عشر.

3.....زرقانی علی المواہب، کتاب المغازی، سرية عبد الله بن انیس، ٤٧٣/٢-٤٧٤ ملخصاً.

اسے اٹھالے اور ڈر نہیں اب ہم اسے پھر پہلی طرح کر دیں گے۔

ترجیہ کذا العرفان: فرمایا: اے موسیٰ! سے ڈال دو۔ تو موسیٰ نے اسے (نیچے) ڈال دیا تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔ (اللہ نے) فرمایا: اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ اس کی پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔

﴿قَالَ: فرمایا۔﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے ارشاد فرمایا ”اے موسیٰ! اس عصا کو زمین پر ڈال دو تا کہ تم اس کی شان دیکھ سکو۔ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے عصا زمین پر ڈال دیا تو وہ اچانک سانپ بن کر تیزی سے دوڑنے لگا اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو کھانے لگا۔ یہ حال دیکھ کر حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو (طبعی طور پر) خوف ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے ارشاد فرمایا: اسے پکڑ لو اور ڈرو نہیں، ہم اسے دوبارہ پہلی حالت پر لوٹا دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا خوف جاتا رہا، جی کہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے اپنا دست مبارک اس کے منہ میں ڈال دیا اور وہ آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے ہاتھ لگاتے ہی پہلے کی طرح عصا بن گیا۔^(۱)

﴿فَإِذَا هِيَ حَيَّةٌ تَسْعَى: تو اچانک وہ سانپ بن گیا جو دوڑ رہا تھا۔﴾ جب حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے اس وقت ان کے عصا کو سانپ بنائے جانے کی مفسرین نے مختلف حکمتیں بیان کی ہیں، ان میں سے دو حکمتیں درج ذیل ہیں۔

- (۱)..... اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کو اس لئے سانپ بنایا تا کہ یہ ان کا معجزہ ہو جس سے ان کی نبوت کو پہچانا جائے۔
- (۲)..... اس مقام پر عصا کو سانپ اس لئے بنایا گیا تا کہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اس کا پہلے سے مشاہدہ کر لیں اور جب فرعون کے سامنے یہ عصا سانپ بنے تو آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اسے دیکھ کر خوفزدہ نہ ہوں۔^(۲)

وَاضْمُ يَدِكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ تَخْرُجُ بَيضًا مِّنْ غَيْرِ سَوْءٍ

①..... خازن، طہ، تحت الآیة: ۱۹-۲۱، ۲۵۱/۳-۲۵۲، مدارک، طہ، تحت الآیة: ۱۹-۲۱، ص ۶۸۹، ملقطاً.

②..... تفسیر کبیر، طہ، تحت الآیة: ۲۰، ۲۷/۸.

آیةٔ اُخْرٰی ﴿۲۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنا ہاتھ اپنے بازو سے ملا خوب سفید نکلے گا بے کسی مرض کے ایک اور نشانی۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملاؤ، بغیر کسی مرض کے خوب سفید ہو کر، ایک اور معجزہ بن کر نکلے گا۔

﴿وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ﴾ اور اپنے ہاتھ کو اپنے بازو سے ملا لو۔ ﴿اللَّهُ تَعَالَىٰ﴾ نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو ایک اور معجزہ عطا فرمایا جس کے بارے میں یہاں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ! آپ اپنے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں بازو کی بغل کے نیچے ملا کر نکالئے تو وہ ہاتھ سورج کی طرح چمکتا، نگاہوں کو خیرہ کرتا اور کسی مرض کے بغیر خوب سفید ہو کر نکلے گا اور یہ عصا کے بعد آپ کی نبوت کی صداقت کی ایک اور نشانی ہے اسے بھی لیجئے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے دست مبارک سے رات میں چاند اور دن میں سورج کی روشنی کی طرح نور ظاہر ہوتا تھا۔^(۱)

جب حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام دوبارہ اپنا دست مبارک بغل کے نیچے رکھ کر بازو سے ملا تے تو وہ دست اقدس اپنی سابقہ حالت پر آ جاتا تھا۔

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرٰى ﴿۲۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: کہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔

﴿لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرٰى﴾ تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔ ﴿لَعْنَىٰ﴾ اے موسیٰ! عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام، ہم نے آپ کو عصا سانپ بن جانے اور ہاتھ روشن ہو جانے کے دو معجزات اس لئے عطا کئے تاکہ ان کے ذریعے ہم آپ

①.....مدارك، طه، تحت الآية: ۲۲، ص ۶۸۹، حازن، طه، تحت الآية: ۲۲، ۲۵۲/۳، ملنقطاً.

کو اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔^(۱)

کلیم اور حبیب کو دکھائی گئی نشانیوں میں فرق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے کلیم حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے ارشاد فرمایا:

لِنُرِيكَ مِنْ آيَاتِنَا الْكُبْرَى **ترجمہ کنز العرفان:** تاکہ ہم تجھے اپنی بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں۔

اور اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ

لَقَدْ سَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى^(۲) **ترجمہ کنز العرفان:** بیشک اس نے اپنے رب کی بہت بڑی

نشانیاں دیکھیں۔

ان میں فرق یہ ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو جو بڑی بڑی نشانیاں دکھائی گئیں ان کا تعلق فقط زمین کے

عجائبات سے ہے جبکہ سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ کی جو بڑی نشانیاں دیکھی ہیں ان کا

تعلق زمین کے عجائبات سے بھی ہے اور آسمانوں کے عجائبات سے بھی ہے۔^(۳)

إِذْ هَبُّ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى ۚ

ترجمہ کنز الایمان: فرعون کے پاس جا اس نے سراٹھایا۔

ترجمہ کنز العرفان: فرعون کے پاس جاؤ، بیشک وہ سرکش ہو گیا ہے۔

﴿إِذْ هَبُّ إِلَى فِرْعَوْنَ﴾: فرعون کے پاس جاؤ۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ! عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام، تم ہمارے رسول ہو کر

فرعون کے پاس جاؤ، بیشک وہ سرکش ہو گیا ہے اور کفر میں حد سے گزر گیا اور خدائی کا دعویٰ کرنے لگا ہے۔ حقیقت میں تو

حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو فرعون اور اس کے تمام ماننے والوں کی طرف بھیجا گیا تھا البتہ فرعون کو خاص طور پر ذکر

①..... روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۲۳، ۳۷۷/۵.

②..... نجم: ۱۸.

③..... روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۲۳، ۳۷۷/۵.

کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس نے خدا ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور کفر میں حد سے گزر گیا تھا۔^(۱)

قَالَ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي ۙ ۲۵ وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي ۙ ۲۶ وَاحْلُلْ عُقْدَةً
مِّنْ لِّسَانِي ۙ ۲۷ يَفْقَهُوا قَوْلِي ۙ ۲۸

ترجمہ کنزالایمان: عرض کی اے میرے رب میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور میرے لیے میرا کام آسان کر۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ کہ وہ میری بات سمجھیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: موسیٰ نے عرض کی: اے میرے رب! میرے لیے میرا سینہ کھول دے۔ اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے۔ اور میری زبان کی گرہ کھول دے۔ تاکہ وہ میری بات سمجھیں۔

﴿قَالَ رَبِّ﴾: موسیٰ نے عرض کی: اے میرے رب! ﴿﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی تین آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سرکش فرعون کی طرف جانے کا حکم دیا گیا اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام جان گئے کہ انہیں ایک ایسے عظیم کام کا پابند کیا گیا ہے جس کے لئے سینہ کشادہ ہونے کی حاجت ہے تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی: اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور اسے رسالت کا بوجھ اٹھانے کے لئے وسیع فرما دے اور اسباب پیدا فرما کر، دیگر رکاوٹیں ختم کر کے میرے لیے میرا وہ کام آسان فرما دے جس کا تو نے مجھے حکم دیا ہے اور میری زبان کی گرہ کھول دے جو بچپن میں آگ کا انکارہ منہ میں رکھ لینے سے پڑ گئی ہے تاکہ وہ لوگ رسالت کی تبلیغ کے وقت میری بات سمجھیں۔^(۲)

﴿وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي﴾: اور میری زبان سے گرہ کھول دے۔ ﴿﴾ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی زبان میں لکنت پیدا ہونے کی وجہ یہ تھی کہ بچپن میں ایک دن فرعون نے آپ کو اٹھایا تو آپ نے اس کی داڑھی پکڑ کر اس کے منہ پر

①.....جلالین، طہ، تحت الآیة: ۲۴، ص ۲۶۲، خازن، طہ، تحت الآیة: ۲۴، ۲۵۲/۳، ملتقطاً.

②.....مدارك، طہ، تحت الآیة: ۲۵-۲۸، ص ۶۸۹-۶۹۰، خازن، طہ، تحت الآیة: ۲۵-۲۸، ۲۵۲/۳-۲۵۳، روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۲۵-۲۸، ۳۷۸/۵، ملتقطاً.

زور سے طمانچہ مار دیا، اس پر اسے غصہ آیا اور اس نے آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا، یہ دیکھ کر حضرت آسیہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے کہا: اے بادشاہ! یہ ابھی بچہ ہے اسے کیا سمجھ؟ اگر تو تجربہ کرنا چاہے تو تجربہ کر لے۔ اس تجربہ کے لئے ایک طشت میں آگ اور ایک طشت میں سرخ یا قوت آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے سامنے پیش کئے گئے۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے یا قوت لینا چاہا مگر فرشتے نے آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا ہاتھ انگارہ پر رکھ دیا اور وہ انگارہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے منہ میں دے دیا اس سے زبان مبارک جل گئی اور لکنت پیدا ہو گئی۔^(۱)

وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي ﴿٢٩﴾ هَارُونَ أَخِي ﴿٣٠﴾ اشْدُدْ بِهِ أَزْرِي ﴿٣١﴾
 وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِي ﴿٣٢﴾ كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا ﴿٣٣﴾ وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا ﴿٣٤﴾
 إِنَّكَ كُنْتَ بِنَايِبًا ﴿٣٥﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور میرے لئے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ وہ کون میرا بھائی ہارون۔ اس سے میری کمر مضبوط کر۔ اور اسے میرے کام میں شریک کر۔ کہ ہم بکثرت تیری پاکی بولیں۔ اور بکثرت تیری یاد کریں۔ بیشک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ میرے بھائی ہارون کو۔ اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما۔ اور اسے میرے کام میں شریک کر دے۔ تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں۔ اور بکثرت تیرا ذکر کریں۔ بیشک تو ہمیں دیکھ رہا ہے۔

﴿وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي﴾: اور میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی چھ آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے مزید عرض کی: میرے لیے میرے گھر والوں میں سے ایک وزیر کر دے جو میرا معاون اور مُعْتَمِد ہو اور وہ میرا بھائی ہارون ہو، اس کے ذریعے میری کمر مضبوط فرما اور

①..... بغوی، طہ، تحت الآية: ۲۷، ۱۸۲/۳.

اسے رسالت کی تبلیغ اور نبوت کے کام میں میرا شریک کر دے تاکہ ہم بکثرت تیری پاکی بیان کریں اور نمازوں میں اور نمازوں کے علاوہ بھی بکثرت تیرا ذکر کریں پیشک تو ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہمارے احوال کو جانتا ہے۔^(۱)

سورہ طہ کی آیت نمبر 29 تا 35 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات سے 8 باتیں معلوم ہوئیں:

- (1)..... اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سے ان کے بھائی حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو نبوت جیسا عظیم منصب عطا فرما دیا۔
- (2)..... اپنے عزیز کو اپنا جانشین بنانا حرام نہیں، اصل مدار اہلیت پر ہے، اگر اولاد اہل ہے تو اسے جانشین بنانا درست ہے کہ اہل آدمی کا اولاد ہونا کوئی ایسا جرم نہیں کہ اسے جانشین نہ بنایا جاسکے، ہاں کسی خارجی وجہ سے یہ فعل نہ کیا جائے تو وہ جدا بات ہے۔ اس معاملے میں لوگوں کی آراء میں بہت افراط و تفریط پایا جاتا ہے، لہذا انہیں اعتدال کی راہ اختیار کرنی چاہیے۔
- (3)..... اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے قوت اور مدد حاصل کرنا نہ تو کُل کے خلاف ہے اور نہ تو حید کے مُنافی ہے۔
- (4)..... بہترین اور قابل لوگوں کی صحبت اختیار کرنا اور انہیں اپنا وزیر بنانا انبیاء کرام عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا پسندیدہ عمل ہے۔
- (5)..... اپنی رائے کو حرفِ آخر سمجھنا اور اپنی قوت و شوکت پر غرور کرنا درست نہیں ہے۔
- (6)..... جو چیز اپنے لئے پسند ہو وہی اپنے بھائی کے لئے بھی پسند کرنی چاہئے۔
- (7)..... نیکیاں زیادہ کرنے کے معاملے میں نیک آدمی کی صحبت اختیار کرنے کا بڑا عمل دخل ہے۔
- (8)..... اللہ تعالیٰ کا ذکر جماعت کے ساتھ مل کر کرنا اور بزرگوں کے پاس بیٹھ کر کرنا بہت افضل ہے۔

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَا مُوسَى ۳۶

ترجمہ کنزالایمان: فرمایا اے موسیٰ تیری مانگ تجھے عطا ہوئی۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ نے فرمایا: اے موسیٰ! تیرا سوال تجھے عطا کر دیا گیا۔

1..... مدارك، طہ، تحت الآية: ۲۹-۳۵، ص ۶۹۰، حازن، طہ، تحت الآية: ۲۹-۳۵، ۲۵۳/۳، ملقطاً.

﴿قَالَ قَدْ أُوتِيتَ: اللہ نے فرمایا: تجھے عطا کر دیا گیا۔﴾ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی اس درخواست پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”اے موسیٰ! عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تجھے وہ تمام چیزیں عطا کر دی گئیں جن کا تو نے ہم سے سوال کیا ہے۔“ (1)

علماء اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جاہلوں کی صحبت سے محفوظ فرمادے اور علماء و صلحا کی صحبت اختیار کرنے کی توفیق عطا کر دے تو یہ اس کا بہت بڑا احسان اور انعام ہے کیونکہ یہ حضرات بندے سے گناہوں کے بوجھ اتارنے میں معاون و مددگار اور نیک اعمال کی راہ پر آسانی سے چلنے میں ہادی و رہنما ہوتے ہیں لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ علماء اور نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرے اور جو لوگ نیک اور پرہیزگار ہیں وہ بھی علماء اور نیک لوگوں کو ہی اپنا ہم نشین بنائیں کیونکہ تلوار جتنی بھی عمدہ اور اعلیٰ ترین ہو اسے تیز کرنے کی ضرورت بہر حال پڑتی ہے۔ نیز ان آیات میں ارباب اختیار اور سلطنت و حکومت پر قائم افراد کے لئے بھی بڑی نصیحت ہے کہ وہ اپنی وزارت اور مشاورت کے لئے ان افراد کا انتخاب کریں جو نیک اور پارسا ہیں۔ سنن نسائی کی روایت میں ہے کہ تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”تم میں سے جو شخص حاکم ہو پھر اللہ تعالیٰ اس کی بھلائی چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے نیک وزیر بنا دے گا، اگر حکمران کوئی بات بھول جائے تو وہ اسے یاد دلا دے گا اور اگر وہ یاد رکھے تو وہ اس کی مدد کرے گا۔“ (2)

وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى ﴿۳۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور پیشک ہم نے تجھ پر ایک بار اور احسان فرمایا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور پیشک ہم نے تجھ پر ایک مرتبہ اور بھی احسان فرمایا تھا۔

﴿وَلَقَدْ مَنَّا عَلَيْكَ: اور پیشک ہم نے تجھ پر احسان فرمایا۔﴾ اس آیت میں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”اے موسیٰ! عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، ہم نے آپ کے سوال کرنے سے پہلے بھی آپ کی مصلحت کی نگہبانی فرمائی ہے تو یہ کس طرح

1.....مدارك، طہ، تحت الآية: ۳۶، ص ۶۹۰، حازن، طہ، تحت الآية: ۳۶، ۲۵۳/۳، ملتقطاً.

2.....نسائی، کتاب البيعة، وزير الامام، ص ۲۸۵، الحديث: ۴۲۱۰.

ہوسکتا ہے کہ آپ کے سوال کرنے کے بعد ہم آپ کی مراد آپ کو عطا نہ کریں، اور جب ہم نے آپ کو پچھلے زمانے میں آپ کی ضرورت کی ہر چیز آپ کو عطا فرمائی اور پہلی حالت سے بلند درجہ عطا کیا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہم نے آپ کو اس بلند، اہم اور عظیم رتبے پر فائز کیا ہے کہ جس پر فائز شخص کو اس کی طلب کی گئی چیز سے منع نہیں کیا جاتا۔^(۱)

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ ﴿۳۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: جب ہم نے تیری ماں کو الہام کیا جو الہام کرنا تھا۔

ترجمہ کنزالعرفان: جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی جو اس کے دل میں ڈالی جانی تھی۔

﴿إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ﴾: جب ہم نے تمہاری ماں کے دل میں وہ بات ڈال دی۔ ﴿اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جس احسان کا تذکرہ فرمایا یہاں سے اس کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی ولادت کے وقت آپ کی ماں کو یہ اندیشہ ہوا کہ فرعون آپ کو قتل کر ڈالے گا تو ہم نے اس کے دل میں ڈال کر یا خواب کے ذریعے سے الہام کیا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دے، پھر دریا سے کنارے پر ڈال دے گا تا کہ اسے وہ فرعون اٹھالے جو میرا بھی دشمن ہے اور اس کا بھی دشمن ہے۔ چنانچہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی والدہ نے ایک صندوق بنایا اور اس میں روٹی بچھائی اور حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو اس میں رکھ کر صندوق بند کر دیا اور اس کی درزیں قیر کے روغن سے بند کر دیں، پھر اس صندوق کو دریائے نیل میں بہا دیا۔ اس دریا سے ایک بڑی نہر نکل کر فرعون کے محل میں سے گزرتی تھی۔ فرعون اپنی بیوی آسیہ کے ساتھ نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اس نے نہر میں صندوق آتا دیکھ کر غلاموں اور کنیزوں کو اسے نکالنے کا حکم دیا۔ وہ صندوق نکال کر سامنے لایا گیا اور جب اسے کھولا گیا تو اس میں ایک نورانی شکل کا فرزند جس کی پیشانی سے وجاہت و اقبال کے آثار نمودار تھے نظر آیا، اسے دیکھتے ہی فرعون کے دل میں بے پناہ محبت پیدا ہوئی۔^(۲)

نوٹ: یہاں ایک بات یاد رہے کہ وحی صرف انبیاء کرام عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی طرف ہوتی ہے اور قرآن مجید

①.....تفسیر کبیر، طہ، تحت الآیة: ۳۷، ۴۶/۸۔

②.....حازن، طہ، تحت الآیة: ۳۸-۳۹، ۲۵۳/۳۔

میں جہاں بھی وحی کا لفظ غیر نبی کے لئے آیا ہے وہاں اس سے ”الہام کرنا“ مراد ہوتا ہے۔

أَنْ أَقْدَفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقْدَفِيهِ فِي الْيَمِّ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُّ بِالسَّاحِلِ
يَأْخُذُهُ عَدُوُّ لِي وَعَدُوُّ لَكَ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي^۱
وَلِتُصْنَعْ عَلَيَّ عَيْنِي^۲

ترجمہ کنز الایمان: کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے تو دریا اسے کنارے پر ڈالے کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن اور اس کا دشمن اور میں نے تجھ پر اپنی طرف کی محبت ڈالی اور اس لیے کہ تو میری نگاہ کے سامنے تیار ہو۔

ترجمہ کنز العرفان: کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دے پھر دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا تا کہ اسے وہ اٹھا لے جو میرا دشمن ہے اور اس کا (بھی) دشمن ہے اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی اور تا کہ میری نگاہ کے سامنے تمہاری پرورش کی جائے۔

﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مِّنِّي﴾ اور میں نے تم پر اپنی طرف سے محبت ڈالی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو اپنا محبوب بنایا اور مخلوق کا محبوب کر دیا۔ اور جسے اللہ تعالیٰ اپنی محبوبیت سے نوازتا ہے تو دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہوا، یہی حال حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا تھا کہ جو آپ کو دیکھتا تھا اسی کے دل میں آپ کی محبت پیدا ہو جاتی تھی۔ حضرت قتادہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی آنکھوں میں ایسی ملاحت تھی جسے دیکھ کر ہر دیکھنے والے کے دل میں محبت جوش مارنے لگتی تھی۔^(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ محبوبیت و مقبولیت خلق بھی بعض انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا معجزہ ہے۔ ہمارے حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہمیشہ مخلوق کے محبوب ہیں اور یہ محبوبیت بھی حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

1..... حازن، طہ، تحت الآية: ۳۹، ۲۵۳/۳، مدارك، طہ، تحت الآية: ۳۹، ص ۶۹۱، ملقطاً.

کا معجزہ ہے۔ نیز آیت کے آخری حصے سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کی پرورش کا انتظام بھی خود فرمادیتا ہے۔

إِذْ تَسْتَشِيْ اُخْتِكَ فَتَقُوْلُ هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَنْ يَّكْفُلُهُ ۖ فَرَجَعْنَا اِلٰى
اُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ ۗ وَوَقَلْتُمْ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَ
فَتَّيْنَاكَ فُتُوْنًا ۗ فَلَبِثْتَ سِنِيْنَ فِيْ اَهْلِ مَدْيَنَ ۗ ثُمَّ جِئْتَ عَلٰى قَدَرٍ
يُّسُوْسٰى ۙ وَاَصْطَنَعْتَ لِنَفْسِيْ ۙ

ترجمہ کنزالایمان: تیری بہن چلی پھر کہا کیا میں تمہیں وہ لوگ بتا دوں جو اس بچہ کی پرورش کریں تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے کہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور غم نہ کرے اور تو نے ایک جان کو قتل کیا تو ہم نے تجھے غم سے نجات دی اور تجھے خوب جانچ لیا تو تو کئی برس مدین والوں میں رہا پھر تو ایک ٹھہرائے وعدہ پر حاضر ہوا اے موسیٰ۔ اور میں نے تجھے خاص اپنے لیے بنایا۔

ترجمہ کنزالعرفان: جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی پھر وہ کہنے لگی: کیا میں تمہیں ایسی عورت کی طرف رہنمائی کروں جو اس بچہ کی دیکھ بھال کرے تو ہم تجھے تیری ماں کے پاس پھیر لائے تاکہ اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو اور وہ غمگین نہ ہو اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا تو ہم نے تمہیں غم سے نجات دی اور تمہیں اچھی طرح آزما یا پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے پھر اے موسیٰ! تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے۔ اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کیلئے بنایا۔

﴿إِذْ تَسْتَشِيْ اُخْتِكَ﴾: جب تیری بہن چلتی جا رہی تھی۔ ﴿حَضْرَتِ مُوسٰى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ﴾ کی بہن کا نام مریم تھا، جب آپ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کی والدہ نے آپ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کو صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا تھا تو اس وقت آپ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کی بہن صندوق کے متعلق معلوم کرنے کہ وہ کہاں پہنچتا ہے اس کے ساتھ چلتی رہی یہاں تک کہ صندوق فرعون کے محل میں پہنچ گیا، وہاں فرعون اور اس کی بیوی آسیہ نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کو اپنے پاس

رکھ لیا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اپنا بیٹا بنا لیا مگر جب دودھ پلانے کے لیے دائیاں حاضر کی گئیں تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے کسی بھی دائی کا دودھ قبول نہ کیا، اس پر آپ کی بہن نے کہا کہ مصر میں ایک اور دائی بھی ہے جس کا دودھ نہایت عمدہ ہے، یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا۔ چنانچہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ کو بلایا گیا تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، یوں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو پرورش کے لیے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ کے سپرد کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان پورا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوئیں۔

﴿وَقَتَلْتَ نَفْسًا﴾ اور تم نے ایک آدمی کو قتل کر دیا۔ ﴿یہاں سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا گزشتہ زمانے میں ہونے والا ایک اور واقعہ ذکر کیا جا رہا ہے۔ اس کے بارے میں حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرعون کی قوم کے ایک کافر کو مارا تو وہ مر گیا تھا۔ اس واقعہ پر آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو فرعون کی طرف سے اندیشہ ہوا تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو قتل کے غم سے نجات دی۔^(۱)

﴿وَقَتَلْنَاكَ قَتُونًا﴾ اور تمہیں اچھی طرح آزما یا۔ ﴿حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ”قُتُون کا معنی ہے ایک آزمائش کے بعد دوسری آزمائش میں مبتلا ہونا اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان آزمائشوں سے نجات عطا فرمائی۔ ان میں سے پہلی آزمائش تو یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی والدہ محترمہ کو اس سال حمل ہوا جس سے سال فرعون ہر پیدا ہونے والے بچے کو ذبح کروا دیتا تھا۔ دوسری آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دریائے نیل میں ڈال دیا گیا۔ تیسری آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی والدہ کے سوا کسی کا دودھ قبول نہ کیا۔ چوتھی آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے بچپن میں فرعون کی داڑھی کھینچی جس کی وجہ سے اس نے آپ کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ پانچویں آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے موتی کے بدلے انکارہ منہ میں لے لیا۔ چھٹی آزمائش یہ تھی کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ظالم قبطی (فرعون) کو تھپڑ مار کر قتل کر دیا اور فرعون کے خوف سے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام مدین کی طرف تشریف لے گئے۔^(۲)

﴿فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ﴾ پھر تم کئی برس مدین والوں میں رہے۔ ﴿مدین، مصر سے آٹھ منزل (تقریباً 144 میل)

1.....خازن، طہ، تحت الآية: ۴۰، ۲۵۴/۳.

2.....خازن، طہ، تحت الآية: ۴۰، ۲۵۴/۳.

کے فاصلہ پر ایک شہر ہے، یہاں حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رہتے تھے۔ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مصر سے مدین آئے اور کئی برس تک حضرت شعیب عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے پاس اقامت فرمائی اور ان کی صاحبزادی صفوراء کے ساتھ آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا نکاح ہوا۔^(۱)

﴿ثُمَّ جِئْتُ عَلَىٰ قَدَرٍ يُّوسُفَ﴾: پھر اے موسیٰ! تم ایک مقررہ وعدے پر حاضر ہو گئے۔ ﴿یعنی اپنی عمر کے چالیسویں سال حاضر ہو گئے اور یہ وہ سال ہے کہ اس میں انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔﴾^(۲)

﴿وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي﴾: اور میں نے تجھے خاص اپنی ذات کیلئے بنایا۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ! عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، میں نے تجھے خاص اپنی وحی اور رسالت کے لئے بنایا تا کہ تو میرے ارادے اور میری محبت کے مطابق تصرف کرے اور میری حجت پر قائم رہے اور میرے اور میری مخلوق کے درمیان خطاب پہنچانے والا ہو۔﴾^(۳)

إِذْ هَبُّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَتِي وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي ﴿٢٢﴾ إِذْ هَبَّا إِلَىٰ
فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿٢٣﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو اور تیرا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کے پاس جاؤ بیشک اس نے سراٹھایا۔

ترجمہ کنزالعرفان: تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ اور میری یاد میں سستی نہ کرنا۔ دونوں فرعون کی طرف جاؤ بیشک اس نے سرکشی کی ہے۔

﴿إِذْ هَبُّ أَنْتَ وَأَخُوكَ بِآيَتِي﴾: تم اور تمہارا بھائی دونوں میری نشانیاں لے کر جاؤ۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ! عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تم اور تمہارا بھائی میرے دیئے ہوئے معجزات اور نشانیاں لے

①.....خازن، طہ، تحت الآية: ۴۰، ۲۵۴/۳.

②.....خازن، طہ، تحت الآية: ۴۰، ۲۵۴/۳.

③.....خازن، طہ، تحت الآية: ۴۱، ۲۵۴/۳.

کر جاؤ اور ہر حال میں میرا ذکر کرتے رہنا، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ بیشک اس نے رب ہونے کا دعویٰ کر کے سرکشی کی ہے۔^(۱)

اس آیت سے ذکرِ الہی کے نہایت مرغوب و مطلوب ہونے کا بھی پتہ چلتا ہے نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ مبلغ کو تبلیغ کے ساتھ ذکرِ الہی کو بھی اپنا معمول رکھنا چاہیے۔

فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا عَلَّمَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى ۝۴۴

ترجمہ کنزالایمان: تو اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ وہ دھیان کرے یا کچھ ڈرے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو تم اس سے نرم بات کہنا اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔

﴿فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لِّئِنَّا﴾: تو تم اس سے نرم بات کہنا۔ ﴿يَتَذَكَّرُ﴾ یعنی جب تم فرعون کے پاس جاؤ تو اسے نرمی کے ساتھ نصیحت فرمانا۔ بعض مفسرین کے نزدیک فرعون کے ساتھ نرمی کا حکم اس لئے تھا کہ اس نے بچپن میں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی خدمت کی تھی اور بعض مفسرین نے فرمایا کہ نرمی سے مراد یہ ہے کہ آپ اس سے وعدہ کریں کہ اگر وہ ایمان قبول کرے گا تو تمام عمر جوان رہے گا کبھی بڑھا پانہ آئے گا، مرتے دم تک اس کی سلطنت باقی رہے گی، کھانے پینے اور نکاح کی لذتیں تادمِ مرگ باقی رہیں گی اور مرنے کے بعد جنت میں داخلہ نصیب ہوگا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرعون سے یہ وعدے کئے تو اسے یہ بات بہت پسند آئی لیکن وہ کسی کام پر ہامان سے مشورہ لئے بغیر قطعی فیصلہ نہیں کرتا تھا اور اس وقت ہامان موجود نہ تھا (اس لئے اس نے کوئی فیصلہ نہ کیا) جب وہ آیا تو فرعون نے اسے یہ خبر دی اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ہدایت پر ایمان قبول کر لوں۔ یہ سن کر ہامان کہنے لگا: میں تو تجھے عقلمند اور دانا سمجھتا تھا (لیکن یہ کیا کہ) تو رب ہے اور بندہ بننا چاہتا ہے، تو معبود ہے اور عابد بننے کی خواہش کرتا ہے؟ فرعون نے کہا: تو نے ٹھیک کہا (یوں وہ ایمان قبول کرنے سے محروم رہا)۔^(۲)

①.....روح البیان، طہ، تحت الآية: ۴۲-۴۳، ۵/۳۸۶-۳۸۸.

②.....خازن، طہ، تحت الآية: ۴۴، ۳/۲۵۴.

﴿لَعَلَّهٖ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَحْشَى﴾: اس امید پر کہ شاید وہ نصیحت قبول کر لے یا ڈر جائے۔ یعنی آپ کی تعلیم اور نصیحت اس امید کے ساتھ ہونی چاہیے کہ آپ کو اجر و ثواب ملے اور اس پر حجت لازم ہو جائے اور اس کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے اور حقیقت میں ہونا تو وہی ہے جو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے۔^(۱)

نرمی کے فضائل

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دین کی تبلیغ نرمی کے ساتھ کرنی چاہیے اور تبلیغ کرنے والے کو چاہیے کہ وہ پیار و محبت سے نصیحت کرے کیونکہ اس طریقے سے کی گئی نصیحت سے یہ امید ہوتی ہے کہ سامنے والا نصیحت قبول کر لے یا کم از کم اپنے گناہ کے معاملے میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرے۔ نیز یاد رہے کہ دین کی تبلیغ کے علاوہ دیگر دینی اور دنیوی معاملات میں بھی جہاں تک ممکن ہو نرمی سے ہی کام لینا چاہئے کہ جو فائدہ نرمی کرنے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ سختی کرنے کی صورت میں حاصل ہو جائے یہ ضروری نہیں۔ ترغیب کے لئے یہاں نرمی کے فضائل پر مشتمل 4 احادیث درج ذیل ہیں۔

(1)..... حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ”جو شخص نرمی سے محروم رہا وہ بھلائی سے محروم رہا۔“⁽²⁾

(2)..... حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ”جس شخص کو نرمی سے حصہ دیا گیا اسے بھلائی سے حصہ دیا گیا اور جسے نرمی کے حصے سے محروم رکھا گیا اسے بھلائی کے حصے سے محروم رکھا گیا۔“⁽³⁾

(3)..... حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ”اے عائشہ! رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور رفیق یعنی نرمی کو پسند فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ نرمی کی وجہ سے وہ چیزیں عطا کرتا ہے جو سختی یا کسی اور وجہ سے عطا نہیں فرماتا۔“⁽⁴⁾

(4)..... اُمُّ الْمُؤْمِنِیْنَ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

①..... مدارك، طه، تحت الآیة: ۴۴، ص ۶۹۲، خازن، طه، تحت الآیة: ۴۴، ۲۵۵/۳، ملقطاً.

②..... مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، ص ۱۳۹۸، الحدیث: ۷۴ (۲۵۹۲).

③..... ترمذی، كتاب البر والصلة، باب ما جاء فی الرفق، ۴۰۷/۳، الحدیث: ۲۰۲۰.

④..... مسلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب فضل الرفق، ص ۱۳۹۸، الحدیث: ۷۷ (۲۵۹۳).

نے ارشاد فرمایا ”نرمی جس چیز میں بھی ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت بنا دیتی ہے اور جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے اسے بدصورت کر دیتی ہے۔“ (۱)

رحمتِ الہی کی جھلک

اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جھلک بھی نظر آتی ہے کہ اپنی بارگاہ کے باغی اور سرکش کے ساتھ کس طرح اس نے نرمی فرمائی اور جب اپنے نافرمان بندے کے ساتھ اس کی نرمی کا یہ حال ہے تو اطاعت گزار اور فرمانبردار بندے کے ساتھ اس کی نرمی کیسی ہوگی۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے سامنے جب اس آیت کی تلاوت کی گئی تو آپ رونے لگے اور عرض کی: (اے اللہ!) یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے کہ میں معبود ہوں تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا حال ہوگا جو کہتا ہے کہ صرف تو ہی معبود ہے اور یہ تیری اس بندے کے ساتھ نرمی ہے جو کہتا ہے: میں تم لوگوں کا سب سے اعلیٰ رب ہوں تو اس بندے کے ساتھ تیری نرمی کا کیا عالم ہوگا جو کہتا ہے: میرا وہ رب پاک ہے جو سب سے بلند ہے۔“ (۲)

قَالَ رَبَّنَا إِنَّا نَخَافُ أَنْ يُفْرِطَ عَلَيْنَا أَوْ أَنْ يَطَّغِي ۝۳۵ قَالَ لَا تَخَافَا
إِنِّي مَعَكُمْ أَسْمِعُوا أَرْبِي ۝۳۶

ترجمہ کنزالایمان: دونوں نے عرض کیا اے ہمارے رب بیشک ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا شرارت سے پیش آئے۔ فرمایا ڈرو نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں سنتا اور دیکھتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب! بیشک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے گا یا سرکشی سے پیش آئے گا۔ اللہ نے فرمایا: تم ڈرو نہیں، بیشک میں تمہارے ساتھ ہوں میں سن رہا ہوں اور دیکھ بھی رہا ہوں۔

﴿قَالَ رَبَّنَا: دونوں نے عرض کیا: اے ہمارے رب!﴾ جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو یہ وحی فرمائی

1.....مسلم، کتاب البر الصلة والآداب، باب فضل الرفق، ص ۱۳۹۸، الحدیث: ۷۸ (۲۵۹۴)۔

2.....مدارك، طہ، تحت الآية: ۴۴، ص ۶۹۲۔

اس وقت حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مصر میں تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو حکم دیا کہ وہ حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے پاس آئیں اور حضرت ہارون عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو وحی کی کہ وہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے ملیں، چنانچہ وہ ایک منزل (یعنی تقریباً 18 میل) چل کر آپ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے ملے اور جو وحی انہیں ہوئی تھی اس کی حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو اطلاع دی۔ فرعون چونکہ ایک ظالم و جابر شخص تھا اس لیے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عَلَیْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے عرض کی: اے ہمارے رب! بیشک ہم اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ ہمیں رسالت کی تبلیغ کرنے سے پہلے ہی قتل کر کے ہم پر زیادتی کرے گا یا مزید سرکشی پر اتر آئے گا اور تیری شان میں نازیبا کلمات کہنے لگے گا۔^(۱)

مخلوق سے ایذا کا خوف توکل کے خلاف نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ اسباب، مؤذی انسان اور مؤذی جانوروں سے خوف کرنا نشانِ نبوت اور توکل کے خلاف نہیں۔ وہ جو کثیر آیتوں میں ”لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ“ فرمایا گیا ہے، وہ اس کے خلاف نہیں کیونکہ ان آیات میں خوف نہ ہونے سے مراد قیامت کے دن خوف نہ ہونا ہے، یا اس سے اُس خوف کا نہ ہونا مراد ہے جو نقصان دہ ہو اور خالق سے دور کر دے، جبکہ انہیں مخلوق کی طرف سے ایذا پہنچنے کا خوف ہو سکتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ کسی شخص نے حضرت حسن بصری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ سے کہا کہ عامر بن عبد اللہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مرتبہ شام کی طرف جا رہے تھے کہ ان کو پیاس لگی اور وہ ایک جگہ پانی پینا چاہتے تھے مگر پانی اور ان کے درمیان ایک شیر حائل تھا وہ پانی کی طرف گئے اور پانی پی لیا تو ان سے کسی نے کہا کہ آپ نے اپنی جان خطرہ میں ڈالی تو عامر بن عبد اللہ نے کہا کہ اگر میرے پیٹ میں نیزے گھونپ دیئے جائیں تو وہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہیں کہ میں اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے علاوہ کسی سے ڈروں۔ حضرت حسن بصری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِ نے اس شخص کو جواب دیا کہ جو شخص عامر بن عبد اللہ سے بہت افضل تھے وہ تو اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے غیر سے ڈرے تھے اور وہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں۔^(۲)

مراد یہ ہے کہ خوفِ خدا کا یہ مطلب نہیں کہ آدمی دُنْیوی مُؤذی اَشْیَاء سے بھی نہ ڈرے، اگر یہ مطلب ہوتا تو

1.....حازن، طہ، تحت الآیة: ۴۵، ۲۵۵/۳، روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۴۵، ۳۹۰/۵، ملتقطاً.

2.....قرطبی، طہ، تحت الآیة: ۴۶، ۹۹/۶، الجزء الحادی عشر.

حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خوف کا اظہار نہ کرتے۔ البتہ یہاں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ بعض بندگانِ خدا پر بعض اوقات بعض خاص احوال طاری ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اس طرح کے بے خوفی کے افعال کرتے ہیں اور وہ احوال بھی ناپسندیدہ نہیں ہیں بلکہ بہت مرتبہ وہ کرامت کے شعبے سے تعلق رکھتے ہیں۔

﴿قَالَ لَا تَخَافَا﴾: فرمایا: تم ڈرو نہیں۔ ﴿حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کی عرض کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو نہیں، بیشک میں اپنی مدد کے ذریعے تمہارے ساتھ ہوں اور میں سب سن رہا ہوں اور سب دیکھ بھی رہا ہوں۔﴾

فَاتِيهِ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَا
تُعَذِّبُهُمْ ۚ قَدْ جِئْنَا بِآيَةٍ مِّنْ رَبِّكَ ۗ وَالسَّلَامُ عَلٰی مَنِ اتَّبَعَ الْهُدٰى ﴿۴۷﴾
إِنَّا قَدْ أُوحِيَ إِلَيْنَا أَنَّ الْعَذَابَ عَلَىٰ مَن كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ ﴿۴۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو اس کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تو اولادِ یعقوب کو ہمارے ساتھ چھوڑ دے اور انہیں تکلیف نہ دے بیشک ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانی لائے ہیں اور سلامتی اسے جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بیشک ہماری طرف وحی ہوئی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔

ترجمہ کنزالعرفان: پس تم اس کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں تکلیف نہ دے بیشک ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لائے ہیں اور اس پر سلامتی ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ بیشک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو جھٹلائے اور منہ پھیرے۔

﴿فَاتِيَهُ﴾: پس تم اس کے پاس جاؤ۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ تم ڈرو نہیں اور فرعون کے پاس جا کر کہو: ہم تیرے رب عزوجل کے بھیجے ہوئے ہیں، لہذا اے فرعون، تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں

بندگی و اسیری سے رہا کر دے اور ان سے محنت و مشقت کے سخت کام لے کر انہیں تکلیف نہ دے۔ بیشک ہم تیرے رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف سے معجزات لے کر آئے ہیں جو ہماری نبوت کی صداقت کی دلیل ہیں۔ فرعون نے کہا: وہ معجزات کیا ہیں؟ تو حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے ہاتھ روشن ہونے کا معجزہ دکھایا (اور فرمایا) جو ہدایت کی پیروی کرے اس کے لئے دونوں جہان میں سلامتی ہے اور وہ عذاب سے محفوظ رہے گا۔ بیشک ہماری طرف وحی ہوتی ہے کہ عذاب اس پر ہے جو ہماری نبوت کو اور ان احکام کو جھٹلائے جو ہم لائے ہیں اور ہماری ہدایت سے منہ پھیرے۔^(۱)

قَالَ فَمَنْ رَبُّكُمَا يُوسَىٰ ﴿۳۹﴾ قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَىٰ ﴿۴۰﴾

ترجمہ کنز الایمان: بولا تو تم دونوں کا خدا کون ہے اے موسیٰ! کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کے لائق صورت دی پھر راہ دکھائی۔

ترجمہ کنز العرفان: فرعون بولا: اے موسیٰ! تو تم دونوں کا رب کون ہے؟ موسیٰ نے فرمایا: ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی پھر راہ دکھائی۔

﴿قَالَ﴾ فرعون بولا۔ حضرت موسیٰ و حضرت ہارون عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے جب فرعون کو یہ پیغام پہنچا دیا تو وہ بولا: اے موسیٰ! تو تم دونوں کا رب کون ہے جس نے تمہیں بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے اسے جواب دیتے ہوئے فرمایا: ہمارا رب عَزَّوَجَلَّ وہ ہے جس نے محض اپنی رحمت سے ہر چیز کو اس کی خاص شکل و صورت دی، جیسا کہ ہاتھ کو اس کے لائق ایسی شکل دی کہ وہ کسی چیز کو پکڑ سکے، پاؤں کو اس کے قابل کہ وہ چل سکے، زبان کو اس کے مناسب کہ وہ بول سکے، آنکھ کو اس کے موافق کہ وہ دیکھ سکے اور کان کو ایسی شکل و صورت دی کہ وہ سن سکے، پھر راہ دکھائی اور اس کی معرفت دی کہ دنیا کی زندگانی اور آخرت کی سعادت کے لئے اللہ تعالیٰ کی عطا کی ہوئی نعمتوں کو کس طرح کام میں لایا جائے۔^(۲)

۱.....مدارک، طہ، تحت الآیة: ۴۷-۴۸، ص ۶۹۲، جلالین، طہ، تحت الآیة: ۴۷-۴۸، ص ۶۳، ملتقطاً.

۲.....مدارک، طہ، تحت الآیة: ۴۹-۵۰، ص ۶۹۲-۶۹۳، روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۴۹-۵۰، ص ۳۹۴/۵، ملتقطاً.

قَالَ فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُولَى ⑤١

ترجمہ کنزالایمان: بولا اگلی سنتوں کا کیا حال ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: فرعون بولا: پہلی قوموں کا کیا حال ہے؟

﴿قَالَ: فرعون بولا۔﴾ جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ عزوجل کی وحدانیت اور اس کے رب عزوجل ہونے پر اتنی واضح دلیل دی تو فرعون گھبرا گیا اور اس کو اپنی خود ساختہ خدائی تباہ ہوتی نظر آئی تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی توجہ بدلنے کے لیے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دوسری باتوں میں الجھانے لگا اور کہنے لگا کہ جو پہلی قومیں گزر چکی ہیں مثلاً قوم عاد، قوم ثمود وغیرہ اور وہ بتوں کو پوجتی تھیں اور مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کی منکر تھیں ان کا کیا ہوا۔^(۱)

قَالَ عَلَيْهَا عُنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٍ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى ⑤٢

ترجمہ کنزالایمان: کہا ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا رب نہ بھولے نہ بھولے۔

ترجمہ کنزالعرفان: موسیٰ نے فرمایا: ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے، میرا رب نہ بھولتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔

﴿قَالَ: موسیٰ نے فرمایا۔﴾ فرعون کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: پہلی قوموں کے حال کا علم میرے رب عزوجل کے پاس ایک کتاب لوح محفوظ میں ہے جس میں ان کے تمام احوال لکھے ہوئے ہیں اور قیامت کے دن انہیں ان اعمال پر جزا دی جائے گی۔

یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جو جواب دیا کہ اس کا علم لوح محفوظ میں ہے اس کی وجہ یہ نہ تھی کہ آپ کو گذشتہ قوموں کے حالات معلوم نہ تھے بلکہ وجہ یہ تھی کہ وہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تبلیغ دین سے

①.....حازن، طہ، تحت الآية: ۵۱، ۳/۲۵۵.

نہ پھیر سکے۔ مزید فرمایا کہ میرا رب عَزَّوَجَلَّ نہ بھٹکتا ہے اور نہ بھولتا ہے۔ گویا فرمایا کہ تمام احوال کا لوح محفوظ میں لکھنا، اس لئے نہیں کہ رب تعالیٰ کے بھولنے بہکنے کا اندیشہ ہے بلکہ یہ تحریر اپنی دوسری حکمتوں کی وجہ سے ہے جیسے فرشتوں اور اپنے محبوب بندوں کو اطلاع دینے کیلئے ہے جن کی نظر لوح محفوظ پر ہے۔

الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ
مِنَ السَّمَاءِ مَاءً ۖ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْ نَّبَاتٍ شَتَّى ۝۵۳

ترجمہ کنز الایمان: وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا کیا اور تمہارے لیے اس میں چلتی راہیں رکھیں اور آسمان سے پانی اتارا تو ہم نے اس سے طرح طرح کے سبزے کے جوڑے نکالے۔

ترجمہ کنز العرفان: وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیئے اور آسمان سے پانی نازل فرمایا تو ہم نے اس سے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے نکالے۔

﴿الَّذِي جَعَلَ لَكُمْ الْأَرْضَ مَهْدًا﴾: وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا۔ ﴿حَضْرَتِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ﴾ نے مزید فرمایا کہ میرا رب عَزَّوَجَلَّ وہ ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا تاکہ تمہارے لئے اس پر زندگی بسر کرنا ممکن ہو اور تمہارے لیے اس میں راستے آسان کر دیئے تاکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے میں تمہیں آسانی ہو اور اس نے آسمان سے پانی نازل فرمایا۔ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا کلام تو یہاں پورا ہو گیا اب اس کلام کو مکمل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اہل مکہ کو خطاب کر کے فرماتا ہے کہ اے اہل مکہ! تو ہم نے اس پانی سے مختلف قسم کی نباتات کے جوڑے نکالے جن کے رنگ، خوشبوئیں اور شکلیں مختلف ہیں اور ان میں سے بعض آدمیوں کے لئے ہیں اور بعض جانوروں کے لئے۔^(۱)

كُلُّوا وَأَسْرَعُوا أَنْعَامَكُمْ ۖ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَىٰ ۝۵۴

1.....خازن، طہ، تحت الآية: ۵۳، ۲۵۶/۳، جلالین، طہ، تحت الآية: ۵۳، ص ۲۶۳۔

ترجہ کنزالایمان: تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ بیشک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔

ترجہ کنزالعرفان: تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ، بیشک اس میں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

﴿كُلُوا وَارْعَوْا أَنْعَامَكُمْ﴾: تم کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو چراؤ۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے جو یہ نباتات نکالی ہیں، ان میں سے تم خود بھی کھاؤ اور اپنے مویشیوں کو بھی چراؤ۔ یاد رہے کہ اس آیت میں جو حکم دیا گیا ہے یہ اباحت اور اللہ تعالیٰ کی نعمت یاد دلانے کے لئے ہے یعنی ہم نے یہ نباتات تمہارے لئے اس طور پر نکالی ہیں کہ انہیں کھانا اور اپنے جانوروں کو چرانا تمہارے لئے مباح و جائز ہے۔^(۱)

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى﴾: بیشک اس میں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔ ﴿﴾ یعنی زمین کو بچھونا بنانے، اس میں سفر کے لئے راستوں کو آسان کرنے، آسمان سے پانی نازل کرنے اور زمین سے مختلف اقسام کی نباتات اگانے میں عقل رکھنے والے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے صالح ہونے، اس کی وحدت، اس کی عظیم قدرت اور اس کی ظاہر و باہر حکمت پر دلالت کرنے والی کثیر، واضح اور عظیم نشانیاں ہیں۔^(۲)

مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى ﴿۵۵﴾

ترجہ کنزالایمان: ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔

ترجہ کنزالعرفان: ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا اور اسی میں تمہیں پھر لوٹائیں گے اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔

﴿مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ﴾: ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے جدِ اعلیٰ، حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو زمین سے پیدا کر کے تمہیں اس سے ہی بنایا اور تمہاری موت اور دفن کے وقت اسی زمین میں تمہیں پھر لوٹائیں گے اور قیامت کے دن اسی زمین سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے۔^(۳)

①.....مدارك، طہ، تحت الآية: ۵۴، ص ۶۹۳.

②.....روح البيان، طہ، تحت الآية: ۵۴، ۳۹۶/۵.

③.....جلالین، طہ، تحت الآية: ۵۵، ص ۲۶۳.

میت کی تدفین کے بعد ایک مستحب عمل

یہاں ایک بات یاد رہے کہ جب کسی مسلمان کو انتقال کے بعد دفن کر دیا جائے اور اس کی قبر پر تختے لگانے کے بعد مٹی دی جائے تو اس وقت مستحب یہ ہے کہ اس کے سرہانے کی طرف دونوں ہاتھوں سے تین بار مٹی ڈالیں۔ پہلی بار کہیں ”مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ“ دوسری بار ”وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ“ اور تیسری بار ”وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى“ کہیں۔ (1)

وَلَقَدْ آسَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى ﴿٥٦﴾ قَالَ أَجِئْتَنَا لِتُخْرِجَنَا
مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكِ يَمُوسَى ﴿٥٥﴾ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِّثْلِهِ فَاجْعَلْ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلَا أَنْتَ مَكَانًا سُوًى ﴿٥٨﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے اسے اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ بولا کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو اے موسیٰ۔ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو جس سے نہ ہم بدلہ لیں نہ تم ہموار جگہ ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ کہنے لگا: اے موسیٰ! کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین سے نکال دو۔ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک وعدہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم۔ ایسی جگہ جو برابر فاصلے پر ہو۔

﴿وَلَقَدْ آسَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا﴾ اور بیشک ہم نے اس کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو وہ تمام نو نشانیاں دکھا دیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو

1.....عالمگیری، کتاب الصلاة، الباب الحادی والعشرون فی الجنائز، الفصل السادس، ۱/۱۶۶۔

عطا فرمائی تھیں تو اس نے انہیں جھٹلایا اور نہ مانا اور ان نشانیوں کو جادو بتایا اور حق قبول کرنے سے انکار کیا اور کہنے لگا: اے موسیٰ! کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے ذریعے ہماری سرزمین مصر سے نکال کر خود اس پر قبضہ کر لو اور بادشاہ بن جاؤ۔ تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے اور جادو میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک مدت اور جگہ مقرر کر لو جس کی خلاف ورزی نہ ہم کریں اور نہ تم اور وہ جگہ ہموار ہو اور اس میں دونوں فریقین کے درمیان برابر فاصلہ ہوتا کہ لوگ آسانی کے ساتھ مقابلہ دیکھ سکیں۔^(۱)

فرعون حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے معجزات دیکھ کر سمجھ تو گیا تھا کہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حق پر ہیں اور جادو گر نہیں ہیں کیونکہ اس کے ملک میں اس سے پہلے بھی کئی جادو گر موجود تھے جو خود اس کے ماتحت تھے اور کسی نے بھی کبھی ایسی بات نہ کی تھی لیکن پھر بھی اس نے کوشش کی کہ کسی طرح حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو شکست ہو جائے اور اس کی سلطنت بچ جائے۔

قَالَ مَوْعِدُكُمْ يَوْمَ الزَّيْتَةِ وَأَنْ يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى ۵۹

ترجمہ کنز الایمان: موسیٰ نے کہا تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔

ترجمہ کنز العرفان: موسیٰ نے فرمایا: تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لئے جائیں۔

﴿قَالَ: موسیٰ نے فرمایا۔﴾ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا: تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے اور اس دن یہ بھی ہونا چاہئے کہ لوگ دن چڑھے جمع کر لئے جائیں تاکہ خوب روشنی پھیل جائے اور دیکھنے والے اطمینان کے ساتھ دیکھ سکیں اور انہیں ہر چیز صاف صاف نظر آئے۔ اس آیت میں جس میلے کا ذکر ہوا اس سے فرعونوں کا وہ میلہ مراد ہے جو ان کی عید تھی اور اس میں وہ بہت سچ سنور کر جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ وہ دن عاشوراء یعنی دسویں محرم کا تھا۔ اس سال یہ تاریخ ہفتے کے دن واقع ہوئی تھی اور اس دن کو حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے اس لئے معین فرمایا کہ یہ دن ان کی انتہائی شوکت کا دن تھا اور اسے مقرر کرنے میں اپنی قوت کے

①.....بخازن، طہ، تحت الآية: ۵۶-۵۸، مدارك، طہ، تحت الآية: ۵۶-۵۸، ص ۶۹۴، ملنقطاً.

کمال کا اظہار ہے، نیز اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ حق کا ظہور اور باطل کی رسوائی کے لئے ایسا ہی وقت مناسب ہے جب کہ اطراف و جوانب کے تمام لوگ اکٹھے ہوں۔^(۱)

کفار کے میلے میں جانے کا شرعی حکم

اس سے معلوم ہوا کہ شرعی ضرورت کے وقت مسلمان کو کفار کے میلے میں جانا جائز ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام مقابلہ کے لئے کفار کے میلے میں گئے اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بت شکنی کے لئے بت خانہ میں گئے۔ اور شرعی ضرورت کے علاوہ تجارت یا کسی اور غرض سے جانے کا حکم یہ ہے کہ اگر وہ میلہ کفار کا مذہبی ہے جس میں جمع ہو کر اعلان کفر اور شریکیت سمیں ادا کریں تو تجارت کی غرض سے بھی جانا جائز و مکروہ تحریمی ہے، اور ہر مکروہ تحریمی صغیرہ، اور ہر صغیرہ اصرار سے کبیرہ گناہ بن جاتا ہے۔ اور اگر وہ مجمع کفار کا مذہبی نہیں بلکہ صرف لہو و لعب کا میلہ ہے تو محض تجارت کی غرض سے جانانی نفسہ ناجائز و ممنوع نہیں جبکہ یہ کسی گناہ کی طرف نہ لے جاتا ہو۔ پھر بھی کراہت سے خالی نہیں کہ وہ لوگ ہر وقت مَعَاذَ اللّٰهِ لعنت اترنے کا محل ہیں اس لئے اُن سے دوری ہی بہتر ہے۔۔۔ نیز یہ جواز بھی اُسی صورت میں ہے کہ اسے وہاں جانے میں کسی معصیت کا ارتکاب نہ کرنا پڑے مثلاً جلسہ ناچ رنگ کا ہو اور اسے اس جلسے سے دور اور لا تعلق علاقے میں جگہ نہ ہو تو یہ جانا معصیت کو مستلزم ہوگا اور ہر وہ چیز جو معصیت کو مستلزم ہو وہ معصیت ہوتی ہے اور یہ جانا محض تجارت کی غرض سے ہونہ کہ تماشا دیکھنے کی نیت سے کیونکہ اس نیت سے جانا مطلقاً ممنوع ہے اگرچہ وہ مجمع غیر مذہبی ہو۔^(۲)

فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ فَجَمَعَ كَيْدَهُ ثُمَّ أَتَىٰ ۖ قَالَ لَهُمُ مُّوسَىٰ وَرِيبِكُمْ

لَا تَفْتَرُوا عَلَيَّ اللَّهُ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ ۚ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَىٰ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: تو فرعون پھر اور اپنے دانتوں اکٹھے کیے پھر آیا۔ ان سے موسیٰ نے کہا تمہیں خرابی ہو اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے اور بیشک نامراد رہا جس نے جھوٹ باندھا۔

①.....حازن، طہ، تحت الآیة: ۵۹، ۲/۲۵۶-۲۵۷، مدارک، طہ، تحت الآیة: ۵۹، ص ۶۹، جمل، طہ، تحت الآیة: ۵۹، ۸۰/۵، ملقطاً۔

②.....فتاویٰ رضویہ، ۲۳/۵۲۳-۵۲۶، ملخصاً۔

ترجمہ کنز العرفان: تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا تو اپنے مکرو فریب کو جمع کرنے لگا پھر آیا۔ ان سے موسیٰ نے فرمایا: تمہاری خرابی ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے گا اور بیشک وہ ناکام ہوا جس نے جھوٹ باندھا۔

﴿فَتَوَلَّىٰ فِرْعَوْنُ﴾: تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا۔ ﴿﴾ جب مقابلہ کا دن طے ہو گیا تو فرعون منہ پھیر کر چلا گیا اور اس نے مقابلے کے لیے کثیر تعداد میں جادو گروں کو جمع کیا اور انہیں طرح طرح کے انعامات کا لالچ دیا حتیٰ کہ انہیں اپنا مقرب بنانے کا وعدہ کیا۔ اس کے بعد پھر بڑی شان و شوکت کے ساتھ اپنی فوج کو لے کر وعدے کے دن میدان میں پہنچ گیا۔

﴿قَالَ لَهُمْ مُوسَىٰ وَيْلَكُمْ﴾: ان سے موسیٰ نے فرمایا: تمہاری خرابی ہو۔ ﴿﴾ جب فرعون اور اس کے جمع کردہ جادوگر مقابلہ کے لیے پہنچ گئے تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان جادو گروں سے فرمایا ”تمہاری خرابی ہو، تم کسی کو اللہ تعالیٰ کا شریک کر کے اس پر جھوٹ نہ باندھو ورنہ وہ تمہیں اپنے پاس موجود عذاب سے ہلاک کر دے گا اور بیشک وہ ناکام ہوا جس نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھا۔^(۱)

فَتَنَّا عَمَّا مَرَّهُمْ بَيْنَهُمْ وَأَسْرُ وَالنَّجْوَى ۖ قَالُوا إِن هٰذِهِ سِحْرٌ يُرِيدُنَا أَنْ نُخْرِجَكُم مِّنْ أَرْضِكُمْ بِسِحْرِ هٰذِهِمَا وَبَطْرٍ يُقَتِّكُمُ الْمَثَلَى ۖ فَاجْبِعُوا كَيْدَكُمْ ثُمَّ اتُّوَا صَفًّا ۖ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَن اسْتَعَلَى ۖ

ترجمہ کنز الایمان: تو اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے اور چھپ کر مشورت کی۔ بولے بیشک یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا اچھا دین لے جائیں۔ تو اپنا دانوں پکا کر لو پھر پر اباندھ کر آؤ اور آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا۔

1..... جلالین، طہ، تحت الآیة: ۶۱، ص ۲۶۳-۲۶۴.

ترجہ کنز العرفان: تو وہ اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے اور انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا۔ کہنے لگے: بیشک یہ دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری سر زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف و بزرگی والا دین لے جائیں۔ تو تم اپنا داؤ جمع کر لو پھر صف باندھ کر آ جاؤ اور بیشک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔

﴿فَتَنَّا عَمَّا مَرَّهْمُ بَيْنَهُمْ﴾: تو وہ اپنے معاملہ میں باہم مختلف ہو گئے۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جب جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ کلام سنا تو آپس میں ان کا اختلاف ہو گیا، بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح جادوگر ہیں، بعض نے کہا کہ یہ باتیں جادوگروں کی ہیں ہی نہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے سے منع کر رہے ہیں۔ انہوں نے چھپ کر مشورہ کیا تا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معلوم نہ چلے اور اس مشورے میں بعض جادوگر دوسروں سے کہنے لگے: بیشک حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام دونوں یقیناً جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تم پر غالب آ کر تمہیں تمہاری سر زمین مصر سے نکال دیں اور تمہارا بہت شرف و بزرگی والا دین لے جائیں۔ تو تم اپنے لئے ہوئے جادو کے تمام داؤ جمع کر لو پھر صف باندھ کر آ جاؤ تا کہ تمہاری ہیبت زیادہ ہو اور بیشک آج وہی کامیاب ہوگا جو غالب آئے گا۔^(۱)

قَالُوا يٰمُوسٰى اِمَّا اَنْ تُلْقٰى وَاِمَّا اَنْ نَّكُوْنَ اَوَّلَ مَنْ اَلْقٰى ﴿۶۵﴾

ترجہ کنز الایمان: بولے اے موسیٰ یا تو تم ڈالو یا ہم پہلے ڈالیں۔

ترجہ کنز العرفان: انہوں نے کہا: اے موسیٰ! یا تم (عصا نیچے) ڈالو یا ہم پہلے ڈالتے ہیں۔

﴿قَالُوا يٰمُوسٰى﴾: انہوں نے کہا اے موسیٰ! ﴿جب جادوگروں نے صف بندی کر لی تو انہوں نے کہا: اے موسیٰ! علیہ الصلوٰۃ والسلام، آپ پہلے اپنا عصا زمین پر ڈالیں گے یا ہم پہلے اپنے سامان ڈال دیں۔ جادوگروں نے ادب کی وجہ سے مقابلے کی ابتداء کرنا حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی رائے مبارک پر چھوڑا اور اس کی برکت سے آخر کار اللہ تعالیٰ نے انہیں

①..... روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۶۲-۶۴، ۴۰۱/۵، حازن، طہ، تحت الآیة: ۶۲-۶۴، ۲۵۷/۳، ملتقطاً.

ایمان کی دولت سے مشرف فرمادیا۔^(۱)

قَالَ بَلْ أَلْقُوا فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيَّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِمْ مِنْ سِحْرِهِمْ
أَنَّهُمْ سَعَى ۖ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى ۖ قُلْنَا لَا تَخَفْ
إِنَّكَ أَنْتَ الْآخِزُ ۖ

ترجمہ کنزالایمان: موسیٰ نے کہا بلکہ تمہیں ڈالو جی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں۔ تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ ہم نے فرمایا ڈر نہیں بیشک تو ہی غالب ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: موسیٰ نے فرمایا: بلکہ تمہی ڈالو تو اچانک ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے موسیٰ کے خیال میں یوں لگیں کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ تو موسیٰ نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ تو ہم نے فرمایا: ڈر نہیں بیشک تم ہی غالب ہو۔

﴿قَالَ بَلْ أَلْقُوا﴾: موسیٰ نے فرمایا: بلکہ تمہی ڈالو۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے جادو گروں سے یہ اس لئے فرمایا کہ ان کے پاس جو کچھ جادو کے مکرو حییلے ہیں پہلے وہ سب ظاہر کر لیں اس کے بعد آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنا معجزہ دکھائیں اور جب حق باطل کو مٹائے اور معجزہ جادو کو باطل کر دے تو دیکھنے والوں کو بصیرت و عبرت حاصل ہو۔ چنانچہ جادو گروں نے رسیاں لاٹھیاں وغیرہ جو سامان وہ لائے تھے سب ڈال دیا اور لوگوں کی نظر بندی کر دی تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دیکھا کہ زمین سانپوں سے بھر گئی اور میلوں کے میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں اور دیکھنے والے اس باطل نظر بندی سے مسحور ہو گئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی اس نظر بندی کے گرویدہ ہو جائیں اور معجزہ نہ دیکھیں، اس وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے دل میں قوم کے حوالے سے خوف محسوس کیا۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انسانی فطرت کے

①..... مدارك، طه، تحت الآية: ۶۵، ص ۶۹۵.

مطابق اپنے دل میں اس بات کا خوف محسوس کیا کہ کہیں وہ سانپ ان کی طرف ہی نہ آجائیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا: تم ڈرو نہیں، بے شک تم ہی ان پر غالب آؤ گے اور تمہیں ہی ان پر غلبہ و کامیابی نصیب ہوگی۔^(۱)

وَأَلْقَى مَائِي يَمِينِكَ تَلَقَّفَ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سِحْرٍ وَلَا يُفْلِحُ السِّحْرُ حَيْثُ أَتَى ⑥

ترجمہ کنزالایمان: اور ڈال تو دے جو تیرے دہنے ہاتھ میں ہے وہ ان کی بناوٹوں کو نگل جائے گا وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادو گر کا فریب ہے اور جادو گر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بیشک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادو گروں کا مکرو فریب ہے اور جادو گر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آجائے۔

﴿وَأَلْقَى مَائِي يَمِينِكَ﴾ اور تم بھی اسے ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے۔ ﴿اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ! علیہ الصلوٰۃ والسلام، تم ان کی رسیوں لٹھیوں کی کثرت کی پرواہ نہ کرو اور تم بھی اپنا وہ عصا ڈال دو جو تمہارے دائیں ہاتھ میں ہے، وہ ان کی بنائی ہوئی چیزوں کو نگل جائے گا۔ بیشک جو انہوں نے بنایا ہے وہ تو صرف جادو گروں کا مکرو فریب ہے اور جادو گر کامیاب نہیں ہوتا جہاں بھی آجائے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ جادو گروں کے تمام اثر و ہوں اور سانپوں کو نگل گیا اور آدمی اس کے خوف سے گھبرا گئے اور جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو پہلے کی طرح عصا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جادو گروں کو یقین ہو گیا کہ یہ معجزہ ہے جس سے جادو مقابلہ نہیں کر سکتا اور جادو کی فریب کاری اس کے سامنے قائم نہیں رہ سکتی۔^(۲)

فَأَلْقَى السِّحْرَةَ سَجْدًا قَالُوا أَمْ نَابِرِبْ هُرُونَ وَمُوسَى ⑦

①..... مدارك، طه، تحت الآية: ۶۶-۶۸، ص ۶۹۵-۶۹۶، خازن، طه، تحت الآية: ۶۶-۶۸، ۲۵۷/۳-۲۵۸، ملقطاً.

②..... مدارك، طه، تحت الآية: ۶۹، ص ۶۹۶، تفسير كبير، طه، تحت الآية: ۶۹، ۷۴/۸-۷۵، ملقطاً.

ترجیہ کنزالایمان: تو سب جادوگر سجدے میں گرا لئے گئے بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔

ترجیہ کنزالعرفان: تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیئے گئے، وہ کہنے لگے: ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لائے۔

﴿فَالْقِي السَّحْرَةَ سُجَّدًا﴾: تو سب جادوگر سجدے میں گرا دیئے گئے۔ ﴿حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ﴾ کا معجزہ دیکھ کر جادوگر اتنی تیزی سے سجدے میں گئے کہ اس سے یوں محسوس ہوا جیسے انہیں پکڑ کر سجدے میں گرا دیا گیا ہو، پھر وہ کہنے لگے کہ ہم حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے رب عَزَّوَجَلَّ پر ایمان لائے۔ سُبْحَانَ اللَّهِ! کیا عجیب حال تھا کہ جن لوگوں نے ابھی کفر و انکار اور سرکشی کے لئے رسیاں اور لاٹھیاں ڈالی تھیں، ابھی معجزہ دیکھ کر انہوں نے شکر و سجود کے لئے اپنے سر جھکا دیئے اور اپنی گردنیں ڈال دیں۔ منقول ہے کہ اس سجدے میں انہیں جنت اور دوزخ دکھائی گئی اور انہوں نے جنت میں اپنے منازل دیکھ لئے۔^(۱)

قَالَ امْنُكُمْ لَهٗ قَبْلَ اَنْ اَذِنَ لَكُمْ ۗ اِنَّهٗ لَكَبِيْرُكُمْ الَّذِي عَلَّمَكُمْ
السِّحْرَ فَلَا قِطْعَانَ اَيْدِيكُمْ وَاَرْجُلِكُمْ مِّنْ خِلَافٍ وَّلَا وَصَلْبٍ لَّكُمْ
فِي جُدُوْعِ النَّخْلِ ۗ وَلَتَعْلَمُنَّ اَيُّنَا اَشَدُّ عَذَابًا وَّاَبْعٰی ﴿۴۱﴾

ترجیہ کنزالایمان: فرعون بولا کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں بیشک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا اور تمہیں کھجور کے ڈنڈ پر سولی چڑھاؤں گا اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔

ترجیہ کنزالعرفان: فرعون بولا: کیا تم اس پر ایمان لائے اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دوں، بیشک وہ تمہارا بڑا

1.....مدارك، طه، تحت الآية: ۷۰، ص ۶۹۶.

ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا تو مجھے قسم ہے میں ضرور تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دیدوں گا اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

﴿قَالَ امْتَنَّمْ لَهُ﴾: فرعون بولا: کیا تم اس پر ایمان لائے۔ ﴿فَرَعُونَ﴾ نے جادو گروں کے ایمان لانے کا منظر دیکھ کر انہیں ڈانٹتے ہوئے کہا: کیا تم میری اجازت ملنے سے پہلے ہی حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر ایمان لے آئے ہو! بیشک وہ جادو میں استادِ کامل اور تم سب سے فائق ہے اور اس نے تم سب کو جادو سکھایا ہے، (اور سورہ اعراف میں یہ بھی ہے کہ فرعون نے کہا کہ یہ تم سب کی سازش ہے جو تم نے میرے خلاف بنائی ہے تاکہ یہاں کے رہنے والوں کو اس سرزمین سے نکال دو) تو مجھے قسم ہے، میں ضرور تمہارے دائیں طرف کے ہاتھ اور بائیں طرف کے پاؤں کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں پر پھانسی دیدوں گا اور اس وقت ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب زیادہ شدید اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ اس سے فرعون ملعون کی مراد یہ تھی کہ اس کا عذاب سخت تر ہے یا رب العالمین کا عذاب زیادہ سخت ہے۔

قَالُوا لَنْ نُؤْتِيكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْتِ وَالَّذِي فطرْنَا فاقض
مَا أَنْتَ قَاضٍ ۗ إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿٤٢﴾

ترجمہ کنزالایمان: بولے ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم تو تو تو کر چک جو تجھے کرنا ہے تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا۔

ترجمہ کنزالعرفان: انہوں نے کہا: ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں۔ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم! تو تو جو کرنے والا ہے کر لے۔ تو اس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرے گا۔

﴿قَالُوا﴾: انہوں نے کہا۔ ﴿فَرَعُونَ﴾ کا یہ مُتَكَبِّرٌ اِنَّهٗ كَلِمَةٌ سَنُكْرُانِ جَادُوْغُرُوْا نے کہا: ہم ان روشن دلیلوں پر ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے جو ہمارے پاس آئی ہیں۔ روشن دلیلوں کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ بعض مفسرین کے نزدیک

ان سے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا روشن ہاتھ اور عصا مراد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ جادو گروں کا استدلال یہ تھا: اگر تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے معجزہ کو بھی جادو کہتا ہے تو بتا وہ رستے اور لائٹھیاں کہاں گئیں اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ روشن دلیلوں سے مراد جنت اور اس میں اپنی منازل کا دیکھنا ہے۔^(۱)

﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم! ﴿جادو گروں نے فرعون سے کہا کہ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم! تو جو کرنے والا ہے کر لے ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہیں اور تو ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کرے گا اس دنیا کی زندگی میں ہی تو کرے گا، اس سے آگے تو تیری کچھ مجال نہیں اور دنیا کا حال تو یہ ہے کہ وہ زائل اور یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے اور اگر تو ہم پر مہربان بھی ہو تو ہمیں ہمیشہ کے لئے بقا نہیں دے سکتا، پھر دنیا کی زندگی اور اس کی راحتوں کے زوال کا کیا غم، خاص طور پر اسے جو جانتا ہے کہ آخرت میں دنیا کے اعمال کی جزا ملے گی۔^(۲)

اس آیت میں بیان ہوا کہ جادو گروں نے مومن ہو کر فرعون سے کہہ دیا کہ جو ہو سکے تو کر لے ہمیں اس کی پرواہ نہیں، اس سے معلوم ہوا کہ مومن کے دل میں جرأت ہوتی ہے اور وہ ایمان لانے کی صورت میں مخلوق کی طرف سے اذیت پہنچنے کی پرواہ نہیں کرتا۔ اس سے واضح ہوا کہ قادیانی کا نبی ہونا تو بڑی دور کی بات وہ تو مومن بھی نہیں تھا کیونکہ وہ لوگوں سے اتنا ڈرتا تھا کہ ان کے خوف کی وجہ سے حج ہی نہ کر سکا۔

إِنَّا أُمَّتٌ لِّرَبِّنَا بِالَّذِي خَطَبْنَا وَمَا آكُرْهُتْنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحْرِ ط

وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى ﴿۴۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں اور وہ جادو بخش دے جس پر تو نے ہمیں

①.....حازن، طہ، تحت الآية: ۷۲، ۲۵۸/۳۔

②.....تفسیر کبیر، طہ، تحت الآية: ۷۲، ۷۷/۸-۷۸۔

مجبور کیا تھا اور اللہ بہتر ہے اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

﴿إِنَّا أَمْنَا بِرَبِّنَا: بیشک ہم اپنے رب پر ایمان لائے۔﴾ جادو گروں نے کہا کہ بیشک ہم اپنے رب عزوجل پر ایمان لائے تاکہ وہ ہماری خطائیں بخش دے اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے مقابلے میں مجبور کیا تھا۔ اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی طاعت کریں تو وہ تیرے مقابلے میں فرمانبرداروں کو ثواب دینے میں بہتر ہے اور اگر ہم اس کی نافرمانی کریں تو وہ نافرمانوں پر عذاب کرنے کے لحاظ سے سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

فرعون نے جادو گروں کو جو جادو پر مجبور کیا تھا اس کے بارے میں بعض مفسرین نے فرمایا کہ فرعون نے جب جادو گروں کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لئے بلایا تو جادو گروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں، چنانچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع فراہم کر دیا گیا، انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام خواب میں ہیں اور عصا شریف پہرہ دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادو گروں نے فرعون سے کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام جادو گر نہیں، کیونکہ جادو گر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا مگر فرعون نے انہیں جادو کرنے پر مجبور کیا۔ اس کی مغفرت کے وہ جادو گر اللہ تعالیٰ سے طالب اور امیدوار ہیں۔^(۱)

إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا فَإِنَّ لَهُ جَهَنَّمَ ۖ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ ۚ ﴿٤٣﴾
وَمَن يَأْتِهِ مُمُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ
الْعُلَىٰ ۖ ﴿٤٤﴾ جَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۖ
وَذَٰلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ ۗ ﴿٤٥﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لئے جہنم ہے جس میں نہ مرے نہ جئے۔

1.....حازن، طہ، تحت الآية: ۷۳، ۲۵۹/۳.

اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے کہ اچھے کام کئے ہوں تو انہیں کے درجے اونچے۔ بسنے کے باغ جن کے نیچے نہریں بہیں ہمیشہ ان میں رہیں اور یہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا۔

ترجیہ کذا العرفان: بیشک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا اور نہ (ہی چین سے) زندہ رہے گا۔ اور جو اس کے حضور ایمان والا ہو کر آئے گا کہ اس نے نیک اعمال کئے ہوں تو ان کیلئے بلند درجات ہیں۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔

﴿ **إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا:** بیشک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے گا۔ ﴿ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ جادو گروں کے کلام کا حصہ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ یہاں سے اللہ تعالیٰ کا کلام شروع ہو رہا ہے، اور ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک جو اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے حضور فرعون کی طرح کافر ہو کر آئے گا تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے جس میں نہ مرے گا کہ مر کر ہی اس سے چھوٹ سکے اور نہ ہی اس طرح زندہ رہے گا جس سے کچھ نفع اٹھا سکے اور جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو اور انہوں نے اپنی زندگی میں نیک عمل کئے ہوں، فرائض اور نوافل بجالائے ہوں تو ان کیلئے بلند درجات ہیں اور وہ درجات ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور یہ اس کی جزا ہے جو کفر کی نجاست اور گناہوں کی گندگی سے پاک ہوا۔^(۱)

﴿ **فَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى:** تو ان کیلئے بلند درجات ہیں۔ ﴿ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے ان کے لئے بلند درجات ہیں۔ بلند درجات والوں کے مقام کے بارے میں سنن ترمذی اور ابن ماجہ میں حضرت ابو سعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ”بلند درجات والوں کو نچلے درجات والے ایسے دیکھیں گے جیسے تم اُفتخ میں طلوع ہونے والے ستاروں کو دیکھتے ہو۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا ان میں سے ہیں اور یہ اسی کے اہل ہیں۔^(۲)

①.....خازن، طہ، تحت الآية: ۷۴، ۲۵۹/۳.

②.....ترمذی، کتاب المناقب، باب مناقب ابی بکر الصديق رضى الله عنه... انخ، ۳۷۲/۵، الحديث: ۳۶۷۸.

﴿وَذَلِكَ جَزَاءُ مَنْ تَزَكَّى﴾ اور یہ اس کی جزا ہے جو پاک ہوا۔ ﴿اس آیت مبارکہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر عقلمند کو چاہئے کہ اگر وہ کفر و شرک کی نجاست سے آلودہ ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رسالت کا اقرار کر کے اور اسلام کے بیان کردہ عقائد اختیار کر کے کفر و شرک کی نجاست سے فوری طور پر پاک ہو جائے اور اس کے بعد خود کو گناہوں کی گندگی سے پاک صاف رکھے، یونہی ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ تمام گناہوں، مذموم نفسانی اخلاق اور برے شیطانی اوصاف سے خود کو پاک کرے تاکہ قیامت کے دن اسے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے حصہ ملے اور اس کے فضل و کرم کے صدقے جنت میں بلند درجات نصیب ہوں۔

اے اللہ! عَزَّوَجَلَّ، ہمارے تمام گناہوں اور ساری خطاؤں کو معاف فرما، ہمیں گناہوں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی توفیق مرحمت فرما، ہماری زندگی اور موت دونوں کو بہتر فرما، دین اسلام پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما، حشر کے دن ہمیں اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شفاعت اور ان کے صدقے میزانِ عمل اور پلِ صراط پر آسانی عطا فرما اور ہم تیرے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے صدقے تجھ سے جنت، اس میں بلند درجات اور تیرے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کا پڑوس مانگتے ہیں، اے اللہ! عَزَّوَجَلَّ، اپنی رحمت اور فضل و کرم کے صدقے ہمیں یہ عطا فرما۔ امین۔

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی ۱۱۱ اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْ فَاَضْرِبْ لَهُمْ طَرِیْقًا
فِی الْبَحْرِ یَبَسًا ۱۱۲ لَا تَخَفْ دَرَاکًا وَّلَا تَحْشٰی ۱۱۳

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چل اور ان کے لیے دریا میں سوکھا راستہ نکال دے تجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون آلے اور نہ خطرہ۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندوں کو لے چلو اور ان کے لیے دریا میں خشک راستہ نکال دو۔ تجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے خطرہ ہوگا۔

﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ﴾ اور بیشک ہم نے موسیٰ کی طرف وحی بھیجی۔ ﴿جب حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے معجزات دیکھ کر فرعون راہ پر نہ آیا اور اس نے نصیحت حاصل نہ کی اور وہ بنی اسرائیل پر پہلے سے زیادہ ظلم و ستم کرنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی طرف وحی فرمائی کہ راتوں رات میرے بندوں کو مصر سے لے چلو اور جب آپ لوگ دریا کے کنارے پہنچیں اور فرعونی لشکر پیچھے سے آئے تو اندیشہ نہ کرنا اور ان کے لیے اپنا عصا مار کر دریا میں خشک راستہ نکال دو۔ تجھے ڈرنہ ہوگا کہ فرعون پکڑ لے اور نہ تجھے دریا میں غرق ہونے کا خطرہ ہوگا۔ (1)

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ ﴿۷۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو ان کے پیچھے فرعون پڑا اپنے لشکر لے کر تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا ڈھانپ لیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا تو انہیں دریا نے ڈھانپ لیا جیسا انہیں ڈھانپ لیا۔

﴿فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ﴾: تو فرعون اپنے لشکر کے ساتھ ان کے پیچھے چل پڑا۔ ﴿حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللہ تعالیٰ کا حکم پا کر رات کے پہلے وقت میں بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر مصر سے روانہ ہو گئے تو فرعون قبیلوں کا لشکر لے کر ان کے پیچھے چل پڑا اور جب فرعون اپنے لشکر کے ساتھ دریا میں بنے ہوئے راستوں میں داخل ہو گیا تو انہیں دریا نے اس طرح ڈھانپ لیا اور اس کا پانی ان کے سروں سے اس طرح اونچا ہو گیا جس کی حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، یوں فرعون اور اس کا لشکر غرق ہو گیا اور حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اپنی قوم کے ساتھ فرعون کے ظلم و ستم اور دریا میں ڈوبنے سے نجات پا گئے۔ (2)

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَاهَدَىٰ ﴿۷۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔

1..... ابو سعود، طہ، تحت الآية: ۷۷، ۴/۷۹، مدارك، طہ، تحت الآية: ۷۷، ص ۶۹۸، ملقطاً.

2..... مدارك، طہ، تحت الآية: ۷۸، ص ۶۹۸، خازن، طہ، تحت الآية: ۷۸، ۳/۲۵۹، ملقطاً.

ترجمہ کنزالعرفان: اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور راہ نہ دکھائی۔

﴿وَأَصْلَ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ﴾ اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا۔ یعنی فرعون نے اپنی قوم کو ایسا راستہ دکھایا جس پر چل کر وہ دین اور دنیا دونوں میں نقصان اٹھا گئے کہ کفر کی وجہ سے وہ دنیا میں ہولناک عذاب میں مبتلا ہو کر مر گئے اور اب وہ آخرت کے ابدی عذاب کا سامنا کر رہے ہیں اور فرعون نے اپنی قوم کو کبھی ایسا راستہ نہ دکھایا جس پر چل کر وہ دین اور دنیا کی بھلائیوں تک پہنچ جاتے۔^(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے دینی اور دنیوی نقصان یا بھلائی میں قوم کے سربراہ اور حکمران کا انتہائی اہم کردار ہوتا ہے، اگر یہ سدھر جائے تو قوم دنیا میں بھی حقیقی کامیابی پاسکتی ہے اور آخرت میں بھی حقیقی فلاح سے سرفراز ہو سکتی ہے اور اگر یہ بگڑ جائے تو قوم دینی اور دنیوی دونوں اعتبار سے بے پناہ نقصان اٹھاتی ہے۔

يٰۤاَيُّهَا اِسْرَائِيْلُ قَدْ اَنْجَيْنٰكُمْ مِّنْ عَدُوِّكُمْ وَاَعَدْنَا لَكُمْ جَانِبَ الطُّورِ
الْاَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّٰنَ وَالسَّلْوٰى ﴿۸۰﴾ كَلُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ
وَلَا تَطْغَوْا فِيْهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ غَضَبِيْ ج وَمَنْ يُحِلِّ عَلَيْهِ غَضَبِيْ فَقَدْ
هُوِيَ ﴿۸۱﴾ وَاِنِّيْ لَغَفَّارٌ لِّمَنْ تَابَ وَاَمِنْ وَعِيْلٌ صٰلِحًا ثُمَّ اِهْتَدٰى ﴿۸۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اے بنی اسرائیل بیشک ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہیں طور کی دہنی طرف کا وعدہ دیا اور تم پر من اور سلوی اتارا۔ کھاؤ جو پاک چیزیں ہم نے تمہیں روزی دیں اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اترے اور جس پر میرا غضب اتر بیشک وہ گمراہ اور بیشک میں بہت بخشنے والا ہوں اسے جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور اچھا کام کیا پھر ہدایت پر رہا۔

1..... ابو سعود، طہ، تحت الآیة: ۷۹، ۳/ ۴۸۰.

ترجیہ کنز العرفان: اے بنی اسرائیل! بیشک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی اور تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا اور تم پر من اور سلوئی اتارا۔ جو پاکیزہ رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں زیادتی نہ کرو کہ تم پر میرا غضب اتر آئے اور جس پر میرا غضب اتر آیا تو بیشک وہ گر گیا۔ اور بیشک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا۔

﴿يٰۤاِبْنَۤ اِسْرٰٓءٰیۤلَ: اے بنی اسرائیل!﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم کے غرق ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ”اے بنی اسرائیل! بیشک ہم نے تمہیں تمہارے دشمن فرعون اور اس کی قوم سے نجات دی جو تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، بیٹیوں کو زندہ رکھتے اور تم سے انتہائی محنت و مشقت والے کام لیتے تھے، اور ہم نے اپنے نبی علیہ السلام کے ذریعے تمہارے ساتھ کوہ طور کی دائیں جانب کا وعدہ کیا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وہاں تو ریت عطا فرمائیں گے جس پر عمل کیا جائے اور ہم نے تم پر تیبہ کے میدان میں من و سلوئی اتارا اور فرمایا ”ہم نے جو پاکیزہ رزق تمہیں دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس میں ناشکری اور نعمت کا انکار کر کے اور ان نعمتوں کو معاصی اور گناہوں میں خرچ کر کے یا ایک دوسرے پر ظلم کر کے زیادتی نہ کرو ورنہ تم پر میرا غضب اتر آئے گا اور جس پر میرا غضب اتر آیا تو بیشک وہ جہنم میں گر گیا اور ہلاک ہوا اور بیشک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے شرک سے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر آخری دم تک ہدایت پر رہا۔^(۱)

توبہ کی اہمیت اور اس کی قبولیت

اس سے معلوم ہوا کہ توبہ ایسی اہم ترین چیز ہے جس سے بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ حاصل کر سکتا ہے۔ علامہ اسماعیل حقی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں: جان لو کہ توبہ صابن کی طرح ہے تو جس طرح صابن ظاہری میل کچیل کو دور کر دیتا ہے اسی طرح توبہ باطنی یعنی گناہوں کے میل اور گندگیوں کو صاف کر دیتی ہے۔^(۲) البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ وہی توبہ مقبول اور فائدہ مند ہے جو سچی ہو اور سچی توبہ اپنے گناہ کا اقرار کرنے، اس پر نادم و

①..... روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۸۰-۸۲، ۵/۴۱۰-۴۱۱، حازن، طہ، تحت الآیة: ۸۰-۸۲، ۳/۲۵۹-۲۶۰، مدارک،

طہ، تحت الآیة: ۸۰-۸۲، ص ۶۹۸-۶۹۹، ملقطاً.

②..... روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۸۲، ۵/۴۱۲.

شرمسار ہونے اور آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کے پختہ ارادے کا نام ہے اور جو لوگ فقط زبان سے توبہ کے الفاظ دہرا لینے یا ہاتھ سے توبہ کے اشارے کر لینے کو کافی سمجھتے ہیں تو وہ یاد رکھیں کہ یہ حقیقی توبہ نہیں ہے۔

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يٰمُوسَىٰ ﴿۸۳﴾ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثْرِي وَعَجِلْتُ
إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ ﴿۸۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور تو نے اپنی قوم سے کیوں جلدی کی اے موسیٰ۔ عرض کی کہ وہ یہ ہیں میرے پیچھے اور اے میرے رب تیری طرف میں جلدی کر کے حاضر ہوا کہ تو راضی ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اے موسیٰ! تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ عرض کی: وہ یہ میرے پیچھے ہیں اور اے میرے رب! میں نے تیری طرف اس لئے جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔

﴿وَمَا أَعْجَلَكَ﴾ اور تجھے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ ﴿﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ جب اپنی قوم میں سے ستر آدمیوں کو منتخب کر کے توریث شریف لینے کو طور پر تشریف لے گئے، پھر اللہ تعالیٰ سے کلام کے شوق میں ان آدمیوں سے آگے بڑھ گئے اور انہیں پیچھے چھوڑتے ہوئے فرمایا کہ میرے پیچھے چلے آؤ، تو اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”اے موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، تجھے اپنی قوم سے کس چیز نے جلدی میں مبتلا کر دیا؟ حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے عرض کی: وہ یہ میرے پیچھے ہیں اور اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، میں نے تیری طرف اس لئے جلدی کی تاکہ تیرے حکم کو پورا کرنے میں میری جلدی دیکھ کر تیری رضا اور زیادہ ہو۔^(۱)

کلیم اور حبیب کی رضا میں فرق

یہاں ایک نکتہ قابل ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضرت موسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے بارے میں بتایا کہ ”انہوں نے خدا کی رضا چاہی“ اور اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کے لیے اور مقامات پر بتایا: خدا نے ان کی

1.....مدارك، طہ، تحت الآیة: ۸۳-۸۴، ص ۶۹۹، روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۸۳-۸۴، ۴۱۲/۵، ملتقطاً.

رضا چاہی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

فَلَوْلِيَّكَ قَبْلَةَ تَرْضَاهَا (۱)

ترجمہ کنزالعرفان: تو ضرور ہم تمہیں اس قبلہ کی طرف پھیر
دیں گے جس میں تمہاری خوشی ہے۔

اور ارشاد فرماتا ہے

وَأَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى (۲)

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک قریب ہے کہ تمہارا رب تمہیں
اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت موسیٰ اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے اور اس میں اضافہ کرنے کیلئے کوشاں ہیں جبکہ
اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہ رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ
کیا خوب فرماتے ہیں:

خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم
خدا چاہتا ہے رضائے محمد

قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ (۸۵)

ترجمہ کنزالایمان: فرمایا تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو بلا میں ڈالا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: فرمایا، تو ہم نے تیرے آنے کے بعد تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں گمراہ کر دیا۔

﴿قَالَ﴾ فرمایا۔ ﴿اللَّهُ تَعَالَى﴾ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو خبر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ! عَلِيهِ الصَّلَاةُ
وَالسَّلَامُ، ہم نے تیرے پہاڑ کی طرف آنے کے بعد تیری قوم جنہیں آپ نے حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ
چھوڑا ہے کو آزمائش میں ڈال دیا اور سامری نے انہیں پچھڑا پوجنے کی دعوت دے کر گمراہ کر دیا ہے۔ (۳)

① بقرہ: ۱۴۴.

② والضحی: ۵.

③ روح البیان، طہ، تحت الآية: ۸۵، ۴۱۳/۵، خازن، طہ، تحت الآية: ۸۵، ۲۶۰/۳، ملتقطاً.

سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے

اس آیت میں اضلال یعنی گمراہ کرنے کی نسبت سامری کی طرف فرمائی گئی کیونکہ وہ اس کا سبب اور باعث بنا تھا۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی چیز کو اس کے سبب کی طرف منسوب کرنا جائز ہے، اسی طرح یوں کہہ سکتے ہیں کہ ماں باپ نے پرورش کی، دینی پیشواؤں نے ہدایت کی، اولیاء کرام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ نے حاجت روائی فرمائی اور بزرگوں نے بلا دفع کی۔

فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا ۚ قَالَ لِقَوْمِ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ
وَعَدًّا حَسِينًا ۗ أَفَطَالَ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ أَمْ أَرَادْتُمْ أَنْ يَحِلَّ عَلَيْكُمْ
غَضَبٌ مِّنْ رَبِّكُمْ فَأَخْلَفْتُم مَّوْعِدِي ۝۸۶

ترجمہ کنزالایمان: تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف پلٹا غصہ میں بھرا افسوس کرتا کہا اے میری قوم کیا تم سے تمہارے رب نے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کیا تم پر مدت لمبی گزری یا تم نے چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اترے تو تم نے میرا وعدہ خلاف کیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر افسوس کرتے ہوئے لوٹے (اور) فرمایا: اے میری قوم! کیا تمہارے رب نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا؟ کیا مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی یا تم نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی ہے۔

﴿فَرَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ﴾: تو موسیٰ اپنی قوم کی طرف لوٹے۔ ﴿حَضْرَتِ مُوسَىٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ﴾ نے چالیس دن پورے کئے اور وہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ تمہاری قوم گمراہی میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ توریت لے کر اپنی قوم کی طرف غضبناک ہو کر لوٹے اور ان کے حال پر افسوس کرتے ہوئے فرمانے لگے: اے میری قوم! کیا تمہارے رب غرور و جلال نے تم سے اچھا وعدہ نہ کیا تھا کہ وہ تمہیں توریت عطا فرمائے گا جس میں ہدایت ہے، نور ہے، ہزار سورتیں ہیں اور ہر سورت میں ہزار آیتیں ہیں؟ کیا میرے تم سے جدا ہونے کی مدت تم پر لمبی ہو گئی تھی یا تم

نے یہ چاہا کہ تم پر تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ کا غضب اتر آئے؟ پس تم نے مجھ سے وعدہ خلافی کی اور ایسا ناقص کام کیا ہے کہ چھڑے کو پوجنے لگے، تمہارا وعدہ تو مجھ سے یہ تھا کہ میرے حکم کی اطاعت کرو گے اور میرے دین پر قائم رہو گے۔^(۱)

اللہ تعالیٰ کے لئے راضی یا ناراض ہونا چاہئے

علامہ اسماعیل حنفی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوتی دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نافرمانی کرنے والے پر غصہ ہونا اور اس کے حال پر افسوس کا اظہار کرنا کامل انسان کی فطرت کے لوازمات میں سے ہے، لہذا ہر عقلمند انسان کو چاہئے کہ وہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور اولیاء عظام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ کے طریقے کی پیروی کرے اور جب کوئی برائی ہوتی دیکھے تو اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے اس پر ناراضی اور غصہ کا اظہار کرے۔^(۲)

اللہ تعالیٰ کے لئے راضی یا ناراض ہونے کے بارے میں حضرت عمرو بن حَمِق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”بندہ ایمان کی حقیقت کو نہیں پاسکتا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کے لئے غضب کرے اور اللہ تعالیٰ کے لئے راضی ہو اور جب اس نے ایسا کر لیا تو وہ ایمان کی حقیقت کا مستحق ہو گیا۔^(۳)

اور اس سلسلے میں تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سیرت کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنی ذات کا کسی سے انتقام نہیں لیا البتہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کی حرمت کے خلاف کرتا تو اس سے اللہ تعالیٰ کے لئے انتقام لیا کرتے تھے۔^(۴)

حضرت ابو مسعود انصاری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ایک آدمی نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ہو سکتا ہے کہ میں نماز میں شامل نہ ہو سکوں کیونکہ فلاں ہمیں بہت لمبی نماز پڑھاتے ہیں۔ (راوی فرماتے ہیں کہ) میں نے نصیحت کرنے میں سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو اس دن سے زیادہ کبھی ناراض نہیں دیکھا تھا۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اے لوگو! تم متنفر کرتے ہو! تم میں سے جو لوگوں کو نماز پڑھائے وہ تخفیف کرے کیونکہ ان میں بیمار، کمزور اور حاجت مند بھی ہوتے ہیں۔^(۵)

۱.....مدارك، طه، تحت الآية: ۸۶، ص ۶۹۹، خازن، طه، تحت الآية: ۸۶، ۲۶۰/۳، ملقطاً.

۲.....روح البيان، طه، تحت الآية: ۸۹، ۴۱۶/۵.

۳.....معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ۱۹۴/۱، الحديث: ۶۵۱.

۴.....بخاری، كتاب المناقب، باب صفة النبي صلى الله عليه وسلم، ۴۸۹/۲، الحديث: ۳۵۶۰.

۵.....بخاری، كتاب العلم، باب الغضب في الموعدة... الخ، ۵۰/۱، الحديث: ۹۰.

افسوس! فی زمانہ لوگوں کا حال یہ ہے کہ ان کے ماتحت کام کرنے والا اگر ان کے کسی حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو یہ بسا اوقات اس پر موسلا دھار بارش کی طرح برس پڑتے ہیں لیکن اگر یہی لوگ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کرتے ہیں تو ان کے ماتھے پر شکن تک نہیں آتی۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے، آمین۔

اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ایک سبب

یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ کچھ بندوں کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ اگر وہ بندے کسی پر غصہ کریں تو اللہ تعالیٰ بھی اس پر غضب فرماتا ہے اور اگر وہ بندے کسی سے راضی ہوں تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوتا ہے گویا کہ انہیں ناراض کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہوتا ہے اور انہیں راضی کرنے سے اللہ تعالیٰ بھی راضی ہوتا ہے۔ حدیث قدسی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: جس نے میرے کسی ولی کی توہین کی اس نے میرے ساتھ جنگ کا اعلان کر دیا۔^(۱) لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہم کا ادب کرے اور ہر ایسے کام سے بچے جو ان کی ناراضی کا سبب بن سکتا ہو۔

قَالُوا مَا أَخْلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلِكِنَا وَلَكِنَّا حَصِينًا أَوْ ذَا رَأًى مِنْ زِينَةِ
الْقَوْمِ فَقَدْ فُتِنَ فَكَذَّبَكَ النَّصْرُ السَّامِرِيُّ ﴿۸۷﴾

ترجمہ کنز الایمان: بولے ہم نے آپ کا وعدہ اپنے اختیار سے خلاف نہ کیا لیکن ہم سے کچھ بوجھ اٹھوائے گئے اس قوم کے گہنے کے تو ہم نے انہیں ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نے ڈالا۔

ترجمہ کنز العرفان: انہوں نے کہا: ہم نے اپنے اختیار سے آپ کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن قوم کے کچھ زیورات کے بوجھ ہم سے اٹھوائے گئے تھے تو ہم نے ان زیورات کو ڈال دیا پھر اسی طرح سامری نے ڈال دیا۔

۱..... معجم الاوسط، باب الالف، من اسمہ: احمد، ۱/ ۱۸۴، الحدیث: ۶۰۹.

﴿قَالُوا: انہوں نے کہا۔﴾ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی بات سن کر لوگوں نے کہا: ہم نے اپنے اختیار سے آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کی لیکن فرعون کی قوم کے کچھ زیورات جو ہم نے ان سے عاریت کے طور پر لئے تھے انہیں ہم نے سامری کے حکم سے آگ میں ڈال دیا، پھر اسی طرح سامری نے ان زیوروں کو ڈال دیا جو اس کے پاس تھے اور اس خاک کو بھی ڈال دیا جو حضرت جبریل عَلَيْهِ الصَّلَام کے گھوڑے کے قدم کے نیچے سے اس نے حاصل کی تھی۔^(۱)

فَاَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا لَهُ خُورًا فَقَالُوا هَذَا إِلَهُكُمْ وَإِلَهُ

مُوسَىٰ فَنَسِيَ^ط ۸۸

ترجمہ کنزالایمان: تو اس نے ان کے لیے ایک نچھڑا نکال لایا بے جان کا دھڑگانے کی طرح بولتا تو بولے یہ ہے تمہارا معبود اور موسیٰ کا معبود موسیٰ تو بھول گئے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان نچھڑا نکال دیا جس کی گائے جیسی آواز تھی تو لوگ کہنے لگے: یہ تمہارا معبود ہے اور موسیٰ کا معبود ہے اور موسیٰ بھول گئے ہیں۔

﴿فَاَخْرَجَ لَهُمْ عَجَلًا جَسَدًا﴾: تو اس نے ان لوگوں کے لیے ایک بے جان نچھڑا نکال دیا۔ ﴿یہ نچھڑا سامری نے بنایا اور اس میں کچھ سوراخ اس طرح رکھے کہ جب ان میں ہوا داخل ہو تو اس سے نچھڑے کی آواز کی طرح آواز پیدا ہو۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ اَسْب جبریل کی خاک زیر قدم ڈالنے سے زندہ ہو کر نچھڑے کی طرح بولتا تھا۔^(۲)

﴿فَقَالُوا: تو لوگ کہنے لگے۔﴾ یعنی نچھڑے سے آواز نکلتی دیکھ کر سامری اور اس کے پیروکار کہنے لگے: یہ تمہارا معبود ہے اور حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا معبود ہے اور حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام معبود کو بھول گئے اور اسے یہاں چھوڑ کر اس کی جستجو میں کوہ طور پر چلے گئے ہیں۔ (مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ) بعض مفسرین نے کہا کہ اس آیت کے آخری لفظ 'نَسِيَ' "

①.....خازن، طہ، تحت الآية: ۸۷، ۳/۲۶۰-۲۶۱.

②.....خازن، طہ، تحت الآية: ۸۸، ۳/۲۶۱.

کافاعل سامری ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ سامری نے پچھڑے کو معبود بنایا اور وہ اپنے رب کو بھول گیا یا یہ معنی ہے کہ سامری اجسام کے حادث ہونے سے استدلال کرنا بھول گیا۔^(۱)

أَفَلَا يَرُونَ إِلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِمْ قَوْلًا ۖ وَلَا يَمْلِكُ لَهُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا ۚ

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا نہیں دیکھتے کہ وہ انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کے کسی برے بھلے کا اختیار نہیں رکھتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ وہ پچھڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور ان کیلئے نہ کسی نقصان کا مالک ہے اور نہ نفع کا۔

﴿أَفَلَا يَرُونَ﴾: تو کیا وہ نہیں دیکھتے۔ ارشاد فرمایا کہ پچھڑے کو پوجنے والے کیا اس بات پر غور نہیں کرتے کہ وہ پچھڑا انہیں کسی بات کا جواب نہیں دیتا اور نہ ہی وہ ان سے کسی نقصان کو دور کر سکتا ہے اور نہ انہیں کوئی نفع پہنچا سکتا ہے اور جب وہ بات کا جواب دینے سے عاجز ہے اور نفع نقصان سے بھی بے بس ہے تو وہ معبود کس طرح ہو سکتا ہے۔^(۲)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ روشن آیات اور معجزات دیکھنے کے بعد بصیرت کا اندھا پن اور عقل والوں کی عقل و فہم کا سلب ہو جانا بہت بڑی بدبختی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔

وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ يُقَوْمِ إِسْرَائِيلَ فَانظُرُوا إِلَىٰ مَا كُنتُمْ تَعْبُدُونَ ۚ

الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ۙ

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ان سے ہارون نے اس سے پہلے کہا تھا کہ اے میری قوم یونہی ہے کہ تم اس کے سبب فتنے میں پڑے اور بیشک تمہارا رب رحمن ہے تو میری پیروی کرو اور میرا حکم مانو۔

۱.....مدارك، طه، تحت الآية: ۸۸، ص ۷۰۰، خازن، طه، تحت الآية: ۸۸، ۲۶۱/۳، ملقطاً.

۲.....خازن، طه، تحت الآية: ۸۹، ۲۶۱/۳، مدارك، طه، تحت الآية: ۸۹، ص ۷۰۰، ملقطاً.

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا کہ اے میری قوم! تمہیں اس کے ذریعے صرف آزمایا جا رہا ہے اور بیشک تمہارا رب رحمن ہے تو میری پیروی کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔

﴿وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُ: اور بیشک ہارون نے ان سے پہلے ہی کہا تھا۔﴾ ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے قوم کی طرف لوٹنے سے پہلے بے شک حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے لوگوں کو نصیحت کی اور انہیں اس معاملے کی حقیقت سے آگاہ کیا اور فرمایا تھا "اے میری قوم! اس کچھڑے کے ذریعے صرف تمہاری آزمائش کی جا رہی ہے تو تم اسے نہ پوجو اور بیشک تمہارا رب جو عبادت کا مستحق ہے وہ رحمن عَزَّوَجَلَّ ہے نہ کہ کچھڑا، تو میری پیروی کرو اور کچھڑے کی پوجا چھوڑ دینے میں میرے حکم کی اطاعت کرو۔" (1)

وعظ و نصیحت کی عمدہ ترتیب

حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے قوم کو اس ترتیب سے نصیحت فرمائی کہ سب سے پہلے انہیں باطل چیز کے بارے میں تنبیہ فرمائی کہ تمہیں کچھڑے کے ذریعے آزمایا جا رہا ہے، پھر آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے انہیں اللہ تعالیٰ کو پہچاننے کی دعوت دی کہ تمہارا رب کچھڑا نہیں بلکہ تمہارا رب رحمن عَزَّوَجَلَّ ہے، پھر انہیں نبوت کو پہچاننے کی دعوت دی کہ میں نبی ہوں اس لئے تم سامری کی بجائے میری پیروی کرو، اس کے بعد آپ نے انہیں شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا حکم دیا کہ میں نے تمہیں کچھڑے کی پوجا نہ کرنے کا جو حکم دیا ہے اسے پورا کرو۔ یہ وعظ و نصیحت کرنے کے معاملے میں انتہائی عمدہ ترتیب ہے اور سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سیرت مبارکہ میں وعظ و نصیحت کی اس ترتیب کا انتہائی اعلیٰ نمونہ موجود ہے کہ آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنی جان کے دشمنوں کو اعلانیہ طور پر ان کے باطل معبودوں اور بتوں کی عبادت کے معاملے میں تنبیہ فرمائی اور انہیں بتایا کہ یہ مٹی، پتھر اور دھاتوں سے بنائے گئے خود ساختہ اور ہر طرح سے عاجز بت تمہارے معبود ہو ہی نہیں سکتے بلکہ تمہارا معبود وہ ہے جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو یہ انسانی وجود عطا کیا اور وہی حقیقی طور پر نعمتیں عطا فرمانے والا اور نقصانات دور کرنے والا ہے، پھر آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے انہیں اپنی نبوت و رسالت اور اپنے مقام و مرتبے کی پہچان کروائی اور اس کے بعد انہیں دین اسلام کے احکامات پر عمل کا حکم دیا۔

1..... مدارك، طہ، تحت الآية: ۹۰، ص ۷۰۰، روح البیان، طہ، تحت الآية: ۹۰، ۴۱۷/۵، ملقطاً.

قَالُوا لَنْ نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَكْفِينَ حَتَّىٰ يَرْجِعَ إِلَيْنَا مُوسَىٰ ﴿۹۱﴾ قَالَ يَهْرُؤُونَ
مَامَنَعَكَ إِذْ رَأَيْتَهُمْ ضَلُّوا ﴿۹۲﴾ أَالَّا تَتَّبِعَنِ ۖ أَفَعَصَيْتَ أَمْرِي ﴿۹۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: بولے ہم تو اس پر آسن مارے جمے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کے آئیں۔ موسیٰ نے کہا اے ہارون تمہیں کس بات نے روکا تھا جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا کہ میرے پیچھے آتے۔ تو کیا تم نے میرا حکم نہ مانا۔

ترجمہ کنزالعرفان: بولے ہم تو اس پر جم کر بیٹھے رہیں گے جب تک ہمارے پاس موسیٰ لوٹ کر نہ آجائیں۔ موسیٰ نے فرمایا: اے ہارون! جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آنے سے منع کیا تھا؟ کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟

﴿قَالُوا: بولے﴾۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی نصیحت کے جواب میں لوگوں نے کہا ”ہم تو اس وقت تک کچھڑے کی پوجا کرنے پر قائم رہیں گے اور آپ کی بات نہ مانیں گے جب تک ہمارے پاس حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام لوٹ کر نہ آجائیں اور ہم دیکھ لیں کہ وہ بھی ہماری طرح اس کی پوجا کرتے ہیں یا نہیں اور کیا سامری نے سچ کہا ہے یا نہیں۔ اس پر حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام ان سے علیحدہ ہو گئے اور ان کے ساتھ بارہ ہزار وہ لوگ بھی جدا ہو گئے جنہوں نے کچھڑے کی پوجا نہ کی تھی۔ جب حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام واپس تشریف لائے تو آپ نے ان لوگوں کے شور مچانے اور باجے بجانے کی آوازیں سنیں جو کچھڑے کے گرد ناچ رہے تھے، تب آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے اپنے ہمراہ ستر لوگوں سے فرمایا ”یہ فتنہ کی آواز ہے۔ جب آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام قریب پہنچے اور حضرت ہارون عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو دیکھا تو اپنی فطری دینی غیرت سے جوش میں آ کر ان کے سر کے بال دائیں ہاتھ اور دائرہ ہی بائیں میں پکڑ لی اور فرمایا ”اے ہارون! عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام، جب تم نے انہیں گمراہ ہوتے دیکھا تھا تو تمہیں کس چیز نے میرے پیچھے آ کر مجھے خبر دینے سے منع کیا تھا اور جب انہوں نے تمہاری بات نہ مانی تھی تو تم مجھ

سے کیوں نہیں آملے تاکہ تمہارا ان سے جدا ہونا بھی ان کے حق میں ایک سرزنش ہوتی، کیا تم نے میرا حکم نہ مانا؟^(۱)

قَالَ يَبْنَؤُمَّ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي ۚ إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ
فَرَأَيْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرَ قَوْلِي ۖ ﴿۹۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: کہا اے میرے ماں جائے نہ میری داڑھی پکڑو اور نہ میرے سر کے بال مجھے یہ ڈر ہوا کہ تم کہو گے تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: ہارون نے کہا: اے میری ماں کے بیٹے! میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو بیشک مجھے ڈر تھا کہ تم کہو گے کہ (اے ہارون!) تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور تم نے میری بات کا انتظار نہ کیا۔

﴿قَالَ:﴾ حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہا: اے میری ماں کے بیٹے! میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑو بیشک مجھے ڈر تھا کہ اگر میں انہیں چھوڑ کر آپ کے پیچھے چلا گیا تو یہ گروہوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے سے لڑنے لگیں گے اور یہ دیکھ کر آپ کہیں گے کہ اے ہارون! تم نے بنی اسرائیل میں تفرقہ ڈال دیا اور ان کے بارے میں تم نے میرے حکم کا انتظار نہ کیا۔^(۲)

قَالَ فَمَا خَطْبُكَ يُسَامِرِي ۖ ﴿۹۵﴾ قَالَ بَصُرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ فَقَبَضْتُ
قَبْضَةً مِّنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي ۖ ﴿۹۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: موسیٰ نے کہا اب تیرا کیا حال ہے اے سامری۔ بولا میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا تو ایک مٹھی بھر لی فرشتے کے نشان سے پھر اسے ڈال دیا اور میرے جی کو یہی بھلا لگا۔

۱.....خازن، طہ، تحت الآية: ۹۱-۹۳، ۲۶۱/۳-۲۶۲، مدارك، طہ، تحت الآية: ۹۱-۹۳، ص ۷۰۰، ملقطاً.

۲.....خازن، طہ، تحت الآية: ۹۴، ۲۶۲/۳، جلالین، طہ، تحت الآية: ۹۴، ص ۲۶۶، ملقطاً.

ترجمہ کنزالعرفان: موسیٰ نے فرمایا: اے سامری! تو تیرا کیا حال ہے؟ اس نے کہا: میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے ڈال دیا اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا۔

﴿فَبَاخَضْبِكَ يَسَامِرِيُّ﴾: اے سامری! تو تیرا کیا حال ہے؟ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کا جواب سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام سامری کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ”اے سامری! تو نے ایسا کیوں کیا؟ اس کی وجہ بتا۔ سامری نے کہا: میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کے لوگوں نے نہ دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”تو نے کیا دیکھا؟ اس نے کہا: میں نے حضرت جبریل علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیکھا اور انہیں پہچان لیا، وہ زندگی کے گھوڑے پر سوار تھے، اس وقت میرے دل میں یہ بات آئی کہ میں ان کے گھوڑے کے نشانِ قدم کی خاک لے لوں تو میں نے وہاں سے ایک مٹھی بھر لی پھر اسے اُس چھڑے میں ڈال دیا جو میں نے بنایا تھا اور میرے نفس نے مجھے یہی اچھا کر کے دکھایا اور یہ فعل میں نے اپنی ہی نفسانی خواہش کی وجہ سے کیا کوئی دوسرا اس کا باعث و محرک نہ تھا۔ (1)

قَالَ فَاذْهَبْ فَإِنَّ لَكَ فِي الْحَيَاةِ أَنْ تَقُولَ لَا مِسَاسَ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَنْ نُخْلِقَهُ ج وَانظُرْ إِلَى إِلٰهِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنْهَرِقَنَّهُ ثُمَّ لَنَنْسِفَنَّهُ فِي الْيَمِّ نَسْفًا ﴿٩٤﴾ إِنَّمَا إِلٰهُكُمُ اللّٰهُ الَّذِي لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ ۖ وَسِعَ كُلَّ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿٩٨﴾

ترجمہ کنزالایمان: کہا تو چلتا بن کہ دنیا کی زندگی میں تیری سزا یہ ہے کہ تو کہے چھو نہ جا اور بیشک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جو تجھ سے خلاف نہ ہوگا اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو دن بھر آسن مارے رہا قسم ہے ہم ضرور

1.....مدارک، طہ، تحت الآیة: ۹۵-۹۶، ص ۷۰۱، حازن، طہ، تحت الآیة: ۹۵-۹۶، ۲/۲۶۲، ملقطاً.

اسے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کسی کی بندگی نہیں ہر چیز کو اس کا علم محیط ہے۔

ترجیہ کذا العرفان: موسیٰ نے فرمایا: تو تو چلا جا پس بیشک زندگی میں تیرے لئے یہ سزا ہے کہ تو کہے گا۔ ”نہ چھوٹا“ اور بیشک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا، قسم ہے: ہم ضرور اسے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہائیں گے۔ تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کا علم ہر چیز کو محیط ہے۔

﴿قَالَ فَاذْهَبْ: موسیٰ نے فرمایا: تو تو چلا جا۔﴾ سامری کی بات سن کر حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس سے فرمایا ”تو یہاں سے چلتا بن اور دور ہو جا، پس بیشک زندگی میں تیرے لئے یہ سزا ہے کہ جب تجھ سے کوئی ایسا شخص ملنا چاہے جو تیرے حال سے واقف نہ ہو، تو تو اس سے کہے گا ”کوئی مجھے نہ چھوئے اور نہ میں کسی سے چھوؤں۔ چنانچہ لوگوں کو مکمل طور پر سے ملنا منع کر دیا گیا اور ہر ایک پر اس کے ساتھ ملاقات، بات چیت، خرید و فروخت حرام کر دی گئی اور اگر اتفاقاً کوئی اس سے چھو جاتا تو وہ اور چھوئے والوں کے ساتھ ملتا ہوتے، وہ جنگل میں یہی شور مچاتا پھرتا تھا کہ کوئی مجھے نہ چھوئے اور وہ وحشیوں اور درندوں میں زندگی کے دن انتہائی تلخی اور وحشت میں گزارتا تھا۔^(۱)

﴿وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا: اور بیشک تیرے لیے ایک وعدہ کا وقت ہے۔﴾ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے مزید فرمایا کہ اے سامری! تیرے شرک اور فساد انگیزی پر دنیا کے اس عذاب کے بعد تیرے لئے آخرت میں بھی عذاب کا وعدہ ہے جس کی تجھ سے خلاف ورزی نہ کی جائے گی اور اپنے اس معبود کو دیکھ جس کے سامنے تو سارا دن ڈٹ کر بیٹھا رہا اور اس کی عبادت پر قائم رہا، قسم ہے: ہم ضرور اسے آگ سے جلائیں گے پھر ریزہ ریزہ کر کے دریا میں بہا دیں گے، چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اس کچھڑے کے ساتھ ایسا ہی کیا۔^(۲)

﴿إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ: تمہارا معبود تو وہی اللہ ہے۔﴾ یعنی تمہاری عبادت اور تعظیم کا مستحق صرف وہی اللہ ہے جس کے

1.....مدارک، طہ، تحت الآیة: ۹۷، ص ۷۰۱، خازن، طہ، تحت الآیة: ۹۷، ۲۶۲/۳، ملقطاً.

2.....مدارک، طہ، تحت الآیة: ۹۷، ص ۷۰۱، خازن، طہ، تحت الآیة: ۹۷، ۲۶۲/۳-۲۶۳، ملقطاً.

سوا کوئی معبود نہیں اور اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔^(۱)

كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ سَبَقَ ۚ وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ
لَدُنَّا ذِكْرًا ۖ

ترجمہ کنزالایمان: ہم ایسا ہی تمہارے سامنے اگلی خبریں بیان فرماتے ہیں اور ہم نے تم کو اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا۔

ترجمہ کنزالعرفان: (اے حبیب!) ہم تمہارے سامنے اسی طرح پہلے گزری ہوئی خبریں بیان کرتے ہیں اور بیشک ہم نے تمہیں اپنے پاس سے ایک ذکر عطا فرمایا۔

﴿كَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ﴾ : ہم تمہارے سامنے اسی طرح خبریں بیان کرتے ہیں۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں فرعون اور سامری کے ساتھ ہونے والا حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا واقعہ بیان کیا گیا اور اب یہاں سے ارشاد فرمایا گیا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، جس طرح ہم نے آپ کے سامنے یہ واقعات بیان کئے اسی طرح ہم آپ کے سامنے سابقہ امتوں کی خبریں اور ان کے احوال بیان کرتے ہیں تاکہ آپ کی شان، آپ کی نشانیوں اور معجزات میں اضافہ ہو اور لوگ ان میں زیادہ غور و فکر کر سکیں اور بے شک ہم نے آپ کو اپنے پاس سے قرآن کریم عطا فرمایا کہ یہ ذکرِ عظیم ہے اور جو اس کی طرف متوجہ ہو اس کے لئے اس کتابِ کریم میں نجات اور برکتیں ہیں اور اس مقدس کتاب میں سابقہ امتوں کے ایسے حالات کا ذکر و بیان ہے جو فکر کرنے اور عبرت حاصل کرنے کے لائق ہیں۔^(۲)

مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا ۖ خُلِدِينَ فِيهِ ۖ وَسَاءَ
لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا ۖ

۱.....حازن، طہ، تحت الآية: ۹۸، ۳/۳۶۳.

۲.....تفسیر کبیر، طہ، تحت الآية: ۹۹، ۸/۹۷، مدارک، طہ، تحت الآية: ۹۹، ص ۷۰۲، ملقطاً.

ترجمہ کنزالایمان: جو اس سے منہ پھیرے تو بیشک وہ قیامت کے دن ایک بوجھاٹھائے گا۔ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور وہ قیامت کے دن ان کے حق میں کیا ہی برا بوجھ ہوگا۔

ترجمہ کنزالعرفان: جو اس سے منہ پھیرے گا تو بیشک وہ قیامت کے دن ایک بڑا بوجھاٹھائے گا۔ وہ ہمیشہ اس میں رہے گا اور وہ قیامت کے دن ان کیلئے بہت برا بوجھ ہوگا۔

﴿مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ: جو اس سے منہ پھیرے گا۔﴾ ارشاد فرمایا کہ جو اس قرآن سے منہ پھیرے اور اس پر ایمان نہ لائے اور اس کی ہدایتوں سے فائدہ نہ اٹھائے تو وہ قیامت کے دن گناہوں کا ایک بڑا بوجھاٹھائے گا۔^(۱)

﴿خَلِيدِينَ فِيهِ: وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔﴾ یعنی وہ ہمیشہ اس گناہ کے عذاب میں رہیں گے اور وہ قیامت کے دن ان کیلئے بہت برا بوجھ ہوگا۔^(۲)

یہاں یہ بات یاد رہے ہمیشہ عذاب میں وہ شخص رہے گا جس کا خاتمہ کفر کی حالت میں ہوا ہوگا اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا وہ اگرچہ کتنا ہی گنہگار ہو اسے ہمیشہ عذاب نہ ہوگا۔

يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ وَنَحْشُرُ الْجُرِمِينَ يَوْمَئِذٍ رُزُقًا ۝۱۰۲ سَيَخَافُونَ
بَيْنَهُمْ أَنْ لَيْسَ إِلَّا عَشْرًا ۝۱۰۳

ترجمہ کنزالایمان: جس دن صور پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اٹھائیں گے نیلی آنکھیں۔ آپس میں چپکے چپکے کہتے ہوں گے کہ تم دنیا میں نہ رہے مگر دس رات۔

ترجمہ کنزالعرفان: جس دن صور میں پھونکا جائے گا اور ہم اس دن مجرموں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی

①..... بغوی، طہ، تحت الآية: ۱۰۰، ۱۹۴/۳۔

②..... حازن، طہ، تحت الآية: ۱۰۱، ۲۶۳/۳۔

آنکھیں نیلی ہوں گی۔ وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے کہ تم دنیا میں صرف دس رات رہے ہو۔

﴿يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ﴾: جس دن صور میں پھونکا جائے گا۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ﴾، آپ اپنی قوم کو وہ دن یاد دلائیں جس دن لوگوں کو محشر میں حاضر کرنے کے لئے دوسری بار صور میں پھونکا جائے گا اور ہم اس دن کافروں کو اس حال میں اٹھائیں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی اور منہ کالے ہوں گے۔^(۱)

﴿يَتَخَفَتُونَ بَيْنَهُمْ﴾: وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کریں گے۔ ﴿آخرت کی ہولناکیاں اور وہاں کی خوفناک منازل دیکھ کر کفار کو دنیوی زندگی کی مدت بہت قلیل معلوم ہوگی اور وہ آپس میں آہستہ آہستہ باتیں کرتے ہوئے کہیں گے کہ ہم تو دنیا میں زیادہ عرصہ نہیں رہے بلکہ دس راتیں رہے ہیں۔^(۲)

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَقُولُونَ إِذْ يَقُولُ أَمْثَلُهُمْ طَرِيقَةً إِنْ لَبِثْتُمْ إِلَّا يَوْمًا ع

ترجمہ کنزالایمان: ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: ہم خوب جانتے ہیں جو وہ کہیں گے جب ان میں سب سے بہتر رائے والا کہے گا کہ تم صرف ایک ہی دن رہے تھے۔

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ﴾: ہم خوب جانتے ہیں۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ کفار دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے آپس میں جو آہستہ آہستہ باتیں کریں گے اسے ہم خوب جانتے ہیں۔ کچھ لوگ تو دس راتیں رہنے کا کہیں گے جبکہ ان میں سب سے بہتر رائے والا قیامت کی ہولناکیاں دیکھ کر کہے گا کہ تم تو صرف ایک ہی دن دنیا میں رہے تھے۔ بعض مفسرین کے نزدیک کفار کو دنیا میں ٹھہرنے کی مدت بہت کم معلوم ہوگی جیسا کہ اوپر ذکر ہوا، جبکہ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ وہ اس دن کی سختیاں دیکھ کر اپنے دنیا میں رہنے کی مقدار ہی بھول جائیں گے۔^(۳)

①..... روح البیان، طہ، تحت الآية: ۱۰۲، ۴۲۵/۵، حازن، طہ، تحت الآية: ۱۰۲، ۲۶۳/۳، ملقطاً.

②..... تفسیر کبیر، طہ، تحت الآية: ۱۰۳، ۹۸/۸.

③..... حازن، طہ، تحت الآية: ۱۰۴، ۲۶۳/۳.

وقت ایک قیمتی جوہر ہے اسے ضائع نہ کریں

یہاں یہ بات یاد رہے کہ وقت ایک نفیس نقدی اور لطیف جوہر ہے، اسے کسی حقیر اور فانی چیز کو پانے کے لئے خرچ نہ کیا جائے بلکہ اس سے وہ چیز حاصل کرنے کی کوشش کی جائے جو انتہائی اعلیٰ اور ہمیشہ رہنے والی ہے، لہذا ہر عقلمند آدمی کو چاہئے کہ وہ اپنے وقت کو صرف دُنیوی زندگی کو پر سکون بنانے، اس کی لذتوں اور رنگینیوں سے لطف اندوز ہونے اور اس کے عیش و عشرت کے حصول میں صرف کر کے اسے ضائع نہ کرے بلکہ اپنی آخرت بہتر سے بہتر بنانے میں اپنا کامل وقت استعمال کرے کیونکہ دنیا کسی کا مستقل ٹھکانہ نہیں اور دنیا کا عیش بہت تھوڑا اور اس کا خطرہ بہت بڑا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کی قدر انتہائی کم ہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں اس لئے دنیا کے دھوکے میں مبتلا ہو کر اپنی اُخروی زندگی کو عذاب میں ڈال دینا سمجھدار کے شایانِ شان نہیں۔

دنیا کے بارے میں امام محمد غزالی دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: جو شخص دنیا کے دھوکے میں آتا ہے اس کا ٹھکانہ ذلت ہے اور جو آدمی اس کے ذریعے تکبر کرتا ہے اس کی منزل کفِ افسوس ملنا ہے۔ دنیا کا کام طلب کرنے والوں سے بھاگنا اور بھاگنے والوں کو تلاش کرنا ہے۔ جو دنیا کی خدمت کرتا ہے تو یہ اس سے چلی جاتی ہے اور جو اس سے منہ پھیرتا ہے یہ اس کے پاس آتی ہے۔ دنیا صاف بھی ہو تو آلودگیوں کے شائبے سے خالی نہیں ہوتی اور اگر یہ سُور بھی پہنچائے تو وہ پریشانیوں سے خالی نہیں ہوتا۔ دنیا کی سلامتی اپنے پیچھے بیماری لاتی ہے اور اس کی جوانی بڑھاپے کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کی نعمتیں حسرت اور ندامت کے سوا کچھ نہیں دیتیں تو یہ دنیا دھوکے باز، مکار، اڑنے والی اور بھاگنے والی ہے اور اپنے چاہنے والوں کے لیے ہمیشہ بن سنور کر رہتی ہے، یہاں تک کہ جب وہ اس کے دوست بن جاتے ہیں تو یہ ان پر دانت نکالتی (یعنی ان کی بے بسی پر ہنستی یا انہیں دھمکاتی) ہے۔ دنیا اپنے اسباب کے مقامات بکھیر دیتی ہے اور اپنے تعجب کے خزانے ان دوستوں کے لیے کھول دیتی ہے، پھر انہیں اپنے زہر سے ہلاکت کا مزہ چکھاتی اور اپنے تیروں سے زخمی کرتی ہے۔ جب دنیا دار خوشی کی حالت میں ہوتے ہیں تو یہ اچانک ان سے منہ پھیر لیتی ہے اور یوں لگتا ہے گویا وہ پریشان خواب تھے، پھر ان پر حملہ آور ہو کر انہیں کفن میں چھپا کر مٹی کے نیچے رکھ دیتی ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک پوری دنیا کا مالک بھی بن جائے تو یہ اسے یوں کاٹ کر رکھ دیتی ہے کہ گویا کل اس کا وجود ہی نہ تھا۔ دنیا کو چاہنے والے خوشی کی تمنا کرتے

ہیں اور یہ ان کو دھوکے کا وعدہ دیتی ہے حتیٰ کہ وہ بہت زیادہ امید رکھتے ہیں اور محلات بناتے ہیں اور پھر ان کے محلات قبروں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ ان کی جماعت ہلاک ہو جاتی ہے ان کی کوشش بکھرا ہوا غبار بن جاتی ہے اور ان کی دعا تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔^(۱)

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا ۖ فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا ۖ لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا ۗ

ترجمہ کنزالایمان: اور تم سے پہاڑوں کو پوچھتے ہیں تم فرماؤ! انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ تو زمین کو پٹ پر ہموار کر چھوڑے گا۔ کہ تو اس میں نیچا اونچا کچھ نہ دیکھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ تم فرماؤ! انہیں میرا رب ریزہ ریزہ کر کے اڑا دے گا۔ تو زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا چھوڑے گا۔ تو اس میں کوئی ناہمواری دیکھے گا اور نہ اونچائی۔

﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ﴾ اور آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا کہ قبیلہ ثقیف کے ایک آدمی نے رسول کریم صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے دریافت کیا کہ قیامت کے دن پہاڑوں کا کیا حال ہوگا؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ سے پہاڑوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں۔ آپ ان سے فرمادیں کہ انہیں میرا رب عَزَّ وَجَلَّ ریت کے ذروں کی طرح ریزہ ریزہ کر دے گا پھر انہیں ہواؤں کے ذریعے اڑا دے گا اور پہاڑوں کے مقامات کی زمین کو ہموار چٹیل میدان بنا چھوڑے گا اور زمین اس طرح ہموار کر دی جائے گی کہ تو اس میں کوئی پستی اور اونچائی نہ دیکھے گا۔^(۲)

①..... احیاء علوم الدین، کتاب ذم الدنیا، ۲۴۸/۳۔

②..... خازن، طہ، تحت الآیة: ۱۰۵-۱۰۷، ۲۶۳/۳-۲۶۴، جلالین، طہ، تحت الآیة: ۱۰۵-۱۰۷، ص ۲۶۷، ملقطاً۔

يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ

فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا ﴿۱۰۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: اس دن پکارنے والے کے پیچھے دوڑیں گے اس میں کجی نہ ہوگی اور سب آوازیں رحمن کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو تو نہ سنے گا مگر بہت آہستہ آواز۔

ترجمہ کنزالعرفان: اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے (لوگوں کی طرف سے) اس داعی کے لئے ادھر ادھر ہونا نہ ہوگا اور سب آوازیں رحمن کے حضور پست ہو کر رہ جائیں گی تو تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔

﴿يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ﴾ اس دن پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ جس دن پہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اڑا دیئے جائیں گے اس دن لوگ قبروں سے نکلنے کے بعد پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے جو انہیں قیامت کے دن موقف کی طرف بلائے گا اور ندا کرے گا: رحمن عَزَّوَجَلَّ کے حضور پیش ہونے کے لئے چلو، اور یہ پکارنے والے حضرت اسرائیل عَلَيْهِ السَّلَام ہوں گے۔ لوگ اس بات پر قادر نہ ہوں گے کہ وہ دائیں بائیں مڑ جائیں اور اس کے پیچھے نہ چلیں بلکہ وہ سب تیزی سے پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے اور اس دن سب آوازیں رحمن کے حضور ہیبت و جلال کی وجہ سے پست ہو کر رہ جائیں گی اور حال یہ ہوگا کہ تو ہلکی سی آواز کے سوا کچھ نہ سنے گا۔ اس کی کیفیت کے بارے حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا ”وہ ہلکی سی آواز ایسی ہوگی کہ اس میں صرف لبوں کی جنبش ہوگی۔“ (۱)

يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ قَوْلًا ﴿۱۰۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی مگر اس کی جسے رحمن نے اذن دے دیا ہے اور اس کی بات

①..... روح البیان، طہ، تحت الآية: ۱۰۸، ۴۲۸/۵، خازن، طہ، تحت الآية: ۱۰۸، ۲۶۴/۳، جلالین، طہ، تحت الآية: ۱۰۸، ص ۲۶۷، ملقطاً.

پسند فرمائی۔

ترجمہ کنز العرفان: اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی سوائے اس کے جسے رحمن نے اجازت دیدی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔

﴿يَوْمَئِذٍ لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ﴾: اس دن کسی کی شفاعت کام نہ دے گی۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن یہ ہولناک امور واقع ہوں گے اس دن شفاعت کرنے والوں میں سے کسی کی شفاعت کام نہ دے گی البتہ اس کی شفاعت کام دے گی جسے اللہ تعالیٰ نے شفاعت کرنے کی اجازت دیدی ہو اور اس کی بات پسند فرمائی ہو۔^(۱)

اہل ایمان کی شفاعت کی دلیل

علامہ علی بن محمد خازن رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے قیامت کے دن مومن کے علاوہ کسی اور کی شفاعت نہ ہوگی اور کہا گیا ہے کہ شفاعت کرنے والے کا درجہ بہت عظیم ہے اور یہ اسے ہی حاصل ہو گا جسے اللہ تعالیٰ اجازت عطا فرمائے گا اور وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ ہوگا۔^(۲)

شفاعت سے متعلق 6 احادیث

یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے مقبول بندوں کو گناہگار مسلمانوں کی شفاعت کرنے کی اجازت عطا فرمائے گا اور یہ مقرب بندے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت سے گناہگاروں کی شفاعت کریں گے، اس مناسبت سے یہاں شفاعت سے متعلق 6 احادیث ملاحظہ ہوں

(۱)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”میں قیامت کے دن حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی اولاد کا سردار ہوں گا، سب سے پہلے میری قبر کھلے گی، سب سے پہلے میں شفاعت کروں گا اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی۔“^(۳)

(۲)..... حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، چند صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نبی اکرم صَلَّى

①..... روح البیان، طہ، تحت الآية: ۱۰۹، ۴۲۹/۵.

②..... خازن، طہ، تحت الآية: ۱۰۹، ۲۶۴/۳.

③..... مسلم، کتاب الفضائل، باب تفضیل نبینا صلی اللہ علیہ وسلم علی جمیع الخلائق، ص ۱۲۴۹، الحدیث: ۳ (۲۲۷۸).

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ تشریف لے آئے، جب قریب پہنچے تو صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کو کچھ گفتگو کرتے ہوئے سنا۔ ان میں سے بعض نے کہا: تعجب کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو اپنا خلیل بنایا، دوسرے نے کہا: یہ حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے اللہ تعالیٰ کے ہم کلام ہونے سے زیادہ تعجب خیز تو نہیں۔ ایک نے کہا حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اللہ تعالیٰ کا کلمہ اور روح ہیں۔ کسی نے کہا: حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا، حضور پر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ ان کے پاس تشریف لائے، سلام کیا اور فرمایا ”میں نے تمہاری گفتگو اور تمہارا تعجب کرنا سنا کہ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام خلیل اللہ ہیں، بیشک وہ ایسے ہی ہیں، حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام فَجِي اللہ ہیں، بے شک وہ اسی طرح ہیں، حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں، واقعی وہ اسی طرح ہیں۔ حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو اللہ تعالیٰ نے چن لیا وہ بھی یقیناً ایسے ہی ہیں۔ سن لو! میں اللہ تعالیٰ کا حبیب ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ میں قیامت کے دن حمد کا جھنڈا اٹھانے والا ہوں اور کوئی فخر نہیں۔ قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت کرنے والا بھی میں ہی ہوں اور سب سے پہلے میری ہی شفاعت قبول کی جائے گی اور کوئی فخر نہیں۔ سب سے پہلے جنت کا گنڈا اکٹھا کرنے والا بھی میں ہی ہوں، اللہ تعالیٰ میرے لئے اسے کھولے گا اور مجھے داخل کرے گا، میرے ساتھ فقیر مومن ہوں گے اور کوئی فخر نہیں۔ میں اولین و آخرین میں سب سے زیادہ مکرّم ہوں لیکن کوئی فخر نہیں۔^(۱)

(3)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”ہر نبی کی ایک دعا قبول ہوتی ہے، پس ہر نبی نے وہ دعا جلد مانگ لی اور میں نے اس دعا کو قیامت کے دن اپنی امت کی شفاعت کے لیے بچا کر رکھا ہوا ہے اور یہ ان شاء اللہ عَزَّ وَجَلَّ میری امت میں سے ہر شخص کو حاصل ہوگی جو اس حال میں مرا کہ اس نے اللہ عَزَّ وَجَلَّ کے ساتھ شرک نہ کیا ہو۔^(۲)

(4)..... حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَاللَّهُ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”میری شفاعت میری امت کے ان لوگوں کے لئے ہوگی جن سے کبیرہ گناہ سرزد ہوئے ہوں گے۔^(۳)

①..... ترمذی، کتاب المناقب، باب ما جاء في فضل النبي صلى الله عليه وسلم، ۳۵۴/۵، الحديث: ۳۶۳۶.

②..... مسلم، کتاب الايمان، باب اختباء النبي صلى الله عليه وسلم دعوة الشفاعة لامته، ص ۱۲۹، الحديث: ۳۳۸ (۱۹۹).

③..... سنن ابوداؤد، کتاب السنة، باب في الشفاعة، ۳۱۱/۴، الحديث: ۴۷۳۹.

- (5)..... حضرت عثمان بن عفان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”قیامت کے دن تین لوگ شفاعت کریں گے۔ (1) انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ۔ (2) پھر علماء۔ (3) پھر شہداء۔ (1)
- (6)..... حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”قیامت کے دن لوگ صفیں باندھے ہوئے ہوں گے، (اتنے میں) ایک دوزخی ایک جنتی کے پاس سے گزرے گا اور اس سے کہے گا: کیا آپ کو یاد نہیں کہ آپ نے ایک دن مجھ سے پانی مانگا تو میں نے آپ کو پلا دیا تھا؟ اتنی سی بات پر وہ جنتی اس دوزخی کی شفاعت کرے گا۔ ایک جہنمی کسی دوسرے جنتی کے پاس سے گزرے گا تو کہے گا: کیا آپ کو یاد نہیں کہ ایک دن میں نے آپ کو وضو کیلئے پانی دیا تھا؟ اتنے ہی پر وہ اس کا شفیق ہو جائے گا۔ ایک کہے گا: آپ کو یاد نہیں کہ فلاں دن آپ نے مجھے فلاں کام کو بھیجا تو میں چلا گیا تھا؟ اسی قدر پر یہ اس کی شفاعت کرے گا۔ (2)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا ۱۱۰

ترجمہ کنزالایمان: وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے اور ان کا علم اسے نہیں گھیر سکتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے اور لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا۔

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾: وہ جانتا ہے جو کچھ ان لوگوں کے آگے ہے۔ ﴿يَعْنِي اللهُ تَعَالَى كَالْعِلْمِ بِنَدْوَى كِي ذَاتِ وَصْفَاتِ﴾، ان کے گزشتہ اور آئندہ کے تمام احوال اور دنیا و آخرت کے جملہ امور کا احاطہ کئے ہوئے ہے۔

﴿وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا﴾: اور لوگوں کا علم اسے نہیں گھیر سکتا۔ ﴿يَعْنِي پُورِي كَانَاتِ كَالْعِلْمِ اللهُ تَعَالَى كِي ذَاتِ كَا حَاطِهٖ نِهِيَسْ كِر سَكْتَا﴾، اس کی ذات کا ادراک کائنات کے علوم کی رسائی سے برتر ہے، وہ اپنے اَسْمَاءِ وَصْفَاتِ، آثارِ قَدْرَتِ اور حَكْمَتِ كِي صُورَتُوں سے پہچانا جاتا ہے۔ فارسی کا ایک شعر ہے:

كجا دريابد او را عقل چالاك
كه اوبالا تر است از حد ادراك

1..... ابن ماجه، كتاب الزهد، باب ذكر الشفاعة، ۵۲۶/۴، الحديث: ۴۳۱۳.

2..... ابن ماجه، كتاب الادب، باب فضل صدقة الماء، ۱۹۶/۴، الحديث: ۳۶۸۵.

نظر کن اندر اسماء و صفاتش کہ واقف نیست کس از کنہ ذاتش
یعنی تیز عقل اس کی ذات کا ادراک کس طرح کر سکتی ہے کیونکہ وہ تو فہم و ادراک کی حد سے ہی بالاتر ہے، لہذا تم
اس کے اسماء و صفات میں غور و فکر کرو کہ اس کی ذات کی حقیقت سے کوئی واقف ہی نہیں۔

بعض مفسرین نے اس آیت کے معنی یہ بیان کئے ہیں کہ مخلوق کے علوم اللہ تعالیٰ کی معلومات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔^(۱)

وَعَنْتِ الْوُجُوهُ لِذِي الْقَيْوَمِ ۖ وَقَدْحَابٍ مَنْ حَصَلَ ظُلْمًا ۝۱۱۱

ترجمہ کنزالایمان: اور سب منہ جھک جائیں گے اس زندہ قائم رکھنے والے کے حضور اور بیشک نامراد رہا جس نے ظلم کا بوجھ لیا۔

ترجمہ کنزاعرفان: اور تمام چہرے اُس کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور بیشک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔

﴿وَعَنْتِ الْوُجُوهُ﴾ اور تمام چہرے جھک جائیں گے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ حشر کے دن تمام چہرے اس خدا کے حضور جھک جائیں گے جو خود زندہ، دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے اور ہر ایک شانِ عجز و نیاز کے ساتھ حاضر ہوگا، کسی میں سرکشی نہ رہے گی اور اللہ تعالیٰ کے قہر و حکومت کا کامل ظہور ہوگا اور بیشک وہ شخص ناکام رہا جس نے ظلم کا بوجھ اٹھایا۔ یہاں ظلم سے مراد شرک ہے اور بے شک شرک شدیدترین ظلم ہے اور جو اس ظلم کے بوجھ تلے دبے ہوئے موقوفِ قیامت میں آئے گا تو اس سے بڑھ کر نامراد کون ہے۔^(۲)

وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخْفُ ظُلْمًا وَلَا هَضْبًا ۝۱۱۲

ترجمہ کنزالایمان: اور جو کچھ نیک کام کرے اور ہو مسلمان تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا نہ نقصان کا۔

①..... روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۱۱۰، ۴۳۰/۵، ابو سعود، طہ، تحت الآیة: ۱۱۰، ۴۹۲/۳، ملنقطاً.

②..... سخا، طہ، تحت الآیة: ۱۱۱، ۲۶۴/۳، مدارک، طہ، تحت الآیة: ۱۱۱، ص ۷۰۳-۷۰۴، ملنقطاً.

ترجمہ کنزالعرفان: اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے نہ زیادتی کا خوف ہوگا اور نہ کمی کا۔

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ﴾ اور جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ جو کوئی اسلام کی حالت میں کچھ نیک اعمال کرے تو اسے اس بات کا خوف نہ ہوگا کہ وعدے کے مطابق وہ جس ثواب کا مستحق تھا وہ اسے نہ دے کر اس کے ساتھ زیادتی کی جائے گی اور نہ ہی اسے کم ثواب دیئے جانے کا اندیشہ ہوگا۔^(۱)

نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ طاعت اور نیک اعمال سب کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے کہ ایمان ہو تو سب نیکیاں کارآمد ہیں اور ایمان نہ ہو تو یہ سب عمل بے کار، ہاں ایمان لانے کے بعد کفر کے زمانے کی نیکیاں بھی قبول ہو جاتی ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں ہے۔

نیک اعمال اور لوگوں کا حال

علامہ اسماعیل حقی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ نیک اعمال میں مشغول رہے اور گناہوں سے رک جائے کیونکہ قیامت کے دن ہر شخص اپنے اعمال کے درخت کا پھل پائے گا اور جیسے اس کے اعمال ہوں گے ویسے انجام تک وہ پہنچ جائے گا اور نیک اعمال میں سب سے افضل فرائض کو ادا کرنا اور حرام و ممنوع کاموں سے بچنا ہے۔ (اسی سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ) ایک مرتبہ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے حضرت ابو حازم رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ سے عرض کی: مجھے نصیحت کیجئے۔ آپ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے فرمایا ”تم اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی پاکی بیان کرتے رہو اور اس بات کو بہت بڑا جانو کہ تمہارا رب عَزَّوَجَلَّ تمہیں وہاں دیکھے جہاں اس نے تمہیں منع کیا ہے اور وہاں تجھے موجود نہ پائے جہاں موجود ہونے کا اس نے تمہیں حکم دیا ہے۔

اور نیک اعمال کے سلسلے میں لوگوں کی ایک تعداد کا یہ حال ہے کہ وہ نقلی کاموں میں تو بہت جلدی کرتے ہیں، لمبے لمبے اور کثیر اور ادو وظائف پابندی سے پڑھتے ہیں، مشکل اور بھاری نقلی کام کرنے میں رغبت رکھتے ہیں جبکہ وہ کام جنہیں کرنا ان پر فرض و واجب ہے ان میں سستی سے کام لیتے ہیں اور انہیں صحیح طریقے سے ادا بھی نہیں کرتے۔

①.....روح البیان، طہ، تحت الآية: ۱۱۲، ۴۳۱/۵.

ایک بزرگ فرماتے ہیں: نفسانی خواہش کی پیروی کی ایک علامت یہ ہے کہ بندہ نفلی نیک کام کرنے میں تو بہت جلدی کرے اور واجبات کے حقوق ادا کرنے میں سستی سے کام لے۔

حضرت ابو محمد مرتضیٰ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں نے کئی حج ننگے پاؤں اور پیدل سفر کر کے کئے۔ ایک دن رات کے وقت میری والدہ نے مجھ سے کہا کہ ہاجرہ کو پانی پلا دو، تو مجھے یہ کام بہت بھاری لگا، اس سے میں نے جان لیا کہ پیدل حج کرنے پر میں نے اپنے نفس کی جو بات مانی اس میں میرے نفس کی لذت کا عمل دخل تھا کیونکہ اگر میرا نفس ختم ہو چکا ہوتا تو (والدہ کی اطاعت کا) وہ کام مجھے بھاری محسوس نہ ہوتا جو شریعت کا حق تھا۔^(۱)

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيدِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذِكْرًا ۝۱۱۳

ترجمہ کنزالایمان: اور یونہی ہم نے اسے عربی قرآن اتارا اور اس میں طرح طرح سے عذاب کے وعدے دیئے کہ کہیں انہیں ڈر ہو یا ان کے دل میں کچھ سوچ پیدا کرے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور یونہی ہم نے اسے عربی قرآن نازل فرمایا اور اس میں مختلف انداز سے عذاب کی وعیدیں بیان کیں تاکہ لوگ ڈریں یا قرآن ان کے دل میں کچھ غور و فکر پیدا کرے۔

﴿وَكَذَلِكَ﴾ اور یونہی۔ ﴿اس آیت میں قرآن مجید کی دو صفات بیان کی گئیں (۱) قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا گیا، تاکہ اہل عرب اسے سمجھ سکیں اور وہ اس بات سے واقف ہو جائیں کہ قرآن پاک کی نظم عاجز کر دینے والی ہے اور یہ کسی انسان کا کلام نہیں۔ (۲) قرآن مجید میں مختلف انداز سے فرائض چھوڑنے اور ممنوعات کا ارتکاب کرنے پر عذاب کی وعیدیں بیان کی گئیں تاکہ لوگ ڈریں اور قرآن عظیم ان کے دل میں کچھ نصیحت اور غور و فکر پیدا کرے جس سے انہیں نیکیوں کی رغبت اور بدیوں سے نفرت ہو اور وہ عبرت و نصیحت حاصل کریں۔^(۲)

①..... روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۱۱۲، ۴۳۱/۵، ملخصاً.

②..... تفسیر کبیر، طہ، تحت الآیة: ۱۱۳، ۱۰۳/۸، حازن، طہ، تحت الآیة: ۱۱۳، ۲۶۴-۲۶۵، ملقطاً.

فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴿۱۱۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو سب سے بلند ہے اللہ سچا بادشاہ اور قرآن میں جلدی نہ کرو جب تک اس کی وحی تمہیں پوری نہ ہو لے اور عرض کرو کہ اے میرے رب مجھے علم زیادہ دے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے اور آپ کی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن میں جلدی نہ کرو اور عرض کرو: اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔

﴿فَتَعَلَىٰ اللَّهُ الْمَلِكُ الْحَقُّ﴾: تو وہ اللہ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ ہے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ بہت بلند ہے جو سچا بادشاہ اور اصل مالک ہے اور تمام بادشاہ اس کے محتاج ہیں اور اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ اپنی طرف قرآن کی وحی کے ختم ہونے سے پہلے قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَام قرآن کریم لے کر نازل ہوتے تھے تو سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ان کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور جلدی کرتے تھے تا کہ خوب یاد ہو جائے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ یاد کرنے کی مشقت نہ اٹھائیں۔ سورہ قیامہ میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جمع کرنے اور اسے آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی زبان مبارک پر جاری کرنے کا خود ذمہ لے کر آپ کی اور زیادہ تسلی فرمادی۔

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾: اور عرض کرو: اے میرے رب! میرے علم میں اضافہ فرما۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو علم میں اضافے کی دعا مانگنے کی تعلیم دی، اس سے معلوم ہوا کہ علم سے کبھی سیر نہیں ہونا چاہیے بلکہ مزید علم کی طلب میں رہنا چاہئے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ علم کی حرص اچھی چیز ہے، جیسے نبی اکرم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تمام مخلوق میں سب سے بڑے عالم ہیں مگر انہیں حکم دیا گیا کہ زیادتی علم کی دعا مانگو۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا علم ہمیشہ ترقی میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا خَيْرَ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ (۱)

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک تمہارے لئے ہر پچھلی گھڑی پہلی سے بہتر ہے۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ فَتَسَىٰ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا ۝۱۱۵

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے آدم کو اس سے پہلے ایک تاکید کی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی حکم دیا تھا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس کا کوئی مضبوط ارادہ نہ پایا تھا۔

﴿وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِنْ قَبْلِ﴾ اور بیشک ہم نے آدم کو اس سے پہلے تاکید کی حکم دیا تھا۔ ﴿اس سے پہلے سورہ بقرہ، سورہ اعراف، سورہ حجر، سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف میں مختلف حکمتوں کی وجہ سے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور ابلیس کا واقعہ بیان ہوا اور اب یہاں سے چھٹی بار ان کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور اسے ذکر کرنے میں یہ حکمت بھی ہو سکتی ہے کہ لوگوں کو معلوم ہو جائے شیطان انسانوں کا بڑا پرانا دشمن ہے اس لئے ہر انسان کو چاہئے کہ وہ شیطان کی فریب کاریوں سے ہوشیار رہے اور اس کے وسوسوں سے بچنے کی تدابیر اختیار کرے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو اس زمانے سے پہلے تاکید کی حکم دیا تھا کہ وہ ممنوعہ درخت کے پاس نہ جائیں لیکن یہ حکم انہیں یاد نہ رہا اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ممنوعہ درخت کے پاس چلے گئے البتہ اس جانے میں ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔

آیت ”وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ“ سے معلوم ہونے والے عقائد و مسائل

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہوتی ہیں:

(۱)..... حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے جان بوجھ کر ممنوعہ درخت سے نہیں کھایا بلکہ اس کی وجہ اللہ تعالیٰ کا حکم یاد نہ رہنا تھا اور جو کام سہواً ہو وہ نہ گناہ ہوتا ہے اور نہ ہی اس پر کوئی مؤاخذہ ہوتا ہے۔

①..... والضحیٰ: ۴.

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”قرآن عظیم کے عُرف میں اِطلاقِ معصیتِ عمد (یعنی جان بوجھ کر کرنے) ہی سے خاص نہیں، قال اللہ تعالیٰ ”وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ“^(۱) آدم نے اپنے رب کی معصیت کی۔ حالانکہ خود فرماتا ہے ”فَنَسِيۡ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا“ آدم بھول گیا ہم نے اس کا قصد نہ پایا۔ لیکن سہونہ گناہ ہے نہ اس پر مؤاخذہ۔^(۲)

اسی آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ یہ آیت مبارکہ حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کی عصمت کو بڑے واضح طور پر بیان کرتی ہے کیونکہ خود اللہ تعالیٰ نے فرمادیا کہ آدم عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ بھول گئے تھے اور ان کا نافرمانی کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔

(۲)..... ہم جیسوں کے لئے بھول چوک معاف ہے مگر انبیاء کرام عَلَيْهِم الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ پر ان کی عظمت و شان کی وجہ سے اس بنا پر بھی بعض اوقات پُرشش ہو جاتی ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”جتنا قرب زائد اسی قدر احکام کی شدت زیادہ۔ ع

جن کے رتبے ہیں سوا ان کو سوا مشکل ہے۔

بادشاہِ جبّار، جلیل القدر ایک جنگلی گنوار کی جو بات سن لے گا (اور اس کے ساتھ) جو برتاؤ گوارا کرے گا (وہ) ہرگز شہریوں سے پسند نہ کرے گا (اور) شہریوں میں بازار یوں سے معاملہ آسان ہوگا اور خاص لوگوں سے سخت اور خاصوں میں درباریوں اور درباریوں میں وزراء، (الغرض) ہر ایک پر بار دوسرے سے زائد ہے، اس لیے وارد ہوا ”حَسَنَاتُ الْاَبْرَارِ سَيِّئَاتُ الْمُقْرَبِينَ“ نیکوں کے جو نیک کام ہیں مقربوں کے حق میں گناہ ہیں۔ وہاں ترکِ اولیٰ کو بھی گناہ سے تعبیر کیا جاتا ہے حالانکہ ترکِ اولیٰ ہرگز گناہ نہیں۔^(۳)

(۳)..... ہر شخص شیطان سے ہوشیار رہے کہ حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ معصوم تھے اور جنت محفوظ جگہ تھی پھر بھی ابلیس نے اپنا کام کر دکھایا، تو ہم لوگ کس شمار میں ہیں۔

①..... طہ: ۱۲۱۔

②..... فتاویٰ رضویہ، ۲۹/۲۰۰۔

③..... فتاویٰ رضویہ، ۲۹/۲۰۰۔

وَأَذُقْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ۝۱۱۶

ترجمہ کنزالایمان: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب سجدے میں گرے مگر ابلیس اس نے نہ مانا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے سوا سب سجدے میں گر گئے، اس نے انکار کر دیا۔

﴿وَأَذُقْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾: اور جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، وہ وقت یاد کریں جب ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ حضرت آدم عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کو سجدہ کرو تو فرشتوں کے ساتھ رہنے والے ابلیس کے سوا سب فرشتے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے سجدے میں گر گئے اور ابلیس نے یہ کہہ کر حضرت آدم عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں حضرت آدم عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام سے بہتر ہوں۔ (1)

تعظیم کے طور پر غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام اور اس سے بچنا فرض ہے

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں ”سجدہ تحیت، اگلی شریعتوں میں جائز تھا۔ ملائکہ نے بحکم الہی حضرت سیدنا آدم عَلَیْہِ الصَّلَام کو سجدہ کیا۔ حضرت سیدنا یعقوب عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام اور ان کی زوجہ مقدسہ اور ان کے گیارہ صاحبزادوں نے حضرت یوسف عَلَیْہِ الصَّلَام کو سجدہ کیا۔۔۔۔۔ ہاں ہماری شریعتِ مطہرہ نے غیر خدا کے لئے سجدہ تحیت حرام کیا ہے اس سے بچنا فرض ہے۔ (2)

فَقُلْنَا يَا آدَمُ إِنَّ هَذَا عَدُوٌّ لَّكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُخْرِجَنَّكَ مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَى ۝۱۱۷ إِنَّ لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَى ۝۱۱۸ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا

1..... روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۱۱۶، ۱۱۷/۵-۴۳۴-۴۳۵، جلالین، طہ، تحت الآیة: ۱۱۶، ۱۱۷، ص ۲۶۸، ملقطاً.

2..... فتاویٰ رضویہ، ۲۲/۴۱۷-۴۱۸۔

وَلَا تَصْحٰی ۱۱۹

ترجمہ کنزالایمان: تو ہم نے فرمایا اے آدم بیشک یہ تیرا اور تیری بی بی کا دشمن ہے تو ایسا نہ ہو کہ وہ تم دونوں کو جنت سے نکال دے پھر تو مشقت میں پڑے۔ بیشک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہو نہ ننگا ہو۔ اور یہ کہ تجھے نہ اس میں پیاس لگے نہ دھوپ۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو ہم نے فرمایا، اے آدم! بیشک یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نہ نکال دے ورنہ تو مشقت میں پڑ جائے گا۔ بیشک تیرے لیے جنت میں یہ ہے کہ نہ تو بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا ہوگا۔ اور یہ کہ نہ کبھی تو اس میں پیاسا ہوگا اور نہ تجھے دھوپ لگے گی۔

﴿فَقُلْنَا يَا آدَمُ: تَوَهَّمْنَا بِكَ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ابلیس کے انکار کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام سے فرمایا ”اے آدم! عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام، بیشک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، تو یہ ہرگز تم دونوں کو جنت سے نکال دیئے جانے کا سبب نہ بن جائے ورنہ تم مشقت میں پڑ جاؤ گے اور اپنی غذا اور خوراک کے لئے زمین جو تھے، کھیتی کرنے، دانہ نکالنے، پینے، پکانے کی محنت میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ بیشک تیرے لیے یہ ہے کہ تو جنت میں بھوکا نہیں ہوگا کیونکہ جنت کی تمام نعمتیں ہر وقت حاضر ہوں گی اور نہ ہی تو اس میں ننگا ہوگا کیونکہ تمام ملبوسات جنت میں موجود ہوں گے، اور تیرے لئے یہ بھی ہے کہ تو جنت میں کبھی پیاسا نہ ہوگا کیونکہ اس میں ہمیشہ کے لئے نہریں جاری ہیں اور نہ تجھے جنت میں دھوپ لگے گی کیونکہ جنت میں سورج نہیں ہے اور اہل جنت ہمیشہ رہنے والے دراز سائے میں ہوں گے، الغرض ہر طرح کا عیش و راحت جنت میں موجود ہے اور اس میں محنت اور کمائی کرنے سے بالکل امن ہے (لہذا تم شیطان کے وسوسوں سے بچ کر رہنا)۔^(۱)

شیطان کی حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام سے دشمنی کی وجہ

آیت نمبر ۱۱۷ میں شیطان کا حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام کو سجدہ نہ کرنا آپ عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام کے ساتھ

1.....خازن، طہ، تحت الآیة: ۱۱۷-۱۱۹، ۲۶۵-۲۶۶، روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۱۱۷-۱۱۹، ۴۳۵/۵-۴۳۶، ملتقطاً.

اس کی دشمنی کی دلیل قرار دیا گیا ہے، یہاں اس دشمنی کی وجہ وضاحت سے بیان کی جاتی ہے۔ جب ابلیس نے حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر اللہ تعالیٰ کا انعام و اکرام دیکھا تو وہ ان سے حسد کرنے لگا اور یہ حسد اس کی دشمنی کا ایک سبب تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جسے کسی سے حسد ہو تو وہ اس کا دشمن بن جاتا ہے اور وہ اس کی ہلاکت چاہتا اور اس کا حال خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔

سورہ طہ کی آیت نمبر 117 تا 119 سے حاصل ہونے والی معلومات

ان آیات سے تین باتیں معلوم ہونیں

(1)..... فضل و شرف والے کی فضیلت کو تسلیم نہ کرنا اور اس کی تعظیم و احترام بجالانے سے اعراض کرنا حسد و عداوت کی دلیل ہے۔

(2)..... حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اسی مشہور جنت میں رکھے گئے تھے جو بعد قیامت نیکیوں کو عطا ہوگی، وہ کوئی دُنیوی باغ نہ تھا کیونکہ اس باغ میں تو دھوپ بھی ہوتی ہے اور وہاں بھوک بھی لگتی ہے۔

(3)..... جنتی نعمتوں کی بڑی اہمیت ہے، اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ ان نعمتوں کی قدر کرے اور شیطان کی پیروی کر کے ان عظیم نعمتوں سے خود کو محروم نہ کرے۔

فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَا آدَمُ هَلْ أَدُلُّكَ عَلَى شَجَرَةِ الْخُلْدِ
وَمُلْكٍ لَّا يَبُؤُا ۚ

ترجمہ کنزالایمان: تو شیطان نے اسے وسوسہ دیا بولا اے آدم کیا میں تمہیں بتا دوں ہمیشہ جینے کا پیڑ اور وہ بادشاہی کہ پرانی نہ پڑے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا، کہنے لگا: اے آدم! کیا میں تمہیں ہمیشہ رہنے کے درخت اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی۔

﴿فَوَسْوَسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ﴾: تو شیطان نے اسے وسوسہ ڈالا۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی عظمت بیان فرمائی کہ اس نے انہیں فرشتوں سے سجدہ کروایا اور اس کے بعد بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی زوجہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو شیطان کی دشمنی کی پہچان کروادی اور جنتی نعمتوں کی اہمیت بیان فرمادی اور اب اس آیت میں بیان فرمایا جا رہا ہے کہ شیطان نے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وسوسہ ڈالا اور کہنے لگا: اے آدم! علیہ الصلوٰۃ والسلام، کیا میں آپ کو ایک ایسے درخت کے بارے میں بتا دوں جسے کھا کر کھانے والے کو دائمی زندگی حاصل ہو جاتی ہے اور ایسی بادشاہت کے متعلق بتا دوں جو کبھی فنا نہ ہوگی اور اس میں زوال نہ آئے گا۔ (۱)

فَاَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهَا سَوَاتِرُهَا وَطَفِقَا يَخْصِفْنَ عَلَيْهِمَا مِنْ ذُرِّ الرَّجَّةِ
وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿۱۳۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو ان دونوں نے اس میں سے کھا لیا اب ان پر ان کی شرم کی چیزیں ظاہر ہوئیں اور جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مطلب چاہا تھا اس کی راہ نہ پائی۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور آدم سے اپنے رب کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو جو مقصد چاہا تھا وہ نہ پایا۔

﴿فَاَكَلَا مِنْهَا﴾: تو ان دونوں نے اس درخت میں سے کھا لیا۔ ﴿ابلیس کے وسوسہ دلانے کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس درخت میں سے کھا لیا تو ان کے جنتی لباس اتر گئے اور ان پر ان کی شرم کے مقام ظاہر ہو گئے اور وہ اپنا ستر چھپانے اور جسم ڈھانکنے کے لئے جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے اور درخت سے کھا کر حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے اپنے رب عزوجل کے حکم میں لغزش واقع ہوئی تو انہوں نے اس سے جو

1..... تفسیر کبیر، طہ، تحت الآیة: ۱۲۰، ۱۰۷/۸، جلالین، طہ، تحت الآیة: ۱۲۰، ص ۲۶۸، ملنقطاً.

مقصود چاہا تھا وہ نہ پایا اور اس درخت کے کھانے سے انہیں دائمی زندگی نہ ملی۔ (۱)

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت سے متعلق اہلسنت وجماعت کا عقیدہ

یاد رہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے لغزش کا واقع ہونا ارادے اور نیت سے نہ تھا بلکہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا ارادہ اور نیت حکم کو پورا کرنے اور اس چیز سے بچنے کا تھا جو جنت سے نکال دیئے جانے کا سبب بنے، لہذا کسی شخص کے لئے تاویل کے بغیر حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف نافرمانی کی نسبت کرنا جائز نہیں۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے راضی ہے اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کی مخالفت کرنے سے معصوم ہیں۔ (۲)

یہاں انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت سے متعلق اہلسنت وجماعت کے عقیدے کے بارے میں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ایک کلام کا خلاصہ ملاحظہ ہو "اہل حق یعنی اہل اسلام اور اہلسنت وجماعت شاہراہ عقیدت پر چل کر منزل مقصود کو پہنچے جبکہ سرکشی کرنے والے اور اہل باطل تفصیلات میں ڈوب کر اور ان میں ناحق غور کر کے گمراہی کے گڑھے اور بددینی کی گمراہیوں میں جا پڑے، انہوں نے کہیں دیکھا "وَعَصَىٰ آدَمَ رَبَّهُ" "فَعَوَى" کہ اس میں عصیاں اور بظاہر اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل سے روگردانی کی نسبت حضرت آدم علیہ السلام کی جانب کی گئی ہے۔ کہیں سنا "لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ" جس سے ذنب یعنی گناہ اور اس کی بخشش کی نسبت کا حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جناب والا کی جانب گمان ہوتا ہے۔ کبھی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قوم فرعون کے قبطنی کا قصہ یاد آیا کہ آپ نے قبطنی کو ظلم پر آمادہ پا کر ایک گھونسا مارا اور وہ قبطنی (مرکر) قبر کی گہرائی میں پہنچا۔ کبھی حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے ایک اُمتی اور یتاہ کا فسانہ سن پایا حالانکہ یہ حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر یہودیوں کا الزام تھا جسے انہوں نے خوب اچھالا اور عوام الناس کی زبان پر عام ہو گیا حتیٰ کہ اس کی شہرت کی بنا پر احوال کی تحقیق اور تفتیش کے بغیر بعض مفسرین نے اس واقعہ کو من وعن بیان فرما دیا، جب کہ امام رازی فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ میری تحقیق میں سراسر باطل و لغو ہے۔ غرض بے عقل، بے دینوں اور بے دین بد عقلوں نے یہ افسانہ سن پایا تو چون و چرا

①.....خازن، طہ، تحت الآیة: ۱۲۱، ۲۶۶/۳.

②.....صاوی، طہ، تحت الآیة: ۱۲۱، ۱۲۸۳/۴.

کرنے لگے، پھر خدا اور رسول کی ناراضی کے سوا اور بھی کچھ پھل پایا؟ اور اُلٹا ”**حُضْنَمُ كَالَّذِي خَاصُوا**“ (اور تم بے ہودگی میں پڑے جیسے وہ پڑے تھے) نے ”**وَلَكِنْ حَقَّتْ كَلِمَةُ الْعَذَابِ عَلَى الْكَافِرِينَ**“ (مگر عذاب کا قول کافروں پر ٹھیک اُترا) کا دن دکھایا۔

مسلمان ہمیشہ یہ بات ذہن نشین رکھیں کہ حضرات انبیائے کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کبیرہ گناہوں سے مُطْلَقاً اور گناہِ صغیرہ کے عدا ارتکاب، اور ہر ایسے امر سے جو مخلوق کے لیے باعثِ نفرت ہو اور مخلوقِ خدا ان کے باعث اُن سے دور بھاگے، نیز ایسے افعال سے جو وجاہت و مروت اور معززین کی شان و مرتبہ کے خلاف ہیں قبل نبوت اور بعد نبوت پالا جماع معصوم ہیں۔^(۱)

ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَى ۱۲۲

ترجیہ کنزالایمان: پھر اسے اس کے رب نے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمائی اور اپنے قربِ خاص کی راہ دکھائی۔

ترجیہ کنزالعرفان: پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور خصوصی قرب کا راستہ دکھایا۔

﴿ثُمَّ اجْتَبَاهُ رَبُّهُ﴾ پھر اس کے رب نے اسے چن لیا۔ ﴿فَتَابَ عَلَيْهِ﴾ زمین پر تشریف آوری کے بعد حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے توبہ و استغفار میں مشغول ہوئے اور جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے وسیلہ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما کر ان پر اپنی رحمت سے رجوع فرمایا اور انہیں اپنے خاص قرب کا راستہ دکھایا۔

قَالَ اهْبِطْ مِنْهَا جَمِيعًا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ ۚ فَمَا يَاتِيَكُمْ مِنْهُنَّ

هُدًى ۙ فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْتَبِي ۚ ۱۲۳

①..... فتاویٰ رضویہ، رسالہ: اعتقاد الاحیاب، عقیدہ خامسہ، ۳۵۹/۲۹-۳۶۰۔

ترجہ کنزالایمان: فرمایا کہ تم دونوں مل کر جنت سے اترو تم میں ایک دوسرے کا دشمن ہے پھر اگر تم سب کو میری طرف سے ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہو وہ نہ بہکے نہ بد بخت ہو۔

ترجہ کنزالعرفان: اللہ نے فرمایا: تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ تمہارے بعض بعض کے دشمن ہوں گے پھر (اے اولادِ آدم) اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ بد بخت ہوگا۔

﴿قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا﴾ فرمایا: تم دونوں اکٹھے جنت سے اتر جاؤ۔ ﴿﴾ جب حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے لغزش صادر ہوئی تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور حضرت حواء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے فرمایا: تم دونوں اپنی ذریت کے ساتھ مل کر اکٹھے جنت سے زمین کی طرف اتر جاؤ تمہاری اولاد میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے، دنیا میں ایک دوسرے سے حسد اور دین میں اختلاف کریں گے، پھر اے اولادِ آدم! اگر تمہارے پاس میری طرف سے کتاب اور رسول کی صورت میں کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا وہ دنیا میں نہ گمراہ ہوگا اور نہ آخرت میں بد بخت ہوگا کیونکہ آخرت کی بد بختی دنیا میں حق راستے سے بہکنے کا نتیجہ ہے تو جو کوئی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اس کے برحق رسول کی پیروی کرے اور ان کے حکم کے مطابق چلے وہ دنیا میں گمراہ ہونے سے اور آخرت میں اس گمراہی کے عذاب و وبال سے نجات پائے گا۔^(۱)

دنیا میں گمراہی اور آخرت میں بد بختی سے بچنے کا ذریعہ

اس سے معلوم ہوا کہ اس امت کے لوگوں کا قرآن مجید میں دیئے گئے احکامات پر عمل کرنا اور سید المرسلین صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت کرنا انہیں دنیا میں گمراہی سے بچائے گا اور آخرت میں بد بختی سے نجات دلائے گا، لہذا ہر ایک کو چاہئے کہ وہ قرآن مجید کی پیروی کرے اور حضور پر نور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اتباع کرے تاکہ وہ گمراہ اور بد بخت ہونے سے بچ جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کی پیروی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے:

①..... روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۱۲۳، ۴۴۰/۵-۴۴۱، مدارک، طہ، تحت الآیة: ۱۲۳، ص ۷۰۶، ملتقطاً.

وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ (1)

اور ارشاد فرماتا ہے

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ مَنْ
قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ بَغْتَةً وَأَنْتُمْ
لَا تَشْعُرُونَ (2)

اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرماتا ہے

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَبِيحًا
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ
إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فَأَمُوتُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ
النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِي يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَتِهِ
وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ (3)

اور ارشاد فرماتا ہے:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ
اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ (4)
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ
اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكٰفِرِينَ (4)

ترجمہ کنز العرفان: اور یہ (قرآن) وہ کتاب ہے جسے ہم نے
نازل کیا ہے، بڑی برکت والا ہے تو تم اس کی پیروی کرو اور
پرہیزگار بنو تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

ترجمہ کنز العرفان: اور تمہارے رب کی طرف سے جو بہترین
چیز تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اس کی اس وقت سے پہلے پیروی
اختیار کر لو کہ تم پر اچانک عذاب آجائے اور تمہیں خبر (بھی) نہ ہو۔

ترجمہ کنز العرفان: تم فرماؤ: اے لوگو! میں تم سب کی طرف
اللہ کا رسول ہوں جس کے لئے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت
ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے تو
ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر جو نبی ہیں، (کسی سے) پڑھے
ہوئے نہیں ہیں، اللہ اور اس کی تمام باتوں پر ایمان لاتے ہیں اور
ان کی غلامی کرو تا کہ تم ہدایت پا لو۔

ترجمہ کنز العرفان: اے حبیب! فرما دو کہ اے لوگو! اگر تم اللہ
سے محبت کرتے ہو تو میرے فرمانبردار بن جاؤ اللہ تم سے محبت
فرمائے گا اور تمہارے گناہ بخش دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان
ہے۔ تم فرما دو کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو پھر اگر وہ منہ
پھیریں تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔



3.....اعراف: ۱۵۸.

4.....ال عمران ۳۱، ۳۲.

1.....انعام: ۱۵۵.

2.....زمر: ۵۵.

اور جو لوگ قرآن عظیم کی پیروی اور رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اتباع کریں ان کے بارے میں

ارشاد فرماتا ہے:

الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ
الَّذِي يَجِدُ وَنَهْ مَكْتُوبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرَةِ
وَالْإِنْجِيلِ يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ
عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ
عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ
وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۗ فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ
وَغَرَّوْهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي
أُنزِلَ مَعَهُ ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (۱)

ترجمہ کنزالعرفان: وہ جو اس رسول کی اتباع کریں جو غیب کی
خبریں دینے والے ہیں، جو کسی سے پڑھے ہوئے نہیں ہیں، جسے
یہ (اہل کتاب) اپنے پاس تورات اور انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں،
وہ انہیں نیکی کا حکم دیتے ہیں اور انہیں برائی سے منع کرتے ہیں اور
ان کیلئے پاکیزہ چیزیں حلال فرماتے ہیں اور گندی چیزیں ان پر
حرام کرتے ہیں اور ان کے اوپر سے وہ بوجھ اور قیدیں اتارتے ہیں
جو ان پر تھیں تو وہ لوگ جو اس نبی پر ایمان لائیں اور اس کی تعظیم
کریں اور اس کی مدد کریں اور اس نور کی پیروی کریں جو اس کے
ساتھ نازل کیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔

اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کی پیروی کرنے اور اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت و فرمانبرداری

کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ أَعْمَى (۱۳۳) قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا (۱۳۵)

ترجمہ کنزالایمان: اور جس نے میری یاد سے منہ پھیرا تو بیشک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے
دن اندھا اٹھائیں گے۔ کہے گا اے رب میرے مجھے تو نے کیوں اندھا اٹھایا میں تو آنکھیاں رکھتا تھا۔

ترجیہ کنز العرفان: اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا تو بیشک اس کے لیے تنگ زندگی ہے اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ وہ کہے گا: اے میرے رب! تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دیکھنے والا تھا؟

﴿وَمَنْ أَعْرَضَ عَن ذِكْرِي﴾ اور جس نے میرے ذکر سے منہ پھیرا۔ ﴿اس آیت میں ذکر سے مراد قرآن مجید پر ایمان لانا ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد وہ دلائل ہیں جنہیں اسلام کی حقانیت کے ثبوت کے طور پر نازل کیا گیا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ذکر سے سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی مقدس ذات مراد ہو کیونکہ ذکر آپ ہی سے حاصل ہوتا ہے اور تنگ زندگی گزارنے کے مقام کے بارے میں مفسرین کے 5 اقوال درج ذیل ہیں:

(1)..... دنیا میں تنگ زندگی ہے۔ دنیا کی تنگ زندگی یہ ہے کہ بندہ ہدایت کی پیروی نہ کرے، برے عمل اور حرام فعل میں مبتلا ہو، فتاعت سے محروم ہو کر حرص میں گرفتار ہو جائے اور مال و اسباب کی کثرت کے باوجود بھی اس کو دل کی فراخی اور سکون میسر نہ ہو، دل ہر چیز کی طلب میں اور حرص کے غموں سے آوارہ ہو کہ یہ نہیں وہ نہیں، حال تاریک اور وقت خراب رہے اور توکل کرنے والے مومن کی طرح اس کو سکون و فراغ حاصل ہی نہ ہو جسے حیاتِ طیّہ یعنی پاکیزہ زندگی کہتے ہیں۔

(2)..... قبر میں تنگ زندگی ہے۔ قبر کی تنگ زندگی یہ ہے کہ قبر میں عذاب دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا ”یہ آیت اسود بن عبدالعزیٰ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی اور قبر کی تنگ زندگی سے مراد قبر کا اس سختی سے دبانا ہے جس سے ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف آ جاتی ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ”کیا تم جانتے ہو کہ معیشتِ ضنک کیا ہے؟ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نے عرض کی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہی زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”یہ قبر میں کافر کا عذاب ہے اور اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے کافر پر ننانوے تین مُسَلِّط کئے جائیں گے کیا تم جانتے ہو کہ تین کیا ہیں؟ وہ ننانوے سانپ ہیں ہر سانپ کے سات پھن ہیں وہ اس کے جسم میں پھونکیں ماریں گے اور قیامت تک اس کو ڈستے اور نوچتے رہیں گے۔“ (1)

(3)..... آخرت میں تنگ زندگی ہے۔ آخرت میں تنگ زندگی جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونا ہے، جہاں تھوہڑ، کھولتا پانی،

1..... مسند ابی یعلیٰ، مسند ابی ہریرہ، شہر بن حوشب عن ابی ہریرہ، ۵۰۸/۵، الحدیث: ۶۶۱۳۔

جہنمیوں کے خون اور ان کے پیپ کھانے پینے کو دیئے جائیں گے۔

(4)..... دین میں تنگ زندگی ہے۔ دین میں تنگ زندگی یہ ہے کہ نیکی کی راہیں تنگ ہو جائیں اور آدمی حرام کمانے میں

بتلا ہو۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ ”بندے کو تھوڑا ملے یا زیادہ، اگر خوفِ خدا نہیں تو اس

میں کچھ بھلائی نہیں اور یہ تنگ زندگی گانی ہے۔

(5)..... دنیا، قبر، آخرت اور دین سب میں تنگ زندگی ہے۔ (1)

﴿وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى﴾ اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ ﴿آیت کے اس حصے اور اس کے

بعد والی آیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم اپنے ذکر سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے اور اس وقت

وہ کہے گا: اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، تو نے مجھے اندھا کیوں اٹھایا حالانکہ میں تو دنیا میں دیکھنے والا تھا؟ یاد رہے کہ کافر قیامت

کا پورا عرصہ اندھا نہیں رہے گا بلکہ قیامت کے بعض احوال میں اس کی بینائی نہیں ہوگی اور بعض احوال میں اسے بینائی عطا

کردی جائے گی تاکہ وہ قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ سکے۔

قَالَ كَذَلِكَ أَنْتَ إِيْتَانَفْسِيهَا وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى ﴿۱۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: فرمائے گا یونہی تیرے پاس ہماری آیتیں آئی تھیں تو نے انہیں بھلا دیا اور ایسے ہی آج تیری کوئی

خبر نہ لے گا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ فرمائے گا: اسی طرح ہماری آیتیں تیرے پاس آئی تھیں تو تو نے انہیں بھلا دیا اور آج اسی طرح

تجھے چھوڑ دیا جائے گا۔

﴿قَالَ﴾: اللہ فرمائے گا۔ ﴿اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ دنیا میں تیرے پاس میری نشانیاں آئیں لیکن

تو ان پر ایمان نہ لایا اور تو نے انہیں پس پشت ڈال کر ان سے منہ پھیر لیا، اسی طرح آج ہم تجھے آگ میں ڈال کر چھوڑ دیں



1..... تفسیر قرطبی، طہ، تحت الآیة: ۱۲۴، ۱۳۹/۶، الجزء الحادی عشر، تفسیر کبیر، طہ، تحت الآیة: ۱۲۴، ۱۱۰/۸-۱۱۱،

خازن، طہ، تحت الآیة: ۱۲۴، ۲۶۸/۳، مدارك، طہ، تحت الآیة: ۱۲۴، ص ۷۰۶، ملقطاً.

گے اور تیرا حال پوچھنے والا کوئی نہ ہوگا۔^(۱)

دونوں جہاں میں گناہ اور نیکی کا نتیجہ

اس سے معلوم ہوا کہ جیسے گناہ کا عذاب دنیا و آخرت میں پڑتا ہے یونہی نیکی کا فائدہ دونوں جہان میں ملتا ہے۔ جو مسلمان پانچوں نمازیں پابندی سے جماعت کے ساتھ ادا کرے اسے رزق میں برکت، قبر میں فراخی نصیب ہوگی اور پل صراط پر آسانی سے گزرے گا اور جو جماعت کا تارک ہوگا اس کی کمائی میں برکت نہ ہوگی، چہرے پر صالحین کے آثار نہ ہوں گے، لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت ہوگی، پیاس و بھوک میں جان کنی اور قبر کی تنگی میں مبتلا ہوگا اور اس کا حساب بھی سخت ہوگا۔

وَكذٰلِكَ نَجْزِي مَنْ اَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآيٰتِ رَبِّهٖ ط وَلَعَذَابُ
الْآخِرَةِ اَشَدُّ وَاَبْقٰى ﴿۱۲۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کا عذاب سب سے سخت تر اور سب سے دیر پا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو حد سے بڑھے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کا عذاب سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

﴿وَكذٰلِكَ نَجْزِي﴾ اور ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم اس شخص کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں جو اپنے رب کی نافرمانی کرنے میں حد سے بڑھ جائے اور اپنے رب کی آیتوں پر ایمان نہ لائے اور بیشک آخرت کا عذاب دنیوی عذاب کے مقابلے میں سب سے شدید اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ لہذا جو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پانے اور اس کا ثواب حاصل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے میں آنے والی دنیوی سختیوں پر صبر کرے اور دنیا کی نفسانی خواہشات اور گناہوں سے بچتا رہے کیونکہ جنت کو مصیبتوں سے اور جہنم کو شہوتوں

1.....خازن، طہ، تحت الآية: ۱۲۶، ۲۶۸/۳.

سے چھپایا گیا ہے۔ (1)

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل عَلِيهِ السَّلَام کو بلا کر جنت کی طرف بھیجا اور ان سے فرمایا ”تم جنت اور ان نعمتوں کو دیکھو جو میں نے اہل جنت کے لئے تیار کی ہیں۔ حضرت جبرئیل عَلِيهِ السَّلَام دیکھ کر واپس آئے اور عرض کی: تیری عزت کی قسم! جو ان نعمتوں کے بارے میں سن لے گا وہ ان میں داخل ہوگا۔ جنت کو مصیبتوں سے چھپا دیا گیا، پھر ارشاد فرمایا ”تم جنت کی طرف دوبارہ جاؤ اور اسے دیکھو۔ حضرت جبرئیل عَلِيهِ السَّلَام دیکھ کر واپس لوٹے اور عرض کی: تیری عزت کی قسم! مجھے ڈر ہے کہ اس میں کوئی داخل نہ ہو سکے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرئیل عَلِيهِ السَّلَام کو جہنم کی طرف بھیجا اور ارشاد فرمایا ”تم جہنم کی طرف جاؤ اور ان عذابات کو دیکھو جو میں نے اہل جہنم کے لئے تیار کئے ہیں۔ حضرت جبرئیل عَلِيهِ السَّلَام انہیں دیکھ کر واپس آئے اور عرض کی: تیری عزت کی قسم! جس نے ان عذابات کے بارے میں سنا وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ جہنم کو شہوتوں سے ڈھانپ دیا گیا، پھر ارشاد فرمایا ”جہنم کی طرف لوٹو اور اسے دیکھو۔ حضرت جبرئیل عَلِيهِ السَّلَام دیکھ کر آئے اور عرض کی: تیری عزت کی قسم! مجھے ڈر ہے کہ اس میں داخل ہونے سے کوئی نہ بچے گا۔ (2)

أَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ كَمَا أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ يَسُؤْنَ فِي مَسْكِنِهِمْ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّأُولِي النُّهَى ۝

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا انہیں اس سے راہ نہ ملی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی سنگتیں ہلاک کر دیں کہ یہ ان کے بسنے کی جگہ چلتے پھرتے ہیں بیشک اس میں نشانیاں ہیں عقل والوں کو۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ چلتے پھرتے ہیں بیشک اس میں عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں۔

1.....روح البیان، طہ، تحت الآية: ۱۲۷، ۴۴۲/۵۔

2.....مسند امام احمد، مسند ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، ۳/۸، الحدیث: ۸۸۷۰۔

﴿ اَفَلَمْ يَهْدِ لَهُمْ : تو کیا انہیں اس بات نے ہدایت نہ دی۔ ﴿ ارشاد فرمایا کہ کیا کفار قریش کو اس بات نے ہدایت نہ دی کہ ہم نے ان سے پہلے رسولوں کو نہ ماننے والی کتنی تو میں ہلاک کر دیں جن کی رہائش کی جگہوں میں یہ لوگ چلتے پھرتے ہیں اور اپنے سفر میں ان کے علاقوں سے گزرتے اور ان کی ہلاکت کے نشان دیکھتے ہیں۔ بیشک سابقہ قوموں کو عذاب کے ذریعے ہلاک کر دینے میں ان عقل والوں کیلئے نشانیاں ہیں جو عبرت حاصل کریں اور یہ سمجھ سکیں کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب اور ان کی مخالفت کا انجام برا ہے۔ (۱)

وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَكَانَ لِزَأْمًا وَّاجِلٌ مِّسِي ط (۱۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر تمہارے رب کی ایک بات نہ گزر چکی ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا اور اگر نہ ہوتا ایک وعدہ ٹھہرایا ہوا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے (ط) نہ ہو چکی ہوتی اور ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں لپٹ جاتا۔

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ : اور اگر تمہارے رب کی طرف سے ایک بات پہلے نہ ہو چکی ہوتی۔ ﴿ ارشاد فرمایا کہ اگر تمہارے رب عزوجل کی طرف سے ایک بات پہلے ط نہ ہو چکی ہوتی کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت دعوت کے عذاب میں قیامت تک تاخیر کی جائے گی اور سابقہ امتوں کی طرح جڑ سے اکھاڑ کر رکھ دینے والا عذاب ان پر نازل نہیں کیا جائے گا اور قیامت کے دن ان کے عذاب کی ایک مقررہ مدت نہ ہوتی تو ضرور عذاب انہیں دنیا ہی میں لپٹ جاتا۔ (۲)

اس امت پر عذاب عام نہ آنے کی وجوہات

اس سے معلوم ہوا کہ تا جدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جو لوگ آپ کو جھٹلائیں گے

۱.....خازن، طہ، تحت الآیة: ۱۲۸، ۲۶۹/۳، مدارك، طہ، تحت الآیة: ۱۲۸، ص ۷۰۶، ملقطاً.

۲.....روح البیان، طہ، تحت الآیة: ۱۲۹، ۴۴۳/۵.

اور آپ پر ایمان نہ لائیں گے تو ان پر دنیا میں ویسا عذاب نہیں آئے گا جیسا کچھلی امتوں کے کفار پر نازل کیا گیا تھا کہ ان کی تمام بستیاں تباہ و برباد کر دی جائیں اور ان میں سے کوئی کافر زندہ نہ بچے، مفسرین نے اس کی چند وجوہات بھی بیان کی ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

(1)..... اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے کہ ان جھٹلانے والوں میں سے بعض کفار ایمان لے آئیں گے اس لئے ان پر ویسا عذاب نازل نہ ہوگا۔

(2)..... اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ ان جھٹلانے والوں کی نسل میں کچھ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو مسلمان ہو جائیں گے، اس لئے اگر ان پر عذاب نازل کر دیا جائے تو وہ لوگ بھی ہلاک ہو جائیں گے۔

(3)..... بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس میں کوئی مصلحت پوشیدہ ہے جو اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے۔

(4)..... اللہ تعالیٰ مالک و مولیٰ ہے جسے چاہے عذاب دے اور جسے چاہے اپنے فضل کی وجہ سے عذاب سے مستثنیٰ کر دے۔⁽¹⁾

(5)..... علامہ احمد صاوی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”بے شک اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ وہ اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اکرام کی وجہ سے ان کی امت سے عذاب عام کو مؤخر فرمادے گا اور اگر یہ بات نہ ہوتی تو اس امت پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہوتا جیسا سابقہ امتوں پر نازل ہوا تھا۔⁽²⁾

عذاب مؤخر کرنے کی ایک حکمت یہ ہے کہ جس نے (اپنے کفر و معاصی سے) توبہ کرنی ہے وہ توبہ کر لے اور جو (اپنے کفر و معاصی پر) قائم رہنا چاہتا ہے اس کی حجت ختم ہو جائے لہذا ہر عقلمند مکلف کو چاہئے کہ وہ قرآن مجید کی نصیحتوں سے نصیحت حاصل کرے اور قادر و حکیم رب تعالیٰ سے ڈرے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی بارگاہ میں سر تسلیم خم کرنے کی بھرپور کوشش کرے اور انسان ہونے، اشرف المخلوقات ہونے اور تمام مصنوعات میں سب سے بہترین ہونے کے باوجود جمادات سے بھی برانہ بنے کہ قرآن پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے پتھر بھی اپنی جگہ سے گر جاتے ہیں اور ان سے بھی پانی جاری ہوتا ہے۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ

1..... تفسیر کبیر، طہ، تحت الآیة: ۱۲۹، ۱۱۲/۸۔

2..... صاوی، طہ، تحت الآیة: ۱۲۹، ۱۲۸۶/۴۔

وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ أَنَايِ اللَّيْلِ فَسَبِّحْ وَأَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضَى ۝۱۳۰

ترجمہ کنزالایمان: تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور اپنے رب کو سراہتے ہوئے اس کی پاکی بولو سورج چمکنے سے پہلے اور اس کے ڈوبنے سے پہلے اور رات کی گھڑیوں میں اس کی پاکی بولو اور دن کے کناروں پر اس امید پر کہ تم راضی ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو ان کی باتوں پر صبر کرو اور سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اور اس کے غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو اور رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر (بھی اللہ کی) پاکی بیان کرو، اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ۔

﴿فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ﴾: تو آپ ان کی باتوں پر صبر کریں۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ﴾، آپ کو جھٹلانے والوں سے عذاب مؤخر کر کے ہم نے انہیں مہلت دی ہے، اب اگر یہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے تو ضرور عذاب میں مبتلا ہوں اس لئے آپ ان کی دل آزار باتوں پر صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ ان کے بارے میں کوئی حکم نازل ہو جائے۔ (۱)

﴿وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ﴾: اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے رہو۔ ﴿یہاں سے سورج طلوع ہونے سے پہلے، غروب ہونے سے پہلے، رات کی کچھ گھڑیوں میں اور دن کے کناروں پر حمد کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنے کا حکم دیا گیا، سورج طلوع ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد نماز فجر ادا کرنا ہے۔ سورج غروب ہونے سے پہلے پاکی بیان کرنے سے مراد ظہر و عصر کی نمازیں ادا کرنا ہیں جو کہ دن کے دوسرے نصف میں سورج کے زوال اور غروب کے درمیان واقع ہیں۔ رات کی کچھ گھڑیوں میں پاکی بیان کرنے سے مغرب اور عشا کی نمازیں پڑھنا مراد ہے۔ دن کے کناروں میں پاکی بیان کرنے سے فجر اور مغرب کی نمازیں مراد ہیں اور یہاں تاکید کے طور پر ان نمازوں کی تکرار فرمائی

۱.....روح البیان، طہ، تحت الآية: ۱۳۰، ۴۴۴/۵.

گئی ہے۔ بعض مفسرین سورج غروب ہونے سے پہلے سے نمازِ عصر اور دن کے کناروں سے نمازِ ظہر مراد لیتے ہیں، ان کی تو جیہہ یہ ہے کہ نمازِ ظہر زوال کے بعد ہے اور اس وقت دن کے پہلے نصف اور دوسرے نصف کے کنارے ملتے ہیں اور یہاں پہلے نصف کی انتہا اور دوسرے نصف کی ابتدا ہے۔^(۱)

﴿لَعَلَّكَ تَرْضَى﴾: اس امید پر کہ تم راضی ہو جاؤ۔ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ ان اوقات میں اس امید پر اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے رہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و عطا اور اس کے انعام و اکرام سے راضی ہوں، آپ کو امت کے حق میں شفیع بنا کر آپ کی شفاعت قبول فرمائے اور آپ کو راضی کرے۔^(۲)

اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی رضا چاہتا ہے

علامہ احمد صاوی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس آیت کے تحت اپنی مشہور کتاب تفسیر صاوی میں فرماتے ہیں: اے بندے! اس لطف و کرم والے خطاب کو دیکھ، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ رَبُّ الْعَالَمِينَ عَزَّ وَجَلَّ کے حبیب ہیں اور ساری مخلوق سے افضل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یوں نہیں ارشاد فرمایا ”تا کہ میں آپ سے راضی ہو جاؤں۔ یونہی اس طرح کا کوئی اور کلام نہیں فرمایا (جیسے یوں نہیں فرمایا ”تا کہ آپ کو میری رضا حاصل ہو جائے) بلکہ یوں ارشاد فرمایا ہے ”لَعَلَّكَ تَرْضَى“ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، تا کہ آپ راضی ہو جائیں۔ اور یہاں نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا یہ فرمان بھی ملحوظ رہے کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھی گئی ہے“ اور حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا یہ قول بھی پیش نظر رہے (جس میں آپ اپنے پیارے محبوب سے عرض کرتی ہیں: یا رسول الله! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ،) میں حضور کے رب عَزَّ وَجَلَّ کو دیکھتی ہوں کہ وہ حضور کی خواہش میں جلدی فرماتا ہے۔“ پس رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو نماز کا حکم اس لئے نہیں دیا گیا کہ ان کی کوئی خطا ہے جو معاف ہو جائے یا اس لئے نہیں دیا گیا نماز ادا کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے بلکہ اس لئے دیا گیا ہے تا کہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ راضی ہو جائیں کیونکہ نماز میں حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں جو کہ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور اس امت کے کامل عارف اولیاء کرام کو بھی اس مقام سے کچھ

۱.....مدارک، طہ، تحت الآية: ۱۳۰، ص ۷۰۷، حازن، طہ، تحت الآية: ۱۳۰، ۲۶۹/۳، ملقطاً.

۲.....روح البیان، طہ، تحت الآية: ۱۳۰، ۴۴۴/۵-۴۴۵، حازن، طہ، تحت الآية: ۱۳۰، ۲۶۹/۳.

(۱) حصہ ملتا ہے۔

وَلَا تُدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاةِ
الدُّنْيَا لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ ۗ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ۝۱۳۱

ترجمہ کنزالایمان: اور اے سننے والے اپنی آنکھیں نہ پھیلا اس کی طرف جو ہم نے کافروں کے جوڑوں کو برتنے کے لئے دی ہے جیتی دنیا کی تازگی کہ ہم انہیں اس کے سبب فتنہ میں ڈالیں اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے دیر پا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اے سننے والے! ہم نے مخلوق کے مختلف گروہوں کو دنیا کی زندگی کی جو تروتازگی فائدہ اٹھانے کیلئے دی ہے تاکہ ہم انہیں اس بارے میں آزمائیں تو اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا اور تیرے رب کا رزق سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا ہے۔

﴿وَلَا تُدَنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ﴾ اور اس کی طرف تو اپنی آنکھیں نہ پھیلا۔ ﴿اس آیت میں بظاہر خطاب نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے ہے اور اس سے مراد آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی امت ہے اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے سننے والے! ہم نے کافروں کے مختلف گروہوں جیسے یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکوں وغیرہ کو دنیا کا جو ساز و سامان فائدہ اٹھانے کیلئے دیا ہے وہ اس وجہ سے دیا ہے تاکہ ہم انہیں اس کے سبب اس طرح آزمائش میں ڈالیں کہ ان پر جتنی نعمت زیادہ ہوتی ہی ان کی سرکشی اور ان کا طغیان بڑھے اور وہ سزائے آخرت کے سزاوار ہوں، لہذا تو تعجب اور اچھائی کے طور پر اس کی طرف اپنی آنکھیں نہ پھیلا اور آخرت میں تیرے رب عَزَّوَجَلَّ کا رزق جنت اور اس کی نعمتیں سب سے اچھا اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا رزق ہے۔ (۲)

1.....صاوی، طہ، تحت الآیة: ۱۳۰، ۱۲۸۷/۴۔

2.....البحر المحیط، طہ، تحت الآیة: ۱۳۱، ۲۶۹/۶، مدارك، طہ، تحت الآیة: ۱۳۱، ص ۷۰۷، حازن، طہ، تحت الآیة: ۱۳۱، ۲۶۹/۳-۲۷۰، ملتقطاً۔

کفار کی ترقی ان کے لئے آزمائش ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ کافروں کے دُنیوی ساز و سامان، مال و دولت اور عیش و عشرت کافروں کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہیں اس لئے مومن کو چاہئے کہ وہ کفار کی ان چیزوں کو تعجب اور اچھائی کی نظر سے نہ دیکھے۔ حضرت حسن بصری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ نافرمانوں کی شان و شوکت اور رعب داب نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ اور معصیت کی ذلت کس طرح ان کی گردنوں سے نمودار ہے۔^(۱)

اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی نصیحت ہے جو فی زمانہ کفار کی دنیوی ٹیکنالوجی میں ترقی، مال و دولت اور عیش و عشرت کی فراوانی دیکھ کر تو ان سے انتہائی مرعوب اور دین اسلام سے ناراض دکھائی دیتے ہیں جبکہ انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ اس ترقی اور دولت مندی کی وجہ سے وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے اور اس کے احکام سے سرکشی کرنے میں کتنا آگے بڑھ چکے ہیں، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ اسی ترقی کے سبب آج کونسا گناہ ایسا ہے جو وہ نہیں کر رہے.....؟ فحاشی، عُریانی، بے حیائی اور بے شرمی کی کونسی ایسی حد ہے جو وہ پار نہیں کر چکے.....؟ ظلم و ستم، سفاکی اور بے رحمی کی کونسی ایسی لکیر ہے جسے وہ مٹا نہیں چکے.....؟ مسلمانوں کو ذلت و رسوائی میں ڈبونے کے لئے کون سا ایسا دریا ہے جس کے بند وہ توڑ نہیں چکے.....؟ افسوس! ان سب چیزوں کو اپنی جیتی جاگتی آنکھوں سے دیکھنے، سماعت سے بھرپور کانوں سے سننے کے باوجود بھی لوگ عبرت نہیں پکڑتے اور کفار کے عیش و عشرت اور ترقی و دولت کی داستانیں سن سنا کر اور مسلمانوں کی ذلت و غربت کا رونا رو کر نہ صرف خود اسلام سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں بلکہ دوسرے مسلمانوں کو بھی دین اسلام سے دور کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقلم سلیم اور ہدایت عطا فرمائے۔

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ ط

وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَى ①

ترجمہ کنزالایمان: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس پر ثابت رہ کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے ہم تجھے

①..... مدارك، طه، تحت الآية: ۱۳۱، ص ۷۰۷.

روزی دیں گے اور انجام کا بھلا پرہیزگاری کے لیے۔

ترجیہ کنز العرفان: اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور خود بھی نماز پڑھ لے رہو۔ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے (بلکہ) ہم تجھے روزی دیں گے اور اچھا انجام پرہیزگاری کے لیے ہے۔

﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ﴾ اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، جس طرح ہم نے آپ کو نماز ادا کرنے کا حکم دیا اسی طرح آپ بھی اپنے گھر والوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیں اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہیں۔^(۱)

حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں ”جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ آٹھ ماہ تک حضرت علی كَرَّمَ اللَّهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ کے دروازے پر صبح کی نماز کے وقت تشریف لاتے رہے اور فرماتے ”الصَّلَاةُ رَحِمَكُمُ اللَّهُ، إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا“^(۲)

نماز اور مسلمانوں کا حال

یاد رہے کہ اس خطاب میں حضور پُر نُوْر صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی امت بھی داخل ہے اور آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ہر امتی کو بھی یہ حکم ہے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نماز ادا کرنے کا حکم دے اور خود بھی نماز ادا کرنے پر ثابت قدم رہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ترجیہ کنز العرفان: اے ایمان والو! اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے، طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ
نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ
غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ^(۳)

افسوس! فی زمانہ نماز کے معاملے میں مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ گھر والے نمازیں چھوڑ دیں، انہیں اس کی پرواہ

①..... روح البیان، طہ، تحت الآية: ۱۳۲، ۴۴۸/۵۔

②..... ابن عساکر، حرف الطاء فی آباء من اسمہ علی، علی بن ابی طالب... الخ، ۱۳۶/۴۲۔

③..... التحريم: ۶۔

نہیں۔ خود کی نمازیں ضائع ہو جائیں، انہیں اس کی فکر نہیں اور کوئی شخص نماز چھوڑنے پر انہیں اخروی حساب اور عذاب سے ڈرائے، انہیں اس کا احساس نہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے اور نہ صرف خود نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے بلکہ اپنے گھر والوں کو بھی نمازی بنانے کی ہمت و توفیق نصیب کرے، آمین۔

﴿لَا تَسْأَلُكَ رَبُّكَ﴾ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم تجھ سے کوئی رزق نہیں مانگتے اور اس بات کا پابند نہیں کرتے کہ ہماری مخلوق کو روزی دے یا اپنے نفس اور اپنے اہل کی روزی کے ذمہ دار ہو بلکہ ہم تجھے روزی دیں گے اور انہیں بھی، تو روزی کے غم میں نہ پڑ، بلکہ اپنے دل کو امرِ آخرت کے لئے فارغ رکھ کہ جو اللہ تعالیٰ کے کام میں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی کارسازی کرتا ہے اور آخرت کا اچھا انجام پر ہیزگاری اختیار کرنے والوں کے لیے ہے۔^(۱)

اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنے کا انجام

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے کسی کو روزی دینا اس کے ذمے نہیں بلکہ سب کو روزی دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔

اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿۵۶﴾
مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ
يُطِيعُونِ ﴿۵۷﴾ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ
الْبَتِينِ ﴿۲﴾

ترجمہ کنز العرفان: اور میں نے جن اور آدمی اسی لئے بنائے کہ میری عبادت کریں۔ میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھلائیں۔ بیشک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا، قوت والا، قدرت والا ہے۔

یاد رہے کہ ان آیتوں کا منشاء یہ نہیں کہ انسان کمانا چھوڑ دے، کیونکہ کمائی کرنے کا حکم قرآن و حدیث میں بہت جگہ آیا ہے، بلکہ منشاء یہ ہے کہ بندہ کمائی کی فکر میں آخرت سے غافل نہ ہو اور دنیا کمانے میں اتنا لگن نہ ہو جائے کہ حلال و حرام کی تمیز نہ کرے اور نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے غافل ہو جائے۔

افسوس! فی زمانہ مسلمان مال کمانے میں اس قدر لگن ہو چکے ہیں کہ صبح شام، دن رات اسی میں سرگرداں ہیں اور

1.....مدارک، طہ، تحت الآیة: ۱۳۲، ص ۷۰۷-۷۰۸.

2.....الذاریات: ۵۶-۵۸.

ان کے پاس اتنی فرصت نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو سکیں اور اس خالق و مالک کو یاد کر سکیں جو حقیقی روزی دینے والا ہے، اور اتنی محنت و کوشش کے باوجود ان کا جو معاشی حال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ آج ہر کوئی رزق کی کمی، مہنگائی، بیماری اور پوری نہیں پڑتی کارونا رو رہا ہے۔ اے کاش! مسلمان رزق حاصل کرنے کے لئے کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس ذمہ داری کو بھی پورا کرتے جو اللہ تعالیٰ نے ان پر لازم کی ہے تو آج ان کا حال اس سے بہت مختلف ہوتا۔ عبرت کے لئے یہاں 3 احادیث ملاحظہ فرمائیں

(1)..... حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جسے آخرت کی فکر ہو اللہ تعالیٰ اس کا دل غنی کر دیتا ہے اور اس کے بکھرے ہوئے کاموں کو جمع کر دیتا ہے اور دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر آتی ہے اور جسے دنیا کی فکر ہو، اللہ تعالیٰ محتاجی اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے اور اس کے جمع شدہ کاموں کو منتشر کر دیتا ہے اور دنیا (کامال) بھی اسے اتنا ہی ملتا ہے جتنا اس کے لئے مقدر ہے۔“ (1)

(2)..... حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ”جو شخص تمام فکروں کو چھوڑ کر ایک چیز (یعنی) آخرت کی فکر سے تعلق رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام دنیوی کام اپنے ذمے لے لے گا اور جو دنیوی فکروں میں مبتلا رہے گا تو اللہ تعالیٰ کو کچھ پرواہ نہیں، خواہ وہ کہیں بھی مرے۔“ (2)

(3)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ”اے انسان! تو میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا، میں تیرا سینہ غنا سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند کر دوں گا اور اگر تو ایسا نہ کرے گا تو تیرے دونوں ہاتھ مشاغل سے بھر دوں گا اور تیری محتاجی کا دروازہ بند نہ کروں گا۔“ (3)

روزی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ

اس آیت سے اشارہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ نیک اعمال سے روزی کے دروازے کھلتے ہیں۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ

ترجمہ کنز العرفان: اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے لیے

1..... ترمذی، کتاب صفة القيامة، ۳۰-باب، ۲۱۱/۴، الحدیث: ۲۴۷۳.

2..... ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب الهم بالذميا، ۴۲۵/۴، الحدیث: ۴۱۰۶.

3..... ترمذی، کتاب صفة القيامة، ۳۰-باب، ۲۱۱/۴، الحدیث: ۲۴۷۴.

مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ (1)

نکلتے کاراستہ بنا دے گا۔ اور اسے وہاں سے روزی دے گا جہاں
اس کا گمان (بھی) نہ ہو۔

وَقَالُوا لَوْلَا يَا تَبَّ يَا بَايَةَ مِنْ رَبِّهِ ۗ أَوْلَم تَأْتِيهِمْ بَيِّنَةٌ مَا فِي الصُّحُفِ
الْأُولَى ۝ (۱۳۳)

ترجمہ کنزالایمان: اور کافر بولے یہ اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے اور کیا انھیں اس کا بیان نہ آیا
جو اگلے صحیفوں میں ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کافروں نے کہا: یہ نبی اپنے رب کے پاس سے کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟ اور کیا ان لوگوں
کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور بیان نہ آیا۔

﴿وَقَالُوا﴾ اور کافروں نے کہا۔ ﴿کثیر نشانیاں آجانے اور معجزات کا متواتر ظہور ہونے کے باوجود کفار ان سب سے اندھے
بنے اور انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت یہ کہہ دیا کہ آپ اپنے رب کے پاس سے کوئی ایسی
نشانی کیوں نہیں لاتے جو آپ کی نبوت صحیح ہونے پر دلالت کرے، اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”کیا ان
لوگوں کے پاس پہلی کتابوں میں مذکور قرآن اور دو عالم کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بشارت اور آپ صلی اللہ
تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت و بعثت کا ذکر نہ آیا، یہ کیسی عظیم ترین نشانیاں ہیں اور ان کے ہوتے ہوئے اور کسی نشانی کو
طلب کرنے کا کیا موقع ہے۔ (2)

وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقَالُوا رَبَّنَا لَوْلَا أُرْسِلَتْ إِلَيْنَا
رَسُولًا فَنُتَبِّعَ آيَاتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نُنْزِلَ وَنَخْرُجَ ۝ (۱۳۳) قُلْ كُلُّ مُتَرَبِّصٍ

1.....سورہ طلاق: ۲، ۳.

2.....ابو سعود، طہ، تحت الآية: ۱۳۳، ۳/۵۰۰.

فَتَرَبَّصُوا فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَى ﴿۱۳۵﴾

ترجہ کنز الایمان: اور اگر ہم انہیں کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے رسول کے آنے سے پہلے تو ضرور کہتے اے ہمارے رب تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم تیری آیتوں پر چلتے قبل اس کے کہ ذلیل و رسوا ہوتے۔ تم فرماؤ سب راہ دیکھ رہے ہیں تو تم بھی راہ دیکھو تو اب جان جاؤ گے کہ کون ہیں سیدھی راہ والے اور کس نے ہدایت پائی۔

ترجہ کنز العرفان: اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے تو ضرور کہتے: اے ہمارے رب! تو نے ہماری طرف کوئی رسول کیوں نہ بھیجا کہ ہم ذلیل و رسوا ہونے سے پہلے تیری آیتوں کی پیروی کرتے؟ تم فرماؤ: ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو تو عنقریب تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون تھے اور کس نے ہدایت پائی؟

﴿وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْنَاهُمْ بِعَذَابٍ مِّن قَبْلِهِ﴾ اور اگر ہم انہیں رسول کے آنے سے پہلے کسی عذاب سے ہلاک کر دیتے۔ ﴿یعنی اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم﴾، اگر ہم نبی کو بھیجے بغیر کفار پر عذاب بھیج دیتے تو قیامت کے دن یہ لوگ شکایت کرتے کہ ہم میں کوئی رسول تو بھیجا ہوتا پھر اگر ہم اس کی اطاعت نہ کرتے تو عذاب کے مستحق ہوتے۔ اب انہیں اس شکایت کا بھی موقعہ نہیں کیونکہ اب سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف لا چکے ہیں۔

﴿قُلْ كُلٌّ مُّتَرَبِّصٌ فَتَرَبَّصُوا﴾ تم فرماؤ: ہر کوئی انتظار کر رہا ہے تو تم بھی انتظار کرو۔ ﴿شانِ نزول: مشرکین نے کہا تھا کہ ہم زمانے کے حوادث اور انقلاب کا انتظار کرتے ہیں کہ کب مسلمانوں پر آئیں اور ان کا قصہ تمام ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ تم مسلمانوں کی تباہی و بربادی کا انتظار کر رہے ہو اور مسلمان تمہارے عقوبت و عذاب کا انتظار کر رہے ہیں۔ عنقریب جب خدا کا حکم آئے گا اور قیامت قائم ہوگی تو تم جان لو گے کہ سیدھے راستے والے کون تھے اور کس نے ہدایت پائی؟ (۱)

اِقْتَرِبْ

17

پارہ نمبر..... 17

سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ

سورة انبياء کا تعارف

مقام نزول

سورة انبياء مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔^(۱)

رکوع اور آیات کی تعداد

اس میں 7 رکوع اور 112 آیتیں ہیں۔

”انبياء“ نام رکھنے کی وجہ

اس سورت میں بکثرت انبياء عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا ذکر ہے مثلاً حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، حضرت ہارون، حضرت لوط، حضرت ابراہیم عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور بالخصوص سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا ذکر ہے، اسی وجہ سے اس سورت کا نام ”سُورَةُ الْاَنْبِيَاءِ“ ہے۔

سورة انبياء کے مضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اسلام کے بنیادی عقائد جیسے توحید، نبوت و رسالت، قیامت کے دن دوبارہ زندہ کئے جانے اور اعمال کی جزاء و سزا ملنے کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس سورت میں یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں:

(1)..... اس کی ابتداء میں قیامت کا وقوع اور لوگوں کا حساب قریب ہونے اور لوگوں کے حساب کی سختیوں اور دیگر چیزوں سے غافل ہونے کا ذکر کیا گیا اور یہ بیان کیا گیا ہے کہ لوگ قرآن سننے سے اعراض کرتے ہیں اور دُنیوی زندگی کی لذتوں

1..... حازن، تفسیر سورة الانبياء، ۳/۲۷۰.

سے دھوکہ کھائے بیٹھے ہیں۔

(2)..... مکہ کے مشرکین کی طرف سے نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نبوت کا انکار کرنے کا سبب بیان کیا گیا کہ وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو بھی اپنی طرح کا عام بشر سمجھتے ہیں اس لئے وہ لوگ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر ایمان نہیں لاتے، نیز ان کے اس نظریے کا رد کیا گیا کہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو کوئی وحی وغیرہ نہ اترتی تھی بلکہ وہ صرف عام بشر تھے جو کھاتے پیتے اور بازاروں میں چلتے تھے، پھر انہیں بتایا گیا کہ سابقہ امتیں اپنے انبیاء اور رسولوں عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو جھٹلانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیں گئیں تو کفار مکہ کو بھی ڈرنا چاہئے کہ کہیں ان کی طرح انہیں بھی ہلاک نہ کر دیا جائے۔

(3)..... کفار مکہ نے مطالبہ کیا کہ نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سابقہ انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی طرح اپنی صداقت پر دلالت کرنے والی کوئی نشانی لائیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کا رد کیا اور بیان فرمایا کہ ان انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے معجزات عارضی تھے اور میرے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قرآن کی صورت میں جو معجزہ لے کر آئے ہیں یہ تا قیامت باقی رہنے والا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے وصال کے بعد بھی آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نبوت کی دلیل ہے تو کیا ان کی صداقت کے لئے کفار کو یہ معجزہ کافی نہیں۔

(4)..... کفار فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہتے تھے، ان کے اس عقیدے کا رد کیا گیا کہ فرشتے تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبردار اور عبادت گزار مخلوق ہے۔

(5)..... اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور معبود ہونے پر مختلف دلائل ذکر فرمائے جیسے زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کے سلسلے کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت کی دلیل ہے، اسی طرح وحدانیت پر یہ دلیل قائم فرمائی کہ اگر اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہوتا تو کائنات کا نظام درہم برہم ہو جاتا۔

(6)..... انہی آیات کے ضمن میں حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت ابراہیم، حضرت لوط، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت نوح، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت ایوب، حضرت اسماعیل، حضرت ادریس، حضرت ذوالکفل، حضرت یونس، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے واقعات بیان فرمائے گئے۔

(7)..... ان واقعات کو بیان کرنے کے بعد فرمایا گیا کہ سب انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا یہی ایک مقصد تھا کہ وہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دیں۔ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو اچھی جزاء کی بشارت سنا

کر مطمئن کریں اور یہ بیان کر دیں کہ دنیا میں عذاب یافتہ امتیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف ضرور لوٹیں گی اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہوں گی۔

(8)..... قیامت قائم ہونے کی ایک علامت بیان کی گئی کہ وہ دیوار ٹوٹ جائے گی جس نے یا جوج اور ماجوج کو روک کر رکھا ہوا ہے۔

(9)..... قیامت کے دن کی ہولناکیاں اور وہ شدید عذاب بیان کیا گیا جس کا سامنا کفار کریں گے اور یہ ذکر کیا گیا کہ کفار اور ان کے باطل معبود جہنم کا ایندھن بنیں گے، اس زمین کو دوسری زمین سے بدل دیا جائے گا، آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، نیک لوگ ابدی نعمتوں سے اپنا حصہ پائیں گے اور جنت میں اپنی اپنی زمین کے وارث ہوں گے۔

(10)..... اس سورت کے آخر میں بیان کیا گیا کہ سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سب جہانوں کے لئے رحمت بن کر آئے ہیں اور ان کی طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ معبود صرف اللہ تعالیٰ ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے احکام بجالائیں اور لوگوں کو قریب آنے والے عذاب اور حتمی طور پر واقع ہونے والی قیامت سے ڈرائیں اور یہ بتادیں کہ انہیں مہلت ملنا اور عذاب میں تاخیر ہونا ایک امتحان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور ان کے دشمنوں کے درمیان فیصلہ فرمادے گا اور کفار کی تہمتوں اور بہتانوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا مددگار ہے۔

سورۃ طہ کے ساتھ مناسبت

سورۃ انبیاء کی اپنے سے ما قبل سورت ”طہ“ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورۃ طہ کے آخر میں قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا تھا اور سورۃ انبیاء کی ابتداء میں بھی قیامت کے آنے سے خبردار کیا گیا ہے۔ اسی طرح سورۃ طہ میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ دنیا کی زیب و زینت اور آرائش کی طرف نظر نہیں کرنی چاہئے کیونکہ یہ سب زائل ہونے والی ہیں اور سورۃ انبیاء میں بیان کیا گیا کہ لوگوں کا حساب قریب ہے اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ دنیا کی فانی نعمتوں میں دل لگانے کی بجائے ان چیزوں کی تیاری کی طرف توجہ دینی چاہئے جن کا ہم سے حساب لیا جانا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: لوگوں کا حساب نزدیک اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ﴾: لوگوں کا حساب قریب آ گیا۔ ﴿اس آیت کے شان نزول کے بارے میں ایک قول یہ ہے یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جو مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کو نہیں مانتے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس آیت میں اگرچہ اُس وقت کفارِ قریش کی طرف اشارہ کیا گیا ہے لیکن لفظ ”النَّاسُ“ میں عموم ہے (اور اس سے تمام لوگ مراد ہیں۔) نیز یہاں قیامت کے دن کو گزرے ہوئے زمانہ کے اعتبار سے قریب فرمایا گیا کیونکہ جتنے دن گزرتے جاتے ہیں آنے والا دن قریب ہوتا جاتا ہے۔

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ لوگوں نے دنیا میں جو بھی عمل کئے ہیں اور ان کے بدنوں، ان کے جسموں، ان کے کھانے پینے کی چیزوں اور ان کے ملبوسات میں اور ان کی دیگر ضروریات پوری کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے انہیں جو بھی نعمتیں عطا کی ہیں، ان کے حساب کا وقت (روزِ قیامت) قریب آ گیا ہے اور اس وقت ان سے پوچھا جائے گا کہ ان نعمتوں کے بدلے میں انہوں نے کیا عمل کئے، آیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اور اس کے دیئے ہوئے حکم پر عمل کیا اور جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے رک گئے یا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت کی، اس سنگین صورتِ حال کے باوجود لوگوں کی غفلت کا حال یہ ہے کہ وہ اپنا محاسبہ کئے جانے سے اور قیامت کے دن پیش آنے والی عظیم مصیبتوں اور شدید ہولناکیوں سے بے فکر ہیں اور اس کے لئے تیاری کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور انہیں اپنے انجام کی

کوئی پرواہ نہیں۔^(۱)

اُخروی حساب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی روش اور مسلمانوں کا حال

یہاں اگرچہ کفار کی روش کو بیان کیا گیا ہے لیکن افسوس! فی زمانہ مسلمانوں میں بھی قیامت کے دن اپنے اعمال کے حساب سے غفلت بہت عام ہو چکی ہے اور آج انہیں بھی جب نصیحت کی جاتی ہے اور موت کی تکلیف، قبر کی تنگی، قیامت کی ہولناکی، حساب کی سختی اور جہنم کے دردناک عذاب سے ڈرایا جاتا ہے تو یہ عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بجائے منہ پھیر کر گزر جاتے ہیں، حالانکہ مسلمان کی یہ نشان نہیں کہ وہ ایسا طرز عمل اختیار کرے جو کافروں اور مشرکوں کا شیوہ ہو۔

امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”اے انسان! تجھے اپنے کریم رب عَزَّوَجَلَّ کے بارے میں کس چیز نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے کہ تو دروازے بند کر کے، پردے لٹکا کر اور لوگوں سے چھپ کر فسق و فجور اور گناہوں میں مبتلا ہو گیا! (تو لوگوں کے خبردار ہونے سے ڈرتا ہے حالانکہ تجھے پیدا کرنے والے سے تیرا کوئی حال چھپا ہوا نہیں) جب تیرے اعضاء تیرے خلاف گواہی دیں گے (اور جو کچھ تو لوگوں سے چھپ کر کرتا رہا وہ سب ظاہر کر دیں گے) تو اس وقت تو کیا کرے گا۔ اے غافلوں کی جماعت! تمہارے لئے مکمل خرابی ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے پاس سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو بھیجے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر روشن کتاب نازل فرمائے (جس میں ہر چیز کی تفصیل موجود ہے) اور تمہیں قیامت کے اوصاف کی خبر دے، پھر تمہاری غفلت سے بھی تمہیں آگاہ کرتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ

ترجیہ کنزالعرفان: لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔ جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں۔ ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔

اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ
مُعْرِضُونَ ۚ مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن رَّبِّهِمْ
مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَبَعُوهُ وَهُمْ يَلْعَبُونَ ۗ
لَا هِيَ تَقُودُهُمْ (2)

پھر وہ ہمیں قیامت قریب ہونے کے بارے میں بتاتے ہوئے ارشاد فرمائے کہ

ترجیہ کنزالعرفان: قیامت قریب آ گئی اور چاند پھٹ گیا۔

اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَالشَّيْءُ الْقَمَرُ (3)

1.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۱، ۳/۲۷۰-۲۷۱، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۱، ص ۹، ۷، تفسير طبري، الانبياء، تحت الآية: ۱، ۳/۹، ملتقطاً.

3.....قمر: ۱.

2.....انبياء: ۱-۳.

اور ارشاد فرمائے کہ

اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ وَذَرُوهُ قَرِيْبًا (1)

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک وہ اسے دور سمجھ رہے ہیں۔ اور ہم

اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔

اور ارشاد فرمائے کہ:

وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُوْنُ قَرِيْبًا (2)

ترجمہ کنزالعرفان: اور تم کیا جانو شاید قیامت قریب ہی ہو۔

اس کے بعد تمہاری سب سے اچھی حالت تو یہ ہونی چاہئے کہ تم اس قرآنِ عظیم کے دیئے درس پر عمل کرو، لیکن اس کے برعکس تمہارا حال یہ ہے کہ تم اس قرآن کے معانی میں غور و فکر نہیں کرتے اور روزِ قیامت کے بے شمار اوصاف اور ناموں کو (عبرت کی نگاہ سے) نہیں دیکھتے اور اس دن کی مصیبتوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے کوشش نہیں کرتے۔ ہم اس غفلت سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں (اور دعا کرتے ہیں کہ) اللہ تعالیٰ اپنی وسیع رحمت سے اس غفلت کو دور فرمائے۔ (3) اور ہر مسلمان کو اس فانی دنیا سے بے رغبت ہو کر نیک اعمال کی کثرت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترغیب کے لئے یہاں دو حکایات ملاحظہ ہوں:

مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں

حضرت عامر بن ربیعہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ ایک عربی ان کے پاس آیا، آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس کا نہایت اکرام کیا اور اس کے متعلق حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے کلام کیا۔ وہ شخص جب دوبارہ حضرت عامر بن ربیعہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے ایک وادی طلب کی ہے جس سے بہتر عرب میں کوئی وادی نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے لیے اس میں سے کچھ حصہ علیحدہ کر دوں جو تمہارے اور تمہاری اولاد کے کام آئے۔ حضرت عامر بن ربیعہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس سے کہا کہ ”ہمیں تیری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ آج ایک سورت نازل ہوئی ہے اس نے ہمیں دنیا کی لذتیں بھلا

1..... معارج ۶، ۷۔

2..... احزاب: ۶۳۔

3..... احیاء علوم الدین، کتاب ذکر الموت وما بعده، الشطر الثانی من کتاب ذکر الموت فی احوال المیت... الخ، صفة يوم القيامة ودواہیہ واسامیہ، ۲۷۶/۵۔

دی ہیں (اور اس میں یہ آیت ہے) ”اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ“ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔^(۱)

جب حساب کا وقت قریب ہے تو یہ دیوار نہیں بنے گی

ایک روایت میں ہے کہ رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ میں سے ایک صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ دیوار بنا رہے تھے، جس دن یہ سورت نازل ہوئی اس دن ان کے پاس سے ایک شخص گزرا تو انہوں نے اس سے پوچھا ”آج قرآن پاک میں کیا نازل ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی ہے ”اِقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ مُّعْرِضُونَ“ لوگوں کا حساب قریب آ گیا اور وہ غفلت میں منہ پھیرے ہوئے ہیں۔“ ان صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے جب یہ سنا تو اسی وقت دیوار بنانے سے ہاتھ جھاڑ لیے اور کہا: اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! جب حساب کا وقت قریب آ گیا ہے تو پھر یہ دیوار نہیں بنے گی۔^(۲)

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کی توفیق سے ہمارے دلوں میں بھی دنیا سے بے رغبتی اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے اور ہم بھی اپنی اُخروی زندگی بہتر سے بہتر بنانے کی کوششوں میں مصروف ہو جائیں۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ مِّن سَائِبِهِمْ مُّحَدَّثٍ إِلَّا اسْتَعَوْذُوا وَهُمْ يَلْعَبُونَ ﴿۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے۔

ترجمہ کنزالعرفان: جب ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے کھیلتے ہوئے ہی سنتے ہیں۔

﴿مَا يَأْتِيهِمْ مِّنْ ذِكْرٍ﴾: جب ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے۔ ﴿لَعِبُوا﴾ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید میں نصیحت آ میر کوئی ایسی آیت نازل ہوتی ہے جو انہیں اعلیٰ طریقے سے اخروی حساب کی یاد دلائے اور اس سے غفلت کا شکار ہونے پر کامل طریقے سے تنبیہ کرے تو یہ اس میں غور و فکر کر کے عبرت و نصیحت حاصل کرنے اور اپنی غفلت دور کرنے کی بجائے

①..... ابن عساکر، حرف العين، ذکر من اسمه عامر، عامر بن ربيعة بن كعب بن مالك... الخ، ۳۲۷/۲۵.

②..... قرطبي، الانبياء، تحت الآية: ۱، ۱۴۵/۶، الجزء الحادي عشر.

اسے کھلتے اور مذاق مسخری کرتے ہوئے ہی سنتے ہیں اور آنے والے وقت کے لئے کچھ تیاری نہیں کرتے۔^(۱)

لَا هِيَةَ قُلُوبُهُمْ ط وَأَسْرُ وَالنَّجْوَى ط الَّذِينَ ظَلَمُوا هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ
مِّثْلُكُمْ ج أَفَتَأْتُونَ السَّحْرَ وَأَنْتُمْ تُبْصِرُونَ ۳

ترجمہ کنزالایمان: ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورت کی کہ یہ کون ہیں ایک تم ہی جیسے آدمی تو ہیں کیا جادو کے پاس جاتے ہو دیکھ بھال کر۔

ترجمہ کنزالعرفان: ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا کہ یہ (نبی) تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں تو کیا تم خود دیکھنے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟

﴿لَا هِيَةَ قُلُوبُهُمْ﴾: ان کے دل کھیل میں پڑے ہوئے ہیں۔ ﴿دَلَّ كَهَيْلٍ فِي سُرِّهِ هُوْنَهُ﴾ سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہیں اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ جو دل دنیا کے احوال میں مشغول اور آخرت کے احوال سے غافل ہو وہ کھیل میں پڑا ہوا ہے۔^(۲)

﴿وَأَسْرُ وَالنَّجْوَى ط الَّذِينَ ظَلَمُوا﴾: اور ظالموں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ کافروں نے آپس میں خفیہ مشورہ کیا اور اسے چھپانے میں بہت مبالغہ کیا مگر اللہ تعالیٰ نے ان کا راز فاش کر دیا اور بیان فرمادیا کہ وہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں یوں کہتے ہیں کہ یہ تمہارے جیسے ایک آدمی ہی تو ہیں۔^(۳) یہ کفر کا ایک اصول تھا کہ جب یہ بات لوگوں کے ذہن نشین کر دی جائے گی کہ وہ تم جیسے بشر ہیں تو پھر کوئی ان پر ایمان نہ لائے گا۔ کفار یہ بات کہتے وقت جانتے تھے کہ ان کی بات کسی کے دل میں جمے گی نہیں کیونکہ لوگ رات دن معجزات دیکھتے ہیں، وہ کس طرح باور کر سکیں گے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرح بشر ہیں اس لئے انہوں نے معجزات

①.....روح البیان، الانبياء، تحت الآية: ۲، ۴۵۲/۵، حازن، الانبياء، تحت الآية: ۲، ۲۷۱/۳، ملقطاً.

②.....حازن، الانبياء، تحت الآية: ۳، ۲۷۱/۳، روح البیان، الانبياء، تحت الآية: ۳، ۴۵۲/۵، ملقطاً.

③.....حازن، الانبياء، تحت الآية: ۳، ۲۷۱/۳.

کو جادو بتا دیا اور کہا کہ کیا تم خود دیکھنے اور جاننے کے باوجود جادو کے پاس جاتے ہو؟

قُلْ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَوْلَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ﴿۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: نبی نے فرمایا میرا رب جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں ہر بات کو اور وہی ہے سنتا جانتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: نبی نے فرمایا: میرا رب آسمان اور زمین میں ہر بات کو جانتا ہے اور وہی سنتے والا جاننے والا ہے۔

﴿قُلْ﴾: نبی نے فرمایا۔ ﴿﴾ جب حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی طرف کفار کے اقوال اور احوال کی وحی کی گئی تو اس کے بعد آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ”کفار کی خفیہ باتوں کو جاننا تو کچھ بھی نہیں، میرے رب عَزَّوَجَلَّ کی شان تو یہ ہے کہ وہ آسمانوں اور زمین میں ہونے والی ہر بات کو جانتا ہے خواہ وہ پوشیدہ طور پر کہی گئی ہو یا اعلانیہ کہی گئی ہو اور اس سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی خواہ وہ کتنے ہی پردے اور راز میں رکھی گئی ہو اور وہی سنتے والا جاننے والا ہے، تو وہی کفار کے اقوال اور افعال کی انہیں سزا دے گا۔ (1)

بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ بَلْ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ شَاعِرٌ فَلْيَأْتِنَا بِآيَةٍ
كَمَا أُرْسِلَ إِلَّا وُتُونَ ﴿۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: بلکہ بولے پریشان خوابیں ہیں بلکہ ان کی گڑھت ہے بلکہ یہ شاعر ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے گلے بھیجے گئے تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بلکہ (کافروں نے) کہا: جھوٹے خواب ہیں بلکہ خود اس (نبی) نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے بلکہ یہ شاعر ہیں (اگر نبی ہیں) تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو بھیجا گیا تھا۔

1..... روح البیان، الانبياء، تحت الآية: ۴، ۵/۴۵۳.

﴿بَلْ قَالُوا أَضْغَاثُ أَحْلَامٍ﴾: بلکہ کہا: جھوٹے خواب ہیں۔ جب کافروں کا راز ظاہر فرما دیا گیا تو اس کے بعد انہیں قرآن کریم سے سخت پریشانی اور حیرانی لاحق ہوگئی کہ اس کا کس طرح انکار کریں کیونکہ یہ ایک ایسا روشن اور واضح معجزہ ہے جس نے تمام ملک کے مایہ ناز ماہروں کو عاجز و حیرت زدہ کر دیا ہے اور وہ اس کی دوچار آیتوں کی مثل کلام بنا کر نہیں لاسکے، اس پریشانی میں انہوں نے قرآن کریم کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں کہیں اور کہنے لگے: بلکہ نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جو قرآن لائے ہیں یہ جھوٹے خواب ہیں اور ان کو نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللہ تعالیٰ کی وحی سمجھ گئے ہیں۔ کفار نے یہ کہہ کر سوچا کہ یہ بات چسپاں نہیں ہو سکے گی تو اب اس کو چھوڑ کر کہنے لگے: بلکہ خود اس نبی نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے۔ یہ کہہ کر انہیں خیال ہوا کہ لوگ کہیں گے: اگر یہ کلام حضرت محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا بنایا ہوا ہے اور تم انہیں اپنے جیسا بشر بھی کہتے ہو تو تم ایسا کلام کیوں نہیں بنا سکتے؟ یہ خیال کر کے اس بات کو بھی چھوڑا اور کہنے لگے: بلکہ یہ شاعر ہیں اور یہ کلام شعر ہے۔ الغرض کفار اسی طرح کی باتیں بناتے رہے اور کسی ایک بات پر قائم نہ رہ سکے۔ اب کفار نے سمجھا کہ ان باتوں میں سے کوئی بات بھی چلنے والی نہیں ہے، تو کہنے لگے: اگر یہ نبی ہیں تو ہمارے پاس کوئی نشانی لائیں جیسے پہلے رسولوں کو نشانوں کے ساتھ بھیجا گیا تھا۔^(۱)

اہل باطل اور جھوٹے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے

اہل باطل اور جھوٹوں کا یہی حال ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے بلکہ ایک کے بعد دوسری اور دوسری کے بعد تیسری بات کی طرف منتقل ہوتے رہتے ہیں اور اس کی ایک وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ بات کرنے کے بعد خود حیران ہوتے ہیں کہ ہم نے کہہ کیا دیا ہے۔

مَا أَمَنَّا قَبْلَهُمْ مِنْ قُرْبِيَّةٍ أَهْلَكُنْهَا أَفْهَمُ يَوْمُنَا ۖ ﴿٦﴾

ترجمہ کنزالایمان: ان سے پہلے کوئی بستی ایمان نہ لائی جسے ہم نے ہلاک کیا تو کیا یہ ایمان لائیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: ان سے پہلے جو بستی ایمان نہ لائی ہم نے اسے ہلاک کر دیا تو کیا یہ ایمان لے آئیں گے؟

①..... البحر المحيط، الانبياء، تحت الآية: ۵، ۶/۲۷۶، قرطبي، الانبياء، تحت الآية: ۵، ۶/۴۸، الجزء الحادي عشر، ملقطاً.

﴿ مَا آمَنَتْ قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْيَةٍ ﴾ ان سے پہلے جو بستی ایمان نہ لائی۔ ﴿ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی باتوں کا رد فرمایا اور انہیں جواب دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ کفار مکہ سے پہلے لوگوں نے بھی اپنے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے نشانیوں کا مطالبہ کیا اور نشانیاں آنے کی صورت میں ایمان لانے کا عہد کیا اور جب ان کے پاس وہ مطلوبہ نشانیاں آئیں تو وہ ان انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر ایمان نہ لائے اور ان کی تکذیب کرنے لگے اور اس سبب سے ان کفار کو ہلاک کر دیا گیا تو کیا یہ کفار مکہ نشانی دیکھ کر ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان کی سرکشی اُن سے بڑھی ہوئی ہے۔^(۱)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ فَسَلُّوا أَهْلَ الذِّكْرِ
إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے تم سے پہلے نہ بھیجے مگر مرد جنہیں ہم وحی کرتے تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تمہیں علم نہ ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔

﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي إِلَيْهِمْ ﴾ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ ﴿ یہاں کفار مکہ کے سابقہ کلام کا رد کیا جا رہا ہے کہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا بشری صورت میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں کیونکہ نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا بلکہ سابقہ قوموں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب انسان اور مرد ہی تھے اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی اور جب اللہ تعالیٰ کا دستور ہی یہ ہے تو پھر سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا

①..... مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۶، ص ۷۰۹.

اعتراض ہے۔^(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام مرد تھے، کوئی عورت نبی نہ ہوئی۔

﴿فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾: تو اے لوگو! علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ ﴿آیت کے اس حصے میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں گزشتہ زمانوں میں تشریف لانے والے رسولوں کے احوال معلوم نہیں تو تم اہل کتاب کے ان علماء سے پوچھ لو جنہیں ان کے احوال کا علم ہے، وہ تمہیں حقیقتِ حال کی خبر دیں گے۔^(۲)

شرعی معلومات نہ ہونے اور نہ لینے کے نقصانات

اس آیت میں نہ جاننے والے کو جاننے والے سے پوچھنے کا حکم دیا گیا کیونکہ ناواقف کے لئے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ واقف سے دریافت کرے اور جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے اور جو اپنے اس مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا و آخرت میں بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ یہاں اس کے چند نقصانات ملاحظہ ہوں

(۱)..... ایمان ایک ایسی اہم ترین چیز ہے جس پر بندے کی اُخروی نجات کا دار و مدار ہے اور ایمان صحیح ہونے کے لئے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے، لہذا صحیح اسلامی عقائد سے متعلق معلومات ہونا لازمی ہے۔ اب جسے اُن عقائد کی معلومات نہیں جن پر بندے کا ایمان درست ہونے کا مدار ہے تو وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا ایمان صحیح ہے لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے اور اگر حقیقت برعکس ہوئی اور حالتِ کفر میں مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ کے لئے جہنم میں رہنا پڑے گا اور اس کے انتہائی دردناک عذابات سہنے ہوں گے۔

(۲)..... فرض و واجب اور دیگر عبادات کو شرعی طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے، اس لئے ان کے شرعی طریقے کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جسے عبادات کے شرعی طریقے اور اس سے متعلق دیگر ضروری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتیں اور نہ وہ کسی عالم سے معلومات حاصل کرتا ہے تو مشقت اٹھانے کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے درست اور قابل قبول ہونے کے لئے ”طہارت“ ایک بنیادی شرط ہے اور جس کی طہارت درست نہ ہو تو وہ اگرچہ

①..... حازن، الانبياء، تحت الآية: ۷، ۲۷۲/۳، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ۷، ۵۵۰/۵، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ۷، ۱۲۲/۸، ملتقطاً.

②..... جلالین مع صاوی، الانبياء، تحت الآية: ۷، ۱۲۹/۴.

برسوں تک تہجد کی نماز پڑھتا رہے، پابندی کے ساتھ پانچوں نمازیں باجماعت ادا کرتا رہے اور ساری ساری رات نوافل پڑھنے میں مصروف رہے، اس کی یہ تمام عبادات رائیگاں جائیں گی اور وہ ان کے ثواب سے محروم رہے گا۔

(3)..... کاروباری، معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے لئے شریعت نے کچھ اصول اور قوانین مقرر کئے ہیں اور انہی اصولوں پر ان معاملات کے حلال یا حرام ہونے کا مدار ہے اور جسے ان اصول و قوانین کی معلومات نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو حلال کی بجائے حرام میں مبتلا ہونے کا چانس زیادہ ہے اور حرام میں مبتلا ہونا خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہرانا ہے۔

سر دست یہ تین بنیادی اور بڑے نقصانات عرض کئے ہیں ورنہ شرعی معلومات نہ لینے کے نقصانات کی ایک طویل فہرست ہے جسے یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقائد، عبادات، معاملات اور زندگی کے ہر شعبے میں شرعی معلومات حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

فرض علوم سیکھنے کی ضرورت و اہمیت

یہاں میری ایک کتاب ”علم اور علماء کی اہمیت“ سے فرض علوم کی اہمیت و ضرورت پر ایک مضمون ملاحظہ ہو، چنانچہ اس میں ہے کہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی پر اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے نمازی پر نماز کے، روزہ رکھنے والے پر روزے کے، زکوٰۃ دینے والے پر زکوٰۃ کے، حاجی پر حج کے، تجارت کرنے والے پر خرید و فروخت کے، قسطوں پر کاروبار کرنے والے کے لئے اس کاروبار کے، مزدوری پر کام کرنے والے کے لئے اجارے کے، شرکت پر کام کرنے والے کے لئے شرکت کے، مہزاربت کرنے والے پر مہزاربت کے (مہزاربت یہ ہوتی ہے کہ مال ایک کا ہے اور کام دوسرا کرے گا)، طلاق دینے والے پر طلاق کے، میت کے کفن و دفن کرنے والے پر کفن و دفن کے، مساجد و مدارس، یتیم خانوں اور دیگر ویلفیئر کے مینٹولٹیوں پر وقف اور چندہ کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یونہی پولیس، بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیوں اور دیگر محکموں کے ملازمین نیز جج اور کسی بھی ادارے کے افسر و ناظمین پر رشوت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ اسی طرح عقائد کے مسائل سیکھنا یونہی حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریا و غیرہ جملہ امور کے متعلق مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا ان چیزوں سے تعلق ہو پھر ان میں فرائض و محرمات کا علم فرض اور واجبات

و مکروہ تحریمی کا علم سیکھنا واجب ہے اور سنتوں کا علم سیکھنا سنت ہے۔

اس مفہوم کی ایک حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے روایت ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: علم کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے یہ کہ وہ روزہ، نماز اور حرام اور حدود اور احکام کو جانے۔^(۱)

اس حدیث کی شرح میں خطیب بغدادی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ فرماتے ہیں: حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان ”علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے“ کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالت کے مسائل سیکھے جس پر اس کی لاعلمی کو قدرت نہ ہو۔^(۲)

اسی طرح کا ایک اور قول حضرت حسن بن ربیع رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن مبارک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے پوچھا کہ طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ وہ علم نہیں ہے جس کو تم آج کل حاصل کر رہے ہو بلکہ علم کا طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدمی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے پوچھے یہاں تک کہ وہ عالم اسے بتا دے۔^(۳)

حضرت علی بن حسن بن شفیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبد اللہ بن مبارک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے پوچھا: علم سیکھنے کے اندر وہ کیا چیز ہے جو لوگوں پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کام کی طرف قدم نہ اٹھائے جب تک اس کے بارے میں سوال کر کے اس کا حکم سیکھ نہ لے، یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب ہے۔ اور پھر اپنے اس کلام کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا: اگر کسی بندے کے پاس مال نہ ہو تو اس پر واجب نہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے بلکہ جب اس کے پاس دو سو درہم (ساڑھے باون تو لے چاندی یا ساڑھے سات تو لے سونا) آجائے تو اس پر یہ سیکھنا واجب ہوگا کہ وہ کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا؟ اور کب نکالے گا؟ اور کہاں نکالے گا؟ اور اسی طرح بقیہ تمام چیزوں کے احکام ہیں۔ (یعنی جب کوئی چیز پیش آئے گی تو اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جائے گا)^(۴)

امام ابو بکر احمد بن علی خطیب بغدادی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيهِ فرماتے ہیں: ”ہر مسلمان پر یہ بات واجب ہے کہ وہ کھانے

①.....الفقيه والمتفقه، وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين، ۱/۱۶۸، الحديث: ۱۵۷.

②.....الفقيه والمتفقه، وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين، ۱/۱۷۱.

③.....الفقيه والمتفقه، وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين، ۱/۱۷۱، روایت نمبر: ۱۶۲.

④.....الفقيه والمتفقه، وجوب التفقه في الدين على كافة المسلمين، ۱/۱۷۱، روایت نمبر: ۱۶۳.

پینے، پہننے میں اور پوشیدہ امور کے متعلق ان چیزوں کا علم حاصل کرے جو اس کے لیے حلال ہیں اور جو اس پر حرام ہیں۔ یونہی خون اور اموال میں جو اس پر حلال ہے یا حرام ہے یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے بے خبر (غانفل) رہنا کسی کو بھی جائز نہیں ہے اور ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے۔۔۔ اور امام یعنی حاکم وقت عورتوں کے شوہروں کو اور لونڈیوں کے آقاؤں کو مجبور کرے کہ وہ انہیں وہ چیزیں سکھائیں جن کا ہم نے ذکر کیا اور حاکم وقت پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کی اس بارے میں پکڑ کرے اور جاہلوں کو سکھانے کی جماعتیں ترتیب دے اور ان کے لئے بیت المال کے اندر رزق مقرر کرے اور علماء پر واجب ہے کہ وہ جاہلوں کو وہ چیزیں سکھائیں جن سے وہ حق و باطل میں فرق کر لیں۔^(۱)

ان تمام اقوال سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ علم دین سیکھنا صرف کسی ایک خاص گروہ کا کام نہیں بلکہ اپنی ضرورت کی بقدر علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت علم دین سے دور نظر آتی ہے۔ نمازیوں کو دیکھیں تو چالیس چالیس سال نماز پڑھنے کے باوجود حال یہ ہے کہ کسی کو وضو کرنا نہیں آتا تو کسی کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، کوئی نماز کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا تو کوئی واجبات سے جاہل ہے، کسی کی قرأت درست نہیں تو کسی کا سجدہ غلط ہے۔ یہی حال دیگر عبادات کا ہے خصوصاً جن لوگوں نے حج کیا ہو ان کو معلوم ہے کہ حج میں کس قدر غلطیاں کی جاتی ہیں! ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بس حج کے لئے چلے جاؤ جو کچھ لوگ کر رہے ہوں گے وہی ہم بھی کر لیں گے۔ جب عبادات کا یہ حال ہے تو دیگر فرض علوم کا حال کیا ہوگا؟ یونہی حسد، بغض، کینہ، تکبر، غیبت، چغلی، بہتان اور نجانے کتنے ایسے امور ہیں جن کے مسائل کا جاننا فرض ہے لیکن ایک بڑی تعداد کو ان کی تعریف کا پتہ تک نہیں بلکہ ان کی فرضیت تک کا علم نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا گناہ ہونا عموماً لوگوں کو معلوم ہوتا ہے اور وہ چیزیں جن کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں جیسے خرید و فروخت، ملازمت، مسجد و مدرسہ اور دیگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ ان کے کچھ مسائل بھی ہیں، بس ہر طرف ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے، ایسی صورت میں ہر شخص پر ضروری ہے خود بھی علم سیکھے اور جن پر اس کا بس چلتا ہوا نہیں بھی علم سیکھنے کی طرف لائے اور جنہیں خود سکھا سکتا ہے انہیں سکھائے۔

اگر تمام والدین اپنی اولاد کو اور تمام اساتذہ اپنے شاگردوں کو اور تمام پیر صاحبان اپنے مریدوں کو اور تمام افسران

۱۔۔۔۔۔ الفقیہ والمتفقہ، وجوب التفقہ فی الدین علی كافة المسلمين، ۱/۱۷۴۔

وصاحب اقتدار حضرات اپنے ماتحتوں کو علم دین کی طرف لگا دیں تو کچھ ہی عرصے میں ہر طرف دین اور علم کا دور دورہ ہو جائے گا اور لوگوں کے معاملات خود بخود شریعت کے مطابق ہوتے جائیں گے۔ فی الوقت جو نازک صورت حال ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ ایک مرتبہ سناروں کی ایک بڑی تعداد کو ایک جگہ جمع کیا گیا جب ان سے تفصیل کے ساتھ ان کا طریقہ کار معلوم کیا گیا تو واضح ہوا کہ اس وقت سونے چاندی کی تجارت کا جو طریقہ رائج ہے وہ تقریباً اسی فیصد خلاف شریعت ہے اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری دیگر تجارتیں اور ملازمتیں بھی کچھ اسی قسم کی صورت حال سے دوچار ہیں۔ جب معاملہ اتنا نازک ہے تو ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکتا ہے، اس لئے ہر شخص پر ضروری ہے کہ علم دین سیکھے اور حتی الامکان دوسروں کو سکھائے یا اس راہ پر لگائے اور یہ محض ایک مشورہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا حکم ہے، چنانچہ حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا پس شہر کا حکمران لوگوں پر حاکم ہے اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا اور مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی بیوی کے بارے میں اور ان (غلام لونڈیوں) کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کا وہ مالک ہے۔^(۱)

مذکورہ بالا حدیث میں اگرچہ ہر بڑے کو اپنے ماتحت کو علم سکھانے کا فرمایا ہے لیکن والدین پر اپنی اولاد کی ذمہ داری چونکہ سب سے زیادہ ہے اس لئے ان کو بطور خاص تاکید فرمائی گئی ہے، چنانچہ حضرت عثمان الحاطبی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو سنا کہ آپ ایک شخص کو فرما رہے تھے: اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ، بے شک تم سے تمہارے لڑکے کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم نے اسے سکھایا اور تمہارے اس بیٹے سے تمہاری فرمانبرداری اور اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔^(۲)

اس حدیث پر والدین کو خصوصاً غور کرنا چاہیے کیونکہ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں یہی گرفت میں آئیں گے، اگر صرف والدین ہی اپنی اولاد کی دینی تربیت و تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دے لیں تو علم دین سے دوری کا مسئلہ حل

①..... معجم صغير، باب الدان، من اسمه: داود، ص ۱۶۱.

②..... شعب الإيمان، الستون من شعب الإيمان... الخ، ۶/۴۰۰، روایت نمبر: ۸۶۶۲.

ہوسکتا ہے۔ مگر افسوس کہ دُنویٰ علوم کے سکھانے میں تو والدین ہر قسم کی تکلیف گوارا کر لیں گے، اسکول کی بھاری فیس بھی دیں گے، کتابیں بھی خرید کر دیں گے اور نجانے کیا کیا کریں گے لیکن علمِ دین جو ان سب کے مقابلے میں ضروری اور مفید ہے اس کے بارے میں کچھ بھی توجہ نہیں دیں گے، بلکہ بعض ایسے بد قسمت والدین کو دیکھا ہے کہ اگر اولاد دین اور علمِ دین کی طرف راغب ہوتی ہے تو انہیں جبراً منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے۔ ہم دنیوی علم کی اہمیت و ضرورت کا انکار نہیں کرتے لیکن یہ دینی علم کے بعد ہے اور والدین کا یہ کہنا کہ علمِ دین میں رکھا ہی کیا ہے؟ یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ اول تو یہ جملہ ہی کفریہ ہے کہ اس میں علمِ دین کی تحقیق ہے۔ دوم اسی پر غور کر لیں کہ علمِ دین سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادت، انبیاء کرام عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کی وراثت، دنیا و آخرت کی خیر خواہی اور قبر و حشر کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج نہیں تو کل جب حساب کے لئے بارگاہِ الہی میں حاضر ہونا پڑے گا اس وقت پتہ چلے گا کہ علمِ دین کیا ہے؟ بلکہ صرف اسی بات پر غور کر لیں کہ مرتے وقت آج تک آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ جس کو دنیا کا علم حاصل نہ کرنے پر افسوس ہو رہا ہو۔ ہاں علمِ دین حاصل نہ کرنے، دینی راہ پر نہ چلنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام نہ کرنے پر افسوس کرنے والے آپ کو ہزاروں ملیں گے اور یونہی مرنے کے بعد ایسا کوئی شخص نہ ہوگا جسے ڈاکٹری نہ سیکھنے پر، انجینئر نہ بننے پر، سائنسدان نہ بننے پر افسوس ہو رہا ہو البتہ علمِ دین نہ سیکھنے پر افسوس کرنے والے بہت ہوں گے۔ بلکہ خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن جن آدمیوں کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی ان میں ایک وہ ہے جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا۔^(۱)

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقلِ سلیم دے اور انہیں علمِ دین کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

سوال کرنا علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال کرنا علم حاصل ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ حَرَمَ اللہ تَعَالٰی وَجْہَہُ الْکَرِیْم سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّی اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”علم خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابی سوال کرنا ہے تو تم سوال کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں چار لوگوں کو اجر دیا جاتا ہے۔ (1) سوال کرنے والے کو۔ (2) سکھانے والے کو۔ (3) سننے والے کو۔ (4) ان سے محبت رکھنے والے کو۔“⁽²⁾

①..... ابن عساکر، حرف المیم، محمد بن احمد بن محمد بن جعفر... الخ، ۱۳۷/۵۱.

②..... الفقیہ والمتفقہ، باب فی السؤال والحواب وما يتعلق بہما... الخ، ۶۱/۲، الحدیث: ۶۹۳.

حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اچھا سوال کرنا نصف علم ہے۔“ (1)

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں درپیش معاملات کے بارے میں اہل علم سے سوال کرنے اور اس کے ذریعے دین کے شرعی احکام کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا أَلْيَا كُلُّونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَلِدِينَ ۝۸ ثُمَّ
صَدَقْنَاهُمُ الْوَعْدَ فَأَنْجَيْنَاهُمْ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ ۝۹

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا کہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہیں۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو انہیں نجات دی اور جن کو چاہا ہی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے انہیں کوئی ایسے بدن نہ بنایا تھا کہ وہ کھانا نہ کھائیں اور نہ وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے تھے۔ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور جن کو چاہا نجات دی اور حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔

﴿وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا﴾ اور ہم نے انہیں خالی بدن نہ بنایا۔ ﴿كَلْفَارٍ﴾ کفار مکہ نے تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر ایک اعتراض یہ کیا تھا کہ:

ترجمہ کنزالعرفان: اس رسول کو کیا ہوا؟ کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے۔

اور یہاں اس اعتراض کا جواب دیا گیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ یہی جاری ہے کہ اس نے گزشتہ زمانوں میں جتنے بھی رسول بھیجے ان کے بدن ایسے نہیں بنائے تھے جو کھانے پینے سے بے نیاز ہوں بلکہ ان کے بدن بھی ایسے ہی بنائے تھے جنہیں کھانے پینے کی حاجت ہو، یونہی وہ دنیا میں ہمیشہ رہنے والے نہ تھے بلکہ عمر پوری

1..... معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: محمد، ۱۰/۵، الحدیث: ۶۷۴۴.

2..... فرقان: ۷.

ہو جانے کے بعد ان کی بھی وفات ہوئی، اور جب اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہی یہی ہے تو کفار مکہ کا رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے کھانے پینے پر اعتراض کرنا محض بے جا اور فضول ہے۔^(۱)

﴿ثُمَّ صَدَقْنَهُمُ الْوَعْدَ﴾ پھر ہم نے اپنا وعدہ انہیں سچا کر دکھایا۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی طرف جو وحی کرنی تھی وہ وحی کی، پھر ہم نے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو نجات دینے اور ان کے دشمنوں کو ہلاک کرنے کا اپنا وعدہ سچا کر دکھایا تو ہم نے انہیں اور ان کی تصدیق کرنے والے مومنوں کو نجات دی اور انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی تکذیب کر کے حد سے بڑھنے والوں کو ہلاک کر دیا۔^(۲)

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۱۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب اتاری جس میں تمہاری ناموری ہے تو کیا تمہیں عقل نہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا چرچا ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا﴾ بیشک ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب نازل فرمائی۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ اے قریش کے گروہ! ہم نے تمہاری طرف ایک عظیم الشان کتاب نازل فرمائی جس میں تمہارا شرف اور تمہاری عزت ہے کیونکہ وہ تمہاری زبان اور تمہاری لغت کے مطابق ہے تو تم اس کتاب سے کیسے منہ پھیر سکتے ہو حالانکہ غیرت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ تم اس کتاب کی اور اس نبی کی تعظیم کرو جو اسے لے کر آئے ہیں اور اس پر سب سے پہلے ایمان لانے والے ہو جاؤ، کیا تم جاہل ہو اور تمہیں عقل نہیں کہ ایمان لا کر اس عزت و کرامت اور سعادت کو حاصل کرو۔^(۳)

اس آیت میں مذکور لفظ ”فِيهِ ذِكْرُكُمْ“ کے مفسرین نے اور معنی بھی بیان کئے ہیں، جیسے ایک معنی یہ ہے کہ ”اس

میں تمہارے لئے نصیحت ہے اور ایک معنی یہ ہے کہ ”اس میں تمہارے دینی اور دنیوی امور اور حاجات کا بیان ہے۔“^(۴)

①.....تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۸، ۱۲۲/۸، روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۸، ۴۵۶/۵، ملتقطاً.

②.....روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۹، ۴۵۷/۵، مدارک، الانبیاء، تحت الآیة: ۹، ص ۷۱۰-۷۱۱، جلالین، الانبیاء، تحت الآیة: ۹، ص ۲۷۰، ملتقطاً.

③.....ابوسعود، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰، ۵۰۷/۳، صاوی، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰، ۱۲۹۲/۴، ملتقطاً.

④.....مدارک، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰، ص ۷۱۱.

قرآن مجید کی تعلیمات سے منہ پھیرنے کا انجام

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن کریم پر ایمان لانا اور اس کے احکامات و تعلیمات پر عمل کرنا عزت و شہرت کا باعث ہے اور تاریخ اس بات پر گواہ ہے جب تک مسلمانوں نے قرآن مجید کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھا اور اس کی ہدایات و احکامات پر کامل طریقے سے عمل کیا تب تک وہ شہرت و ناموری اور عزت و کرامت کی بلندیوں پر فائز رہے اور ہر میدان میں کفار پر غلبہ و نصرت اور کامیابی حاصل کرتے رہے اور جب سے مسلمان قرآن عظیم کی تعلیمات پر عمل سے دور ہونا شروع ہوئے تب سے ان کی عزت، شہرت، ناموری اور بدبہ ختم ہونا شروع ہو گیا اور رفتہ رفتہ کفار مسلمانوں پر غالب ہونا شروع ہو گئے اور اب مسلمانوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جہاں بن پڑا وہاں کفار مسلمانوں کی سر زمین پر قابض ہیں اور جہاں نہیں بن پڑا وہاں مسلمانوں کی اقتصادیات، معاشیات اور پردہ مسلمانوں کی ذہنیت، سوچ اور کلچر پر قابض ہیں اور مسلم حکمرانوں کو اپنی انگلیوں کے اشاروں پر نچا رہے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ

وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر
اور ہم خوار ہوئے تارکِ قرآن ہو کر

اور

درسِ قرآن گر ہم نے نہ بھلایا ہوتا
یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا

وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ كَانَتْ ظَالِمَةً وَأَنْشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ ۝۱۱

ترجمہ کنزالایمان: اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں کہ وہ ستمگار تھیں اور ان کے بعد اور قوم پیدا کی۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں جو ظلم کرنے والی تھیں اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی۔

﴿وَكَمْ قَصَبْنَا مِنْ قَرْيَةٍ﴾: اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں کفار کی طرف سے حضور

سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نبوت پر کئے گئے اعتراضات اور ان کے جوابات ذکر فرمائے گئے اور یہاں سے اس امت کے کفار کو کفر نہ چھوڑنے اور ایمان نہ لانے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا جا رہا ہے۔ گویا کہ اللہ تعالیٰ

نے ارشاد فرمایا: اے کافرو! تم اپنے مال و دولت کی وسعت سے دھوکہ نہ کھاؤ اور اپنے اموال و اولاد پر غرور نہ کرو کیونکہ ہم نے بہت سی بستیوں کے کفار کو تباہ و برباد کر دیا اور ان کے بعد ہم نے دوسری قوم پیدا کر دی اور جو کچھ ان کافروں کے ساتھ ہوا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔^(۱)

**فَلَمَّا أَحْسَبُوا بَأْسَنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَرْكُضُونَ ۝۱۲ لَا تَرْكُضُوا وَأِرْجِعُوا
إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ وَمَسْكِنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَسْلُونَ ۝۱۳**

ترجمہ کنز الایمان: توجہ انہوں نے ہمارا عذاب پایا جیسی وہ اس سے بھاگنے لگے۔ نہ بھاگو اور لوٹ کے جاؤ ان آسائشوں کی طرف جو تم کو دی گئیں تھیں اور اپنے مکانوں کی طرف شاید تم سے پوچھنا ہو۔

ترجمہ کنز العرفان: توجہ انہوں نے ہمارا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ بھاگو نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں اور اپنے مکانوں کی طرف (لوٹ آؤ) شاید تم سے سوال کیا جائے۔

﴿ **فَلَمَّا أَحْسَبُوا بَأْسَنَا:** توجہ انہوں نے ہمارا عذاب پایا۔ ﴿ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان ظالموں نے اللہ تعالیٰ کا عذاب پایا تو اچانک وہ اس سے بھاگنے لگے۔ اس پرفرشتے کے ذریعے ان سے کہا گیا کہ تم بھاگو نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں اور اپنے ان مکانوں کی طرف لوٹ آؤ جن پر تم فخر کیا کرتے تھے، شاید لوگوں کی عادت کے مطابق تم سے تمہاری دنیا کے بارے میں سوال کیا جائے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ ان آیات میں یمن کی سرزمین میں موجود ایک بستی میں رہنے والے لوگوں کا حال بیان ہوا ہے۔ اس بستی کا نام حضور (یا، حضور) ہے، وہاں کے رہنے والے عرب تھے، انہوں نے اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کی اور انہیں شہید کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت نصرت کو مسلط کر دیا۔ اس نے ان کے بعض لوگوں کو قتل کیا اور بعض کو گرفتار کر لیا، اُس کا یہ عمل جاری رہا تو وہ لوگ بستی چھوڑ کر بھاگے۔ اس پرفرشتوں نے طنز کے طور پر ان سے کہا: تم بھاگو

1.....صاوی، الانبياء، تحت الآية: ۱۱، ۱۲۹۲/۴.

نہیں اور ان آسائشوں کی طرف لوٹ آؤ جو تمہیں دی گئی تھیں اور اپنے مکانوں کی طرف لوٹ آؤ، شاید تم سے سوال کیا جائے کہ تم پر کیا گزری اور تمہارے مال و دولت کا کیا ہوا؟ تو تم دریافت کرنے والے کو اپنے علم اور مشاہدے سے جواب دے سکو۔^(۱)

قَالُوا يٰوَيْلَنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ﴿۱۳﴾ فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ حَتّٰى جَعَلْنٰهُمْ حَصِيْدًا خٰبِيْنَ ﴿۱۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: بولے ہائے خرابی ہماری بیشک ہم ظالم تھے۔ تو وہ یہی پکارتے رہے یہاں تک کہ ہم نے انہیں کر دیا کائے ہوئے بچھے ہوئے۔

ترجمہ کنزالعرفان: انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی! بیشک ہم ظالم تھے۔ تو یہی ان کی چیخ و پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے انہیں کٹے ہوئے، بچھے ہوئے کر دیا۔

﴿قَالُوا يٰوَيْلَنَا: انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی۔﴾ جب وہ بھاگ کر نجات پانے سے مایوس ہو گئے اور انہیں عذاب نازل ہونے کا یقین ہو گیا تو انہوں نے کہا: ہائے ہماری بربادی! بیشک ہم ظالم تھے۔ یہ ان کی طرف سے اپنے گناہ کا اعتراف اور اس پر ندامت کا اظہار تھا لیکن چونکہ عذاب دیکھنے کے بعد انہوں نے گناہ کا اقرار کیا اور اس پر نادم ہوئے اس لئے یہ اعتراف انہیں کام نہ آیا۔^(۲)

﴿فَمَا زِلْتَ تِلْكَ دَعْوَاهُمْ: تو یہی ان کی چیخ و پکار رہی۔﴾ ارشاد فرمایا کہ ان کی یہی چیخ و پکار رہی کہ ہائے ہماری بربادی! ہم ظالم تھے۔ یہاں تک کہ ہم نے انہیں کھیت کی طرح کٹے ہوئے کر دیا کہ تلواروں سے ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے گئے اور وہ بچھی ہوئی آگ کی طرح ہو گئے۔^(۳)

①.....روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۲-۱۳، ۴۵۸/۵، حازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۲-۱۳، ۲۷۲/۳، جمل، الانبیاء،

تحت الآیة: ۱۲-۱۳، ۱۲۱/۵-۱۲۲، مدارک، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۲-۱۳، ص ۷۱۱، ملقطاً.

②.....ابو سعود، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۴، ۵۰۸/۳.

③.....جلالین، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۵، ص ۲۷۰.

کون سی توبہ فائدہ مند ہے؟

اس سے معلوم ہوا کہ عذاب آجانے پر توبہ اور اپنے جرم کا اقرار کرنا بے فائدہ ہے۔ جیسے پھل وہی درخت دیتا ہے جو وقت پر بویا جائے اور بے وقت کی بوئی ہوئی کھیتی پھل نہیں دیتی اسی طرح توبہ وہی فائدہ مند ہے جو عذاب آنے سے پہلے کی جائے اور جو توبہ بے وقت کی جائے وہ عذاب دور نہیں کرتی۔

وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبَادِينَ ﴿۱۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے عبث نہ بنائے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔

﴿وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعِبَادِينَ﴾ اور ہم نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب فضول پیدا نہیں کیا۔ ﴿اللہ تعالیٰ نے آسمان، زمین اور جو کچھ ان کے درمیان عجائبات ہیں، ان سب کو فضول پیدا نہیں کیا کہ ان سے کوئی فائدہ نہ ہو بلکہ انہیں پیدا کرنے میں اس کی کثیر حکمتیں ہیں اور ان بے شمار حکمتوں میں سے چند یہ ہیں کہ ان اشیاء سے اللہ تعالیٰ کے بندے اس کی قدرت و حکمت پر استدلال کریں اور انہیں اللہ تعالیٰ کے اوصاف و کمال کی معرفت حاصل ہو، حق و باطل میں فرق ہو جائے، لوگ غور و فکر کریں، غفلت سے بیدار ہوں، نیک اعمال کریں اور آخرت میں اچھی جزا پائیں اور اس طرح کے خیال کو ذہن میں نہ آنے دیں کہ عالم کا سارا نظام ایک کھیل تماشہ ہے اور ہر شخص دنیا میں جو بھی کرتا پھرے اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں اور نہ ہی آخرت میں اس سے سوال و جواب ہوگا جیسا کہ بطور خاص دہریوں کا عقیدہ ہے اور روز بروز ان لوگوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے۔

لَوْ أَرَادْنَا أَنْ نَتَّخِذَ لَهُمْ آلَاءَ لَا تَتَّخِذُهُ مِنْ دُونِنَا ۚ إِنَّا كُنَّا مُعْلِمِينَ ﴿۱۷﴾

بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ ۖ وَلَكُمُ الْوَيْلُ

مِمَّا تَصِفُونَ ﴿۱۸﴾

ترجیحاً کنز الایمان: اگر ہم کوئی بہلا وا اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے اختیار کرتے اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینک مارتے ہیں تو وہ اس کا بھیجہ نکال دیتا ہے تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہاری خرابی ہے ان باتوں سے جو بناتے ہو۔

ترجیحاً کنز العرفان: اگر ہم کوئی کھیل ہی اختیار کرنا چاہتے تو اپنے پاس سے ہی اختیار کر لیتے اگر ہمیں کرنا ہوتا۔ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں تو وہ اس کا دماغ توڑ دیتا ہے تو جبھی وہ مٹ کر رہ جاتا ہے اور تمہارے لئے بربادی ہے ان باتوں سے جو تم کرتے ہو۔

﴿لَوْ اَرَادْنَا اَنْ نَّتَّخِذَ لِهٰؤُلَاءِ اِغْتِيَارًا لَّخَرْنَا عَنْهُمْ آسْمَانَ وَرِیْنًا وَاَنْتُمْ لَمَّا تَعْلَمُونَ﴾ یعنی اگر ہم آسمان وزمین اور ان کے درمیان موجود اشیاء کو کسی حکمت کے بغیر بے مقصد بنا کر کسی ایسی چیز کو اختیار کرنا چاہتے جس سے کھیل جائے تو ہم ان کی بجائے اپنے پاس سے ہی کسی چیز کو اختیار کر لیتے، لیکن یہ اُلُوہیت کی شان اور حکمت کے منافی ہونے کی وجہ سے ہمارے حق میں محال ہے لہذا ہمارا کھیل کے لئے کسی چیز کو اختیار کرنا قطعی طور پر ناممکن ہے۔

بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں کھیل سے مراد بیوی اور بیٹا ہے اور یہ آیت ان عیسائیوں کے رد میں ہے جو حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كَوْمَعَاذَ اللهُ، اللّٰهُ تَعَالَى كِي بِيُوِي اور حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ كَوَاللّٰهُ تَعَالَى كَابِيْنَا كِتْبَتِيْ، چنانچہ اس قول کے مطابق آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللّٰهُ تَعَالَى كِي بِيُوِي اور بيْنَا اختيار كَرِنَا چاہتا تو وہ انسانوں میں سے نہ کرتا بلکہ اپنے پاس موجود حورِ عِين اور فرشتوں میں سے کسی کو بیوی اور بیٹا بنا لیتا، یونہی حضرت عيسى عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اور حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كِي طَرَحِ اَنِيْمِيْ لُوِكُوِي كِي پَاسِ نِه رَكْهْتَا بَلَكِه اِنِيْمِيْ پَاسِ رَكْهْتَا كِيونكِه بِيُوِي اور بيْطِيْ وَاَلِيْ بِيُوِي اور بيْطِيْ اِنِيْمِيْ پَاسِ رَكْهْتِيْ هِيْ، لِيَكِنِ چُونكِه اللّٰهُ تَعَالَى كِي بِيُوِي اور اولاد سے پاك هِيْ، نِه يِه اِس كِي شَان كِي لَاقِ هِيْ اور نِه اِس كِي حَق مِيْمِيْ يِه كِسِي طَرَح مَمْكِن هِيْ، اِس لِيْ اللّٰهُ تَعَالَى كِي اِيْسَا كِيَا هِيْ نِهِيْمِيْ۔^(۱)

①..... ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ۱۷، ۳/ ۵۰۹، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ۱۷، ۸/ ۱۲۵، حازن، الانبياء، تحت الآية: ۱۷، ۳/ ۲۷۳، ملقطاً.

﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ﴾ بلکہ ہم حق کو باطل پر پھینکتے ہیں۔ ﴿یعنی ہماری شان یہ نہیں کہ ہم کھیل کے لئے کوئی چیز اختیار کریں بلکہ ہماری شان تو یہ ہے کہ ہم حق کو باطل پر غالب کرتے ہیں تو وہ باطل کو پورا مٹا دیتا ہے اور اسی وقت باطل مکمل طور پر ختم ہو کر رہ جاتا ہے اور اے کافرو! تمہارے لئے اُن باتوں کی وجہ سے بربادی ہے جو تم اللہ تعالیٰ کی شان میں کرتے ہو اور اس کے لئے بیوی اور بچہ ٹھہراتے ہو۔ (1)

وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهٖ
وَلَا يَسْتَحْسِرُوْنَ ﴿۱۹﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اسی کے ہیں جتنے آسمانوں اور زمین میں ہیں اور اس کے پاس والے اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکیں۔

ترجمہ کنز العرفان: اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملک ہیں اور جو اللہ کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے اور نہ تھکتے ہیں۔

﴿وَلَهُ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ اور جو آسمانوں اور زمین میں ہیں سب اسی کی ملک ہیں۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی تمام مخلوقات کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سب اس کی ملک ہیں تو کوئی اس کی اولاد کیسے ہو سکتا ہے! ملکیت ہونے اور اولاد ہونے میں منافات ہے اور مقرب فرشتے جنہیں اللہ تعالیٰ کے کرم سے اس کی بارگاہ میں قرب و منزلت کا ایک خاص مقام حاصل ہے وہ اس کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے ہیں اور نہ ہی عبادت کرنے سے تھکتے ہیں۔ (2)

يُسَبِّحُوْنَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُوْنَ ﴿۲۰﴾

1..... ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ۱۸، ۱۹/۳، ۵۰.

2..... مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۱۹، ص ۷۱۲.

ترجہ کنزالایمان: رات دن اس کی پاکی بولتے ہیں اور سستی نہیں کرتے۔

ترجہ کنزالعرفان: رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، وہ سستی نہیں کرتے۔

﴿يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾ رات اور دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ ﴿یعنی فرشتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تسبیح اور پاکی بیان کرتے رہتے ہیں اور اس میں وہ کسی طرح کی سستی نہیں کرتے۔﴾^(۱)

فرشتوں کی تسبیح کی کیفیت

علامہ اسماعیل حقی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”فرشتوں کے لئے تسبیح ایسے ہے جیسے ہمارے لئے سانس لینا تو جس طرح ہمارا کھڑا ہونا، بیٹھنا، کلام کرنا اور دیگر کاموں میں مصروف ہونا ہمیں سانس لینے سے مانع نہیں ہوتا اسی طرح فرشتوں کے کام انہیں تسبیح سے مانع نہیں ہوتے۔“^(۲)

اور دلیل کے طور پر آپ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے یہ روایت ذکر فرمائی کہ حضرت عبد اللہ بن حارث رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے حضرت کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ کیا فرشتے پیغام رسانی میں مصروف نہیں ہوتے؟ کیا وہ دیگر کاموں میں مشغول نہیں ہوتے؟ (اور جب وہ ان چیزوں میں مصروف ہوتے ہیں تو پھر ہر وقت وہ تسبیح کس طرح کرتے ہیں) حضرت کعب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا ”فرشتوں کے لئے تسبیح کو ایسے بنایا گیا ہے جیسے تمہارے لیے سانس بنائی گئی ہے۔ کیا آپ کھاتے، پیتے، آتے جاتے اور بولتے وقت سانس نہیں لے رہے ہوتے؟ بالکل یہی کیفیت ان کی تسبیح کی ہے۔“^(۳)

قرب و شرف رکھنے والوں کا وصف

علامہ احمد صاوی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں ”فرشتوں کے بارے میں یہ خبر دینے سے مقصود مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت کرنے پر ابھارنا اور کافروں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت و عبادت ترک کرنے پر شرم دلانا ہے کیونکہ عبادت اور تسبیح کرنا قرب اور شرف رکھنے والے لوگوں کا وصف ہے اور اسے چھوڑ دینا (اللہ تعالیٰ کی

①.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۲۰، ۲۷۳/۳.

②.....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ۲۰، ۴۶۲/۵.

③.....شعب الايمان، الثالث من شعب الايمان... الخ، فصل في معرفة الملائكة، ۱۷۸/۱، روایت نمبر: ۱۶۱.

رحمت سے) دور ہونے والے اور ذلیل لوگوں کا شیوہ ہے۔ (1)

لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے مقرب بندوں کے طریقے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی اطاعت کرنے میں مصروف رہے اور اس سلسلے میں کسی طرح کی شرم و عار محسوس نہ کرے۔

أَمَّا تَتَّخِذُوا الْإِلَهَةَ مِنَ الْأَرْضِ هُمْ يُنْسَوْنَ ﴿۲۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے خدا بنائے ہیں کہ وہ کچھ پیدا کرتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنائے ہیں جو مردوں کو زندہ کرتے ہوں؟

﴿أَمَّا تَتَّخِذُوا الْإِلَهَةَ مِنَ الْأَرْضِ﴾: کیا انہوں نے زمین میں سے کچھ ایسے معبود بنائے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کیا کافروں نے زمین کے جواہر اور معدنیات جیسے سونے چاندی اور پتھر وغیرہ سے کچھ ایسے معبود بنائے ہیں جو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے اور نہ ہی یہ ہو سکتا ہے کہ جو خود بے جان ہو وہ کسی کو جان دے سکے، تو پھر ان چیزوں کو معبود ٹھہرانا اور الہ قرار دینا کتنا کھلا باطل ہے۔ معبود وہی ہے جو ہر شے پر قادر ہو اور جو زندگی موت دینے اور نفع نقصان پہنچانے پر ہی قادر نہیں تو اسے معبود بنانے کو کون سی عقل جائز قرار دے سکتی ہے۔ (2)

لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ

عَبَّأِصْفُونَ ﴿۲۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اگر آسمان و زمین میں اللہ کے سوا اور خدا ہوتے تو ضرور وہ تباہ ہو جاتے تو پاکی ہے اللہ عرش کے مالک کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔

1.....تفسیر صباوی، الانبیاء، تحت الآية: ۲۰، ۴/۱۲۹۴۔

2.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۲۱، ص ۷۱۲-۷۱۳، تفسیر کبیر، الانبياء، تحت الآية: ۲۱، ۸/۱۲۷، ملقطاً۔

ترجمہ کنزالعرفان: اگر آسمان وزمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان وزمین تباہ ہو جاتے تو لوگوں کی بنائی ہوئی باتوں سے اللہ پاک ہے جو عرش کا مالک ہے۔

﴿لَوْ كَانَ فِيهَا إِلَهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا﴾: اگر آسمان وزمین میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور آسمان وزمین تباہ ہو جاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے کی ایک قطعی دلیل بیان کی گئی ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر آسمانوں یا زمین پر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور خدا ہوتا تو سارے عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا، کیونکہ اگر خدا سے وہ خدا مراد لئے جائیں جن کی خدائی کا بت پرست اعتقاد رکھتے ہیں تو عالم کے فساد کا لازم ہونا ظاہر ہے کیونکہ بت پرستوں کے خدا جمادات ہیں اور وہ عالم کا نظام چلانے پر اصلاً قدرت نہیں رکھتے، تو جب قدرت ہی کچھ نہیں تو وہ کائنات کو کیسے چلاتے؟ اور اگر خدا سے مطلقاً وہ سارے خدا مراد ہوں جنہیں کوئی بھی مانتا ہے تو بھی جہان کی تباہی یقینی ہے، کیونکہ اگر وہ خدا فرض کئے جائیں تو دو حال سے خالی نہیں، (1) وہ دونوں کسی شے پر متفق ہوں گے۔ (2) وہ دونوں کسی شے پر مختلف ہوں گے۔ اگر ایک چیز پر متفق ہوئے تو اس سے لازم آئے گا کہ ایک چیز دونوں کی قدرت میں ہو اور دونوں کی قدرت سے واقع ہو۔ یہ محال ہے، اور اگر مختلف ہوئے تو ایک چیز کے بارے میں دونوں کے ارادوں کی مختلف صورتیں ہوں گی، (1) دونوں کے ارادے ایک ساتھ واقع ہوں گے۔ اس صورت میں ایک ہی وقت میں وہ چیز موجود اور معدوم دونوں ہو جائے گی۔ (2) دونوں کے ارادے واقع نہ ہوں۔ اس صورت میں وہ چیز نہ موجود ہوگی نہ معدوم۔ (3) ایک کا ارادہ واقع ہو اور دوسرے کا واقع نہ ہو۔ یہ تمام صورتیں محال ہیں کیونکہ جس کی بات پوری نہ ہوگی وہ خدا نہیں ہو سکتا حالانکہ جو صورت فرض کی گئی ہے وہ خدا فرض کر کے کی گئی ہے، تو ثابت ہوا کہ بہر صورت ایک سے زیادہ خدا ماننے میں نظام کائنات کی تباہی اور فساد لازم ہے۔ (1)

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق یہ انتہائی مضبوط دلیل ہے اور اسے بیان کرنے کے مختلف انداز بڑی تفصیل کے ساتھ علم کلام کے ماہر علماء کی کتابوں میں مذکور ہیں، عوام کی تفہیم کے لئے اتنا ہی کافی ہے جتنا بیان کیا گیا البتہ جو علماء کرام اس کی مزید تفصیلات جاننا چاہیں وہ علم کلام کے معتبر اور با اعتماد ماہرین کی لکھی ہوئی کتابوں کی طرف رجوع فرمائیں۔

1..... تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآية: ۲۱، ۸/۱۲۷، ملخصاً.

﴿فَسُبْحَانَ اللَّهِ: تو اللہ پاک ہے۔﴾ یعنی عرش کا مالک اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں لوگوں کی بنائی ہوئی ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں، لہذا نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ ہی کوئی اس کا شریک ہے۔

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اس سے نہیں پوچھا جاتا جو وہ کرے اور ان سب سے سوال ہوگا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ: اللہ سے اس کام کے متعلق سوال نہیں کیا جاتا جو وہ کرتا ہے۔﴾ یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت و شان یہ ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا نہیں جاسکتا کیونکہ وہ حقیقی مالک ہے، جو چاہے کرے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلت دے، جسے چاہے سعادت دے اور جسے چاہے بد بخت کرے، وہ سب کا حاکم ہے اور کوئی اس کا حاکم نہیں جو اس سے پوچھ سکے۔^(۱)

یہاں پوچھنے سے مراد سرزنش اور حساب کا پوچھنا ہے یعنی کسی مخلوق کی جرأت نہیں کہ رب عَزَّوَجَلَّ سے عتاب کی پوچھ گچھ کرے بلکہ رب تعالیٰ ان سے پوچھ گچھ کرے گا۔ البتہ اللہ عَزَّوَجَلَّ سے اطمینانِ قلب یا کشفِ حقیقت کے لیے سوال کر سکتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید، فرقان حمید میں ہی حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا اطمینانِ قلب کے لیے مُردوں کو زندہ کرنے کا سوال کرنا منقول ہے یا فرشتوں نے رب تعالیٰ سے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیدائش کی حکمت پوچھی تھی۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سوال اگرچہ حسن نیت سے ہو لیکن کسی دوسری حکمت کی وجہ سے مُطلقاً ہی سوال سے منع کر دیا جاتا ہے جیسا کہ اس کے متعلق بھی روایات موجود ہیں۔

بدترین اعتراضات اور ان کا انجام

یاد رہے کہ سب سے بدترین اعتراض یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے کسی فعل پر اعتراض کرے، جیسے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اعتراض کیا تو اس کی تمام تر عبادت و ریاضت اور مقام

①.....مدارک، الانبیاء، تحت الآیة: ۲۳، ص ۷۱۳، حازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۲۳، ۲۷۴/۳، ملتقطاً.

و مرتبے کے باوجود بارگاہِ الہی سے اسے مر دودور سوا کر کے نکال دیا گیا، جب اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی مخلوق پر اعتراض کا یہ انجام ہے تو جو اللہ تعالیٰ کی شان اور اس کے افعال و صفات پر اعتراض کرنے کی جرأت کرے گا اس کا کیا حال ہوگا۔

اسی طرح نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر اعتراض کرنا بھی بہت بدترین ہے کیونکہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اپنی خواہش سے کچھ کہتے ہیں نہ کرتے ہیں بلکہ جو کہتے اور کرتے ہیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو آپ پر اعتراض کرنا اللہ تعالیٰ پر اعتراض کرنا ہے اور اس میں ہلاکت و بربادی ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء اور بزرگ علماء پر اعتراض کرنا خیر و بھلائی سے محروم کر دیتا ہے، ان کی صحبت کی برکت اور علم میں اضافہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے۔ یہ تو اعتراض کرنے والوں کا دُنویٰ انجام ہے اور آخرت میں ان کا حال یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام فرمائے گا نہ ان کی طرف رحمت کی نظر فرمائے گا اور ان کے لئے جہنم کا دردناک عذاب ہوگا۔^(۱)

﴿وَهُمْ يَسْئَلُونَ﴾ اور لوگوں سے سوال کیا جائے گا۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ لوگوں سے ان کے کاموں کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا؟ کیونکہ سب اس کے بندے اور اس کی ملکیت ہیں اور سب پر اس کی اطاعت و فرمانبرداری لازم ہے۔^(۲)

اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی ایک اور دلیل بھی معلوم ہوتی ہے کہ جب سب اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہیں تو ان میں سے کوئی خدا کیسے ہو سکتا ہے کیونکہ ایک ہی چیز مالک اور مملوک نہیں ہو سکتی۔

أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً ۖ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ ۚ هَذَا ذِكْرٌ مِمَّنْ مَعِيَ
وَذِكْرٌ مِّنْ قَبْلِي ۖ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ فَهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: کیا اللہ کے سوا اور خدا بنا رکھے ہیں تم فرماؤ اپنی دلیل لاؤ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے اگلوں کا تذکرہ بلکہ ان میں اکثر حق کو نہیں جانتے تو وہ روگرداں ہیں۔



①.....روح البیان، الانبیاء، تحت الآية: ۲۳، ۵/۴۶۵-۴۶۶، ملخصاً.

②.....خازن، الانبیاء، تحت الآية: ۲۳، ۳/۲۷۴.

ترجہ کنز العرفان: کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ تم فرماؤ: تم اپنی دلیل لاؤ۔ یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے اور مجھ سے پہلوں کا تذکرہ ہے بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے تو وہ منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿ **أَوَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ** : کیا انہوں نے اللہ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ ﴾ اللہ تعالیٰ نے کفار کو ڈانٹتے ہوئے استفہام کے انداز میں فرمایا کہ کیا انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنا رکھے ہیں؟ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ ان مشرکین سے فرمادیں کہ تم اپنے اس باطل دعوے پر اپنی دلیل لاؤ اور حجت قائم کرو خواہ عقلی ہو یا نقلی، مگر تم نہ کوئی عقلی دلیل لا سکتے ہو جیسا کہ مذکورہ بالا دلائل سے ظاہر ہو چکا اور نہ کوئی نقلی دلیل پیش کر سکتے ہو، کیونکہ تمام آسمانی کتابوں میں اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے اور سب میں شرک کو باطل قرار دیا گیا اور اس کا رد کیا گیا ہے۔^(۱)

﴿ **هَذَا ذِكْرٌ مِّنْ مَّعَى** : یہ قرآن میرے ساتھ والوں کا ذکر ہے۔ ﴾ ساتھ والوں سے مراد حضور پر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی امت ہے، قرآن کریم میں اس کا ذکر ہے کہ اس کو طاعت پر کیا ثواب ملے گا اور معصیت پر کیا عذاب کیا جائے گا۔ پہلوں سے مراد یہ ہے کہ پہلے انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی امتوں کا اور اس کا تذکرہ ہے کہ دنیا میں ان کے ساتھ کیا کیا گیا اور آخرت میں کیا کیا جائے گا۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ ساتھ والوں کے ذکر سے مراد قرآن مجید ہے اور پہلوں کے ذکر سے مراد تورات اور انجیل ہے، اور معنی یہ ہے کہ تم قرآن، تورات، انجیل اور تمام (آسمانی) کتابوں کی طرف رجوع کرو، کیا تم ان میں یہ بات پاتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار کی یا اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟^(۲)

﴿ **بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ الْحَقَّ** : بلکہ ان کے اکثر لوگ حق کو نہیں جانتے۔ ﴾ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کے عوام کا حال یہ کہ وہ حق کو جانتے نہیں اور بے شعوری و جہالت کی وجہ سے حق سے منہ پھیرے ہوئے ہیں اور اس بات پر غور و فکر نہیں کرتے کہ توحید پر ایمان لانا ان کے لئے کتنا ضروری ہے جبکہ ان کے علماء جان بوجھ کر عناد کی وجہ سے حق کے منکر ہیں۔^(۳)

①.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۲۴، ۲۷۴/۳، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۲۴، ص ۷۱۳، ملقطاً.

②.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۲۴، ۲۷۵/۳.

③.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۲۴، ص ۷۱۳، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ۲۴، ۴۶۷-۴۶۶/۵، ملقطاً.

فساد کی سب سے بڑی جڑ

اس سے معلوم ہوا کہ حق کے بارے میں معلومات نہ ہونا اور حق و باطل میں تمیز نہ کرنا حق سے منہ پھیرنے کا بہت بڑا سبب اور فساد کی سب سے بڑی جڑ ہے کیونکہ ان ہی دو چیزوں کا یہ نتیجہ ہے کہ کئی لوگ کفر و شرک جیسے عظیم فساد میں مبتلا ہیں، بعض افراد منافقت کے بدترین مرض کا شکار ہیں، بعض مسلمان ریا کاری، نفسانی خواہشات کی پیروی اور دنیا کی محبت میں گرفتار ہیں، بعض پڑھے لکھے جاہل حضرات اپنے مسلمان ہونے کا دعویٰ کرنے کے باوجود اسلام کے احکام اور ان کی حکمتوں سے ناواقف ہونے کی وجہ سے پرنٹ اور الیکٹرونک میڈیا اور بطور خاص سوشل میڈیا پر اسلامی احکام اور اسلامی اقدار پر اعتراضات کرنے اور انہیں انسانیت کے برخلاف ثابت کرنے میں مصروف ہیں، نیز دین اسلام کی تعلیمات سے جہالت کی وجہ سے لوگوں کی ایک تعداد اپنے باہمی امور میں شریعت کی رعایت کرنے سے منہ پھیرے ہوئے ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم عطا فرمائے، حق کا علم، حق و باطل میں تمیز کرنے، حق کو اختیار کرنے اور باطل سے منہ پھیر لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا

أَنَا فَاعْبُدُونِ ﴿۲۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو مجھی کو پوجو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر یہ کہ ہم اس کی طرف وحی فرماتے رہے کہ میرے سوا کوئی معبود نہیں تو میری ہی عبادت کرو۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا﴾ اور ہم نے تم سے پہلے کوئی رسول نہ بھیجا مگر۔ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ہم نے آپ سے پہلے جس امت کی طرف کوئی رسول اور نبی بھیجا، ہم اس کی طرف وحی فرماتے

رہے کہ زمین و آسمان میں میرے علاوہ کوئی معبود نہیں جو عبادت کئے جانے کا مستحق ہو، تو اخلاص کے ساتھ میری عبادت کرو اور صرف مجھے ہی معبود مانو۔^(۱)

آیت ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ“ سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے تین باتیں معلوم ہونیں

- (۱)..... ہر نبی علیہ السلام پر وحی آتی تھی۔ نبوت کے لئے وحی لازم و ضروری ہے۔
- (۲)..... تمام انبیاء اور رُسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کو مبعوث فرمانے کی بنیادی حکمت اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کرنا اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے۔
- (۳)..... تمام انبیاء اور رُسل علیہم الصلوٰۃ والسلام عقائد میں متفق ہیں، اعمال میں فرق ہے۔ کسی نبی علیہ السلام کے دین میں شرک جائز نہیں ہوا، لہذا سجدہ تعظیمی شرک نہیں کیونکہ بعض انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں یہ ہوا ہے البتہ ہماری شریعت میں حرام ضرور ہے۔

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحٰنَہٗ ۗ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ ۝۲۶

لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِہٖ يَعْبَلُونَ ۝۲۷

ترجمہ کنزالایمان: اور بولے رحمن نے بیٹا اختیار کیا پاک ہے وہ بلکہ بندے ہیں عزت والے۔ بات میں اس سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اسی کے حکم پر کار بند ہوتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کافروں نے کہا: رحمن نے اولاد بنالی ہے۔ وہ پاک ہے، بلکہ (فرشتے) عزت والے بندے ہیں۔ وہ کسی بات میں اللہ سے سبقت نہیں کرتے اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں۔

﴿وَقَالُوا﴾ اور کافروں نے کہا۔ ﴿﴾ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت خزاعہ قبیلے کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں

۱..... تفسیر طبری، الانبیاء، تحت الآیة: ۲۵، ۱۶/۹.

نے فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا تھا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی اولاد نہیں بلکہ وہ اس کے برگزیدہ اور مکرم بندے ہیں، وہ کسی بات میں اللہ تعالیٰ سے سبقت نہیں کرتے، صرف وہی بات کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ انہیں حکم دیتا ہے اور وہ کسی اعتبار سے اللہ تعالیٰ کے حکم کی مخالفت نہیں کرتے بلکہ اس کے ہر حکم پر عمل کرتے ہیں۔^(۱)

يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ
وَهُمْ مِّنْ خَشِيَّتِهِ مُشْفِقُونَ ﴿۲۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور شفاعت نہیں کرتے مگر اس کے لیے جسے وہ پسند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ﴾: وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے۔ ﴿اس آیت کی تفسیر میں ایک قول یہ ہے کہ جو کچھ فرشتوں نے کیا اور جو کچھ وہ آئندہ کریں گے سب کچھ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ فرشتوں کی تخلیق سے پہلے کیا تھا اور ان کی تخلیق کے بعد کیا ہوگا۔^(۲)

﴿وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنْ ارْتَضَىٰ﴾: اور وہ صرف اسی کی شفاعت کرتے ہیں جسے اللہ پسند فرمائے۔ ﴿حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ ”لِمَنْ ارْتَضَىٰ“ سے وہ لوگ مراد ہیں جو توحید کے قائل ہوں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے ہر وہ شخص مراد ہے جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو (جن کا مسلمان ہونا بہر حال ضروری ہے۔)^(۳)

①.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۲۶-۲۷، ۲۷۵/۳.

②.....بغوي، الانبياء، تحت الآية: ۲۸، ۲۰۴/۳.

③.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۲۸، ۲۷۵/۳.

فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی کریں گے

یاد رہے کہ فرشتے دنیا میں بھی شفاعت کرتے ہیں، کیونکہ وہ زمین پر رہنے والے ایمان والوں کے لئے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگتے ہیں، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ
بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُونَ بِهِ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً
وَعِلْمًا فَاعْفُرْ لِلَّذِينَ تَابُوا وَاتَّبَعُوا سَبِيلَكَ
وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيمِ (1)

ترجمہ کنزالعرفان: عرش اٹھانے والے اور اس کے ارد گرد موجود (فرشتے) اپنے رب کی تعریف کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں اور مسلمانوں کی بخشش مانگتے ہیں۔ اے ہمارے رب! تیری رحمت اور علم ہر شے سے وسیع ہے تو انہیں بخش دے جو توبہ کریں اور تیرے راستے کی پیروی کریں اور انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے۔

اور ارشاد فرماتا ہے

وَالْمَلَائِكَةُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ
لِمَنْ فِي الْأَرْضِ (2)

ترجمہ کنزالعرفان: اور فرشتے اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے ہیں اور زمین والوں کے لیے معافی مانگتے ہیں۔

اور آخرت میں بھی فرشتے مسلمانوں کی شفاعت کریں گے جیسا کہ زیر تفسیر آیت سے معلوم ہو رہا ہے اور مسلم شریف کی حدیث میں ہے کہ (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا: فرشتوں نے، نبیوں نے اور ایمان والوں نے شفاعت کر لی اور اب ارحم الراحمین کے علاوہ اور کوئی باقی نہیں رہا، پھر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی ایک تعداد کو جہنم سے نکال لے گا جنہوں نے کبھی کوئی نیک عمل نہ کیا ہوگا۔ (3)

﴿وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ﴾: اور وہ اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ یعنی فرشتے اس مقام و مرتبے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے بے خوف نہیں بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔ (4)

1.....مومن: ۷.

2.....شوری: ۵.

3.....مسلم، کتاب الایمان، باب معرفة طریق الرؤية، ص ۱۱۲، الحدیث: ۳۰۲ (۱۸۳).

4.....بخاری، الانبياء، تحت الآية: ۲۸، ۲۷۵/۳.

فرشتوں کا خوفِ خدا

فرشتے اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر، اس کی پکڑ اور اس کے قہر سے کس قدر خوف زدہ رہتے ہیں، اس سلسلے میں 4

احادیث ملاحظہ ہوں

(1)..... حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”میں معراج کی رات فرشتوں کے پاس سے گزرا تو حضرت جبرئیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے اس چادر کی طرح تھے جو اونٹ کی پیٹھ پر ڈالی جاتی ہے۔“ (1)

(2)..... ایک روایت میں ہے کہ حضرت جبرئیل علیہ السلام سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”تم کیوں رو رہے ہو؟“ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی: جب سے اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا فرمایا ہے تب سے میری آنکھ اس خوف کی وجہ سے خشک نہیں ہوئی کہ کہیں مجھ سے اللہ تعالیٰ کی کوئی نافرمانی ہو جائے اور میں جہنم میں ڈال دیا جاؤں۔“ (2)

(3)..... حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت جبرئیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میں نے کبھی حضرت اسرافیل علیہ السلام کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت جبرئیل علیہ السلام نے عرض کی: جب سے جہنم کو پیدا کیا گیا ہے تب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام نہیں ہنستے۔“ (3)

(4)..... نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کے پہلو اس کے خوف کی وجہ سے لرزتے رہتے ہیں، ان کی آنکھ سے گرنے والے ہر آنسو سے ایک فرشتہ پیدا ہوتا ہے، جو کھڑے ہو کر اپنے رب عزوجل کی پاکی بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔“ (4)

فرشتے گناہوں سے معصوم ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے اس قدر ڈرتے ہیں تو ہر نیک اور گناہگار مسلمان کو بھی چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر سے ڈرے اور اس کی پکڑ، گرفت اور قہر سے خوف کھائے۔ اللہ تعالیٰ سب

1..... معجم الاوسط، باب العين، من اسمہ عبد الرحمن، ۳/۹، الحدیث: ۴۶۷۹.

2..... شعب الایمان، الحادی عشر من شعب الایمان... الخ، ۵۲۱/۱، الحدیث: ۹۱۵.

3..... مسند امام احمد، مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ۴/۴۴۷، الحدیث: ۱۳۳۴۲.

4..... شعب الایمان، الحادی عشر من شعب الایمان... الخ، ۵۲۱/۱، الحدیث: ۹۱۴.

مسلمانوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلٰهُ مِمَّنْ دُوْنِهٖ فَذٰلِكَ نَجْزِيْهِ جَهَنَّمَ ط كَذٰلِكَ
نَجْزِي الظّٰلِمِيْنَ ع (۲۹)

ترجمہ کنزالایمان: اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی جزا دیں گے ہم ایسی ہی سزا دیتے ہیں ستمگاروں کو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ان میں جو کوئی کہے کہ میں اللہ کے سوا معبود ہوں تو اسے ہم جہنم کی سزا دیں گے۔ ہم ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتے ہیں۔

﴿وَمَنْ يَّقُلْ مِنْهُمْ اِنِّي اِلٰهُ مِمَّنْ دُوْنِهٖ﴾ اور ان میں جو کوئی کہے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں دراصل ان مشرکوں کو ڈرایا گیا ہے جو معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں تاکہ وہ اپنے شرک سے باز آجائیں، اور آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بفرض محال فرشتوں میں سے کوئی یہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سوا معبود ہوں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی دوسرے مجرموں کی طرح جہنم کی سزا دے گا اور اس فرشتے کے اوصاف اور پسندیدہ افعال جہنم کی سزا سے اسے بچانہ سکیں گے اور اللہ تعالیٰ ان ظالموں کو ایسی ہی سزا دیتا ہے جو اس کے سوا معبود ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں (اور جب فرشتوں کے بارے اللہ تعالیٰ کا یہ فیصلہ ہے تو اسے مشرکوں! اس بدترین عمل سے باز نہ آنے کی صورت میں تمہارا انجام کتنا دردناک ہوگا؟)

اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ بات ”میں اللہ کے سوا معبود ہوں“ کہنے والا ابلیس ہے جو اپنی عبادت کی دعوت دیتا ہے، فرشتوں میں اور کوئی ایسا نہیں جو یہ کلمہ کہے۔^(۱) یاد رہے کہ ابلیس درحقیقت جنات میں سے ہے اور چونکہ وہ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا اس لیے حکمی طور پر ان ہی میں سے شمار ہوتا تھا۔

اَوَلَمْ يَرِ الْذِيْنَ كَفَرُوْا اَنَّ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنٰهُمَا ط

1..... روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۲۹، ۴۶۹/۵، حازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۲۹، ۲۷۵/۳، ملتنقطاً.

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ﴿۳۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین بند تھے تو ہم نے انہیں کھولا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان نہ لائیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟

﴿أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾: کیا کافروں نے یہ خیال نہ کیا۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی شانِ قدرت اور شانِ تخلیق کا بیان ہے اور اسی میں عقیدہ شرک کی تردید بھی ہے کہ جب ان چیزوں کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں تو عبادت میں اس کا کوئی شریک کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا کافروں نے اس بات پر غور نہیں کیا کہ آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے تو ہم نے انہیں کھول دیا اور ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے پیدا فرمایا تو ان روشن نشانیوں کے باوجود کیا مشرکین ایمان نہیں لائیں گے؟ (1)

آسمان وزمین ملے ہوئے ہونے سے کیا مراد ہے؟

اس آیت میں فرمایا گیا کہ آسمان وزمین ملے ہوئے تھے، اس سے ایک مراد تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ملا ہوا تھا ان میں فصل و جدائی پیدا کر کے انہیں کھولا گیا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ آسمان اس طور پر بند تھا کہ اس سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین اس طور پر بند تھی کہ اس سے نباتات پیدا نہیں ہوتی تھیں، تو آسمان کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے بارش ہونے لگی اور زمین کا کھولنا یہ ہے کہ اس سے سبزہ پیدا ہونے لگا۔ (2)

اس معنی کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ حلیۃ الاولیاء میں ہے کہ ایک شخص حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پاس آیا اور آسمانوں اور زمین کے بارے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان ”كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا“ کے متعلق

1.....تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۳۰، ۱۳۶/۸، روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۳۰، ۴۷۰/۵-۴۷۱، ملتقطاً.

2.....خازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۳۰، ۲۷۵/۳.

پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ ”حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے پاس جاؤ اور ان سے پوچھ لو، پھر جو وہ جواب دیں مجھے بھی بتانا۔ وہ شخص حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے پاس گیا اور ان سے یہی سوال کیا تو انہوں نے فرمایا: ہاں آسمان ملا ہوا تھا اس سے بارش نہیں ہوتی تھی اور زمین بھی ملی ہوئی تھی کوئی چیز نہ اگاتی تھی پھر جب اللہ تعالیٰ نے زمین پر مخلوق کو پیدا کیا تو آسمان کو بارش کے ساتھ اور زمین کو نباتات کے ساتھ پھاڑ دیا۔ وہ شخص حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے پاس واپس آیا اور انہیں حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کا جواب سنایا تو حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا ”بے شک حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کو علم عطا کیا گیا ہے، انہوں نے سچ اور صحیح فرمایا ہے، وہ بالکل اسی طرح تھے۔“^(۱)

﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ﴾: اور ہم نے ہر جاندار چیز پانی سے بنائی۔ ﴿ہر جاندار چیز کو پانی سے بنانے سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں: (۱) اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کو جانداروں کی حیات کا سبب بنایا ہے۔ (۲) اس کے معنی یہ ہیں کہ ہر جاندار پانی سے پیدا کیا ہوا ہے۔ (۳) پانی سے نطفہ مراد ہے۔ (۲)﴾^(۲)

﴿أَفَلَا يُؤْمِنُونَ﴾: تو کیا وہ ایمان نہیں لائیں گے؟ ﴿اس سے مراد یہ ہے کہ کیا وہ ایسا نہیں کریں گے کہ ان دلائل میں غور و فکر کریں اور اس کے ذریعے اُس خالق کو جان لیں جس کا کوئی شریک نہیں اور شرک کا طریقہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئیں۔﴾^(۳)

اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے موجودہ دور کے تمام سیکولر اور ملحد مفکرین کو چاہئے کہ وہ ان دلائل میں غور و فکر کریں جو خدا کے موجود ہونے پر دلالت کرتے ہیں اور خدا کے موجود نہ ہونے کا نظریہ چھوڑ کر اس خدا پر ایمان لے آئیں جو اس کائنات کو پیدا کرنے والا اور اس کے نظام کو چلانے والا ہے۔

وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيًا أَنْ تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا

①.....حلیۃ الاولیاء، ذکر الصحابة من المهاجرین، عبد اللہ بن عباس، ۱/۳۹، روایت نمبر ۱۱۲۸.

②.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۳۰، ۳/۲۷۵-۲۷۶.

③.....تفسیر کبیر، الانبياء، تحت الآية: ۳۰، ۸/۱۳۸.

سُبُلًا لَّعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ ﴿۳۱﴾ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا ۗ وَهُمْ عَنْ أَيْتِهَا مُعْرِضُونَ ﴿۳۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور زمین میں ہم نے لنگر ڈالے کہ انھیں لے کر نہ کانپے اور ہم نے اس میں کشادہ راہیں رکھیں کہ کہیں وہ راہ پائیں۔ اور ہم نے آسمان کو چھت بنایا نگاہ رکھی گئی اور وہ اس کی نشانیوں سے روگرداں ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیئے تاکہ لوگوں کو لے کر حرکت نہ کرتی رہے اور ہم نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ وہ راستہ پالیں۔ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ لوگ اس کی نشانیوں سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَاسًا﴾ اور زمین میں ہم نے مضبوط لنگر ڈال دیئے۔ ﴿اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین میں مضبوط پہاڑ قائم کر دیئے تاکہ زمین جم جائے، ٹھہری رہے اور غیر متوازن حرکت نہ کرے اور لوگ اس پر آرام و سکون کے ساتھ چل سکیں اور اللہ تعالیٰ نے اس میں کشادہ راستے بنائے تاکہ لوگ اپنے سفروں میں راستہ پالیں اور جن مقامات کا ارادہ کریں وہاں تک پہنچ سکیں۔

﴿وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا﴾ اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا۔ ﴿یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کو ایک گرنے سے محفوظ چھت بنایا اور کافروں کا حال یہ ہے کہ وہ آسمانی کائنات سورج، چاند، ستارے اور اپنے اپنے افلاک میں ان کی حرکتوں کی کیفیت اور اپنے اپنے مطالع سے ان کے طلوع اور غروب اور ان کے احوال کے عجائبات جو عالم کو بنانے والے کے وجود، اس کی وحدت اور اس کی قدرت و حکمت کے کمال پر دلالت کرتے ہیں، ان سب سے اعراض کرتے ہیں اور ان دلائل سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ (۱)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ریاضی اور فلکیات کا علم اعلیٰ علوم میں سے ہے جبکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت کا ذریعہ

1.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۳۲، ۲۷۶/۳.

بنایا جائے۔ صوفیاء کرام دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ فَرَمَاتے ہیں کہ ایک گھڑی کی فکر ہزار سال کے اس ذکر سے افضل ہے جو بغیر فکر کے ہو۔

وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ ۗ كُلٌّ فِي فَلَكٍ
يَسْبَحُونَ ﴿۳۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور وہی ہے جس نے بنائے رات اور دن اور سورج اور چاند ہر ایک ایک گھیرے میں تیر رہا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سب ایک گھیرے میں تیر رہے ہیں۔

﴿وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ﴾: اور وہی ہے جس نے رات اور دن کو پیدا کیا۔ ارشاد فرمایا کہ وہی اکیلا معبود ہے جس نے رات کو تاریک بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کریں اور دن کو روشن بنایا تاکہ اس میں معاش وغیرہ کے کام انجام دیں اور سورج کو پیدا کیا تاکہ وہ دن کا چراغ ہو اور چاند کو پیدا کیا تاکہ وہ رات کا چراغ ہو۔ یہ سب ایک گھیرے میں ایسے تیر رہے ہیں جس طرح تیراک پانی میں تیرتا ہے۔^(۱)

وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ ۗ أَفَأَنْ مَّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ ﴿۳۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے دنیا میں ہمیشگی نہ بنائی تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ ہمیشہ رہیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے (دنیا میں) ہمیشہ رہنا نہ بنایا تو کیا اگر تم انتقال فرماؤ تو یہ دوسرے لوگ ہمیشہ رہیں گے؟

1..... مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۳۳، ص ۷۱۵، حازن، الانبياء، تحت الآية: ۳۳، ۲۷۶/۳، ملقطاً.

﴿وَمَا جَعَلْنَا الْبَشَرَ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ﴾: اور ہم نے تم سے پہلے کسی آدمی کے لیے ہمیشہ رہنا نہ بنایا۔ ﴿گزشتہ آیات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے قادرِ مُطْلَق ہونے کی نشانیاں بیان فرمائیں اور اسی کے تحت اپنی نعمتوں کا بھی بیان فرمایا، اب ان آیات میں بتایا جا رہا ہے کہ دنیا فنا ہونے والی ہے اور اس میں ہر چیز کو فنا ہونا ہے لہذا اس میں دل نہ لگاؤ اور نہ ہی اس دنیا کے عجائب و غرائب اور اس کی آرائشوں پر جان و دل سے قربان ہو جاؤ بلکہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے تو یہ چیزیں تمہاری آزمائش کے لیے پیدا کی ہیں لہذا اپنی ابدی زندگی پر نظر رکھتے ہوئے اسی کی تیاری کرو۔ شانِ نزول: رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے دشمن اپنی گمراہی اور دشمنی کی وجہ سے کہتے تھے کہ ہم حوادثِ زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں، عنقریب ایسا وقت آنے والا ہے کہ حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی وفات ہو جائے گی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ دشمنانِ رسول کے لئے یہ کوئی خوشی کی بات نہیں کیونکہ ہم نے دنیا میں کسی آدمی کے لئے پیشگی نہیں رکھی۔ اے حبیبِ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، کیا اگر آپ انتقال فرما جائیں تو یہ لوگ ہمیشہ رہیں گے اور انہیں موت کے پنجے سے رہائی مل جائے گی؟ جب ایسا نہیں ہے تو پھر وہ کس بات پر خوش ہوتے ہیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ ہر جانِ موت کا مزہ چکھنے والی ہے۔^(۱)

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۖ وَنَبَلُّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً ۗ وَإِلَيْنَا

تُرْجَعُونَ ﴿۳۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے اور ہم تمہاری آزمائش کرتے ہیں برائی اور بھلائی سے جانچنے کو اور ہماری ہی طرف تمہیں لوٹ کر آنا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں اور ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔

﴿وَنَبَلُّوْكُمْ بِالْشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾: اور ہم برائی اور بھلائی کے ذریعے تمہیں خوب آزماتے ہیں۔ ﴿یعنی ہم تمہیں راحت

1.....حازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۳۴-۳۵، ۳/۲۷۶.

و تکلیف، تندرستی و بیماری، دولت مندی و ناداری، نفع اور نقصان کے ذریعے آزماتے ہیں تاکہ ظاہر ہو جائے کہ صبر و شکر میں تمہارا کیا درجہ ہے اور بالآخر تم ہماری ہی طرف لوٹائے جاؤ گے اور ہم تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں گے۔^(۱)

مصیبت آنے پر صبر اور نعمت ملنے پر شکر کرنے کی ترغیب

اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات مصیبت نازل کر کے یا نعمت عطا کر کے بندے کو اس بات میں آزمایا جاتا ہے کہ وہ مصیبت آنے پر کتنا صبر کرتا اور نعمت ملنے پر کتنا شکر کرتا ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ جب وہ محتاجی یا بیماری وغیرہ کسی مصیبت میں مبتلا ہو تو شکوہ شکایت نہ کرے بلکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور اس کی اطاعت و فرمانبرداری میں مصروف رہے اور جب اسے مال داری اور صحت وغیرہ کوئی نعمت ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے۔ ترغیب کے لئے یہاں مصیبت پر صبر اور نعمت پر شکر کرنے سے متعلق 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔

(1)..... حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جو

صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرمادے گا اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔⁽²⁾

(2)..... حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا

”بے شک زیادہ اجر سخت آزمائش پر ہی ہے اور اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو انہیں آزمائش میں مبتلا کر دیتا ہے، تو جو اس کی قضا پر راضی ہو اس کے لئے رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لئے ناراضی ہے۔⁽³⁾

(3)..... حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد

فرمایا ”جسے چار چیزیں عطا کی گئیں اسے دنیا و آخرت کی بھلائی عطا کی گئی: (۱) شکر کرنے والا دل۔ (۲) اللہ تعالیٰ کا ذکر

کرنے والی زبان۔ (۳) مصیبت پر صبر کرنے والا بدن۔ (۴) اس کے مال اور عزت میں خیانت نہ کرنے والی بیوی۔⁽⁴⁾

(4)..... حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں: مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو نعمت عطا فرماتا

ہے تو ان سے شکر کا مطالبہ فرماتا ہے، اگر وہ اس کا شکر کریں تو اللہ تعالیٰ انہیں زیادہ دینے پر قادر ہے اور اگر وہ ناشکری کریں

①..... حازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۳۵، ۲۷۶/۳.

②..... مسلم، کتاب الزکاة، باب فضل التعفف و الصبر، ص ۵۲۴، الحدیث: ۱۲۴ (۱۰۵۳).

③..... ابن ماجہ، کتاب الفتن، باب الصبر علی البلاء، ۳۷۴/۴، الحدیث: ۴۰۳۱.

④..... معجم الکبیر، طلق بن حبيب عن ابن عباس، ۱۳۴/۱۱، الحدیث: ۱۱۲۷۵.

تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ اپنی نعمت کو ان پر عذاب سے بدل دے۔^(۱)

وَإِذَا سَأَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي
يَذُكُرُ إِلَيْكُمْ ۚ وَهُمْ يَذُكُرُونَ ۚ هُمُ الرُّحْمٰنُ هُمْ كَفِرُونَ ﴿۳۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور جب کافر تمہیں دیکھتے ہیں تو تمہیں نہیں ٹھہراتے مگر ٹھٹھا کیا یہ ہیں وہ جو تمہارے خداؤں کو برا کہتے ہیں اور وہ رحمن ہی کی یاد سے منکر ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں تو آپ کو صرف ہنسی مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے اور وہ (کافر) رحمن ہی کی یاد سے منکر ہیں۔

﴿وَإِذَا سَأَلَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور جب کافر آپ کو دیکھتے ہیں۔ ﴿گزشتہ آیت میں سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے وصال کی باتیں کرنے والوں کو جواب دیا گیا، اب اس آیت میں ان لوگوں کو جواب دیا جا رہا ہے جو معاذ اللہ عَزَّوَجَلَّ، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ مسخرہ پن کیا کرتے تھے۔ شانِ نزول: یہ آیت ابو جہل کے بارے میں نازل ہوئی۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تشریف لے جا رہے تھے تو ابو جہل آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو دیکھ کر ہنسا اور اپنے ساتھ موجود لوگوں سے کہنے لگا کہ: یہ بنی عبد مناف کے نبی ہیں، پھر وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے: کیا یہ وہ آدمی ہے جو تمہارے خداؤں کو برا کہتا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، یہ آپ پر اپنے خداؤں کو برا کہنے کا عیب لگاتے ہیں حالانکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ وہ رحمن ہی کی یاد سے منکر ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم رحمن کو جانتے ہی نہیں۔ اس جہالت اور گمراہی میں مبتلا ہونے کے باوجود آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ ہنسی کے قابل تو خود ان کا اپنا حال ہے۔^(۲)

①..... شعب الایمان، الثالث والثلاثون من شعب الایمان... الخ، ۱۲۷/۴، روایت نمبر: ۴۵۳۶.

②..... خازن، الانبیاء، تحت الآية: ۳۶، ۲۷۷/۳، مدارك، الانبیاء، تحت الآية: ۳۶، ص ۷۱۶، روح البیان، الانبیاء، تحت الآية: ۳۶، ۴۷۹/۵-۴۸۰، ملقطاً.

خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ ۖ سَأُورِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿۳۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: آدمی جلد باز بنایا گیا اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا مجھ سے جلدی نہ کرو۔

ترجمہ کنزاعرفان: آدمی جلد باز بنایا گیا۔ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا تو مجھ سے جلدی نہ کرو۔

﴿خُلِقَ الْإِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ﴾: آدمی جلد باز بنایا گیا۔ ﴿اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جلد بازی کی زیادتی اور صبر کی کمی کی وجہ سے گویا انسان بنایا ہی جلد بازی سے گیا ہے یعنی جلد بازی انسان کا خمیر ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جلد بازی کو انسان کی فطرت اور اخلاق میں پیدا کیا گیا ہے۔ یہاں آیت میں انسان سے کون مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے تین قول ہیں: (1) اس سے انسان کی جنس مراد ہے۔ (2) یہاں انسان سے مراد نضر بن حارث ہے۔ (3) اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں۔⁽¹⁾

﴿سَأُورِيكُمْ آيَاتِي﴾: اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ ﴿شان نزول﴾: جب نضر بن حارث نے جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ کیا تو اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اب میں تمہیں اپنی نشانیاں دکھاؤں گا۔ ان نشانیوں سے عذاب کے وعدے مراد ہیں جو مشرکین کو دیتے گئے تھے، ان وعدوں کا وقت قریب آ گیا ہے، لہذا انہیں چاہئے کہ وقت سے پہلے ان کا مطالبہ نہ کریں۔ چنانچہ دنیا میں بدر کے دن وہ منظر ان کی نگاہوں کے سامنے آ گیا اور آخرت میں وہ جہنم کا عذاب دیکھیں گے۔⁽²⁾

حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی گستاخی کا انجام

علامہ اسماعیل حقی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے اس مقام پر ”تاویلاتِ نجمیہ“ کے حوالے سے ایک بہت پیارا نکتہ بیان کیا ہے کہ (گویا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا) اے کافرو! تم اپنی جہالت و گمراہی کی وجہ سے عذاب طلب کرنے میں جلدی مچا رہے ہو، کیونکہ تم نے مذاق اڑا کر اور دشمنی کر کے میرے حبیب اور میرے نبی صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو تکلیف دی ہے۔

①..... روح المعانی، الانبیاء، تحت الآیة: ۳۷، ۶۴/۹-۶۵.

②..... خازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۳۷، ۲۷۷/۳، روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۳۷، ۴۸۰/۵، ملئقطاً.

(میرے اولیاء کا میری بارگاہ میں یہ مقام ہے کہ) جس نے میرے کسی ولی سے دشمنی کی تو اس نے مجھ سے جنگ کا اعلان کر دیا اور بے شک اس نے عذاب طلب کرنے میں جلدی کر لی کیونکہ میں اپنے اولیاء کی وجہ سے شدید غضب فرماتا ہوں اور جو بد بخت میرے حبیب اور میرے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے دشمنی کرے تو اس کا انجام کیا ہوگا۔^(۱)

اس میں ان لوگوں کے لئے بڑی عبرت ہے جو حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے لئے بے ادبانہ انداز اپنا کر، آپ کی سیرت اور سنتوں کا مذاق اڑا کر، آپ کے اعمال کو ہدف تنقید بنا کر، آپ کے صحابہ کرام اور آل اولاد پر انگشتِ اعتراض اٹھا کر الغرض کسی بھی طریقے سے حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے لئے اذیت اور تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔

جلد بازی کی مذمت اور مستقل مزاجی کی اہمیت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جلد بازی ایسی بری چیز ہے کہ اس کی وجہ سے انسان اپنی ہلاکت و بربادی اور عبرتناک موت تک کا مطالبہ کر بیٹھتا ہے اور یہ جلد بازی کا ہی نتیجہ ہے کہ انسان اچھائی کو برائی اور برائی کو اچھائی سمجھ بیٹھتا ہے اور وہ کوئی عملی قدم اٹھانے سے پہلے اس کے اچھے اور برے پہلوؤں پر غور نہیں کرتا اور یوں اکثر وہ اپنا نقصان کر بیٹھتا ہے جبکہ اس کے مقابلے میں مستقل مزاج اور سکون و اطمینان سے کام کرنے والا آدمی اپنے مقصد کو پالیتا ہے اور نقصان سے بھی بچ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جب تم نے بردباری سے کام لیا تو اپنے مقصد کو پالیا، یا عنقریب پالو گے اور جب تم نے جلد بازی کی تو تم خطا کھا جاؤ گے یا ممکن ہے کہ تم سے خطا سرزد ہو جائے۔“^(۲)

حضرت حسن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جو جلدی کرتا ہے وہ خطا میں پڑتا ہے۔“^(۳)

لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ جلد بازی سے بچے اور مستقل مزاجی کو اختیار کرنے کی کوشش کرے۔ خیال رہے کہ چند چیزوں میں جلدی اچھی ہے، جیسے گناہوں سے توبہ، نماز کی ادائیگی، جب کفول جائے تو لڑکی کی شادی اور میت

①..... روح البیان، الانبياء، تحت الآية: ۳۷، ۴۸۱/۵.

②..... السنن الصغرى، كتاب آداب القاضى، باب الثبوت فى الحكم، ۶۱۰/۲، الحديث: ۴۴۹۹.

③..... نوادر الاصول، الاصل الحادى والستون والمائتان، ۱۲۶۸/۲، الحديث: ۱۵۵۹.

کی تجہیز و تکفین کرنے میں جلدی کرنا۔^(۱)

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۳۸﴾ لَوْ يَعْلَمُ الَّذِينَ كَفَرُوا
حِينَ لَا يَكْفُونَ عَنْ وُجُوهِهِمُ النَّارَ وَلَا عَنْ ظُهُورِهِمْ وَلَا هُمْ يُبْصِرُونَ ﴿۳۹﴾
بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً فَتَبْهَتُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ ﴿۴۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور کہتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ اگر تم سچے ہو۔ کسی طرح جانتے کافر اس وقت کو جب نہ روک سکیں گے اپنے مونہوں سے آگ اور نہ اپنی پیٹھوں سے اور نہ ان کی مدد ہو۔ بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں بے حواس کر دے گی پھر نہ وہ اسے پھیر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کہتے ہیں: اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب ہوگا؟ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ بلکہ وہ (قیامت) ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی پھر نہ وہ اسے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی۔

﴿وَيَقُولُونَ﴾ اور کہتے ہیں۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین نے جلدی مچاتے اور مذاق اڑاتے ہوئے کہا: اے مسلمانوں کے گروہ! اگر تم سچے ہو تو عذاب یا قیامت کا یہ وعدہ کب پورا ہوگا؟ ارشاد فرمایا گیا کہ اگر کافر اس وقت کو جان لیتے جب وہ اپنے چہروں سے اور اپنی پیٹھوں سے دوزخ کی آگ کو نہ روک سکیں گے اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، تو وہ کفر پر قائم نہ رہتے اور عذاب طلب کرنے میں جلدی نہ کرتے۔^(۲) نیز کفار کو اپنے عذاب کا حقیقی علم ہو جاتا تو قیامت کا وقت نہ پوچھتے بلکہ اس کیلئے تیاری کرتے۔

①..... مستقل مزاجی کی اہمیت اور جلد بازی کے نقصانات سے متعلق مفید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب ”جلد بازی کے نقصانات“ (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔

②..... قرطبی، الانبیاء، تحت الآیة: ۳۸-۳۹، ۱۶۱/۶، الجزء الحادی عشر، تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۳۸-۳۹، ۱۴۵/۸-۱۴۶، حازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۳۸-۳۹، ۲۷۷/۳، ملتقطاً.

﴿بَلْ تَأْتِيهِمْ بَغْتَةً﴾: بلکہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گی۔ ﴿کفار کے طلب کردہ عذاب کی شدت بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کفار کو اس کے آنے کا وقت معلوم نہیں بلکہ وہ قیامت ان پر اچانک آ پڑے گی تو انہیں حیران کر دے گی، پھر نہ وہ اسے کسی حیلے سے رد کر سکیں گے اور نہ انہیں توبہ و معذرت کی مہلت دی جائے گی۔^(۱)

وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ
مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِءُونَ ﴿۴۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک تم سے اگلے رسولوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا تو مسخرگی کرنے والوں کا ٹھٹھا انہی کو لے بیٹھا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو جس (عذاب) کا مذاق اڑاتے تھے اسی نے ان کو گھیر لیا۔

﴿وَلَقَدْ اسْتَهْزَيْ بِرُسُلٍ مِّنْ قَبْلِكَ﴾: اور بیشک تم سے اگلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ ﴿اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مزید تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے پیارے حبیب! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جس طرح آپ کی قوم نے آپ کا مذاق اڑایا اسی طرح ان سے پہلے کے کفار بھی اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے تو مذاق اڑانے والوں کا مذاق انہیں کو لے بیٹھا اور وہ اپنے مذاق اڑانے اور مسخرہ پن کرنے کے وبال و عذاب میں گرفتار ہوئے۔ لہذا آپ رنجیدہ نہ ہوں، آپ کے ساتھ استہزاء کرنے والوں کا بھی یہی انجام ہونا ہے۔^(۲)

قُلْ مَنْ يَّكْفُرْكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ مِنَ الرَّحْمٰنِ ۗ بَلْ هُمْ عَنْ ذِكْرِ
رَبِّهِمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۴۲﴾

۱.....تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۴۰، ۱۴۶/۸.

۲.....تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۴۱، ۱۴۶/۸، الانعام، تحت الآیة: ۱۰، ۴۸۷/۴، ملتقطاً.

ترجہ کنزالایمان: تم فرماؤ شبانہ روز تمہاری کون نگہبانی کرتا ہے رحمن سے بلکہ وہ اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہیں۔

ترجہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: رات اور دن میں رحمن کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ بلکہ وہ اپنے رب کے ذکر سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿قُلْ: تم فرماؤ۔﴾ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ ان مذاق اڑانے والے مغرور کافروں سے فرمائیں کہ اگر اللہ تعالیٰ رات اور دن میں تم پر اپنا عذاب نازل کرے تو اس کے عذاب سے تمہاری کون حفاظت کرے گا؟ کیا اس کے علاوہ کوئی اور ایسا ہے جو تمہیں عذاب سے محفوظ رکھ سکے؟ تو حقیقت میں یہ لوگ سراسر غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَنْعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَ أَنفُسِهِمْ وَلَا هُمْ
مِّنَّا يُصْحَبُونَ ﴿۳۳﴾

ترجہ کنزالایمان: کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو ان کو ہم سے بچاتے ہیں وہ اپنی ہی جانوں کو نہیں بچا سکتے اور نہ ہماری طرف سے ان کی یاری ہو۔

ترجہ کنزالعرفان: کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچالیں گے؟ وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد و حفاظت کی جاتی ہے۔

﴿أَمْ لَهُمُ إِلَهَةٌ تَنْعُهُمْ مِّنْ دُونِنَا: کیا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچالیں گے؟﴾ ارشاد فرمایا کہ کیا ان کافروں کے خیال میں ہمارے سوا ان کے کچھ خدا ہیں جو انہیں ہم سے بچاتے ہیں اور ہمارے عذاب سے محفوظ رکھتے ہیں؟ ایسا تو نہیں ہے اور اگر وہ اپنے بتوں کے بارے میں یہ اعتقاد رکھتے ہیں تو ان بتوں کا حال یہ ہے کہ وہ اپنی ہی جانوں کی مدد نہیں کر سکتے، اپنے پوجنے والوں کو کیا بچا سکیں گے اور نہ ہی ان کی ہماری طرف سے مدد و حفاظت کی جاتی ہے۔^(۱)

1.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۴۳، ۲۷۸/۳، تفسير كبير، الانبياء، تحت الآية: ۴۳، ۱۴۷/۸، ملقطاً.

بَلْ مَتَّعْنَاهُمُ لَوْلَاءَ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ ۝۲۱؎ اَفَلَا يَرَوْنَ اَنَّا
نَاتِي الْاَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ اَطْرَافِهَا ۝۲۲؎ اَفَهُمُ الْغٰلِبُوْنَ ۝۲۲؎

ترجمہ کنزالایمان: بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتاؤ دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوئی تو کیا نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں تو کیا یہ غالب ہوں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوگئی تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں۔ تو کیا یہ غالب ہوں گے؟

﴿بَلْ مَتَّعْنَاهُمُ لَوْلَاءَ وَاٰبَاءَهُمْ﴾: بلکہ ہم نے انہیں اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا۔ ارشاد فرمایا: بلکہ ہم نے ان کفار کو اور ان کے باپ دادا کو فائدہ اٹھانے دیا اور دنیا میں انہیں نعمت و مہلت دی یہاں تک کہ زندگی ان پر دراز ہوگئی اور وہ اس سے اور زیادہ مغرور ہوئے اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ہمیشہ ایسے ہی رہیں گے تو کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم کفرستان کی زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے آ رہے ہیں اور روز بروز مسلمانوں کو اس پر تسلط دے رہے ہیں اور ایک شہر کے بعد دوسرا شہر فتح ہوتا چلا آ رہا ہے، حدود اسلام بڑھ رہی ہیں اور کفر کی سر زمین گھٹتی چلی آتی ہے اور مکہ مکرمہ کے قریبی علاقوں پر مسلمانوں کا تسلط ہوتا جا رہا ہے، کیا مشرکین جو عذاب طلب کرنے میں جلدی کرتے ہیں اس کو نہیں دیکھتے اور عبرت حاصل نہیں کرتے، تو کیا یہ غالب ہوں گے جن کے قبضہ سے زمین و مہمدم نکلتی جا رہی ہے یا رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اور ان کے اصحاب جو اللہ تعالیٰ کے فضل سے فتح پر فتح پار رہے ہیں اور ان کے مقبوضہ علاقے رفتہ رفتہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ (1)

غفلت و عذاب کا عمومی سبب

اس سے معلوم ہوا کہ لمبی عمر، مال کی زیادتی اور زیادہ آرام عموماً غفلت اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب بن جاتے

1.....حازن، الانبياء، تحت الآية: ۴۴، ۲۷۸/۳، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۴۴، ص ۷۱۷، ملقطاً.

ہیں اور یہی چیزیں جب نیکیوں میں صرف ہوں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بن جاتی ہیں، جیسے شیطان کی لمبی عمر اس کے لئے زیادہ عذاب کا باعث ہے اور حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دراز عمر شریف عین رحمت پروردگار ہے۔

پہلے کافروں اور اب مسلمانوں پر زمین کے کناروں کی کمی

ابتداءً اسلام میں مسلمان چونکہ قرآن مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر کامل طریقے سے عمل پیرا تھے اور انہوں نے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و پیروی کو مضبوطی سے تھاما ہوا تھا جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر یہ انعام فرمایا کہ کفار کی آبادیوں، بستیوں، شہروں اور ملکوں پر ان کا غلبہ ختم کر کے مسلمانوں کو قبضہ عطا کر دیا اور رفتہ رفتہ روم اور ایران کی طاقتور ترین سلطنتیں مسلمانوں کے تسلط میں آگئیں، عراق اور مصر کی سرزمین پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا، افریقی ممالک اور اندلس کے شہر مسلمانوں کے اقتدار میں آگئے اور دنیا کے ایک تہائی حصے پر دین اسلام کا پرچم لہرانے لگا۔

صدیوں تک مسلمانوں کا یہی حال رہا اور اس عرصے میں مسلمان علمی، فنی، حربی اور تعمیری میدان میں ترقی در ترقی کرتے رہے اور یہ دور مسلمانوں کی خوشحالی اور ترقی کا زریں دور رہا۔ پھر جب مسلمان قرآن مجید کے احکامات اور اس کی تعلیمات پر عمل سے دور ہونے لگے اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری سے روگردانی شروع کر دی، عیش و عشرت کی بزم گرم کرنے اور رقص و سرور کی محفل سجانے لگ گئے، ایک دوسرے سے اقتدار چھیننے میں مصروف ہوئے اور اقتدار کے حصول کی خاطر اسلام کے دشمنوں کو اپنا مددگار بنانے اور ان سے مدد حاصل کرنے لگ گئے تو اس کا انجام یہ ہوا کہ ان کی ملی وحدت پارہ پارہ ہونا شروع ہو گئی اور آہستہ آہستہ مسلمانوں کے مفتوحہ علاقے کفار کے قبضے میں آنے لگ گئے، اسلامی سلطنت کی حدود سمٹنے لگ گئیں اور اب دنیا بھر میں مسلمانوں کا جو حال ہے وہ سب کے سامنے ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اپنے ماضی سے سبق نہ سیکھیں گے تو کوئی بعید نہیں کہ مسلمانوں کا رہا سہا غلبہ و اقتدار بھی ان سے چھن جائے۔

قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنَادُونَ ﴿۲۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ کہ میں تم کو صرف وحی سے ڈراتا ہوں اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب ڈرائے جائیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: میں تم کو صرف وحی کے ذریعے ڈراتا ہوں اور بہرے پکارنا نہیں سنتے جب انہیں ڈرایا جائے۔

﴿قُلْ: تم فرماؤ۔﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ ان کافروں سے فرمادیں کہ میرا کام یہ ہے کہ قرآن مجید میں میری طرف جو وحی کی جاتی ہے اس کے ذریعے میں تمہیں اُس عذاب سے ڈراؤں جس کے آنے کی تم جلدی مچا رہے ہو، عذاب کو لانا میرا کام نہیں۔ آیت کے آخر میں کافروں کے متعلق فرمایا کہ جیسے بہروں کو کسی خطرے میں آواز دی جائے تو انہیں یہ آواز فائدہ نہیں دیتی کیونکہ ان میں کسی کی آواز سے نفع اٹھانے کی صلاحیت نہیں ہے اسی طرح کفار کی حالت ہے کہ انہیں عذاب کی وعیدیں فائدہ نہیں دیتیں کیونکہ انہوں نے ہدایت کی بات سننے سے خود کو بہرا کیا ہوا ہے۔

آیت ”قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ“ سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے۔

- (1)..... پیغمبر پر احکام سنا دینا لازم ہے، دل میں اتارنا لازم نہیں کہ یہ خدا کا کام ہے۔
- (2)..... جو وعظ سے نفع حاصل نہ کرے، وہ بہرا ہے یعنی دل کا بہرا ہے، اگرچہ بظاہر اس میں سننے کی قوت موجود ہو۔

وَلَيْنُ مَسَّتْهُمْ نَفْحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ يُوَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۳۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے ہائے خرابی ہماری بیشک ہم ظالم تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اگر انہیں تمہارے رب کے عذاب کی ہوا چھو جائے تو ضرور کہیں گے: ہائے خرابی! بیشک ہم ظالم تھے۔

﴿وَلَيْنُ مَسَّتْهُمْ: اور اگر انہیں چھو جائے۔﴾ اس سے پہلی آیت میں بیان ہوا کہ عذاب آنے کی خبر سن کر کافروں پر کوئی اثر نہ ہوا اور یہاں فرمایا کہ جب عذاب آجائے گا تو پھر انہیں پتہ چلے گا کہ انہیں کتنی جلدی اثر ہوتا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا

کہ اگر انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا معمولی حصہ پہنچ جائے تو اس وقت یہ ضرور پکاریں گے کہ ہائے ہم برباد ہو گئے، ہم ہلاک ہو گئے، بے شک ہم نبی کی بات پر توجہ نہ دے کر اور ان پر ایمان نہ لاکر اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔^(۱)

غفلت و بدبختی کا شکار لوگوں کا حال

علامہ اسماعیل حقی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ غفلت و بدبختی کا شکار لوگ دنیا میں انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی تنبیہ اور اولیاء کرام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمُ کے وعظ سے نصیحت حاصل نہیں کرتے یہاں تک کہ موت کے بعد انہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کے آثار میں سے کوئی اثر پہنچے، کیونکہ ابھی لوگ سو رہے ہیں اور جب انہیں موت آئے گی تو یہ بیدار ہو جائیں گے، پھر یہ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے کی وجہ سے ہائے بربادی، ہائے ہلاکت پکاریں گے۔ لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضی کے اسباب سے بچے اور رحمت و نجات کے دروازے کی طرف آئے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور پرہیزگاری کا راستہ اختیار کرے اور نفسانی خواہشات کو پورا کرنے سے بچے۔^(۲)

وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ
مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا ۖ وَكَفَىٰ بِمَا حَسِبْتُمْ

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم عدل کی ترازوئیں رکھیں گے قیامت کے دن تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر ہو تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم کافی ہیں حساب کو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب کرنے کیلئے کافی ہیں۔

①..... ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ۴۶، ۳/۴۲۰، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۴۶، ص ۷۱۷-۷۱۸، ملقطاً.

②..... روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ۴۶، ۵/۴۸۵.

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ﴾ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو رکھیں گے جن کے ذریعے اعمال کا وزن کیا جائے گا تاکہ ان کی جزادی جائے تو کسی جان پر اس کے حقوق کے معاملے میں کچھ ظلم نہ ہوگا اور اگر اعمال میں سے کوئی چیز رائی کے دانہ کے برابر بھی ہوگی تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم ہر چیز کا حساب کرنے کیلئے کافی ہیں۔^(۱)

یاد رہے کہ میزان کا معنی اور اعمال کے وزن کی صورتوں نیز میزان سے متعلق مزید کلام سورہ اعراف کی آیت نمبر 8 کی تفسیر کے تحت گزر چکا ہے۔

میزان کے خطرے سے نجات پانے والا شخص

قیامت کے ہولناک مراحل میں سے ایک انتہائی ہولناک مرحلہ وہ ہے جب لوگوں کے اعمال کا وزن کیا جائے گا اور یہاں کسی کے ثواب میں کمی کر کے یا کسی کے گناہوں میں اضافہ کر کے اس پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ ہر ایک کے ساتھ عدل و انصاف ہوگا اور ہر ایک کو اس کا حق دیا جائے گا لہذا اس مرحلے میں کامیابی حاصل کرنے کے لئے دنیا میں تیاری بہت ضروری ہے۔ ترمذی شریف میں حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اس نے آپ کے سامنے بیٹھ کر عرض کی: یا رسول الله! صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، میرے کچھ غلام ہیں جو مجھ سے جھوٹ بولتے، میرے ساتھ خیانت کرتے اور میری نافرمانی کرتے ہیں، میں انہیں گالیاں دیتا اور مارتا ہوں، تو ان سے متعلق میرا کیا حال ہوگا؟ حضور اقدس صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”(جب قیامت کا دن ہوگا تو) ان لوگوں نے جو تمہاری خیانت کی، تمہاری نافرمانی کی اور تم سے جھوٹ بولا اور جو تم نے انہیں سزا دی، ان سب کا حساب لگایا جائے گا، پھر اگر تیری سزا ان کے جرموں کے برابر ہوگی تو حساب بے باق ہے، نہ تیرا ان کے ذمہ نہ ان کا تیرے ذمہ کچھ ہوگا، اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصوروں سے کم ہوگا تو تجھے ان پر بزرگی حاصل ہوگی اور اگر تیرا انہیں سزا دینا ان کے قصور سے زیادہ ہو تو زیادتی کا تجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ وہ شخص ایک طرف ہو گیا اور چپخیں مار کر رونے لگا، نبی کریم صَلَّي اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس سے ارشاد فرمایا: ”کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان نہیں پڑھا

﴿وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا

تَرْجِبُهُ كُنُوزُ الْعَرَفَانِ﴾ اور ہم قیامت کے دن عدل کے ترازو

①..... روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۴۷، ۴۸۵/۵-۴۸۶، جلالین، الانبیاء، تحت الآیة: ۴۷، ص ۲۷۳، ملتقطاً.

تُظَلِمُ نَفْسٌ شَيْئًا

رکھیں گے تو کسی جان پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔“

اس شخص نے عرض کی: میں اپنے اور ان غلاموں کے لیے ان کی جدائی سے بہتر کوئی چیز نہیں پاتا، میں آپ کو گواہ بناتا ہوں کہ یہ سارے آزاد ہیں۔^(۱)

امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: میزان کے خطرے سے وہی بچ سکتا ہے جس نے دنیا میں اپنا محاسبہ کیا ہو اور اس میں شرعی میزان کے ساتھ اپنے اعمال، اقوال اور خطرات و خیالات کو تولد ہو، جیسا کہ حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا ”اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے اور (قیامت کے دن) وزن کرنے سے پہلے خود وزن کر لو۔“ اپنے نفس کے حساب (یا محاسبہ) سے مراد یہ ہے کہ بندہ مرنے سے پہلے روزانہ سچی توبہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے فرائض میں جو کوتاہی کی ہے اس کا تدارک کرے اور لوگوں کے حقوق ایک ایک کوڑی کے حساب سے واپس کرے اور اپنی زبان، ہاتھ یا دل کی بدگمانی کے ذریعے کسی کی بے عزتی کی ہو تو اس کی معافی مانگے اور ان کے دلوں کو خوش کرے حتیٰ کہ جب اسے موت آئے تو اس کے ذمہ نہ کسی کا کوئی حق ہو اور نہ ہی کوئی فرض، تو یہ شخص کسی حساب کے بغیر جنت میں جائے گا۔ اور اگر وہ لوگوں کے حقوق ادا کرنے سے پہلے مر جائے تو (قیامت کے دن) حق دار اس کا گھیراؤ کریں گے، کوئی اسے ہاتھ سے پکڑے گا، کوئی اس کی پیشانی کے بال پکڑے گا، کسی کا ہاتھ اس کی گردن پر ہوگا، کوئی کہے گا: تم نے مجھ پر ظلم کیا، کوئی کہے گا: تو نے مجھے گالی دی، کوئی کہے گا: تم نے مجھ سے مذاق کیا، کوئی کہے گا: تم نے میری غیبت کرتے ہوئے ایسی بات کہی جو مجھے بری لگتی تھی، کوئی کہے گا: تم میرے پڑوسی تھے لیکن تم نے مجھے ایذا دی، کوئی کہے گا: تم نے مجھ سے معاملہ کرتے ہوئے دھوکہ کیا، کوئی کہے گا: تو نے مجھ سے سودا کیا تو مجھ سے دھوکہ کیا اور مجھ سے اپنے مال کے عیب کو چھپایا، کوئی کہے گا: تو نے اپنے سامان کی قیمت بتاتے ہوئے جھوٹ بولا، کوئی کہے گا: تو نے مجھے محتاج دیکھا اور تو مال دار تھا لیکن تو نے مجھے کھانا نہ کھلایا، کوئی کہے گا: تو نے دیکھا کہ میں مظلوم ہوں اور تو اس ظلم کو دور کرنے پر قادر بھی تھا، لیکن تو نے ظالم سے مصالحت کی اور میرا خیال نہ کیا۔

تو جب اس وقت تیرا یہ حال ہوگا اور حق داروں نے تیرے بدن میں ناخن گاڑ رکھے ہوں گے اور تیرے گریبان پر مضبوط ہاتھ ڈالا ہوگا اور تو ان کی کثرت کے باعث حیران و پریشان ہوگا حتیٰ کہ تو نے اپنی زندگی میں جس سے ایک درہم

①.....ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة الانبياء عليهم السلام، ۱۱۱/۵، الحدیث: ۳۱۷۶۔

کا معاملہ کیا ہوگا یا اس کے ساتھ کسی مجلس میں بیٹھا ہوگا تو غیبت، خیانت یا حقارت کی نظر سے دیکھنے کے اعتبار سے اس کا تجھ پر حق بنتا ہوگا اور تو ان کے معاملے میں کمزور ہوگا اور اپنی گردن اپنے آقا اور مولیٰ کی طرف اس نیت سے اٹھائے گا کہ شاید وہ تجھے ان کے ہاتھ سے چھڑائے کہ اتنے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا تیرے کانوں میں پڑے گی:

اَلْيَوْمَ تُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ ۗ لَا ظُلْمَ اَلْيَوْمَ (۱)

ترجمہ کنزالعرفان: آج ہر جان کو اس کے کمائے ہوئے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ آج کسی پر زیادتی نہیں ہوگی۔

اس وقت ہیبت کے مارے تیرا دل نکل جائے گا اور تجھے اپنی ہلاکت کا یقین ہو جائے گا اور اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی زبانی جو تجھے ڈرایا تھا وہ تجھے یاد آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ ۗ اِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيْهِ الْاَبْصَارُ ۗ مَهْطِعِيْنَ مُّقْنِعِيْ رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ اِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ ۗ وَاَفِئْتُهُمْ هَوَآءًا ۗ وَاَنْذِرِ النَّاسَ (۲)

ترجمہ کنزالعرفان: اور (اے سننے والے!) برگر اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن کیلئے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے، ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اور لوگوں کو ڈراؤ۔

آج جب تو لوگوں کی عزتوں کے پیچھے پڑتا ہے اور ان کے مال کھاتا ہے تو کس قدر خوش ہوتا ہے، لیکن اس دن تجھے کس قدر حسرت ہوگی جب تو عدل کے میدان میں اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوگا اور اس وقت تو مفلس، فقیر، عاجز اور ذلیل ہوگا، نہ کسی کا حق ادا کر سکے گا اور نہ ہی کوئی عذر پیش کر سکے گا۔ پھر تیری وہ نیکیاں جن کے لیے تو نے زندگی بھر مشقت برداشت کی تجھ سے لے کر ان لوگوں کو دے دی جائیں گی جن کے حقوق تیرے ذمہ ہوں گے، اور یہ ان کے حقوق کا عوض ہوگا۔ تو دیکھو اس دن تم کس قدر مصیبت میں مبتلا ہو گے کیوں کہ پہلے تو تمہاری نیکیاں ریاکاری اور شیطانی مکر و فریب سے محفوظ نہیں ہوں گی اور اگر طویل مدت کے بعد کوئی ایک نیکی بچ بھی جائے تو اس پر حق دار دوڑیں گے اور اسے

1..... مومن: ۱۷.

2..... ابراہیم: ۴۲-۴۴.

لے لیں گے اور شاید تو اپنے نفس کا محاسبہ کرنے، دن کو روزہ رکھنے اور رات کو قیام کرنے والا ہو، تو تجھے معلوم ہوگا کہ تو دن بھر مسلمانوں کی غیبت کرتا رہا جو تیری تمام نیکیوں کو لے گئی، باقی برائیاں مثلاً حرام اور مشتبہ چیزیں کھانا اور عبادات میں کوتاہی کرنا اپنی جگہ ہے اور جس دن سینگوں والے جانور سے بے سینگ جانور کا حق لیا جائے گا تو اس دن حقوق سے چھکارا پانے کی امید کیسے رکھ سکتا ہے۔ (1)

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور اوجالا اور پرہیزگاروں کو نصیحت۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا اور روشنی اور پرہیزگاروں کیلئے نصیحت دی۔

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ﴾ اور بیشک ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فیصلہ دیا۔ ﴿یہاں سے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے حالات بیان کیے جا رہے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اللہ عزوجل کے دین کی خدمت کی، اس راہ میں پیش آنے والی تکلیفیں برداشت کیں اور صبر و استقامت کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑا تا کہ بعد میں دین کی خدمت کرنے والوں کے لیے مشعل راہ ہوں اور وہ بھی صبر و استقامت، ایثار و اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے دین کا کام کریں۔ چنانچہ سب سے پہلے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا گیا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کو ایسی کتاب عطا کی جس کا وصف یہ ہے کہ وہ حق و باطل کو الگ الگ کر دینے والی ہے اور وہ ایسی روشنی ہے جس سے نجات کی راہ معلوم ہوتی ہے اور وہ ایسی نصیحت ہے جس سے پرہیزگار تنبیہ و نصیحت اور دینی امور کا علم حاصل کرتے ہیں۔ (2)

تورات شریف حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو تو بلا واسطہ دی گئی اور حضرت ہارون علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واسطہ سے عطا کی گئی۔

1..... احیاء علوم الدین، کتاب ذکر الموت وما بعده، الشطر الثانی، صفة الخصماء ورد الظلم، ۵/ ۲۸۱-۲۸۲.

2..... مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۴۸، ص ۷۱۸.

الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ﴿۳۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: وہ جو بے دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور انہیں قیامت کا اندیشہ لگا ہوا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت سے ڈرتے ہیں۔

﴿الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ﴾ وہ جو اپنے رب سے بغیر دیکھے ڈرتے ہیں۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا: پرہیزگار لوگوں کا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں حالانکہ انہوں نے اس کے عذاب کا مشاہدہ نہیں کیا اور وہ قیامت کے دن ہونے والے عذاب، حساب، سوال اور اس کی دیگر ہولناکیوں سے ڈرتے ہیں اور اسی خوف کے سبب وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے سے بچتے ہیں۔^(۱)

بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی فضیلت

وہ لوگ جو بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، ان کی فضیلت سے متعلق قرآن مجید میں ایک مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنزالعرفان: جو رحمن سے بن دیکھے ڈرتا ہے اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آتا ہے۔ (ان سے فرمایا جائے گا) سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔

مَنْ خَشِيَ الرَّحْمَنَ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُّنِيبٍ ﴿۳۹﴾ ادْخُلْهَا بِسَلَامٍ ۚ ذَٰلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ ﴿۲﴾

اور دوسرے مقام پر ارشاد فرماتا ہے:

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک جو لوگ بغیر دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش اور بڑا ثواب ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ ﴿۳۹﴾

①..... روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۴۹، ۵/ ۸۸، مدارک، الانبیاء، تحت الآیة: ۴۹، ص ۷۱۸، تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۴۹، ۱/ ۱۵۱، ملقطاً.

②..... ق: ۳۳، ۳۴.

③..... ملک: ۱۲.

اور حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا ”اللَّهُ تَعَالَى ارشاد فرماتا ہے: میری عزت و جلال اور مخلوق پر میری بلندی کی قسم! نہ تو میں اپنے بندے پر دو خوف جمع کروں گا اور نہ اس کے لیے دو امن جمع کروں گا، جو دنیا میں مجھ سے ڈرتا رہا اسے میں قیامت کے دن امن دوں گا اور جو دنیا میں مجھ سے بے خوف رہا اسے میں قیامت کے دن خوف میں مبتلا کر دوں گا۔^(۱)

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پرہیزگار بندوں میں شامل فرمائے، دنیا میں ہمیں اپنا خوف نصیب کرے اور آخرت میں خوف سے محفوظ فرمائے، آمین۔

وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ أَنْزَلْنَاهُ ۖ أَفَأَنْتُمْ لَهُ مُنْكَرُونَ ۝٤٥

ترجمہ کنزالایمان: اور یہ ہے برکت والا ذکر کہ ہم نے اتارا تو کیا تم اس کے منکر ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور یہ برکت والا ذکر ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے تو کیا تم اس کے منکر ہو؟

﴿وَهَذَا ذِكْرٌ مُّبْرَكٌ﴾: اور یہ برکت والا ذکر ہے۔ یعنی جس طرح ہم نے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر تورات نازل فرمائی اسی طرح ہم نے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر برکت والا ذکر قرآن پاک نازل فرمایا ہے، اس کے منافع کثیر اور اس میں بہت وسیع علوم ہیں اور ایمان لانے والوں کے لئے اس میں بڑی برکتیں ہیں، اور جب یہ ظاہر ہو گیا کہ جس طرح ہم نے تورات نازل فرمائی اسی طرح قرآن مجید بھی نازل فرمایا تو اے اہل مکہ! کیا یہ سب جاننے کے باوجود تم قرآن مجید کے ہماری طرف سے نازل ہونے کا انکار کرتے ہو؟^(۲)

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَلِيمِينَ ۝٥١ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّبَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عِقْفُونَ ۝٥٢

①..... ابن عساکر، محمد بن علی بن الحسن بن ابی المضاء... الخ، ۲۶۷/۵۴.

②..... خازن، الانبیاء، تحت الآية: ۵۰، ۲۷۹/۳، روح البیان، الانبیاء، تحت الآية: ۵۰، ۴۸۹/۵، ملتقطاً.

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی نیک راہ عطا کر دی اور ہم اس سے خبردار تھے۔ جب اس نے اپنے باپ اور قوم سے کہا یہ مورتیں کیا ہیں جن کے آگے تم آسن مارے ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے اس کی سمجھداری دیدی تھی اور ہم اسے جانتے تھے۔ یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا: یہ مجھے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو۔

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا اِبْرٰهٖمَ: اور بیشک ہم نے ابراہیم کو دیدی تھی۔﴾ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ کے واقعات میں سے یہاں دوسرا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے اور یہ حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ کا واقعہ ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک ہم نے حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ کو ان کی ابتدائی عمر میں بالغ ہونے سے پہلے ہی ان کی نیک راہ عطا کر دی تھی اور ہم ان کے بارے میں جانتے تھے کہ وہ ہدایت و نبوت کے اہل ہیں۔^(۱)

﴿اِذْ قَالَ لِاٰبِیْہٖ وَقَوْمِہٖ: یاد کرو جب اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا۔﴾ یعنی وہ وقت یاد کریں جب حضرت ابراہیم عَلَیْهِ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَامُ نے اپنے (عرفی) باپ اور اپنی قوم سے فرمایا: درندوں پرندوں اور انسانوں کی صورتوں کے بنے ہوئے یہ مجھے کیا ہیں جن کے آگے تم جم کر بیٹھے ہوئے ہو اور ان کی عبادت میں مشغول ہو؟^(۲)

قَالُوْا وَجَدْنَا اٰبَاءَنَا لَهَا عٰبِدِيْنَ ﴿۵۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: بولے ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے پایا۔

ترجمہ کنزالعرفان: انہوں نے کہا: ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی پوجا کرتے ہوئے پایا۔

﴿قَالُوْا: انہوں نے کہا۔﴾ جب لوگ مجسموں کی عبادت کرنے پر کوئی دلیل پیش کرنے سے عاجز ہو گئے تو وہ کہنے لگے: ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے پایا ہے لہذا ہم بھی اسی طرح کر رہے ہیں۔^(۳)

①.....تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۵۱، ۱۵۲/۸، حازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۵۱، ۲۷۹/۳، ملقطاً.

②.....مدارک، الانبیاء، تحت الآیة: ۵۲، ص ۷۱۸-۵۱۹.

③.....مدارک، الانبیاء، تحت الآیة: ۵۲-۵۳، ص ۷۱۹.

باپ دادا کا برا طریقہ عمل کے قابل نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ باپ دادا جو کام شریعت کے خلاف کرتے رہے ہوں، اُن کاموں کو کرنا اور ان کے کرنے پر اپنے باپ دادا کے عمل کو دلیل بنانا کفار کا طریقہ ہے، ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان شادی بیاہ اور دیگر موقعوں پر شریعت کے خلاف رسم و رواج کی پیروی کرنے میں بھی ایسی ہی دلیل پیش کرتے ہیں کہ ہمارے بڑے بوڑھے برسوں سے اسی طرح کرتے آئے ہیں اور ہم بھی انہی کے طریقے پر چل رہے ہیں حالانکہ جو کام شریعت کے خلاف ہے اور اس کے جواز کی کوئی صورت نہیں تو اس کا برسوں سے ہوتا آنا اور آباؤ اجداد کا اپنی جہالت کی وجہ سے اسے کرتے رہنا اسے شریعت کے مطابق نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور انہیں شریعت کے خلاف کام کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

قَالَ لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَآبَاؤُكُمْ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ﴿۵۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: کہا بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: فرمایا: بے شک تم اور تمہارے باپ دادا سب کھلی گمراہی میں ہو۔

﴿قَالَ﴾: فرمایا۔ ﴿تَوْم﴾ کا جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ تم اور تمہارے باپ دادا جنہوں نے یہ باطل طریقہ ایجاد کیا سب کھلی گمراہی میں ہو اور کسی عقل مند پر تمہارے اس طریقے کا گمراہی ہونا مخفی نہیں ہے۔^(۱)

دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں بلکہ حق بات بہر حال بیان کرنی چاہیے، ہاں کہاں کس حکمت عملی کے مطابق بات کرنی چاہیے، سختی سے یا نرمی سے تو یہ بات مبلغ کو معلوم ہونی چاہیے۔

شریعت کے خلاف کام میں کثرتِ رائے معتبر نہیں

اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خلافِ شرع کام میں کثرتِ رائے کا کوئی اعتبار نہیں۔ ہمیشہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ

1..... ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ۵۴، ۵۲۳/۳.

وَالسَّلَامُ اور ان کے ساتھی قلیل ہوتے اور دشمنانِ اسلام اکثریت میں ہوتے تھے لیکن وہ اکثریت جھوٹی تھی اور انبیاءِ کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سچے تھے۔

قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللَّعِبِينَ ﴿۵۵﴾ قَالَ بَلْ رَبُّكُمْ رَبُّ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَّ وَأَنَا عَلَىٰ ذِكْمٍ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿۵۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: بولے کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یونہی کھیلتے ہو۔ کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو رب ہے آسمانوں اور زمین کا جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔

ترجمہ کنزالعرفان: بولے: کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو یا یونہی کھیل رہے ہو؟ فرمایا: بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں پیدا کیا اور میں اس پر گواہوں میں سے ہوں۔

﴿قَالُوا أَجِئْنَا بِالْحَقِّ﴾ بولے: کیا تم ہمارے پاس حق لائے ہو۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کو چونکہ اپنے طریقے کا گمراہی ہونا بہت ہی بعید معلوم ہوتا تھا اور وہ اس کا انکار کرنا بہت بڑی بات جانتے تھے، اس لئے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے یہ کہا کہ کیا آپ یہ بات واقعی طور پر ہمیں بتا رہے ہیں یا یونہی ہنسی مذاق کے طور پر فرما رہے ہیں؟ اس کے جواب میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی رُبُوبیت کا بیان کر کے ظاہر فرما دیا کہ آپ کھیل کے طور پر کلام نہیں کر رہے بلکہ حق کا اظہار فرما رہے ہیں چنانچہ آپ نے فرمایا: تمہاری عبادت کے مستحق یہ بناؤںی مجھے نہیں بلکہ تمہاری عبادت کا مستحق وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے جس نے انہیں کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کیا، تو پھر تم ان چیزوں کی عبادت کیسے کرتے ہو جو مخلوقات میں داخل ہیں اور میں نے تم سے جو بات کہی کہ تمہارا رب صرف وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، میں اسے دلیل کے ساتھ ثابت کر سکتا ہوں۔^(۱)

1..... مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۵۵-۵۶، ص ۷۱۹، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ۵۵-۵۶، ۴۹۲/۵، ملقطاً.

وَتَاللّٰهِ لَآ كَيْدَ نَّ اَصْنَامِكُمْ بَعْدَ اَنْ تُوَلُّوْا مُدْبِرِيْنَ ۝۵۷ فَجَعَلَهُمْ
 جُذَا ذَا اِلَّا كَبِيْرًا لَّهُمْ لَعَلَّهُمْ اِلَيْهِ يَرْجِعُوْنَ ۝۵۸ قَالُوْا مَنْ فَعَلَ هٰذَا
 بِالِهَيْتِنَا اِنَّهٗ لَمِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۝۵۹ قَالُوْا سَبِعْنَا فِىْ يَدِكُمْ يَوْمَ يُقَالُ لَهٗ
 اِبْرٰهِيْمُ ۝۶۰ قَالُوْا فَاْتُوْا بِهٖ عَلٰى اَعْيُنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُوْنَ ۝۶۱ قَالُوْا
 اَنْتَ فَعَلْتَ هٰذَا بِالِهَيْتِنَا يَا اِبْرٰهِيْمُ ۝۶۲ قَالَ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا
 فَسَلُّوْهُمْ اِنْ كَانُوْا يَنْطِقُوْنَ ۝۶۳ فَرَجَعُوْا اِلٰى اَنْفُسِهِمْ فَقَالُوْا اِنَّكُمْ اَنْتُمْ
 الظّٰلِمُوْنَ ۝۶۴ ثُمَّ نَكِسُوْا عَلٰى رُءُوْسِهِمْ لَقَدْ عَلِمْتُمْ مَّا هُوْا لَآ يَنْطِقُوْنَ ۝۶۵

ترجمہ کنزالایمان: اور مجھے اللہ کی قسم ہے میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا بعد اس کے کہ تم پھر جاؤ پیٹھ دے کر۔ تو ان سب کو چورا کر دیا مگر ایک کو جو ان سب کا بڑا تھا کہ شاید وہ اس سے کچھ پوچھیں۔ بولے کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا بیشک وہ ظالم ہے۔ ان میں سے کچھ بولے ہم نے ایک جو ان کو انہیں برا کہتے سنا جسے ابراہیم کہتے ہیں۔ بولے تو اسے لوگوں کے سامنے لاؤ شاید وہ گواہی دیں۔ بولے کیا تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا اے ابراہیم۔ فرمایا بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھو اگر بولتے ہوں۔ تو اپنے جی کی طرف پلٹے اور بولے بیشک تمہیں ستم گار ہو۔ پھر اپنے سروں کے بل اوندھائے گئے کہ تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور مجھے اللہ کی قسم ہے! تم پیٹھ پھیر کر جاؤ گے تو اس کے بعد میں تمہارے بتوں کی بری حالت کر دوں گا۔ تو ابراہیم نے ان سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے بڑے بت کے کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔

کہنے لگے: کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بیشک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ کہنے لگے: ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ کہنے لگے: تو اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ شاید لوگ گواہی دیں۔ انہوں نے کہا: اے ابراہیم! کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ ابراہیم نے فرمایا: بلکہ ان کے اس بڑے نے کیا ہوگا تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ تو اپنے دلوں کی طرف پلٹے اور کہنے لگے: بیشک تم خود ہی ظالم ہو۔ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیئے گئے (اور کہنے لگے کہ) تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں۔

﴿وَتَاللّٰهِ﴾ اور مجھے اللہ کی قسم ہے! ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی 7 آیات میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کا ایک سالانہ میلہ لگتا تھا اور وہ اس دن جنگل میں جاتے اور وہاں شام تک لہو و لعب میں مشغول رہتے تھے، واپسی کے وقت بت خانے میں آتے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے، اس کے بعد اپنے مکانوں کو واپس جاتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کی ایک جماعت سے بتوں کے بارے میں مناظرہ کیا تو ان لوگوں نے کہا: کل ہماری عید ہے، آپ وہاں چلیں اور دیکھیں کہ ہمارے دین اور طریقے میں کیا بہا رہے اور کیسے لطف آتے ہیں، چنانچہ جب وہ میلے کا دن آیا اور آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام سے میلے میں چلنے کو کہا گیا تو آپ عذر بیان کر کے رہ گئے اور میلے میں نہ گئے جبکہ وہ لوگ روانہ ہو گئے۔ جب ان کے باقی ماندہ اور کمزور لوگ جو آہستہ آہستہ جا رہے تھے گزرے تو آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا ”میں تمہارے بتوں کا برا چاہوں گا۔ آپ کی اس بات کو بعض لوگوں نے سن لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بت خانے کی طرف لوٹے تو آپ نے ان سب بتوں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، البتہ ان کے بڑے بت کو چھوڑ دیا اور کلباڑا اس کے کندھے پر رکھ دیا کہ شاید وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اس بڑے بت سے پوچھیں کہ ان چھوٹے بتوں کا کیا حال ہے؟ یہ کیوں ٹوٹے ہیں اور کلباڑا تیری گردن پر کیسے رکھا ہے؟ اور یوں ان پر اس بڑے بت کا عاجز ہونا ظاہر ہوا اور انہیں ہوش آئے کہ ایسے عاجز خدا نہیں ہو سکتے۔ یا یہ معنی ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دریافت کریں اور آپ کو حجت قائم کرنے کا موقع ملے۔ چنانچہ جب قوم کے لوگ شام کو واپس ہوئے اور بت خانے میں پہنچے اور انہوں نے دیکھا کہ بت ٹوٹے پڑے ہیں تو کہنے لگے: کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ بیشک وہ یقیناً ظالم ہے۔ کچھ لوگ کہنے لگے: ہم نے ایک جوان کو انہیں برا کہتے ہوئے سنا ہے جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے، ہمارا گمان یہ ہے کہ اسی نے ایسا کیا ہوگا۔ جب یہ خبر ظالم و جابر نمودار اور

اس کے وزیروں تک پہنچی تو وہ کہنے لگے: اسے لوگوں کے سامنے لے آؤ شاید لوگ گواہی دیں کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام ہی کا فعل ہے یا ان سے بتوں کے بارے میں ایسا کلام سنا گیا ہے۔ اس سے ان کا مقصود یہ تھا کہ گواہی قائم ہو جائے تو وہ آپ کے درپے ہوں۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام بلائے گئے اور ان لوگوں نے کہا: اے ابراہیم! کیا تم نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ آپ نے اس بات کا تو کچھ جواب نہ دیا اور مناظرانہ شان سے تعریض کے طور پر ایک عجیب و غریب حجت قائم کی اور فرمایا: ان کے اس بڑے نے اس غصے سے ایسا کیا ہوگا کہ اس کے ہوتے تم اس کے چھوٹوں کو پوجتے ہو، اس کے کندھے پر کلہاڑا ہونے سے ایسا ہی قیاس کیا جاسکتا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو! تم ان سے پوچھ لو، اگر یہ بولتے ہیں تو خود بتائیں کہ ان کے ساتھ یہ کس نے کیا؟ اس سے مقصود یہ تھا کہ قوم اس بات پر غور کرے کہ جو بول نہیں سکتا، جو کچھ کر نہیں سکتا وہ خدا نہیں ہو سکتا اور اس کی خدائی کا اعتقاد باطل ہے۔ چنانچہ جب آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ فرمایا تو وہ غور کرنے لگے اور سمجھ گئے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام حق پر ہیں اور اپنے آپ سے کہنے لگے: بیشک تم خود ہی ظالم ہو جو ایسے مجبوروں اور بے اختیاروں کو پوجتے ہو، جو اپنے کاندھے سے کلہاڑا نہ ہٹا سکے وہ اپنے پجاری کو مصیبت سے کیا بچا سکے اور اس کے کیا کام آسکے گا۔ (مگر اتنا سوچ لینا ایمان کے لئے کافی نہیں جب تک اقرار و اعتراف بھی نہ ہو، اس لئے وہ مشرک ہی رہے۔) (1)

﴿ثُمَّ نَكْسُوا عَلٰی رُءُوسِهِمْ﴾ پھر وہ اپنے سروں کے بل اوندھے کر دیئے گئے۔ ﴿عِنِّي كَلِمَةٌ حَقٌّ كُنْتُ كَاهِنًا﴾ یعنی کلمہ حق کہنے کے بعد پھر ان کی بدبختی ان کے سروں پر سوار ہوئی اور وہ کفر کی طرف پلٹے اور باطل جھگڑا شروع کر دیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے کہنے لگے: تمہیں خوب معلوم ہے یہ بولتے نہیں ہیں تو ہم ان سے کیسے پوچھیں اور اے ابراہیم! تم ہمیں ان سے پوچھنے کا کیسے حکم دیتے ہو۔ (2)

قَالَ أَفَتَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكُمْ شَيْئًا وَلَا يَضُرُّكُمْ ط

أَفِ لَكُمْ وَ لِبَنَاتِكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ط

1.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۵۷-۶۴، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۵۷-۶۴، ص ۷۱۹-۷۲۰، ملتقطاً.

2.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۶۵، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۶۵، ص ۷۲۰، ملتقطاً.

ترجیہ کنزالایمان: کہا تو کیا اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہو جو نہ تمہیں نفع دے اور نہ نقصان پہنچائے۔ تف ہے تم پر اور ان بتوں پر جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں۔

ترجیہ کنزالعرفان: ابراہیم نے جواب دیا: تو کیا تم اللہ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نفع دیتا ہے اور نہ نقصان پہنچاتا ہے۔ تم پر اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے۔ تو کیا تمہیں عقل نہیں؟

﴿قَالَ: فرمایا۔﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے انہیں جواب دیا: تو کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا اس کی عبادت کرتے ہو جس کا حال یہ ہے کہ اگر تم اسے پوجو تو وہ تمہیں نفع نہیں دیتا اور اگر اسے پوجنا موقوف کر دو تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچاتا۔ تم پر اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو ان پر افسوس ہے، تو کیا تمہیں عقل نہیں کہ اتنی سی بات بھی سمجھ سکو کہ یہ بت کسی طرح پوجنے کے قابل نہیں۔^(۱)

قَالُوا حَرِّقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ اِنْ كُنْتُمْ فَعِلِيْنَ ﴿۲۸﴾

ترجیہ کنزالایمان: بولے ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہے۔

ترجیہ کنزالعرفان: بولے: ان کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو اگر تم کچھ کرنے والے ہو۔

﴿قَالُوا حَرِّقُوهُ: کہا: ان کو جلا دو۔﴾ جب حجت تمام ہو گئی اور وہ لوگ جواب سے عاجز آ گئے تو کہنے لگے: اگر تم اپنے خداؤں کی کچھ مدد کرنا چاہ رہے ہو تو ان کا انتقام لے کر ان کی مدد کرو اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جلا دو کیونکہ یہ بڑی ہولناک سزا ہے۔ چنانچہ نمرود اور اس کی قوم حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو جلاؤالنے پر متفق ہو گئی اور انہوں نے آپ کو ایک مکان میں قید کر دیا اور کوئی بستی میں ایک عمارت بنائی اور ایک مہینہ تک پوری کوشش کر کے ہر قسم کی لکڑیاں جمع کیں اور ایک عظیم آگ جلائی جس کی تپش سے ہوا میں پرواز کرنے والے پرندے جل جاتے تھے اور ایک منجلیق (یعنی

۱.....حازن، الانبياء، تحت الآية: ۲۶-۲۷، ۲۸۱/۳.

پتھر پھینکنے والی مشین) کھڑی کی اور آپ کو باندھ کر اس میں رکھا اور آگ میں پھینک دیا۔ اس وقت آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی زبان مبارک پر تھا حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، یعنی مجھے اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ جبریل امین عَلَيْهِ السَّلَام نے آپ سے عرض کی: کیا کچھ کام ہے؟ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے فرمایا ”تم سے نہیں۔ حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَام نے عرض کی: تو اپنے ربَّ عَزَّ وَجَلَّ سے سوال کیجئے۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے فرمایا ”سوال کرنے سے اس کا میرے حال کو جانتا میرے لئے کافی ہے۔“ (1)

حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام نے یہ سمجھا تھا کہ امتحان کے وقت دعا کرنی بھی مناسب نہیں کہ کہیں یہ بے صبری میں شمار نہ ہو جائے۔ یہ انہی کا مرتبہ تھا، ہمیں بہر حال مصیبت و بلا کے وقت دعا کرنے کا حکم ہے۔

قُلْنَا يَا كُوفِي بَرِّدًا وَسَلِّمَا عَلَيَّ اِبْرَاهِيمَ ۝۶۹

ترجمہ کنزالایمان: ہم نے فرمایا اے آگ ہو جا ٹھنڈی اور سلامتی ابراہیم پر۔

ترجمہ کنزالعرفان: ہم نے فرمایا: اے آگ! ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔

﴿قُلْنَا﴾: ہم نے فرمایا۔ ﴿﴾ جب حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو آگ میں ڈالا گیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے آگ! ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ چنانچہ آگ کی گرمی زائل ہو گئی اور روشنی باقی رہی اور اس نے ان رسیوں کے سوا اور کچھ نہ جلایا جن سے آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو باندھا گیا تھا۔ (2)

حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ ”سَلَامًا“ نہ فرماتا تو آگ کی ٹھنڈک کی وجہ سے حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام انتقال فرما جاتے۔ (3)

وَأَسْرَادُ وَاٰبِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَاهُمُ الْاٰخِرِيْنَ ۝۷۰

1.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۶۸، ص ۷۲۱.

2.....جلالين، الانبياء، تحت الآية: ۶۹، ص ۲۷۴.

3.....حازن، الانبياء، تحت الآية: ۶۹، ۲۸۲/۳.

ترجہ کنزالایمان: اور انہوں نے اس کا برا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے بڑھ کر زیاں کار کر دیا۔

ترجہ کنزالعرفان: اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا۔

﴿وَأَسَاءَ دُؤَابِهِ كَيْدًا﴾ اور انہوں نے ابراہیم کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ برا سلوک کرنا چاہا تو ہم نے انہیں سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے بنا دیا کہ ان کی مراد پوری نہ ہوئی اور کوشش ناکام رہی اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر چھڑ بھیجے جو ان کے گوشت کھا گئے اور خون پی گئے اور ایک چھڑ نمرود کے دماغ میں گھس گیا اور اس کی ہلاکت کا سبب ہوا۔^(۱)

وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ﴿۱﴾

ترجہ کنزالایمان: اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات بخشی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی۔

ترجہ کنزالعرفان: اور ہم نے اسے اور لوط کو اس سرزمین کی طرف نجات عطا فرمائی جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔

﴿وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا﴾ اور ہم نے اسے اور لوط کو نجات عطا فرمائی۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نمرود اور اس کی قوم سے نجات عطا فرمائی اور انہیں عراق سے اس سرزمین کی طرف روانہ کیا جس میں ہم نے جہان والوں کے لیے برکت رکھی تھی۔^(۲)

۱.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۷۰، ۲۸۳/۳.

۲.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۷۱، ۲۸۳/۳.

حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا مختصر تعارف

حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے بھتیجے تھے، آپ کے والد کا نام ہاران ہے اور یہ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا بھائی تھا۔ جب یہ دونوں حضرات ملک شام پہنچے تو حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فلسطین کے مقام پر ٹھہرے اور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے مُؤْتَفِكَہ میں قیام فرمایا اور ان دونوں مقامات میں ایک دن کی مسافت کا فاصلہ ہے۔^(۱)

برکت والی سرزمین

اس سرزمین سے شام کی زمین مراد ہے اور اس کی برکت یہ ہے کہ یہاں کثرت سے انبیاء کرام عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہوئے اور تمام جہان میں ان کے دینی برکات پہنچے اور سرسبزی و شادابی کے اعتبار سے بھی یہ خطہ دوسرے خطوں پر فائق ہے، یہاں کثرت سے نہریں ہیں، پانی پاکیزہ اور خوش گوار ہے اور درختوں، پھلوں کی کثرت ہے۔^(۲)

وَوَهَبْنَا لَإِسْحَاقَ ط وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ط وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿۴۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے اسے اسحاق عطا فرمایا اور یعقوب پوتا اور ہم نے ان سب کو اپنے قرب خاص کا سزاوار کیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق عطا فرمایا اور مزید یعقوب (پوتا) اور ہم نے ان سب کو اپنے خاص قرب والے بنایا۔

﴿وَوَهَبْنَا لَإِسْحَاقَ ط وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً﴾ اور ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب مزید عطا فرمایا۔ ﴿یہاں حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر کی گئی مزید نعمتوں کا بیان فرمایا گیا کہ ہم نے انہیں حضرت اسحاق عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بیٹا اور حضرت یعقوب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پوتا عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے اللہ عَزَّوَجَلَّ سے بیٹے کے لیے دعا کی تھی مگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے انہیں بیٹے کے ساتھ ساتھ پوتے کی بھی بشارت دی جو کہ بغیر سوال کے عطا کیا گیا اور ان سب

۱.....جلالین، الانبیاء، تحت الآية: ۷۱، ص ۲۷۴.

۲.....مدارک، الانبیاء، تحت الآية: ۷۱، ص ۷۲۱، جلالین، الانبیاء، تحت الآية: ۷۱، ص ۲۷۴، ملتقطاً.

کو اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص قرب والا بنایا۔^(۱)

نیک اولاد کا فائدہ

اس سے معلوم ہوا کہ نیک اولاد اللہ عَزَّوَجَلَّ کی خاص رحمت ہے۔ نیک اولاد وہ اعلیٰ پھل ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں کام آتا ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ سے جب بھی اولاد کے لئے دعا کریں تو نیک اور صالح اولاد کی ہی دعا کریں۔

وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ
وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ وَكَانُوا لَنَا عِبِيدِينَ ۝ ۷۳

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے انہیں امام کیا کہ ہمارے حکم سے بلا تے ہیں اور ہم نے انہیں وحی بھیجی اچھے کام کرنے اور نماز برپا رکھنے اور زکوٰۃ دینے کی اور وہ ہماری بندگی کرتے تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے انہیں امام بنایا کہ ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے ہیں اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔

﴿وَجَعَلْنَاهُمْ آيَةً﴾ اور ہم نے انہیں امام بنایا۔ ﴿ارشاد فرمایا: ہم نے انہیں امام بنایا کہ بھلائی کے کاموں میں ان کی پیروی کی جاتی ہے اور وہ ہمارے حکم سے لوگوں کو ہمارے دین کی طرف بلا تے ہیں اور ہم نے ان کی طرف اچھے کام کرنے، نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے کی وحی بھیجی کیونکہ نماز بدنی عبادت میں سب سے افضل ہے اور زکوٰۃ مالی عبادت میں سب سے افضل ہے اور وہ صرف ہماری عبادت کرنے والے تھے۔^(۲)

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر زکوٰۃ فرض نہیں

یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کو امتیوں پر یہ امتیاز حاصل ہے کہ ان کے مال پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی۔

①.....مدارک، الانبیاء، تحت الآية: ۷۲، ص ۷۲۱-۷۲۲.

②.....حازن، الانبیاء، تحت الآية: ۷۳، ۲۸۳/۳.

چنانچہ علامہ احمد طحاوی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں۔ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ پر زکوٰۃ واجب نہیں کیونکہ ان کا سب کچھ اللہ تعالیٰ کی ملک ہے اور جو کچھ ان کے قبضے میں ہے وہ امانت ہے اور یہ اسے خرچ کرنے کے مقامات پر خرچ کرتے ہیں اور غیر محل میں خرچ کرنے سے رکتے ہیں اور اس لئے کہ زکوٰۃ اس کے لئے پاکی ہے جو گناہوں کی گندگی سے پاک ہونا چاہے جبکہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ معصوم ہونے کی وجہ سے گناہوں کی گندگی سے پاک ہیں۔^(۱)

علامہ ابن عابدین شامی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ دُرِّ مَخْتَار کی اس عبارت ”اس پر اجماع ہے کہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ پر زکوٰۃ واجب نہیں“ کے تحت فرماتے ہیں ”کیونکہ زکوٰۃ اس کے لئے پاکی ہے جو گندگی (یعنی مال کے میل) سے پاک ہونا چاہے جبکہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ اس سے بری ہیں۔ (یعنی ان کے مال ابتدا سے ہی میل سے پاک ہیں۔)^(۲)

لہذا جن آیات میں انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کو زکوٰۃ دینے کا فرمایا گیا ان سے یا تو تزکیہ نفس یعنی نفس کو ان چیزوں سے پاک رکھنا مراد ہے جو شانِ نبوت کے خلاف ہیں یا ان سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی امت کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیں۔

حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے احسانات

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر طرح طرح کے احسانات فرمائے، پہلا تو یہ کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بچپن سے ہی رشد و ہدایت سے نوازا۔ دوسرا یہ کہ ظالم و جاہل بادشاہ کے مقابلہ میں آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو غلبہ عطا فرمایا۔ تیسرا یہ کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ کے شہر کی طرف ہجرت کروائی، چوتھا یہ کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو نیک صالح اولاد عطا کی اور پانچواں یہ کہ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد کو بھی نبوت عطا کی۔

وَلَوْ طَا اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ تَعْمَلُ
الْخَبِيثَ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا قَوْمًا سَوْءٍ فٰسِقِيْنَ ﴿۷۴﴾ ۱۷ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ۚ

۱.....حاشیہ الطحاوی علی المراقی، کتاب الزکاۃ، ص ۷۱۳.

۲.....رد المحتار علی الدر المختار، کتاب الزکاۃ، ۲/۳، ۲۰.

اِنَّهُ مِنَ الصّٰلِحِيْنَ ﴿۴۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی بیشک وہ برے لوگ بے حکم تھے۔ اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل کیا، بیشک وہ ہمارے قرب خاص کے سزاواروں میں ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا اور اسے اس بستی سے نجات بخشی جو گندے کام کرتی تھی بیشک وہ برے لوگ نافرمان تھے۔ اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا، بیشک وہ ہمارے خاص مقربین میں سے تھا۔

﴿وَلَوْ طَا اَتَيْنَهُ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾ اور لوط کو ہم نے حکومت اور علم دیا۔ ﴿یہاں سے تیسرا واقعہ حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کا بیان فرمایا گیا اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کئے گئے احسانات کا ذکر کرنے کے بعد یہاں حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کئے جانے والے احسانات کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، چنانچہ پہلا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کو حکومت عطا فرمائی۔ بعض مفسرین کے نزدیک یہاں ”حکم“ سے مراد حکمت یا نبوت ہے۔ اگر حکومت والا معنی مراد ہو تو اس کا مطلب لوگوں کے باہمی جھگڑوں میں حق کے مطابق فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے۔ دوسرا احسان یہ ہے کہ انہیں ان کی شان کے لائق علم عطا کیا گیا۔ تیسرا احسان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بستی سے نجات بخشی جہاں کے رہنے والے لواطت وغیرہ گندے کام کیا کرتے تھے کیونکہ وہ برے لوگ اور نافرمان تھے۔^(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ برے پڑوس سے نجات مل جانا اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت اور اس کا انتہائی عظیم احسان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک ساتھی اور پرہیزگار ہم نشین عطا فرمائے اور برے ساتھیوں سے محفوظ فرمائے، آمین۔

﴿وَاَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا﴾ اور ہم نے اسے اپنی رحمت میں داخل فرمایا۔ ﴿یہاں حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کئے گئے چوتھے احسان کا ذکر فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خاص رحمت میں داخل فرمایا اور بیشک وہ اللہ تعالیٰ کے خاص مقرب بندوں میں سے تھے۔

1.....تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۷۴، ۸/ ۱۶۲، بیضاوی، الانبیاء، تحت الآیة: ۷۴، ۴/ ۱۰۱، جلالین، الانبیاء، تحت الآیة: ۷۴، ص ۲۷۵، ملقطاً.

وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ
الْعَظِيمِ ﴿۶۱﴾ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَانُوا
قَوْمًا سَوِيًّا فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْبَعِينَ ﴿۶۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور نوح کو جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑی سختی سے نجات دی۔ اور ہم نے ان لوگوں پر اس کو مدد دی جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بیشک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو ڈبو دیا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور نوح کو (یاد کرو) جب اس سے پہلے اس نے ہمیں پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے اور اس کے گھر والوں کو بڑے غم سے نجات دی۔ اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی، بیشک وہ برے لوگ تھے تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔

﴿وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِنْ قَبْلُ﴾ اور نوح کو جب پہلے اس نے ہمیں پکارا۔ ﴿یہ اس سورت میں بیان کئے گئے واقعات میں سے چوتھا واقعہ ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو یاد کریں جب انہوں نے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَام سے پہلے ہمیں پکارا اور ہم سے اپنی قوم پر عذاب نازل کرنے کی دعا کی تو ہم نے اس کی دعا قبول فرمائی اور اسے اور کشتی میں موجود اس کے گھر والوں کو طوفان سے اور سرکش لوگوں کے جھٹلانے سے نجات دی اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری ان آیتوں کی تکذیب کی جو حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی رسالت پر دلالت کرتی تھیں، بیشک وہ برے لوگ تھے، تو ہم نے ان سب کو غرق کر دیا کیونکہ جو قوم جھٹلانے پر قائم رہے اور شر، فساد میں ہی مشغول رہے تو اسے اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے۔^(۱)

1..... جلالین، الانبياء، تحت الآية: ۷۶-۷۷، ص ۲۷۵، روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ۷۶-۷۷، ۵/۲۰۳، ملقطاً.

آیت ”فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَرَغْنَا“ سے دعا کے بارے میں معلوم ہونے والے دو احکام

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

- (1)..... جب دعا دل کے اخلاص کے ساتھ ہو جیسے انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور اولیاء عظام رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِمْ کی دعا، تو وہ قبول ہوتی ہے۔ لہذا جب بھی دعا مانگیں تو دل کے اخلاص اور پوری توجہ کے ساتھ مانگیں تاکہ اسے قبولیت حاصل ہو۔
- (2)..... دعا نجات کے اسباب میں سے ایک سبب ہے اور اسے اختیار کرنا نجات حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔

وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَمَّ الْقَوْمِ
وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِينَ ﴿۷۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب کھیتی کا ایک جھگڑا چکاتے تھے جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹیں اور ہم ان کے حکم کے وقت حاضر تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے جب رات کو اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں چھوٹ گئیں اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے۔

﴿وَدَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ﴾: اور داؤد اور سلیمان کو یاد کرو۔ ﴿یہاں سے پانچواں واقعہ بیان کیا جا رہا ہے جس میں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان عَلَیْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا ذکر ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کے پہلے حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، آپ حضرت داؤد اور حضرت سلیمان عَلَیْہِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا وہ واقعہ یاد کریں جب وہ دونوں کھیتی کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے۔ جب رات کے وقت کچھ لوگوں کی بکریاں کھیتی میں چھوٹ گئیں، ان کے ساتھ کوئی پڑانے والا نہ تھا اور وہ کھیتی کھا گئیں تو یہ مقدمہ حضرت داؤد عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے سامنے پیش ہوا، آپ عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے تجویز کی کہ بکریاں کھیتی والے کو دے دی جائیں کیونکہ بکریوں کی قیمت کھیتی کے نقصان کے برابر ہے اور ہم ان کے فیصلے کا مشاہدہ کر رہے تھے اور ہم نے وہ معاملہ حضرت سلیمان

عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو سمجھا دیا۔ جب یہ معاملہ حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے سامنے پیش ہوا تو آپ نے فرمایا کہ فریقین کے لئے اس سے زیادہ آسانی کی شکل بھی ہو سکتی ہے۔ اس وقت حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی عمر شریف گیارہ سال کی تھی۔ حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے آپ سے فرمایا کہ وہ صورت بیان کریں، چنانچہ حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے یہ تجویز پیش کی کہ بکری والا کاشت کرے اور جب تک کھیتی اس حالت کو پہنچے جس حالت میں بکریوں نے کھائی ہے اس وقت تک کھیتی والا بکریوں کے دودھ وغیرہ سے نفع اٹھائے اور کھیتی اس حالت پر پہنچ جانے کے بعد کھیتی والے کو کھیتی دے دی جائے، بکری والے کو اس کی بکریاں واپس کر دی جائیں۔ یہ تجویز حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے پسند فرمائی۔

یاد رہے کہ اس معاملہ میں یہ دونوں حکم اجتہادی تھے اور ان کی شریعت کے مطابق تھے۔ ہماری شریعت میں حکم یہ ہے کہ اگر چرانے والا ساتھ نہ ہو تو جانور جو نقصانات کرے اس کا ضمان لازم نہیں۔ امام مجاہد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا قول ہے کہ حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے جو فیصلہ کیا تھا وہ اس مسئلہ کا حکم تھا اور حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے جو تجویز فرمائی یہ صلح کی صورت تھی۔^(۱)

کھیتی والے واقعے سے معلوم ہونے والے مسائل

اس واقعے سے 6 مسئلے معلوم ہوئے:

- (1)..... اجتہاد برحق ہے اور اجتہاد کی اہلیت رکھنے والے کو اجتہاد کرنا چاہیے۔
- (2)..... نبی عَلَيْهِ السَّلَامُ بھی اجتہاد کر سکتے ہیں کیونکہ ان دونوں حضرات کے یہ حکم اجتہاد سے تھے نہ کہ وحی سے۔
- (3)..... نبی عَلَيْهِ السَّلَامُ کے اجتہاد میں خطا بھی ہو سکتی ہے تو غیر نبی میں بدرجہ اولیٰ الغلطی کا احتمال ہے۔
- (4)..... خطا ہونے پر اجتہاد کرنے والا گنہگار نہیں ہوگا۔
- (5)..... ایک اجتہاد دوسرے اجتہاد سے ٹوٹ سکتا ہے البتہ نص اجتہاد سے نہیں ٹوٹ سکتی۔
- (6)..... نبی عَلَيْهِ السَّلَامُ خطا اجتہادی پر قائم نہیں رہتے۔ اللہ تعالیٰ اصلاح فرمادیتا ہے۔

①..... مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۷۹، ص ۷۲۳.

فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ ۚ وَكُلًّا آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا ۚ وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ يُسَبِّحُنَ وَالطَّيْرَ ۗ وَكُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا اور داؤد کے ساتھ پہاڑ مسخر فرما دیئے کہ تسبیح کرتے اور پرندے اور یہ ہمارے کام تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: ہم نے وہ معاملہ سلیمان کو سمجھا دیا اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا اور داؤد کے ساتھ پہاڑوں اور پرندوں کو تابع بنا دیا کہ وہ پہاڑ اور پرندے تسبیح کرتے اور یہ (سب) ہم ہی کرنے والے تھے۔

﴿وَكُلًّا آتَيْنَاهُمْ حُكْمًا وَعِلْمًا﴾: اور دونوں کو حکومت اور علم عطا کیا۔ ﴿یہاں حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما الصلوٰۃ والسلام دونوں پر کیا جانے والا انعام ذکر کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو حکومت اور اجتہاد و احکام کے طریقوں وغیرہ کا علم عطا کیا۔ (1)﴾

مُجْتَهِدٌ كَوَاجِبُهُ كَرْنِ كَاحْتِ حَاصِلٌ هٓ

یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رکھیں کہ جن علماء کرام کو اجتہاد کرنے کی اہلیت حاصل ہو انہیں ان امور میں اجتہاد کرنے کا حق ہے جس میں وہ کتاب و سنت کا حکم نہ پائیں اور اگر ان سے اجتہاد میں خطا ہو جائے تو بھی ان پر کوئی مؤاخذہ نہیں۔ (2) جیسا کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں مذکور حدیث پاک میں ہے، تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جب حکم کرنے والا اجتہاد کے ساتھ حکم کرے اور اس حکم میں درست ہو تو اس کے لئے دواجر ہیں اور اگر اجتہاد میں خطا واقع ہو جائے تو اس کے لئے ایک اجر ہے۔ (3)“

1.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۷۹، ۲۸۴/۳.

2.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۷۹، ۲۸۴/۳.

3.....بخاری، کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب اجر الحاكم اذا اجتهد فاصاب او اخطأ، ۵۲۱/۴، الحدیث: ۷۳۵۲، مسلم، کتاب الاقضية، باب بيان اجر الحاكم اذا اجتهد... الخ، ص ۹۴۴، الحدیث: ۱۵ (۱۷۱۶).

علم دین کے مالدار پر فضائل

حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو علم، مال اور بادشاہی میں (سے ایک کا) اختیار دیا گیا، حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے علم کو اختیار فرمایا تو انہیں علم کے ساتھ مال اور بادشاہی بھی عطا کر دی گئی۔^(۱)

اس سے معلوم ہوا کہ دین کے علم کی برکت سے بندے کو دنیا میں عزت، دولت اور منصب مل جاتا ہے حتیٰ کہ بادشاہی اور حکومت تک مل جاتی ہے لہذا اس وجہ سے دین کا علم حاصل نہ کرنا اور اپنی اولاد کو دین کا علم نہ سکھانا کہ یہ علم سیکھ کر ہم یا ہماری اولاد دنیا کی دولت اور دنیا کا چین و سکون حاصل نہیں کر سکیں گے، انتہائی محرومی کی بات ہے۔ علم دین کو دنیا کی دولت پر ترجیح دینے کی ترغیب کے لئے یہاں علم دین کے مالدار پر چند دینی اور دُنویٰ فضائل ملاحظہ ہوں:

- (1)..... علم انبیاء کرام عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی میراث ہے اور مال بادشاہوں اور مالداروں کی میراث ہے۔
- (2)..... مالدار کا جب انتقال ہوتا ہے تو مال اس سے جدا ہو جاتا ہے جبکہ علم عالم کے ساتھ اس کی قبر میں داخل ہوتا ہے۔
- (3)..... مال مومن، کافر، نیک، فاسق سب کو حاصل ہوتا ہے جبکہ نفع بخش علم صرف مومن کو ہی حاصل ہوتا ہے۔
- (4)..... علم جمع کرنے اور اسے حاصل کرنے سے بندے کو عزت، شرف اور تزکیہ نفس کی دولت ملتی ہے جبکہ مال کی وجہ سے تزکیہ نفس اور باطنی کمال حاصل نہیں ہوتا بلکہ مال جمع کرنے سے نفس لالچ، بخل اور حرص جیسی بری خصلتوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔
- (5)..... علم عاجزی اور انکساری کی دعوت دیتا ہے جبکہ مال فخر و تکبر اور سرکشی کی دعوت دیتا ہے۔
- (6)..... علم کی محبت اور اس کی طلب ہر نیکی کی اصل ہے جبکہ مال کی محبت اور اس کی طلب ہر برائی کی جڑ ہے۔
- (7)..... مال کا جو ہر بدن کے جوہر کی جنس سے ہے اور علم کا جوہر روح کے جوہر کی جنس سے ہے تو علم اور مال میں ایسے فرق ہے جیسے روح اور جسم کے درمیان فرق ہے۔
- (8)..... عالم اپنے علم اور اپنے حال سے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہے جبکہ مال جمع کرنے والا اپنی گفتگو اور اپنے حال سے لوگوں کو دنیا کی طرف بلاتا ہے۔
- (9)..... بادشاہ اور دیگر لوگ عالم کے حاجت مند ہوتے ہیں۔

①..... احیاء علوم الدین، کتاب العلم، الباب الاول فی فضل العلم والتعليم والتعلم... الخ، فضیلة العلم، ۱/۲۳۔

(10)..... علم کا اضافہ مال کے اضافے سے بہت بہتر ہے کیونکہ اگر ایک رات میں ہی سارا مال چلا جائے تو صبح تک بندہ فقیر و محتاج بن کر رہ جاتا ہے جبکہ علم رکھنے والے کو فقیری کا خوف نہیں ہوتا بلکہ اس کا علم ہمیشہ زیادہ ہی ہوتا رہتا ہے اور یہی حقیقی مالدار ہے۔

(11)..... مالدار کی قدر و قیمت اس کے مال کی وجہ سے ہوتی ہے جبکہ عالم کی قدر و قیمت اس کے علم کی وجہ سے ہوتی ہے، چنانچہ جب مالدار کے پاس مال نہیں رہتا تو اس کی قدر و قیمت بھی ختم ہو جاتی ہے جبکہ عالم کی قدر و قیمت کبھی ختم نہیں ہوتی بلکہ اس میں ہمیشہ اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے۔

(12)..... مال کی زیادتی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ مالدار شخص لوگوں پر احسان کرے اور جب مالدار لوگوں پر احسان نہیں کرتا تو لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں جس کی وجہ سے اسے قلبی طور پر رنج پہنچتا ہے اور اگر وہ لوگوں پر احسان کرنا شروع کر دیتا ہے تو لازمی طور پر وہ ہر ایک کے ساتھ احسان نہیں کر پاتا بلکہ بعض کے ساتھ کرتا ہے اور بعض کے ساتھ نہیں کرتا اور یوں وہ محروم رہ جانے والے کی طرف سے دشمنی اور ذلالت کا سامنا کرتا ہے جبکہ علم رکھنے والا کسی نقصان کے بغیر ہر ایک پر اپنا علم خرچ کر لیتا ہے۔

(13)..... مالدار جب مر جاتے ہیں تو ان کا تذکرہ بھی ختم ہو جاتا ہے جبکہ علماء کا ذکر خیر ان کے انتقال کے بعد بھی جاری و ساری رہتا ہے۔⁽¹⁾

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور علم دین کی اہمیت و فضیلت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

﴿وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالَ: اور ہم نے داؤد کے ساتھ پہاڑوں کو تابع بنا دیا۔﴾ یہاں حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر کیا جانے والا انعام بیان فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں اور پرندوں کو آپ کا تابع بنا دیا کہ پتھر اور پرندے آپ کے ساتھ آپ کی موافقت میں تسبیح کرتے تھے۔⁽²⁾

﴿وَكُنَّا فَعِلِينَ: اور یہ (سب) ہم ہی کرنے والے تھے۔﴾ یعنی حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کو معاملہ سمجھا دینا، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہما الصلوٰۃ والسلام کو حکومت دینا اور پہاڑوں، پرندوں کو حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام

1..... اتحاف السادة المتقين، كتاب العلم، الباب الاول في فضيلة العلم، ۱/۱۳۰-۱۳۱، ملخصاً.

2..... حازن، الانبياء، تحت الآية: ۷۹، ۳/۲۸۵.

کا تابع بنا دینا، یہ سب ہمارے ہی کام تھے اگرچہ تمہارے نزدیک یہ کام بہت عجیب و غریب ہیں۔^(۱)

وَعَلَيْهِ صِنْعَةُ لَبُوسٍ لَّكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِّنْ بِأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ ﴿۸۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے اسے تمہارا ایک پہناؤ بنا دیا تاکہ تمہیں تمہاری آنچ سے بچائے تو کیا تم شکر کرو گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے تمہارے فائدے کیلئے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی تاکہ تمہیں تمہاری جنگ کی آنچ سے بچائے تو کیا تم شکر ادا کرو گے؟

﴿وَعَلَيْهِ صِنْعَةُ لَبُوسٍ لَّكُمْ﴾ اور ہم نے تمہارے فائدے کیلئے اسے ایک خاص لباس کی صنعت سکھا دی۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تمہارے فائدے کے لئے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ایک لباس یعنی زرہ بنا دیا تاکہ تمہیں جنگ کے وقت پہنا جائے، تاکہ وہ جنگ میں دشمن سے مقابلہ کرنے میں تمہارے کام آئے اور جنگ کے دوران تمہارے جسم کو زخمی ہونے سے بچائے، تو اے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کے گھر والو! تم ہماری اس نعمت پر ہمارا شکر ادا کرو۔^(۲)

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پیشے

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام مختلف پیشوں کو اختیار فرمایا کرتے اور ہاتھ کی کمائی سے متنازل فرمایا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ادریس علیہ الصلوٰۃ والسلام سلائی کا کام کیا کرتے تھے، حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام بڑھتی کا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کپڑے کا، حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کاشتکاری کا، حضرت موسیٰ اور حضرت شعیب علیہما الصلوٰۃ والسلام بکریاں چرانے کا، حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام چادر بنانے کا کام کیا کرتے تھے۔^(۳) اور ہمارے آقا دو عالم کے ذاتا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اگرچہ بطور خاص کوئی پیشہ اختیار نہیں فرمایا لیکن آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بکریاں چرائیں، تجارت فرمائی اور کچھ دیگر کام بھی فرمائے ہیں لہذا کسی جائز کام اور پیشے کو گھٹیا نہیں سمجھنا چاہئے۔

①.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۷۹، ۲۸۵/۳، جلالین، الانبياء، تحت الآية: ۷۹، ص ۲۷۵، ملتقطاً.

②.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۸۰، ۲۸۵/۳، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۸۰، ص ۷۲۳، ملتقطاً.

③.....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ۸۰، ۵۰۹/۵، ۵۱۰، قرطبي، الانبياء، تحت الآية: ۸۰، ۱۸۵/۶، الجزء الحادي عشر، منتقطاً.

حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز پیشہ اختیار کرنے کے فضائل

حلال رزق حاصل کرنے کے لئے جو جائز ذریعہ، سبب، پیشہ اور صنعت اختیار کرنا ممکن ہو اسے ضرور اختیار کرنا چاہئے اور اس مقصد کے حصول کے لئے کسی جائز پیشے یا صنعت کو اختیار کرنے میں شرم و عار محسوس نہیں کرنا چاہئے، ترغیب کے لئے یہاں حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز پیشہ اختیار کرنے کے چار فضائل ملاحظہ ہوں:

(1)..... حضرت مقدم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جو وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ (1)

(2)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اگر تم میں سے کوئی اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھالا کر لائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، پھر کوئی اسے دے یا کوئی منع کر دے۔ (2)

(3)..... حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: کسی نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، کون سی کمائی زیادہ پاکیزہ ہے؟ ارشاد فرمایا ”آدمی کا اپنے ہاتھ سے کام کرنا اور اچھی خرید و فروخت (یعنی جس میں خیانت اور دھوکہ وغیرہ نہ ہو)۔ (3)

(4)..... حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ پیشہ کرنے والے مومن بندے کو محبوب رکھتا ہے۔ (4)

وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحُ عَاصِفَةٌ تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَرَكْنَا فِيهَا
وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمِينَ ﴿۸۱﴾

1..... بخاری، کتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ۱۱/۲، الحديث: ۲۰۷۲.

2..... بخاری، کتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، ۱۱/۲، الحديث: ۲۰۷۴.

3..... معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ۵۸۱/۱، الحديث: ۲۱۴۰.

4..... معجم الاوسط، باب الميم، من اسمه: مقدم، ۳۲۷/۶، الحديث: ۸۹۳۴.

ترجبة كنز اليمان: اور سليمان کے لیے تیز ہوا مسخر کر دی کہ اس کے حکم سے چلتی اس زمین کی طرف جس میں ہم نے برکت رکھی اور ہم کو ہر چیز معلوم ہے۔

ترجبة كنز العرفان: اور تیز ہوا کو سليمان کے لیے تابع بنا دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔

﴿وَسُلَيْمِنَ الرِّيحِ عَاصِفَةً﴾ اور تیز ہوا کو سليمان کے لیے تابع بنا دیا۔ ﴿اس سے پہلے وہ انعامات ذکر کئے گئے جو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فرمائے تھے اور اب یہاں سے وہ انعامات بیان کئے جا رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت سليمان علیہ الصلوٰۃ والسلام پر فرمائے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے تیز ہوا کو حضرت سليمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کا تابع بنا دیا اور یہ ہوا حضرت سليمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کے حکم سے شام کی اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے نہروں، درختوں اور پھلوں کی کثرت سے برکت رکھی تھی اور ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔^(۱)

حضرت سليمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بادشاہی اور عاجزی

اس سے معلوم ہوا کہ حضرت سليمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سلطنت عام تھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو انسانوں اور جنوں کے ساتھ ساتھ ہوا پر بھی حکومت عطا کی تھی، اتنی عظیم الشان سلطنت کے مالک ہونے کے باوجود آپ فخر و تکبر سے انتہائی دور اور عاجزی و انکساری کے عظیم پیکر تھے۔ چنانچہ ایک روایت میں ہے، حضرت سليمان علیہ الصلوٰۃ والسلام اپنے ہمراہیوں کے درمیان یوں جا رہے تھے کہ پرندوں نے آپ پر سایہ کر رکھا تھا اور جن و انسان آپ کی دائیں بائیں جانب تھے۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار کے پاس سے گزرے تو اس نے کہا: اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی قسم! اے حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے! آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بادشاہی عطا فرمائی ہے۔ حضرت سليمان علیہ الصلوٰۃ والسلام نے یہ بات سن کر فرمایا ”مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اُس سے بہتر ہے جو حضرت داؤد علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بیٹے کو دیا گیا ہے کیونکہ جو کچھ اسے دیا گیا وہ چلا جائے گا جبکہ تسبیح باقی رہے گی۔“^(۲)

۱.....تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۸۱، ۸۱/۸، ۱۶۹، مدارك، الانبياء، تحت الآیة: ۸۱، ص ۷۲۳، ملقطاً.

۲.....احیاء علوم الدین، کتاب ذم الدنیا، ۳/۲۵۰-۲۵۱.

اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت سلیمان عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے ایک دن پرندوں، انسانوں، جنوں اور حیوانات سے فرمایا ”نکلو! پس آپ دو لاکھ انسانوں اور دو لاکھ جنوں میں نکلے، آپ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو اٹھایا گیا حتیٰ کہ آپ نے آسمانوں میں فرشتوں کی تسبیح کی آواز سنی، پھر نیچے لایا گیا حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک سمندر کو چھونے لگے۔ آپ عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے ایک آواز سنی کہ اگر تمہارے آقا (حضرت سلیمان عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ) کے دل میں ایک ذرے کے برابر بھی تکبر ہوتا تو انہیں جس قدر بلند کیا گیا ہے اس سے بھی زیادہ نیچے دھنسا دیا جاتا۔^(۱)

”فلاں کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے“ کہنا شرک نہیں

اس آیت سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ یہ کہنا شرک نہیں کہ فلاں کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے، جیسے یہاں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے فرمایا کہ حضرت سلیمان عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے حکم سے ہوا چلتی تھی۔

وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ
وَكُنَّا لَهُمْ حَفِظِينَ ۝۸۲

ترجمہ کنزالایمان: اور شیطانوں میں سے وہ جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے سوا اور کام کرتے اور ہم انہیں روکے ہوئے تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کچھ جنات کو (سلیمان کے تابع کر دیا) جو اس کے لیے غوطے لگاتے اور اس کے علاوہ دوسرے کام بھی کرتے اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے۔

﴿وَمِنَ الشَّيْطَانِ مَنْ يَغْوُصُونَ لَهُ﴾ اور کچھ جنات کو جو اس کے لیے غوطے لگاتے۔ ﴿یہاں حضرت سلیمان عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر کیا جانے والا دوسرا انعام بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ جنات کو حضرت سلیمان عَلِيهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے تابع کر دیا جو ان کے لیے غوطے لگاتے اور دریا کی گہرائی میں داخل ہو کر سمندر کی تہ سے آپ کے لئے جواہرات نکال کر

1..... احیاء علوم الدین، کتاب ذم الکبر والعجب، الشطر الاول، بیان ذم الکبر، ۴۱۳/۳۔

لاتے اور وہ اس کے علاوہ دوسرے کام جیسے عجیب و غریب مصنوعات تیار کرنا، عمارتیں، محل، برتن، شیشے کی چیزیں، صابن وغیرہ بنانا بھی کرتے اور ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تا کہ وہ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے حکم سے باہر نہ ہوں اور سرکشی و فساد نہ کریں۔^(۱)

یاد رہے کہ یہاں آیت میں جنات سے کافر جنات مراد ہیں مسلمان جنات مراد نہیں، اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ یہاں ”شیا طین“ کا لفظ مذکور ہے (اور یہ لفظ کافر جنات کے لئے استعمال ہوتا ہے) دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”ہم ان جنات کو روکے ہوئے تھے تا کہ وہ حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے حکم کی خلاف ورزی اور فساد نہ کریں۔ یہ بات کفار کی حالت کے مطابق ہے۔“^(۲)

اللہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی شان

علامہ اسماعیل حقی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے اپنی مشہور تفسیر ”روح البیان“ میں اس مقام پر بہت پیارا کلام نقل فرمایا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے لئے پہاڑوں، پرندوں، لوہے اور پتھروں کو مسخر کیا۔ حضرت سلیمان عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے لئے، ہوا، جن، شیا طین، حیوانات، پرندے، معدنیات، نباتات اور سورج کو مسخر کیا جبکہ ہمارے نبی اور اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے لئے ہر چیز کو مسخر کر دیا، آپ کے لئے زمین کو لپیٹ دیا گیا حتیٰ کہ آپ نے اس کے مشرق و مغرب کو دیکھ لیا۔ آپ کی خاطر پوری زمین کو مسجد اور پاکی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا گیا، زمین کے خزانوں کی چابیاں آپ کو عطا کر دی گئیں، آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہوئے، درخت آپ پر سلام بھیجتے، درخت آپ کا اشارہ پاتے ہی اپنی جگہ سے اکھڑ کر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے اور آپ کا اشارہ پا کر اپنی جگہ واپس لوٹ جاتے، جانور آپ کے ساتھ کلام کرتے اور آپ کی نبوت کی گواہی دیتے، آپ کی انگلی کے اشارے سے چاند دو ٹکڑے ہو گیا، ڈوبا ہوا سورج آپ کا اشارہ پا کر پلٹ آیا، براق کو آپ کے لئے مسخر کر دیا گیا، ساتوں آسمانوں، جنت اور عرش و کرسی کو آپ نے عبور کیا حتیٰ کہ دو ہاتھ یا اس سے بھی کم فاصلے کے مقام پر فائز ہوئے۔ الغرض کائنات میں جتنی مخلوقات موجود ہیں سب کو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

1.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۸۲، ۲۸۶/۳، روح البیان، الانبياء، تحت الآية: ۸۲، ۵۱۱/۵، ملقطاً.

2.....تفسیر کبیر، الانبياء، تحت الآية: ۸۲، ۱۷۰/۸، ملخصاً.

کے لئے مسخر کر دیا۔^(۱)

وَإِيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِيمِينَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ایوب کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھے تکلیف پہنچی اور تو سب مہر والوں سے بڑھ کر مہر والا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ایوب کو (یاد کرو) جب اس نے اپنے رب کو پکارا کہ بیشک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔

﴿وَإِيُّوبَ﴾ اور ایوب کو (یاد کرو)۔ حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام حضرت اسحاق علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اولاد میں سے ہیں اور آپ کی والدہ حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کے خاندان سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر طرح کی نعمتیں عطا فرمائی تھیں، صورت کا حسن بھی، اولاد کی کثرت اور مال کی وسعت بھی عطا ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو آزمائش میں مبتلا کیا، چنانچہ آپ کی اولاد مکان گرنے سے دب کر مر گئی، تمام جانور جس میں ہزار ہا اونٹ اور ہزار ہا بکریاں تھیں، سب مر گئے۔ تمام کھیتیاں اور باغات برباد ہو گئے حتیٰ کہ کچھ بھی باقی نہ رہا، اور جب آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان چیزوں کے ہلاک اور ضائع ہونے کی خبر دی جاتی تھی تو آپ اللہ تعالیٰ کی حمد بجالاتے اور فرماتے تھے ”میرا کیا ہے! جس کا تھا اس نے لیا، جب تک اس نے مجھے دے رکھا تھا میرے پاس تھا، جب اس نے چاہا لے لیا۔ اس کا شکر ادا ہو ہی نہیں ہو سکتا اور میں اس کی مرضی پر راضی ہوں۔ اس کے بعد آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام بیمار ہو گئے، تمام جسم شریف میں آبلے پڑ گئے اور بدن مبارک سب کا سب زخموں سے بھر گیا۔ اس حال میں سب لوگوں نے چھوڑ دیا البتہ آپ کی زوجہ محترمہ رحمت بنت افرائیم نے نہ چھوڑا اور وہ آپ کی خدمت کرتی رہیں۔ آپ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی یہ حالت سا لہا سال رہی، آخر کار کوئی ایسا سبب پیش آیا کہ آپ نے بارگاہِ الہی میں دعا کی: اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، بیشک مجھے تکلیف پہنچی ہے اور تو سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔^(۲)

①..... روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۸۲، ۵/۵۱۱-۵۱۲، ملخصاً.

②..... خازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۸۳، ۳/۲۸۶-۲۸۸، ملخصاً.

حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیماری

حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیماری کے بارے میں علامہ عبدالمصطفیٰ اعظمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”عام طور پر لوگوں میں مشہور ہے کہ مَعَاذَ اللهِ آپ کو کوڑھ کی بیماری ہو گئی تھی۔ چنانچہ بعض غیر معتبر کتابوں میں آپ کے کوڑھ کے بارے میں بہت سی غیر معتبر داستانیں بھی تحریر ہیں، مگر یاد رکھو کہ یہ سب باتیں سرتاپا بالکل غلط ہیں اور ہرگز ہرگز آپ یا کوئی نبی بھی کبھی کوڑھ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوا، اس لئے کہ یہ مسئلہ مُتَّفَقٌ عَلَیْہِ ہے کہ انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کا تمام ان بیماریوں سے محفوظ رہنا ضروری ہے جو عوام کے نزدیک باعثِ نفرت و حقارت ہیں۔ کیونکہ انبیاء عَلَیْہِمُ السَّلَام کا یہ فرض منصبی ہے کہ وہ تبلیغ و ہدایت کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ جب عوام ان کی بیماریوں سے نفرت کر کے ان سے دور بھاگیں گے تو بھلا تبلیغ کا فریضہ کیونکر ادا ہو سکے گا؟ الغرض حضرت ایوب عَلَیْہِ السَّلَام ہرگز کبھی کوڑھ اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے بلکہ آپ کے بدن پر کچھ آبلے اور پھوڑے پھنسیاں نکل آئی تھیں جن سے آپ برسوں تکلیف اور مشقت جھیلتے رہے اور برابر صابر و شاکر رہے۔^(۱) یونہی بعض کتابوں میں جو یہ واقعہ مذکور ہے کہ بیماری کے دوران حضرت ایوب عَلَیْہِ الصَّلٰوٰۃُ وَالسَّلَام کے جسم مبارک میں کیڑے پیدا ہو گئے تھے جو آپ کا جسم شریف کھاتے تھے، یہ بھی درست نہیں کیونکہ ظاہری جسم میں کیڑوں کا پیدا ہونا بھی عوام کے لئے نفرت و حقارت کا باعث ہے اور لوگ ایسی چیز سے گھن کھاتے ہیں۔ لہذا خطباء اور واعظین کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت ایوب عَلَیْہِ الصَّلٰوٰۃُ وَالسَّلَام کی طرف ایسی چیزوں کو منسوب نہ کریں جن سے لوگ نفرت کرتے ہوں اور وہ منصبِ نبوت کے تقاضوں کے خلاف ہو۔

آزمائش و امتحان ناراضی کی دلیل نہیں

یہاں یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ کے مقرب بندوں کو آزمائش و امتحان میں مبتلا فرماتا ہے اور ان کی آزمائش اس بات کی دلیل نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہے بلکہ یہ ان کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت و قرب کی دلیل ہے۔ حضرت سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے عرض کی: یا رسولَ اللهُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، لوگوں میں سب سے زیادہ آزمائش کس پر ہوتی ہے؟ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”انبياءِ كرامِ عَلَيْهِمُ الصَّلٰوٰۃُ وَالسَّلَام

①.....عجائب القرآن مع غرائب القرآن، حضرت ایوب علیہ السلام کا امتحان، ص ۱۸۱-۱۸۲۔

کی، پھر درجہ بدرجہ مُقَرَّرَ پین کی۔ آدمی کی آزمائش اس کے دین کے مطابق ہوتی ہے، اگر وہ دین میں مضبوط ہو تو سخت آزمائش ہوتی ہے اور اگر وہ دین میں کمزور ہو تو دین کے حساب سے آزمائش کی جاتی ہے۔ بندے کے ساتھ یہ آزمائشیں ہمیشہ رہتی ہیں یہاں تک کہ وہ زمین پر اس طرح چلتا ہے کہ اس پر کوئی گناہ نہیں ہوتا۔^(۱)

حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”بڑا ثواب بڑی مصیبت کے ساتھ ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کے ساتھ محبت فرماتا ہے تو انہیں آزماتا ہے، پس جو اس پر راضی ہو اس کے لئے (اللہ تعالیٰ کی) رضا ہے اور جو ناراض ہو اس کے لئے ناراضی ہے۔“^(۲)

حضرت ایوب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی دعا سے معلوم ہونے والے مسائل

حضرت ایوب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جیسے دعا کی اس سے تین باتیں معلوم ہوئیں:

- (۱)..... آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی دعا کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی بارگاہ میں اپنی حاجت پیش کرنا بھی دعا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی دعا ہے۔
- (۲)..... دعا کے وقت اللہ تعالیٰ کی حمد کرنا انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی سنت ہے۔
- (۳)..... دعا میں اللہ تعالیٰ کی ایسی حمد کرنی چاہیے جو دعا کے موافق ہو، جیسے رحمت طلب کرتے وقت رحمت و رحیم کہہ کر پکارے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ

رَاحَةً مِّنْ عُنْدِنَا وَذِكْرًا لِلْعَبِيدِ ۝۸۳

ترجمہ کنزالایمان: تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو ہم نے دور کردی جو تکلیف اسے تھی اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کئے اپنے پاس سے رحمت فرما کر اور بندگی والوں کے لیے نصیحت۔

①.....ترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ۱۷۹/۴، الحدیث: ۲۴۰۶۔

②.....ترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء في الصبر على البلاء، ۱۷۸/۴، الحدیث: ۲۴۰۴۔

ترجبة كذا العرفان: تو ہم نے اس کی دعا سن لی تو جو اس پر تکلیف تھی وہ ہم نے دور کر دی اور ہم نے اپنی طرف سے رحمت فرما کر اور عبادت گزاروں کو نصیحت کی خاطر ایوب کو اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیئے۔

﴿**فَاسْتَجَبْنَا لَهُ:** تو ہم نے اس کی دعا سن لی۔﴾ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی دعا قبول فرمائی اور انہیں جو تکلیف تھی وہ اس طرح دور کر دی کہ حضرت ایوب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے فرمایا ”آپ زمین میں پاؤں ماریئے۔ انہوں نے پاؤں مارا تو ایک چشمہ ظاہر ہوا، آپ کو حکم دیا گیا کہ اس سے غسل کیجئے۔ آپ نے غسل کیا تو ظاہر بدن کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں، پھر آپ چالیس قدم چلے، پھر دوبارہ زمین میں پاؤں مارنے کا حکم ہوا، آپ نے پھر پاؤں مارا تو اس سے بھی ایک چشمہ ظاہر ہوا جس کا پانی انتہائی سرد تھا۔ آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس پانی کو پیا تو اس سے بدن کے اندر کی تمام بیماریاں دور ہو گئیں اور آپ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو اعلیٰ درجے کی صحت حاصل ہوئی۔ (1)

﴿**وَأَتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ:** اور ہم نے اسے اس کے گھر والے اور ان کے ساتھ اتنے ہی اور عطا کر دیئے۔﴾ حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمُ اور اکثر مفسرین نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی تمام اولاد کو زندہ فرما دیا اور آپ کو اتنی ہی اولاد اور عنایت کی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کی دوسری روایت میں ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے آپ کی زوجہ محترمہ کو دوبارہ جوانی عنایت کی اور ان کے ہاں کثیر اولادیں ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر یہ عطا اپنی طرف سے ان پر رحمت فرمانے اور عبادت گزاروں کو نصیحت کرنے کیلئے فرمائی تاکہ وہ اس واقعہ سے آزمائشوں اور مصیبتوں پر صبر کرنے اور اس صبر کے عظیم ثواب سے باخبر ہوں اور صبر کر کے اجر و ثواب پائیں۔ (2)

مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب

آیت کی مناسبت سے یہاں مصیبت پر صبر کرنے کے ثواب پر مشتمل 3 احادیث ملاحظہ ہوں:

(1)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”مومن مرد اور مومنہ عورت کو اس کی جان، اولاد اور مال کے بارے میں آزما یا جاتا رہے گا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ سے

1..... حازن، الانبياء، تحت الآية: ۸۴، ۲۹۱/۳.

2..... حازن، الانبياء، تحت الآية: ۸۴، ۲۹۱/۳، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۸۴، ص ۷۲۴، ملقطاً.

اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس پر کوئی گناہ باقی نہ ہوگا۔^(۱)

(2)..... حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”دنیا سے بے رغبتی صرف حلال کو حرام کر دینے اور مال کو ضائع کر دینے کا ہی نام نہیں، بلکہ دنیا سے بے رغبتی یہ ہے کہ جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ اس سے زیادہ قابلِ اعتماد نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور جب تجھے کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے ثواب (کے حصول) میں زیادہ رغبت رکھے اور یہ تمنا ہو کہ کاش یہ میرے لئے باقی رہتی۔⁽²⁾

(3)..... سنن ابو داؤد میں ہے، حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی بندے کے لیے کوئی درجہ مقدر ہو چکا ہو جہاں تک یہ اپنے عمل سے نہیں پہنچ سکتا تو اللہ تعالیٰ اسے اس کے جسم یا مال یا اولاد کی آفت میں مبتلا کر دیتا ہے، پھر اسے اس پر صبر بھی دیتا ہے حتیٰ کہ وہ اس درجے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے مقدر ہو چکا۔⁽³⁾

اللہ تعالیٰ ہمیں آفات و بلیات سے محفوظ فرمائے اور ہر آنے والی مصیبت پر صبر کر کے اجر و ثواب کمانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَاسْتَعِیْلٌ وَاِدْرَیْسٌ وَذَا الْكِفْلِ ط كُلُّ مِّنَ الصَّابِرِیْنَ ﴿۸۵﴾ وَاَدْخَلْنٰهُمْ
فِیْ رَحْمَتِنَا ط اِنَّهُمْ مِّنَ الصَّالِحِیْنَ ﴿۸۶﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اسمعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو وہ سب صبر والے تھے۔ اور انہیں ہم نے اپنی رحمت میں داخل کیا بیشک وہ ہمارے قربِ خاص کے سزاواروں میں ہیں۔

ترجمہ کنز العرفان: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو (یاد کرو) وہ سب صبر کرنے والے تھے۔ اور انہیں ہم نے اپنی

①..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الصبر علی البلاء، ۱۷۹/۴، الحدیث: ۲۴۰۷۔

②..... ترمذی، کتاب الزہد، باب ما جاء فی الزہادة فی الدنیا، ۱۵۲/۴، الحدیث: ۲۳۴۷۔

③..... ابو داؤد، کتاب الجنائز، باب الامراض المكفرة للذنوب، ۲۴۶/۳، الحدیث: ۳۰۹۰۔

رحمت میں داخل فرمایا، بیشک وہ ہمارے قربِ خاص کے لائق لوگوں میں سے ہیں۔

﴿وَأَسْمِعِیْلَ وَادْرِیْسَ وَذَا الْكُفْلِ﴾: اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل کو (یاد کرو)۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، آپ حضرت اسماعیل، حضرت ادریس اور حضرت ذوالکفل عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کو یاد کریں، وہ سب عبادات کی مشقتوں اور آفات و بلیات کو برداشت کرنے پر کامل صبر کرنے والے تھے۔ حضرت اسماعیل عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ نے اپنے ذبح کئے جانے کے وقت صبر کیا، غیر آباد بیابان میں ٹھہرنے پر صبر کیا اور اس کے صلے میں اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ مقام عطا کیا کہ ان کی نسل سے اپنے حبیب اور آخری نبی صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو ظاہر فرمایا۔ حضرت ادریس عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ نے درس دینے پر صبر کیا اور حضرت ذوالکفل عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ نے دن کا روزہ رکھنے، رات کو قیام کرنے اور اپنے دور حکومت میں لوگوں کی طرف سے دی گئی تکلیفوں پر صبر کیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور اس کی نافرمانی سے بچنے پر صبر کرے، یونہی جو شخص اپنے مال، اہل اور جان میں آنے والی کسی مصیبت پر صبر کرے تو وہ اپنے صبر کی مقدار کے مطابق نعمت، رتبہ اور مقام پاتا ہے اور اسی حساب سے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حق دار ہوتا ہے۔^(۱)

حضرت ذوالکفل عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ نبی تھے یا نہیں؟

حضرت ذوالکفل عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کی نبوت میں اختلاف ہے، جمہور علماء کے نزدیک آپ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ بھی نبی تھے۔^(۲)

وَذَا السُّوْنِ اِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ اَنْ لَّنْ نَّقْدِرَ عَلَیْہِ فَنَادٰی
فِی الظُّلُمٰتِ اَنْ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ ﴿۸۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ذوالنون کو جب چلا غصہ میں بھرا تو گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے تو اندھیریوں میں پکارا

①.....روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۸۵، ۵/۵۱۵.

②.....تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۸۵، ۸/۱۷۷.

کوئی معبود نہیں سوا تیرے پاکی ہے تجھ کو بیشک مجھ سے بے جا ہوا۔

ترجیہ کنز العرفان: اور ذوالنون کو (یاد کرو) جب وہ غضبناک ہو کر چل پڑے تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے تو اس نے اندھیروں میں پکارا کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو ہر عیب سے پاک ہے، بیشک مجھ سے بے جا ہوا۔

﴿وَذَا النُّونِ﴾ اور ذوالنون کو (یاد کرو)۔ ﴿یہاں سے حضرت یونس بن مثنیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت یونس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی قوم کے لوگوں نے آپ کی دعوت قبول نہ کی اور نہ ہی نصیحت مانی بلکہ وہ اپنے کفر پر ہی قائم رہے تھے، تو حضرت یونس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ غضبناک ہو کر اپنی قوم کے علاقے سے تشریف لے گئے اور آپ نے یہ گمان کیا کہ یہ ہجرت آپ کے لئے جائز ہے کیونکہ اس کا سبب صرف کفر اور کافروں کے ساتھ بغض اور اللہ تعالیٰ کے لئے غضب کرنا ہے، لیکن آپ نے اس ہجرت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار نہ کیا تھا جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا، وہاں کئی قسم کی تاریکیاں تھیں جیسے دریا کی تاریکی، رات کی تاریکی اور مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، ان اندھیروں میں حضرت یونس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے اپنے پروردگار عَزَّوَجَلَّ سے اس طرح دعا کی کہ اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں اور تو ہر عیب سے پاک ہے، بیشک مجھ سے بے جا ہوا کہ میں اپنی قوم سے تیرا اذن اور اجازت پانے سے پہلے ہی جدا ہو گیا۔^(۱)

مقبول دعائیہ کلمات

حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”حضرت یونس نے مچھلی کے پیٹ میں جب دعائیں مانگی تو یہ کلمات کہے ”لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ سُبْحٰنَكَ اِنِّیْ كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ“ جو مسلمان ان کلمات کے ساتھ کسی مقصد کے لئے دعائیں مانگے تو اللہ تعالیٰ اسے قبول فرماتا ہے۔^(۲)

حضرت سعد بن ابی وقاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ہم نبی کریم صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ کے قریب بیٹھے ہوئے تھے تو آپ نے ارشاد فرمایا ”کیا میں تمہیں ایسی چیز کے بارے میں خبر نہ دوں کہ جب تم میں سے کسی شخص پر

1.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۸۷، ص ۷۲۴.

2.....ترمذی، کتاب الدعوات، ۸۱-باب، ۳۰۲/۵، الحدیث: ۳۵۱۶.

کوئی مصیبت یا دنیا کی بلاؤں میں سے کوئی بلا نازل ہو اور وہ اس کے ذریعے دعا کرے تو اس کی مصیبت و بلا دور ہو جائے۔
آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے عرض کی گئی: کیوں نہیں! ارشاد فرمایا ”(وہ چیز) حضرت یونس کی دعا ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ ہے۔^(۱)

حضرت سعد بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جو مسلمان اپنی بیماری کی حالت میں چالیس مرتبہ ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ کے ساتھ دعا مانگے، پھر وہ اس مرض میں فوت ہو جائے تو اسے شہید کا اجر دیا جائے اور اگر تندرست ہو گیا تو اس کے تمام گناہ بخشے جا چکے ہوں گے۔^(۲)

﴿فَلَنْ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ﴾: تو اس نے گمان کیا کہ ہم اس پر تنگی نہ کریں گے۔ امام فخر الدین رازی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”جس شخص نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہے وہ کافر ہے، اور یہ ایسی بات ہے کہ کسی عام مومن کی طرف بھی اس کی نسبت کرنا جائز نہیں تو انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی طرف یہ بات منسوب کرنا کس طرح جائز ہوگا (کہ وہ اللہ تعالیٰ کو عاجز گمان کرتے ہیں۔ لہذا اس آیت کا یہ معنی ہرگز نہیں کہ حضرت یونس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے یہ گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ انہیں پکڑنے پر قادر نہیں بلکہ) اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ”حضرت یونس عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ ان پر تنگی نہیں فرمائے گا۔“^(۳)

امام فخر الدین رازی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے علاوہ دیگر معتبر مفسرین نے بھی اس آیت کا یہ معنی بیان کیا ہے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے بھی اسی معنی کو اختیار کیا ہے اور ہم نے بھی اعلیٰ حضرت رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اور دیگر معتبر مفسرین کی پیروی کرتے ہوئے اس آیت میں لفظ ”لَنْ نَقْدِرَ“ کا ترجمہ ”ہم تنگی نہ کریں گے“ کیا ہے۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ ط وَكَذَلِكَ نُجِّي الْمُؤْمِنِينَ ﴿۸۸﴾

①..... مستدرک، کتاب الدعاء والتكبير والتهليل... الخ، من دعا بدعوة ذي النون استجاب الله له، ۱۸۳/۲، الحديث: ۱۹۰۷.

②..... مستدرک، کتاب الدعاء والتكبير والتهليل... الخ، ایما مسلم دعا بدعوة یونس علیه السلام... الخ، ۱۸۳/۲، الحديث: ۱۹۰۸.

③..... تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۸۷، ۱۸۰/۸.

ترجمہ کنزالایمان: توہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی اور ایسی ہی نجات دیں گے مسلمانوں کو۔

ترجمہ کنزالعرفان: توہم نے اس کی پکار سن لی اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔

﴿فَاسْتَجِبْنَا لَهُ﴾: توہم نے اس کی پکار سن لی۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پکار سن لی اور اسے تنہائی اور وحشت کے غم سے نجات بخشی اور مچھلی کو حکم دیا تو اس نے حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دریا کے کنارے پر پہنچا دیا اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی مصیبتوں اور تکلیفوں سے نجات دیتے ہیں جب وہ ہم سے فریاد کریں اور دعا کریں۔^(۱)

حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا مسلمانوں کے لیے بھی ہے

حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے اور جب سوال کیا جائے تو عطا ہو جائے، وہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا ”لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ“ ہے جو انہوں نے اندھیروں میں تین بار کی تھی۔ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے ہے؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”کیا تم نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد نہیں سنا“ **وَنَجِّنُهُ مِنَ الْعَمِّ ط وَكَذَلِكَ نُجِي الْمُؤْمِنِينَ** اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔^(۲) مراد یہ ہے کہ یہ دعا حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لیے خاص نہیں مسلمانوں کے لیے بھی ہے، جب وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا بھی قبول ہوگی۔

وَذَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ ﴿۱۹﴾

①.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۸۸، ص ۷۲۵، ابو سعود، الانبياء، تحت الآية: ۸۸، ۵۳۳/۳، ملقطاً.

②.....مستدرک، كتاب الدعاء والتكبير والتهليل... الخ، ايما مسلم دعا بدعوة يونس عليه السلام... الخ، ۲ / ۱۸۳، الحديث: ۱۹۰۸.

ترجہ کنزالایمان: اور زکریا کو جب اس نے اپنے رب کو پکارا اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث۔

ترجہ کنزالعرفان: اور زکریا کو (یاد کرو) جب اس نے اپنے رب کو پکارا، اے میرے رب! مجھے اکیلا نہ چھوڑ اور تو سب سے بہتر وارث ہے۔

﴿وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ﴾: اور زکریا کو (یاد کرو) جب اس نے اپنے رب کو پکارا۔ ﴿یہاں سے حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، مجھے بے اولاد نہ چھوڑ بلکہ وارث عطا فرما اور تو سب سے بہتر وارث ہے یعنی اللہ تعالیٰ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد باقی رہنے والا ہے۔ مُدَّعَا یہ ہے کہ اگر تو مجھے وارث نہ دے تو بھی کچھ غم نہیں کیونکہ تو بہتر وارث ہے۔^(۱)

حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا سے معلوم ہونے والی باتیں

اس سے دو باتیں معلوم ہوتیں۔

- (۱)..... دین کی خدمت کے لئے بیٹے کی دعا اور فرزند کی تمنا کرنی سنتِ نبی ہے۔
- (۲)..... جیسی دعائیں، اسی قسم کے نام سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرے۔ چونکہ ان کا فرزند ان کے کمال کا وارث ہونا تھا، لہذا رب عَزَّوَجَلَّ کو وارث کی صفت سے یاد فرمایا۔

فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَاهُ زَوْجَهُ ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ۗ وَكَانُوا لَنَا خَشِيعِينَ ﴿۹۰﴾

ترجہ کنزالایمان: تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لئے اس کی بی بی سنواری پیشک وہ بھلے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں پکارتے تھے امید اور خوف سے اور ہمارے حضور گڑ گڑاتے ہیں۔

①..... حازن، الانبياء، تحت الآية: ۸۹، ۲۹۳/۳، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۸۹، ص ۷۲۵، ملتنقطاً.

ترجہ کنز العرفان: تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا فرمایا اور اس کے لیے اس کی بیوی کو قابل بنا دیا۔ بیشک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور ہمارے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔

﴿فَاسْتَجَبْنَا لَهُ:﴾ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا قبول کی اور انہیں سعادت مند فرزند حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام عطا فرمایا اور حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کے لئے آپ کی زوجہ کا بانجھ پن ختم کر کے اسے اولاد پیدا کرنے کے قابل بنا دیا۔^(۱)

﴿اِنَّهُمْ كَانُوْا يُسْرِعُوْنَ فِي الْخَيْرَاتِ:﴾ بیشک وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے۔ ﴿یعنی جن انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ذکر ہوا ان کی دعائیں اس وجہ سے قبول ہوئیں کہ وہ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کو بڑی رغبت سے اور بڑے ڈر سے پکارتے تھے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دل سے جھکنے والے تھے۔^(۲)

دعائیں قبول ہونے والا بننے کے لئے تین کام کئے جائیں

اس سے بخوبی معلوم ہوا کہ جو شخص ایسا ہونا چاہے کہ اس کی ہر دعا مقبول ہو، اسے چاہئے کہ وہ یہ تین کام کرے (1) نیک کام کرنے میں دیر نہ لگائے۔ (2) امید اور خوف کے درمیان رہتے ہوئے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے۔ (3) اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کا اظہار کرے۔

وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِنْ رُّوحِنَا وَجَعَلْنَاهَا وَابِنَهَا
آيَةٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿۹۱﴾

ترجہ کنز الایمان: اور اس عورت کو جس نے اپنی پارسائی نگاہ رکھی تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی اور اسے اور اس

1.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۹۰، ص ۷۲۵.

2.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۹۰، ص ۷۲۵.

کے بیٹے کو سارے جہاں کے لیے نشانی بتایا۔

ترجیہ کنز العرفان: اور اس عورت کو (یاد کرو) جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اسے اور اس کے بیٹے کو سارے جہاں والوں کیلئے نشانی بنا دیا۔

﴿وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا﴾ اور اس عورت کو (یاد کرو) جس نے اپنی پارسائی کی حفاظت کی۔ ﴿یہاں سے حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، اس مریم کو یاد کریں جس نے پورے طور پر اپنی پارسائی کی حفاظت کی کہ کسی طرح کوئی بشر اس کی پارسائی کو چھونہ سکا تو ہم نے اس میں اپنی خاص روح پھونکی اور اس کے پیٹ میں حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو پیدا کیا اور اسے اور اس کے بیٹے حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو سارے جہاں والوں کیلئے اپنی قدرت کے کمال کی نشانی بنا دیا کہ حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا کیا۔^(۱)

پاک دامنی عورت کے لئے بہترین وصف ہے

اس سے معلوم ہوا کہ عورت کے لئے بہترین وصف یہ ہے کہ وہ پاک دامن رہے اور اپنی پارسائی کی حفاظت کرے۔ پاک دامن رہنے والی عورت کے بارے میں حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”عورت جب اپنی پانچ نمازیں پڑھے، اپنے ماہ رمضان کا روزہ رکھے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو جنت کے جس دروازہ سے چاہے داخل ہو جائے۔“^(۲)

اور حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جو عورت اپنے رب سے ڈرے، اپنی پارسائی کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے تو اس کے لئے جنت کے آٹھوں دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا کہ تم جس دروازے سے چاہو جنت میں داخل ہو جاؤ۔“^(۳)

①.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۹۱، ۲۹۳/۳.

②.....حلیۃ الاولیاء، ذکر طوائف من النساء والعباد، الربیع بن الصبیح، ۳۳۶/۶، الحدیث: ۸۸۳۰.

③.....معجم الاوسط، باب العین، من اسمہ: عبد الرحمن، ۳۱۹/۳، الحدیث: ۴۷۱۵.

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ ﴿۹۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک تمہارا یہ دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک یہ (اسلام) تمہارا دین ہے، ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو تم میری عبادت کرو۔

﴿إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ﴾ بیشک یہ (اسلام) تمہارا دین ہے۔ ﴿وَأَنَا رَبُّكُمْ﴾ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! بیشک یہ اسلام تمہارا دین ہے اور یہی تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کا دین ہے، اس کے سوا جتنے ادیان ہیں وہ سب باطل ہیں اور سب کو اسی دین اسلام پر قائم رہنا لازم ہے اور میں تمہارا رب ہوں، نہ میرے سوا کوئی دوسرا رب ہے نہ میرے دین کے سوا اور کوئی دین ہے تو تم صرف میری عبادت کرو۔^(۱)

وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ ۖ كُلٌّ إِلَىٰ آلِهِمْ رُجُوعًا ﴿۹۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اوروں نے اپنے کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لئے سب کو ہماری طرف پھرنا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔

﴿وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ﴾ اور لوگوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ ﴿گزشتہ آیت میں بتایا گیا کہ دین ایک ہی ہے اور سب انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اسی کی تبلیغ کی اور یہاں بتایا جا رہا ہے کہ لوگوں نے دین میں بھی اختلاف کیا اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی کو اپنا دین بنا لیا، خود بھی بکھر گئے اور ان کے اعمال بھی جدا گانہ ہو گئے۔

خود ساختہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے

خیال رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے دینی اعمال مختلف رہے مگر ان کا یہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے حکم

1..... مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۹۲، ص ۷۲۶، حازن، الانبياء، تحت الآية: ۹۲، ۲۹۴/۳، ملنقطاً.

سے تھا جس میں ہزار ہا حکمتیں تھیں، اس لئے یہ اختلاف پکڑ کا باعث نہیں بلکہ لوگوں کا خود ساختہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے، لہذا آیت بالکل واضح ہے۔

﴿كُلُّ الْيَتَامَىٰ رِجْوٰنٌ﴾: سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ ﴿یہاں دین کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والوں کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ دنیا میں تو جو تمہارے جی میں آتا ہے کر لو لیکن یاد رکھو کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور اس دن تم سب کو ہماری طرف لوٹنا ہے اس وقت تمہیں ہر چیز کی حقیقت معلوم ہو جائے گی۔

فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ ﴿۹۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو جو کچھ بھلے کام کرے اور ہو ایمان والا تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں اور ہم اسے لکھ رہے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اس کی کوشش کی بے قدری نہیں ہوگی اور ہم اسے لکھنے والے ہیں۔

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ﴾: تو جو نیک اعمال کرے۔ ﴿اس آیت میں بندوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو نیک اعمال کرے اور وہ ایمان والا ہو تو اسے اس کے عمل کا ثواب نہ دے کر محروم نہ کیا جائے گا اور ہم اس کے عمل اعمال ناموں میں لکھ رہے ہیں جن میں کچھ کمی نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ نیک اعمال کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں فرمائے گا۔^(۱)

آیت ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ“ سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے چند مسئلے معلوم ہوئے

- (۱)..... اعمال قبول ہونے کا دار و مدار ایمان پر ہے، اگر ایمان ہے تو سب کچھ ہے اور اگر ایمان نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔
- (۲)..... کوئی شخص چاہے کسی بھی قبیلے اور قوم سے تعلق رکھتا ہو، اس کی رنگت گوری ہو یا کالی ہو، وہ دولت مند ہو یا مفلس وغریب ہو، وہ مرد ہو یا عورت، اگر وہ ایمان والا ہے تو اس کے کئے ہوئے نیک اعمال کا ثواب اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔

①..... تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۹۴، ۸/۱۸۴، روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۹۴، ۵/۵۲۲، ملنقطاً۔

(3).....مومن بندے کے نیک عمل مقبول ہیں، البتہ اس میں ایمان کے ساتھ ساتھ دو اور چیزوں کا ہونا بھی ضروری ہے (۱) نیک نیت۔ (۲) عمل کو حکم کے مطابق ادا کرنا، جیسا کہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا (1)

ترجمہ کنزالعرفان: اور جو آخرت چاہتا ہے اور اس کیلئے ایسی کوشش کرتا ہے جیسی کرنی چاہیے اور وہ ایمان والا بھی ہو تو یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔

(4).....بندے کے اعمال لکھنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے دو فرشتوں کو مقرر فرمایا ہے اور ان کا لکھنا چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے اس لئے یہ لکھنا اللہ تعالیٰ کا لکھنا ہے، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے بعض کام اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہو سکتے ہیں۔

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ ﴿۹۵﴾ حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ
يَأْجُوجُ وَمَا جُوجُ وَهُمْ مِّنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ ﴿۹۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور حرام ہے اس بستی پر جسے ہم نے ہلاک کر دیا کہ پھر لوٹ کر آئیں۔ یہاں تک کہ جب کھولے جائیں گے یا جوج و ما جوج اور وہ ہر بلندی سے ڈھلکتے ہوں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں۔ یہاں تک کہ جب یا جوج اور ما جوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ ہر بلندی سے تیزی سے اترتے ہوئے آئیں گے۔

﴿وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ﴾: اور جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس پر حرام ہے کہ لوٹ کر نہ آئیں۔ مفسرین نے اس آیت کے مختلف معنی بیان کئے ہیں (1) جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کا اپنے اعمال کی تلافی اور اپنے احوال کے تدارک کے لئے دنیا کی طرف واپس آنا ناممکن ہے۔ (2) جس بستی والوں کو ہم نے ہلاک کرنے

کا فیصلہ کر دیا ان کا شرک اور کفر سے واپس آنا محال ہے۔ (3) جس بستی کے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ان کا قیامت کے دن زندہ ہونے کی طرف نہ لوٹنا ناممکن ہے یعنی وہ قطعاً قیامت کے دن لوٹ کر آئیں گے۔ (1)

﴿حَتَّىٰ إِذَا فُتِحَتْ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ﴾: یہاں تک کہ جب یا جوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یا جوج ماجوج دو قبیلوں کے نام ہیں، جب قیامت آنے کا وقت قریب ہوگا تو یا جوج اور ماجوج کو روک کر رکھنے والی دیوار کو کھول دیا جائے گا اور وہ زمین کی ہر بلندی سے تیزی کے ساتھ لوگوں کی طرف اترتے ہوئے آئیں گے۔ (2)

نوٹ: یا جوج اور ماجوج سے متعلق تفصیلی کلام سورہ کہف کی آیت نمبر 94 تا 99 کی تفسیر میں ملاحظہ فرمائیں۔

وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ إِذْ أَهَىٰ شَاخِصَةً أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا
يُؤَلِّقُنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿۹۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور قریب آیا سچا وعدہ تو جبھی آنکھیں پھٹ کر رہ جائیں گی کافروں کی کہ ہائے ہماری خرابی بیشک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور سچا وعدہ قریب آ گیا تو جبھی اس وقت کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی کہ ہائے ہماری خرابی! بیشک ہم اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم ظالم تھے۔

﴿وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ﴾: اور سچا وعدہ قریب آ گیا۔ ﴿اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت اس دن کی ہولناکی اور دہشت سے کافروں کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی اور وہ کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی! بیشک ہم دنیا کے اندر اس سے غفلت میں تھے بلکہ ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے کہ رسولوں کی بات نہ مانتے تھے اور انہیں جھٹلاتے تھے۔ (3)

①.....تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۹۵، ۱۸۵/۸، مدارك، الانبياء، تحت الآیة: ۹۵، ص ۷۲۶، ملنقطاً.

②.....جلالین، الانبیاء، تحت الآیة: ۹۶، ص ۲۷۷، مدارك، الانبياء، تحت الآیة: ۹۶، ص ۷۲۶، ملنقطاً.

③.....خازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۹۷، ۲۹۵/۳، جلالین، الانبياء، تحت الآیة: ۹۷، ص ۲۷۷، ملنقطاً.

کفار کے انجام میں عبرت و نصیحت

اس آیت میں کفار کا جو حال بیان کیا گیا اس میں ہر عقلمند انسان کے لئے بڑی عبرت اور نصیحت ہے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمام لوگوں کو اپنی رحمت و انعام اور اس کے حق داروں کے بارے میں بشارت اور خبر دے دی، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی پکڑ، گرفت، عذاب، موت کی سختیوں اور قیامت و جہنم کی ہولناکیوں کے بارے میں بھی بتا دیا اور ان لوگوں کی بھی خبر دے دی جو ان میں مبتلا ہوں گے، اس کے باوجود جو انسان غفلت سے کام لے اور دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت نہ کرے تو قیامت کے دن وہ لاکھ حیلے بہانے کر لے اور کتنے ہی عذر پیش کر دے، اس کا کوئی حیلہ اور عذر قبول نہ ہوگا۔

حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”میں تمہارے پاس تمہارے مال طلب کرنے اور تم میں عزت و مرتبہ چاہنے نہیں آیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے تمہاری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے اور مجھ پر ایک عظیم کتاب نازل فرمائی ہے اور مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں تمہارے لئے (اللہ تعالیٰ کے ثواب کی) خوشخبری دینے والا اور (اللہ تعالیٰ کے عذاب سے) ڈرانے والا بنوں، تو میں نے تم تک اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا اور تمہیں نصیحت کر دی، اب اگر تم اسے قبول کرو جسے میں تمہارے پاس لایا ہوں تو وہ تمہارے لئے دنیا و آخرت میں ایک حصہ ہے اور اگر تم اسے رد کر دو تو میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی وجہ سے صبر کروں گا یہاں تک کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان کوئی فیصلہ فرما دے۔“ (۱)

ایک بزرگ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ جنازے کے پیچھے میت پر بڑی شفقت کر رہے ہیں، تو انہوں نے فرمایا ”اگر تم اپنی جانوں پر رحم کھاؤ (یعنی میت سے زیادہ اپنے اوپر رحم کھاؤ) تو یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے کیونکہ جس کا جنازہ تم لے کر جا رہے ہو وہ فوت ہو گیا اور تین ہولناکیوں، مملکت الموت کو دیکھنے، موت کی سختی اور مرنے کے خوف سے نجات پا گیا (جبکہ تمہیں ابھی ان تینوں ہولناکیوں کا سامنا کرنا ہے۔)“ (۲)

اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ دُوْنِ اللّٰهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ اَنْتُمْ لَهَا وِرَادُوْنَ ﴿۹۸﴾

①.....خلق افعال العباد، باب ما جاء في قول الله: بلغ ما انزل اليك من ربك، ص ۸۱.

②.....روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ۹۷، ۵/۲۳.

لَوْ كَانَ هُوَ لِآلِهَةٍ مَّا وَرَدُّهَا طُ وَكُلُّ فِيهَا خَلِدُونَ ﴿۹۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک تم اور جو کچھ اللہ کے سوا تم پوجتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہو تمہیں اس میں جانا۔ اگر یہ خدا ہوتے جہنم میں نہ جاتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔ تم اس میں جانے والے ہو۔ اگر یہ معبود ہوتے تو جہنم میں داخل نہ ہوتے اور ان سب کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔

﴿اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ﴾ بیشک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ اے مشرکوں! بیشک تم اور اللہ تعالیٰ کے سوا جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، سب جہنم کے ایندھن ہیں اور تم اس میں ہمیشہ کے لئے جانے والے ہو۔ (۱)

یاد رہے کہ مشرکین کے بت عذاب پانے کے لئے جہنم میں نہ جائیں گے بلکہ ان مشرکوں کو عذاب دینے کے لئے جائیں گے کیونکہ ان کی پوجا کرنے میں قصور تو مشرکوں کا ہے نہ کہ ان بتوں کا۔

لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ وَهُمْ فِيهَا لَا يَسْمَعُونَ ﴿۱۰۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: وہ اس میں رینگیں گے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔

﴿لَهُمْ فِيهَا زَفِيرٌ﴾ جہنم میں ان کی گدھے جیسی آوازیں ہوں گی۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ وہ مشرک جہنم میں گدھے جیسی آوازیں نکالیں گے اور عذاب کی شدت سے چیخیں گے اور دھاڑیں گے اور وہ جہنم کے جوش کی شدت کی وجہ سے اس میں کچھ نہ

۱..... روح البیان، الانبياء، تحت الآية: ۹۸، ۵۲۳/۵-۵۲۴.

سنیں گے۔ (۱)

حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا ”جب جہنم میں وہ لوگ رہ جائیں گے جنہیں اس میں ہمیشہ رہنا ہے تو وہ آگ کے تابوتوں میں بند کر دیئے جائیں گے، وہ تابوت دوسرے تابوتوں میں، پھر وہ تابوت اور تابوتوں میں بند کر دیئے جائیں گے اور ان تابوتوں پر آگ کی میخیں لگادی جائیں گی تو وہ کچھ نہ سنیں گے اور نہ کوئی ان میں کسی کو دیکھے گا۔ (۲)

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ ﴿۱۰۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک وہ جن کے لیے ہمارا وعدہ بھلائی کا ہو چکا وہ جہنم سے دُور رکھے گئے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے وہ جہنم سے دُور رکھے جائیں گے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ﴾: بیشک جن کے لیے ہمارا بھلائی کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے۔ ﴿شانِ نزول﴾: رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ایک دن کعبہ معظمہ میں داخل ہوئے، اس وقت قریش کے سردار حطیم میں موجود تھے اور کعبہ شریف کے گرد تین سو ساٹھ بت تھے۔ نضر بن حارث سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے سامنے آیا اور آپ سے کلام کرنے لگا۔ حضور پر نور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے اسے جواب دے کر خاموش کر دیا اور یہ آیت تلاوت فرمائی

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ (۳)

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک تم اور جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں۔

یہ فرما کر حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم تشریف لے آئے۔ پھر عبد اللہ بن زبیری سہمی آیا اور اسے ولید بن مغیرہ نے اس گفتگو کی خبر دی تو وہ کہنے لگا: خدا کی قسم! اگر میں ہوتا تو ان سے بحث مباحثہ کرتا۔ اس پر لوگوں نے رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو بلوا لیا۔ ابن زبیری یہ کہنے لگا: آپ نے یہ فرمایا ہے کہ تم اور جو کچھ اللہ تعالیٰ کے سوا تم پوجتے

①.....مدارک، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۰، ص ۷۲۷، جلالین، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۰، ص ۲۷۷، ملتقطاً.

②.....خازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۰، ص ۲۹۶/۳.

③.....انبیاء: ۹۸.

ہو سب جہنم کے ایندھن ہیں؟ حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ہاں۔ وہ کہنے لگا: یہودی تو حضرت عزیر عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو پوجتے ہیں اور عیسائی حضرت عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو پوجتے ہیں اور بنی ملیح فرشتوں کو پوجتے ہیں (مطلب یہ کہ پھر تو یہ بھی جہنم میں جائیں گے) اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور بیان فرمادیا کہ حضرت عزیر، حضرت عِيسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور فرشتے وہ ہیں جن کے لئے بھلائی کا وعدہ ہو چکا اور وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اور حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ درحقیقت یہودی اور عیسائی وغیرہ شیطان کی عبادت کرتے ہیں۔ ان جو ابوں کے بعد اسے دم مارنے کی مجال نہ رہی اور وہ بھی خاموش رہ گیا۔ درحقیقت ابن زبیری کا اعتراض انتہائی عناد کی وجہ سے تھا کیونکہ جس آیت پر اس نے اعتراض کیا اس میں **مَا تَعْبُدُونَ** کا لفظ ہے اور ما عربی زبان میں ان کے لئے بولا جاتا ہے جو ذوی العقول نہ ہوں، یہ جاننے کے باوجود اس نے اندھا بن کر اعتراض کیا۔ یہ اعتراض تو اہل زبان کی نگاہوں میں کھلا ہوا باطل تھا مگر مزید بیان کے لئے اس آیت میں وضاحت فرمادی گئی کہ حضرت عزیر، حضرت عِيسَى عَلَيْهِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور فرشتے جہنم سے دور رکھے گئے ہیں۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں وہ تمام مومنین داخل ہیں جن کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھلائی اور سعادت کا وعدہ پہلے سے ہو چکا ہے، یہ سب جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔^(۱)

صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كِي عِظْمَتِ وَشَانِ

تفسیر مدارک میں ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ نے یہ آیت **إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ** پڑھ کر فرمایا ”میں انہیں میں سے ہوں اور حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، سعد اور عبدالرحمن بن عوف رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بھی انہیں میں سے ہیں۔“^(۲)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”عَزِيزٌ جَبَّارٌ وَاحِدٌ قَهَّارٌ جَلٌّ وَعَلَا نے صحابہ کرام کو دو قسم کیا، ایک وہ کہ قبل فتح مکہ جنہوں نے راہِ خدا میں خرچ و قتال کیا، دوسرے وہ جنہوں نے بعد فتح، پھر فرمادیا کہ دونوں فریق سے اللہ عَزَّوَجَلَّ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا اور ساتھ ہی فرمادیا کہ اللہ کو تمہارے کاموں کی خوب خبر ہے کہ

1.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۱، ۲۹۶/۳، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۱، ص ۷۲۷، ملتقطاً.

2.....مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۱، ص ۷۲۷.

تم کیا کیا کرنے والے ہو، با اینہم اس نے تم سب سے حُسنی کا وعدہ فرمایا۔ یہاں قرآنِ عظیم نے ان دریدہ دہنوں، بیباکوں، بے ادب، ناپاکوں کے منہ میں پتھر دے دیا جو صحابہ کرام کے افعال سے اُن پر طعن چاہتے ہیں، وہ بشرطِ صحت اللہ عَزَّوَجَلَّ کو معلوم تھے، پھر بھی اُن سب سے حُسنی کا وعدہ فرمایا، تو اب جو معترض ہے اللہ واحد قہار پر معترض ہے، جنت و مدارجِ عالیہ اس معترض کے ہاتھ میں نہیں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے ہاتھ ہیں، معترض اپنا سر کھاتا رہے گا اور اللہ نے جو حُسنی کا وعدہ اُن سے فرمایا ہے ضرور پورا فرمائے گا اور معترض جہنم میں سزا پائے گا، وہ آیہ کریمہ یہ ہے:

لَا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ
وَقَتْلِ أُولِيكَ الْأَعْظَمِ دَرَجَةً مِنَ الَّذِينَ
أَنْفَقُوا مِنْ بَعْدِ وَقَتْلُوا ۗ وَكَلَّا وَعَدَّ اللَّهُ
الْحُسْنَى ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ (۱)

اے محبوب کے صحابو! تم میں برابر نہیں وہ جنہوں نے فتح سے پہلے خرچ و قتال کیا، وہ رتبے میں بعد والوں سے بڑے ہیں، اور دونوں فریق سے اللہ نے حُسنی کا وعدہ کر لیا، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرنے والے ہو۔

اب جن کے لیے اللہ کا وعدہ حُسنی کا ہوا اُن کا حال بھی قرآنِ عظیم سے سنئے:

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ
عَنهَا مُبَعَدُونَ ﴿۱۰۱﴾ لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا
وَهُمْ فِي مَا اشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خِلْدُونَ ﴿۱۰۲﴾
لَا يَحْزَنُهُمُ الْفَزَعُ الْأَكْبَرُ وَتَتَلَقَّهُمُ الْمَلَائِكَةُ
هَٰذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ (۲)

بے شک جن کے لیے ہمارا وعدہ حُسنی کا ہو چکا وہ جہنم سے دور رکھے گئے ہیں، اس کی بھنک تک نہ سنیں گے اور ہمیشہ اپنی من مانتی مرادوں میں رہیں گے۔ وہ بڑی گھبراہٹ قیامت کی بالچل انہیں غم نہ دے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے یہ کہتے ہوئے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تمہیں وعدہ دیا جاتا تھا۔

یہ ہے جمیع صحابہ کرام سَيِّدِ الْاِنَامِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے لیے قرآنِ کریم کی شہادت۔ امیر المؤمنین، مولیٰ المسلمین، علی مرتضیٰ مشکل کشا کَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ قسم اول میں ہیں جن کو فرمایا ”أُولَٰئِكَ الْأَعْظَمِ دَرَجَةً“ اُن کے مرتبے قسم دوم والوں سے بڑے ہیں۔ اور امیر معاویہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ قسم دوم میں ہیں، اور حُسنی کا وعدہ اور یہ تمام بشارتیں سب کو شامل۔ (۳)

①.....حدید: ۱۰۔

②.....انبیاء: ۱۰۱-۱۰۳۔

③.....فتاویٰ رضویہ، ۲۹/۲۷۹-۲۸۰۔

﴿أُولَئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ﴾: وہ جہنم سے دور رکھے جائیں گے۔ علامہ احمد صاوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ انہیں جہنم کے عذاب اور اس کی اذیت و تکلیف سے دور رکھا جائے گا کیونکہ جب مومنین جہنم کے اوپر سے گزریں گے تو جہنم کی آگ ٹھنڈی ہونے لگے گی اور وہ کہے گی اے مومن! جلدی سے گزر جا کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلے کو بجھا دیا ہے۔ لہذا ایمان والوں کا جہنم کے اوپر سے گزرنا اس آیت کے منافی نہیں ہے۔^(۱)

لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا وَهُمْ فِي مَا شَتَّتْ أَنْفُسَهُمْ خِلْدُونَ ﴿۱۰۲﴾
لَا يَحْرُزُهُمْ الْفَرْعُ إِلَّا كَبُرُوتُ تَلْقَاهُمْ الْمَلِكَةُ هَذَا يَوْمُكُمْ الَّذِي
كُنْتُمْ تُوعَدُونَ ﴿۱۰۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: وہ اس کی بھنک نہ سنیں گے اور وہ اپنی من مانتی خواہشوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں غم میں نہ ڈالے گی وہ سب سے بڑی گھبراہٹ اور فرشتے ان کی پیشوائی کو آئیں گے کہ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ تھا۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی دل پسند نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہارا وہ دن ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔

﴿لَا يَسْمَعُونَ حَسِيسَهَا﴾: وہ اس کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ جنت کی منازل میں آرام فرما ہوں گے تو وہ جہنم کی ہلکی سی آواز بھی نہ سنیں گے اور اس کے جوش کی آواز بھی ان تک نہ پہنچے گی، اور وہ جنت میں اپنی دل پسند نعمتوں اور کرامتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔^(۲)

﴿لَا يَحْرُزُهُمْ الْفَرْعُ إِلَّا كَبُرُوتُ تَلْقَاهُمْ الْمَلِكَةُ﴾: انہیں سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ”سب سے بڑی گھبراہٹ سے مراد دوسری بار صویر میں پھونکا جانا ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک

①..... صاوی، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۱، ۱۰۲/۴، ۱۳۲۰.

②..... جمل، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۲، ۱۰۳/۵، قرطبي، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۲، ۱۰۳/۶، ۲، منقطعاً.

اس سے وہ وقت مراد ہے جب موت کو ذبح کر کے یہ ندا دی جائے گی کہ اے جہنم والو! تمہیں اب موت کے بغیر جہنم میں ہمیشہ رہنا ہے۔

مزید فرمایا کہ قبروں سے نکلتے وقت مبارک باد دیتے اور یہ کہتے ہوئے فرشتے ان کا استقبال کریں گے کہ یہ تمہیں ثواب ملنے کا وہ دن ہے جس کا دنیا میں تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔^(۱)

سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ

احادیث میں چند ایسے لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے جو قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہیں گے، ترغیب کے لئے یہاں ان پانچ خوش نصیب افراد کا ذکر کیا جاتا ہے جن کا ذکر احادیث میں ہے،

(۱)..... شہید۔ چنانچہ حضرت مقدم بن معدی کرب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شہید کے لئے چھ خصلتیں ہیں، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اس کی بخشش ہو جاتی ہے۔ جنت میں اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے۔ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہے گا۔ اس کے سر پر عزت و وقار کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یا قوت دنیا و مافیہا سے بہتر ہوگا۔ بڑی آنکھوں والی 72 حوریں اس کے نکاح میں دی جائیں گی اور اس کے ستر رشتہ داروں کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔^(۲)

(۲)..... رضائے الہی کے لئے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے۔ چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہ انبیاء ہیں نہ شہداء، ان کے لئے قیامت کے دن نور کے منبر رکھے جائیں گے، ان کے چہرے بھی نورانی ہوں گے اور وہ قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ سے محفوظ ہوں گے۔ ایک شخص نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، وہ کون لوگ ہیں؟ ارشاد فرمایا ”وہ مختلف قبیلوں سے تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہوں گے جو ایک دوسرے سے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر محبت رکھتے ہوں گے۔^(۳)

(3،4،5)..... جس امام سے مقتدی خوش ہوں، روزانہ اذان دینے والا، اللہ تعالیٰ اور اپنے آقا کا حق ادا کرنے والا غلام۔

①..... مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۳، ص ۷۲۷، حازن، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۳، ۲۹۶/۳، ملتقطاً.

②..... ترمذی، کتاب فضائل الجهاد، باب فی ثواب الشہید، ۲۵۰/۳، الحدیث: ۱۶۶۹.

③..... معجم الكبير، من اسمه: معاذ، معاذ بن جبل الانصاری... الخ، رجال غير مسلمين عن معاذ، ۱۶۸/۲، الحدیث: ۳۵۸.

چنانچہ حضرت عبد اللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”تین افراد ایسے ہیں جنہیں قیامت کے دن سب سے بڑی گھبراہٹ پریشان نہیں کرے گی، انہیں حساب کی سختی نہ پہنچے گی اور وہ مخلوق کا حساب ختم ہونے تک کستوری کے ٹیلوں پر ہوں گے۔ (۱) وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے قرآن پڑھا اور اس کے ساتھ کسی قوم کی امامت کی اور وہ اس سے راضی ہوں۔ (۲) وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کی رضا چاہتے ہوئے لوگوں کو پانچوں نمازوں کی طرف اذان دے کر بلائے۔ (۳) وہ غلام جو اللہ تعالیٰ کا حق اور اپنے آقاؤں کا حق اچھے طریقے سے ادا کرتا ہے۔ (۱)

يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ ۗ كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ
نُعِيدُهُ ۗ وَعَدًّا عَلَيْنَا ۗ إِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ ﴿۱۰۴﴾

ترجمہ کنز الایمان: جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے ہم نے جیسے پہلے اسے بنایا تھا ویسے ہی پھر کر دیں گے یہ وعدہ ہے ہمارے ذمہ ہم کو اس کا ضرور کرنا۔

ترجمہ کنز العرفان: یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے، بیشک ہم ضرور یہ کرنے والے ہیں۔

﴿يَوْمَ نَطْوِي السَّمَاءَ﴾: یاد کرو جس دن ہم آسمان کو لپیٹیں گے۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا انہیں اس دن سب سے بڑی گھبراہٹ غمگین نہ کرے گی جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں سے بھلائی کا وعدہ ہو چکا فرشتے اس دن ان کا استقبال کریں گے جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔ تیسرا معنی یہ ہے کہ یاد کرو جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جیسے سجل فرشتہ بندے

①.....معجم الصغير، باب الواو، من اسمه: الوليد، ص ۱۲۴، الجزء الثاني.

کی موت کے وقت اس کے نامہ اعمال کو لپیٹتا ہے۔^(۱)

سَجَل کا معنی

سجل سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے مختلف اقوال ہیں، ان میں سے ایک قول یہ ہے کہ سجل تیسرے آسمان پر موجود اس فرشتے کا نام ہے جس تک بندوں کی موت کے بعد ان کے اعمال نامے پہنچائے جاتے ہیں اور وہ فرشتہ ان اعمال ناموں کو لپیٹ دیتا ہے، چنانچہ ابو حیان محمد اندلسی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ فَرَمَاتے ہیں ”حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا اور مفسرین کی ایک جماعت کا قول یہ ہے کہ سجل ایک فرشتہ ہے، جب اس تک بندوں کے نامہ اعمال پہنچائے جاتے ہیں تو وہ انہیں لپیٹ دیتا ہے۔^(۲)

﴿كَمَا بَدَأْنَا أَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيدُهُ﴾: ہم اسے دوبارہ اسی طرح لوٹا دیں گے جس طرح ہم نے پہلے بنایا تھا۔ یعنی ہم نے جیسے پہلے انسان کو عدم سے بنایا تھا ویسے ہی پھر معدوم کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کر دیں گے، یا اس کے یہ معنی ہیں کہ جیسا اسے ماں کے پیٹ سے برہنہ اور غیر ختنہ شدہ پیدا کیا تھا ایسا ہی مرنے کے بعد اٹھائیں گے۔^(۳)

انبیاء، صحابہ اور اولیاء کا حشر لباس میں ہوگا

اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ قیامت کے دن لوگوں کا حشر ایسے ہوگا کہ ان کے بدن ننگے ہوں گے اور ان کا ختنہ بھی نہیں ہوا ہوگا۔ صحیح مسلم میں حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اے لوگو! تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بے ختنہ کئے جمع کئے جاؤ گے۔^(۴)

البتہ یہاں یہ یاد رہے کہ انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلٰوَةُ وَالسَّلَام، صحابہ کرام رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ اور اولیاء کرام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِمْ قیامت کے دن اس حال سے محفوظ ہوں گے اور ان کا حشر لباس میں کیا جائے گا۔ جیسا کہ مفتی احمد یار خاں نعیمی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ اس حدیث کے تحت ارشاد فرماتے ہیں: اس فرمانِ عالی میں اِنكُمْ فرما کر بتایا گیا کہ تم عوام لوگ

①.....تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۴، ۱۰۸/۱۹۱، جلالین، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۴، ص ۲۷۷، ملنقطاً.

②.....البحر المحيط، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۴، ۱۰۶/۳۱۷.

③.....جلالین، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۴، ص ۲۷۷، حازن، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۴، ۲۹۶/۳، ملنقطاً.

④.....مسلم، کتاب الحنة و صفة نعيمها و اهلها، باب فناء الدنيا و بيان الحشر يوم القيامة، ص ۱۵۳، الحدیث: ۵۸ (۲۸۶۰).

اس حالت میں اٹھو گے: ننگے بدن، ننگے پاؤں، بے ختنہ، مگر تمام انبیاء کرام اپنے کفٹوں میں اٹھیں گے حتیٰ کہ بعض اولیاء اللہ بھی کفن پہنے اٹھیں گے تاکہ ان کا ستر کسی اور پر ظاہر نہ ہو۔ جامع صغیر کی روایت میں ہے کہ حضور نے فرمایا کہ میں قبر انور سے اٹھوں گا اور فوراً مجھے جنتی جوڑا پہنا دیا جاوے گا۔ لہذا یہاں اس فرمان عالی سے حضور انور صَلَّی اللہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمَ بلکہ تمام انبیاء، بعض اولیاء مُسْتَشْنٰی ہیں۔ (1)

اور فقیہ اعظم مفتی ابوالخیر نور اللہ نعیمی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ یہ حدیث پاک ذکر کرنے کے بعد فرماتے ہیں: یہ خطاب امت کو ہے جس کا ظاہر یہ ہے کہ حضرات انبیاء کرام سب مُسْتَشْنٰی ہیں، اور وہ سب بِفَضْلِہِ تَعَالٰی لباس میں ہونگے، ہاں تشریفی خلعتیں بھی علی حسب المدا رج ان حضرات کیسے وارد ہیں (عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) بہر حال اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے کہ امتی ننگے ہوں گے۔ (2)

دوسرے مقام پر ارشاد فرماتے ہیں: آیات مُتْكَاتِرَةٌ اور اَحَادِيثٌ مُتَوَاتِرَةٌ سے واضح ہوتا ہے کہ حضرات صحابہ کرام اور اولیاء عظام رَضِيَ اللہُ عَنْہُمْ کا حشر بھی لباس میں ہوگا کہ یہ سب حضرات مُنْعَمٌ عَلَیْہُمْ ہیں اور ان کے لئے حضرات انبیاء کرام عَلَیْہُمْ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی معیت و رفاقت خاصہ بحکم قرآن کریم صراحتاً ثابت ہے۔ پ 5 ع 6 میں ہے ”وَمَنْ يُطِيعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصّٰدِقِيْنَ وَالشّٰہِدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ؕ وَحَسَنَ اُولٰٓئِكَ رَافِقًا“ اس انعام و معیت و رفاقت سے ہی واضح ہو رہا ہے کہ وہ بھی انبیاء کرام کی معیت میں لباس میں ہوں گے بالخصوص جبکہ یہ حضرات ہیں ہی صدیقین یا شہدا سے یا صالحین۔ (3)

﴿وَعَدَّا عَلَيْنَا﴾: یہ ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے۔ یعنی تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کرنے کی طرح دوبارہ پیدا کرنا ہمارے اوپر ایک وعدہ ہے اور اسے ہم ضرور پورا کریں گے۔ (4)

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الرُّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ اَنَّ اِلَّا رُضَّ يَرِثُهَا

1.....مراة المناجیح، حشر کا بیان، پہلی فصل، ۲۹۰/۷، تحت الحدیث: ۵۲۹۳۔

2.....فتاویٰ نوریہ، کتاب العقائد، ۱۲۵/۵۔

3.....فتاویٰ نوریہ، کتاب العقائد، ۱۲۹/۵۔

4.....روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۴، ۵۲۶/۵۔

عِبَادِي الصَّالِحُونَ ﴿۱۰۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے زبور میں نصیحت کے بعد لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔

﴿وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ﴾ اور بیشک ہم نے نصیحت کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ ﴿﴾ ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں زبور سے وہ تمام کتابیں مراد ہیں جو انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر نازل ہوئیں اور ذکر سے مراد لوح محفوظ ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ لوح محفوظ میں لکھنے کے بعد ہم نے تمام آسمانی کتابوں میں لکھ دیا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ زبور سے وہ آسمانی کتاب مراد ہے جو حضرت داؤد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر نازل ہوئی اور ذکر سے مراد تورات ہے، اور آیت کا معنی یہ ہے کہ تورات میں لکھنے کے بعد زبور میں لکھ دیا۔ (1)

﴿أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ﴾ کہ اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ ﴿﴾ اس زمین سے مراد جنت کی زمین ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوں گے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ اس سے کفار کی زمینیں مراد ہیں جنہیں مسلمان فتح کریں گے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے شام کی زمین مراد ہے جس کے وارث اللہ تعالیٰ کے وہ نیک بندے ہوں گے جو اس وقت شام میں رہنے والوں کے بعد آئیں گے۔ (2)

إِنَّ فِي هَذَا بَلَاغًا لِقَوْمٍ عَابِدِينَ ﴿۱۰۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک یہ قرآن کافی ہے عبادت والوں کو۔

1.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۵، ۲۹۷/۳، مدارك، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۵، ص ۷۲۸، ملتقطاً.

2.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۵، ۲۹۷/۳.

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک اس قرآن میں عبادت کرنے والوں کیلئے کافی سامان ہے۔

﴿إِنَّ فِي هَذَا الْبَلَاغِ﴾ بیشک اس قرآن میں کافی سامان ہے۔ یعنی قرآن کریم مومن عبادت گزاروں کو ہدایت و رہبری کے لئے کافی ہے بشرطیکہ اسے صاحب قرآن صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی تعلیم و تفہیم کے ماتحت سمجھا جائے، محض عقل سے سمجھنا کافی نہیں اور جو اس کی پیروی کرے اور اس کے مطابق عمل کرے وہ مراد کو پہنچے اور جنت پائے گا۔ عبادت کرنے والوں سے مراد مومنین ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کرتے اور ایک قول یہ ہے کہ اُمتِ محمدیہ مراد ہے جو پانچوں نمازیں پڑھتے ہیں رمضان کے روزے رکھتے ہیں اور حج کرتے ہیں۔^(۱)

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ ﴿۱۰۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لئے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ﴾ اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر ہی بھیجا۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کیلئے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے۔

حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی رحمت

تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نبیوں، رسولوں اور فرشتوں عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کے لئے رحمت ہیں، دین و دنیا میں رحمت ہیں، جنات اور انسانوں کے لئے رحمت ہیں، مومن و کافر کے لئے رحمت ہیں، حیوانات، نباتات اور جمادات کے لئے رحمت ہیں الغرض عالم میں جتنی چیزیں داخل ہیں، سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ان سب کے لئے رحمت ہیں۔ چنانچہ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا رحمت ہونا عام ہے، ایمان والے کے لئے بھی اور اس کے لئے بھی جو ایمان نہ لایا۔ مومن کے لئے تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دنیا و آخرت دونوں میں رحمت ہیں اور جو ایمان نہ لایا اس کے لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

1.....خازن، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۶، ۲۹۷/۳.

وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ دُنْيَا مِثْلِ رَحْمَتِ هَيْسٍ كِهٖ اَپَّ صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ كِي بَدْوَلَتِ اَسْ كِهٖ دُنْيُو كِي عَذَابِ كُو مُؤَخَّرْ كَر دِيَا كِيَا اَوْر اَسْ سِهٖ زَمِيْنِ مِثْلِ دَحْسَا نِهٖ كَا عَذَابِ، شَكْلِيْسِ بَكَا رُو دِيْنِهٖ كَا عَذَابِ اَوْر جُرْ سِهٖ اَكْهَارُو دِيْنِهٖ كَا عَذَابِ اُتْهَا دِيَا كِيَا۔^(۱)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”عالم ماسوائے اللّٰه کو کہتے ہیں جس میں انبیاء و ملائکہ سب داخل ہیں۔ تو لاجرم (یعنی لازمی طور پر) حضور پر نور، سید المرسلین صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ ان سب پر رحمت و نعمت ربُّ الارباب ہوئے، اور وہ سب حضور کی سرکار عالی مدار سے بہرہ مند و فیضیاب۔ اسی لئے اولیائے کاملین و علمائے کاملین تصریح فرماتے ہیں کہ ”ازل سے ابد تک، ارض و سماء میں، اولیٰ و آخرت میں، دین و دنیا میں، روح و جسم میں، چھوٹی یا بڑی، بہت یا تھوڑی، جو نعمت و دولت کسی کو ملی یا اب ملتی ہے یا آئندہ ملے گی سب حضور کی بارگاہ جہاں پناہ سے بڑی اور بڑی ہے اور ہمیشہ بڑے گی۔“^(۲)

اور فرماتے ہیں ”حضور اقدس صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَحْمَةُ اللّٰعَالَمِيْنَ بنا کر بھیجے گئے اور مومنین پر بالخصوص کمال مہربان ہیں، رؤف رحیم ہیں، ان کا مشقت میں پڑنا ان پر گراں ہے، ان کی بھلائیوں پر حریص ہیں، جیسے کہ قرآن عظیم ناطق:

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ
رَءُوفٌ رَّحِيمٌ^(۳)

(ترجمہ کنز العرفان: بیشک تمہارے پاس تم میں سے وہ عظیم
رسول تشریف لے آئے جن پر تمہارا مشقت میں پڑنا بہت بھاری
گزرتا ہے، وہ تمہاری بھلائی کے نہایت چاہنے والے، مسلمانوں
پر بہت مہربان، رحمت فرمانے والے ہیں۔)

تمام عاصیوں کی شفاعت کے لئے تو وہ مقرر فرمائے گئے:

وَاسْتَعْفِرْ لِدُنْيِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ^(۴)

(ترجمہ کنز العرفان: اور اے حبیب! اپنے خاص غلاموں اور
عام مسلمان مردوں اور عورتوں کے گناہوں کی معافی مانگو۔)^(۵)

①.....حازن، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۷، ۲۹۷/۳.

②.....فتاویٰ رضویہ، رسالہ: تجلی الیقین، ۱۳۱/۳۰۔

③.....توبہ: ۱۲۸.

④.....سورة محمد: ۱۹.

⑤.....فتاویٰ رضویہ، ۲۴/۲۴-۲۷۵۔

آیت ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ اور عظمتِ مصطفیٰ

یہ آیت مبارکہ تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عظمت و شان پر بہت بڑی دلیل ہے، یہاں اس سے ثابت ہونے والی دو عظمتیں ملاحظہ ہوں:

(1)..... اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مخلوق میں سب سے افضل ہیں۔ چنانچہ امام فخر الدین رازی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”جب حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تمام عالمین کے لئے رحمت ہیں تو واجب ہوا کہ وہ (اللہ تعالیٰ کے سوا) تمام سے افضل ہوں۔“ (1)

تفسیر روح البیان میں اکابر بزرگانِ دین کے حوالے سے مذکور ہے کہ سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو تمام جہانوں کے لئے خواہ وہ عالم ارواح ہوں یا عالم اجسام، ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول سب کے لئے مُطْلَق، تام، کامل، عام، شامل اور جامع رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے اور جو تمام عالموں کے لئے رحمت ہو تو لازم ہے کہ وہ تمام جہان سے افضل ہو۔ (2)

(2)..... اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ دونوں جہاں کی سعادتیں حاصل ہونے کا ذریعہ ہیں کیونکہ جو شخص دنیا میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر ایمان لائے گا اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت و پیروی کرے گا اسے دونوں جہاں میں آپ کی رحمت سے حصہ ملے گا اور وہ دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کرے گا اور جو آپ پر ایمان نہ لایا تو وہ دنیا میں آپ کی رحمت کے صدقے عذاب سے بچ جائے گا لیکن آخرت میں آپ کی رحمت سے کوئی حصہ نہ پاسکے گا۔ امام فخر الدین رازی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”لوگ کفر، جاہلیت اور گمراہی میں مبتلا تھے، اہل کتاب بھی اپنے دین کے معاملے میں حیرت زدہ تھے کیونکہ طویل عرصے سے ان میں کوئی نبی عَلَيْهِ السَّلَام تشریف نہ لائے تھے اور ان کی کتابوں میں بھی (تحریف اور تبدیلیوں کی وجہ سے) اختلاف رونما ہو چکا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو مبعوث فرمایا جب حق کے طلبگار کو کامیابی اور ثواب حاصل کرنے کی طرف کوئی راہ نظر نہ آرہی تھی، چنانچہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے لوگوں کو حق کی طرف بلایا اور ان کے سامنے درست راستہ بیان کیا

①..... تفسیر کبیر، البقرة، تحت الآية: ۲۵۳، ۲/۵۲۱.

②..... روح البیان، الانبیاء، تحت الآية: ۱۰۷، ۵/۵۲۸.

اور ان کے لئے حلال و حرام کے احکام مقرر فرمائے، پھر اس رحمت سے (حقیقی) فائدہ اسی نے اٹھایا جو حق طلب کرنے کا ارادہ رکھتا تھا (اور وہ آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم پر ایمان لا کر دنیا و آخرت میں کامیابی سے سرفراز ہوا اور جو ایمان نہ لایا) وہ دنیا میں آپ کے صدقے بہت ساری مصیبتوں سے بچ گیا۔^(۱)

تم ہو جو اد و کریم تم ہو رؤف و رحیم
بھیک ہو دانا عطا تم پہ کروڑوں درود

حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام اور حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رحمت میں فرق

ویسے تو اللہ تعالیٰ کے تمام رسول اور انبیاء عَلَیْہِمُ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام رحمت ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم عین رحمت اور سرِ اِرحمت ہیں، اسی مناسبت سے یہاں حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام اور حضور پُر نور صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی رحمت میں فرق ملاحظہ ہو، چنانچہ تفسیر روح البیان میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کے بارے میں ارشاد فرمایا:

وَرٰحْمۃً مِّنَّا (۲) **ترجمہ کنز العرفان:** اور اپنی طرف سے ایک رحمت (بنادیں)

اور اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حق میں ارشاد فرمایا

وَمَا اَرْسَلْنَاكَ اِلَّا رَحْمۃً لِّلْعٰلَمِیۡنَ **ترجمہ کنز العرفان:** اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کیلئے رحمت

بنا کر ہی بھیجا۔“

ان دونوں کی رحمت میں بڑا عظیم فرق ہے اور وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام کے رحمت ہونے کو حرف ”مِن“ کی قید کے ساتھ ذکر فرمایا اور یہ حرف کسی چیز کا بعض حصہ بیان کرنے کے لئے آتا ہے اور اسی وجہ سے حضرت عیسیٰ عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام ان لوگوں کے لئے رحمت ہیں جو آپ پر ایمان لائے اور اس کتاب و شریعت کی پیروی کی جو آپ لے کر آئے اور ان کی رحمت کا یہ سلسلہ سید المرسلین صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے مبعوث ہونے تک چلا، پھر آپ کا دین منسوخ ہونے کی وجہ سے اپنی امت پر آپ کا رحمت ہونا منقطع ہو گیا جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی

①..... تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ملخصاً.

②..... مریم: ۲۱.

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَے بارے میں مُطْلَق طور پر تمام جہانوں کے لئے رحمت ہونا بیان فرمایا، اسی وجہ سے عالمین پر آپ کی رحمت کبھی منقطع نہ ہوگی، دنیا میں کبھی آپ کا دین منسوخ نہ ہوگا اور آخرت میں ساری مخلوق یہاں تک کہ (حضرت عیسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور) حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بھی آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی شفاعت کے محتاج ہوں گے۔^(۱)

قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيَّ أَنبَاءُ اللَّهِ وَوَاحِدٌ فَهَلْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴿۱۰۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا خدا نہیں مگر ایک اللہ تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: مجھے تو یہی وحی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے تو کیا تم مسلمان ہوتے ہو؟

﴿قُلْ﴾ تم فرماؤ۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کے واحد معبود ہونے پر کئی دلائل پیش کئے گئے اور فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو تمام جہانوں کے لئے رحمت بنا کر ہی بھیجا ہے، اب یہاں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ کافروں سے فرمادیں کہ معبود کے معاملے میں میری طرف یہی وحی کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا تمہارا اور کوئی معبود نہیں لہذا تم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لا کر مسلمان ہو جاؤ۔^(۲)

**فَإِنْ تَوَلَّوْا فَعَلْنَا دُنُوسَكُمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ۗ وَإِنْ أَدْرِي أَقْرِبُ أَمْ بَعِيدُ
مَا تَوَعَدُونَ ﴿۱۰۹﴾**

ترجمہ کنزالایمان: پھر اگر وہ منہ پھیریں تو فرمادو میں نے تمہیں لڑائی کا اعلان کر دیا برابری پر اور میں کیا جانوں کہ

①..... روح البیان، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۷، ۵۲۸/۵.

②..... تفسیر کبیر، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۸، ۱۹۴/۸، حازن، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۸، ۲۹۷/۳، ملقطاً.

پاس ہے یا دور ہے وہ جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔

ترجیہ کنز العرفان: پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرمادو: میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر خبردار کر دیا ہے اور میں نہیں جانتا کہ تمہیں جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے؟

﴿فَإِنْ تَوَلَّوْا: پھر اگر وہ منہ پھیریں۔﴾ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ پھر اگر وہ کفار اسلام قبول کرنے سے منہ پھیریں تو آپ ان سے فرمادیں کہ میں نے تم سے لڑائی کا اعلان کر دیا ہے اور اس سے متعلق جاننے میں ہم اور تم برابر ہیں لیکن میں نہیں جانتا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تم سے جنگ کرنے کی اجازت کب ملے گی۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، پھر اگر وہ کفار منہ پھیریں اور اسلام نہ لائیں تو آپ ان سے فرمادیں: اللہ تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق جس چیز کا مجھے حکم دیا گیا میں نے تمہیں برابری کی بنیاد پر اس کے بارے میں خبردار کر دیا ہے اور رسالت کی تبلیغ کرنے اور نصیحت کرنے میں تمہارے درمیان کوئی فرق نہیں کیا ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر نہیں جانتا کہ تمہیں عذاب یا قیامت کا جو وعدہ دیا جاتا ہے وہ قریب ہے یا دور ہے۔^(۱)

﴿وَإِنْ أَدْبَرَی: اور میں نہیں جانتا۔﴾ آیت کے اس حصے کے بارے میں صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے خزائن العرفان میں جو کلام فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں درایت کی نفی فرمائی گئی ہے۔ درایت ”اندازے اور قیاس سے جاننے“ کو کہتے ہیں جیسا کہ امام راغب اصفہانی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے مفردات امام راغب میں اور علامہ شامی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ نے رد المحتار میں ذکر کیا ہے، اور قرآن کریم کے اطلاقات اس پر دلالت کرتے ہیں جیسا کہ فرمایا:

مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْآيَاتُ^(۲)

(ترجیہ کنز العرفان: اس سے پہلے تم کتاب کو جانتے تھے نہ

شریعت کے احکام کی تفصیل کو۔)

①.....تفسیر کبیر، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۹، ۱۰۹/۸، روح البیان، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۹، ۵۳۰/۵، جلالین، الانبیاء، تحت الآیة: ۱۰۹، ص ۲۷۸، ملقطاً.

②.....شوری: ۵۲.

اسی لئے اللہ تعالیٰ کے لئے درایت کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، لہذا یہاں اللہ تعالیٰ کے بتائے بغیر محض اپنی عقل اور قیاس سے جاننے کی نفی ہے نہ کہ مُطلق علم کی اور مُطلق علم کی نفی کیسے ہو سکتی ہے جب کہ اسی رکوع کے شروع میں آچکا ہے ”وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ“ یعنی اور سچا وعدہ قریب آ گیا۔ تو یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ وعدے کا قریب اور دور ہونا کسی طرح معلوم نہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ یہاں اپنی عقل اور قیاس سے جاننے کی نفی ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے جاننے کی نفی ہے۔^(۱)

إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ ﴿۱۱۰﴾ وَإِنْ أَدْرَأَيْ لَعَلَّهُ
فِتْنَةً لِّكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ ﴿۱۱۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک اللہ جانتا ہے آواز کی بات اور جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں کیا جانوں شاید وہ تمہاری جانچ ہو اور ایک وقت تک برتوانا۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو۔ اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو اور ایک وقت تک کیلئے فائدہ دینا ہے۔

﴿إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ﴾: بیشک اللہ بلند آواز سے کہی گئی بات کو جانتا ہے۔ ﴿عَلَىٰ﴾ یعنی اے کافرو! تم جو بلند آواز سے قرآن مجید کی آیات کو جھٹلاتے اور اسلام پر اعتراضات کرتے ہو بے شک اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں سے جو حسد و عداوت تم چھپاتے ہو اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے تو وہ تمہیں اس پر جہنم کی دردناک سزا دے گا۔^(۲)

①..... خزائن العرفان، الانبياء، تحت الآية: ۱۰۹، ص ۶۱۷۔

②..... روح البيان، الانبياء، تحت الآية: ۱۱۰، ۵۳۰/۵۔

﴿وَأَنْ أَدْرِي لَعَلَّهٗ فِتْنَةٌ لَّكُمْ﴾ اور میں نہیں جانتا کہ شاید وہ تمہاری آزمائش ہو۔ ﴿یعنی میں نہیں جانتا کہ شاید دنیا میں عذاب کو مؤخر کرنا تمہاری آزمائش ہو جس سے تمہارا حال ظاہر ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی مَشِيَّتِ کے مطابق موت کے وقت تک کیلئے تمہیں فائدہ دینا ہوتا کہ یہ تم پر حجت ہو جائے۔ (۱)

قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ ۗ وَرَبُّنَا الرَّحْمَنُ الْمُسْتَعَانُ عَلَىٰ مَا تَصِفُونَ ۗ ع (۱۱۲)

ترجمہ کنزالایمان: نبی نے عرض کی کہ اے میرے رب حق فیصلہ فرما دے اور ہمارے رب رحمن ہی کی مدد درکار ہے ان باتوں پر جو تم بتاتے ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: نبی نے عرض کی: اے میرے رب! حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے اور ہمارا رب رحمن ہی ہے جس سے ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔

﴿قُلْ رَبِّ احْكُم بِالْحَقِّ﴾: نبی نے عرض کی: اے میرے رب! حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے۔ ﴿یہاں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی دعا کا ذکر ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی: اے میرے رب! میرے اور ان کے درمیان جو مجھے جھٹلاتے ہیں اس طرح حق کے ساتھ فیصلہ فرما دے کہ میری مدد کرو اور ان پر عذاب نازل فرما۔ چنانچہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی اور جنگ بدر، جنگ احزاب اور جنگ حنین وغیرہ میں کفار مبتلائے عذاب ہوئے۔ آیت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ کافروں کو وعید بیان کرتے ہوئے فرمادیں کہ ”ہمارا رب رحمن ہی ہے جس سے شرک و کفر اور بے ایمان کی ان باتوں کے خلاف مدد طلب کی جاتی ہے جو تم کرتے ہو۔ (۲)

①..... روح البیان، الانبیاء، تحت الآية: ۱۱۱، ۵۳۰/۵.

②..... حازن، الانبیاء، تحت الآية: ۱۱۲، ۲۹۸/۳.

سُورَةُ الْحَجِّ

سورة حج کا تعارف

مقام نزول

سورة حج کے مکی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے، ایک قول یہ ہے کہ ”هٰذِنِ حَاصِنِ“ سے لے کر ”وَهْدُوًا اِلَى صِرَاطِ الْحَيِّدِ“ تک 6 آیتیں مدنی ہیں اور باقی آیتیں مکی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا اور امام مجاہد رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَايَك قول یہ ہے کہ سورة حج مكى هب البتة ”هٰذِنِ حَاصِنِ“ سے لے کر تين آيتين مدنى هين۔ جمهور کے نزدیک سورة حج كى بعض آيتين مكى هين اور بعض مدنى هين اور یہ متعين نهين هب كه كون سى آيتين مكى هين اور كون سى آيتين مدنى هين۔⁽¹⁾

رکوع اور آیات کی تعداد

اس سورت میں 10 رکوع اور 78 آیتیں ہیں۔

”حج“ نام رکھنے کی وجہ

اس سورة مباركه ميں حج كے اعلان عام اور حج كے احكام كا ذكر هب، اسى مناسبت كى وجه سے اس سورت كو ”سورة الحج“ كے نام سے موسوم كيا كيا هب۔

سورة حج کے بارے میں حدیث

حضرت عقبه بن عامر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے هين، ميں نے عرض كى: يا رسول الله! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، كيا سورة حج كو اس طرح بزرگى دى گئى هب كه اس ميں دو سجده هين۔ ارشاد فرمايا ”هاں! اور جو شخص يه دو سجده نه كره وه ان دونوں كو نه پڑھے۔“⁽²⁾ مفتى احمد يار خاں نعيمى رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے هين ”يه حديث حضرت امام شافعى (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ) كى دليل هب كه سورة حج ميں دو سجده هين۔ امام اعظم (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ) كے نزديك (مجموعى اعتبار

1.....خازن، تفسير سورة الحج، ۲/۹۸، قرطبي، تفسير سورة الحج، ۳/۶، الجزء الثانى عشر، ملقطاً.

2.....ترمذى، كتاب السفر، باب ما جاء فى السجدة فى الحج، ۹۵/۲، الحديث: ۵۷۸.

سے تو دو سجدے ہیں کہ ایک سجدہ تلاوت اور دوسرا سجدہ نماز لیکن خاص سجدہ تلاوت کے اعتبار سے (سورہ حج میں صرف ایک سجدہ ہے یعنی پہلا، دوسری آیت میں سجدہ نماز مراد ہے نہ کہ سجدہ تلاوت، کیونکہ وہاں ارشاد ہوا ”اِسْ كَعُوْا وَاَسْجُدُوْا“ یعنی سجدہ کا رکوع کے ساتھ ذکر ہوا اور جہاں رکوع سجدہ مل کر آویں وہاں سجدہ نماز مراد ہوتا ہے، رب تعالیٰ فرماتا ہے ”وَاَسْجُدِيْ وَارْكَعِيْ“ نیز طحاوی نے حضرت ابن عباس (رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا) سے روایت کی کہ سورہ حج میں پہلا سجدہ عزیمت ہے اور دوسرا سجدہ تعلیم نیز یہ حدیث علاوہ ضعیف ہونے کے امام شافعی رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ کے بھی خلاف ہے کیونکہ وہ قرآنی سجدے واجب نہیں مانتے سنت مانتے ہیں اور اس حدیث سے وجوب ثابت ہوتا ہے کہ فرمایا جو یہ سجدے نہ کرے وہ یہ سورت ہی نہ پڑھے۔ بہر حال اس حدیث سے استدلال قوی نہیں۔^(۱)

سورہ حج کے مضامین

- اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں حج کی فرضیت، حج کے مناسک، جہاد کی مشروعیت دین اسلام کے بنیادی عقائد کو دلائل کے ساتھ بیان کیا گیا ہے اور اس سورت میں مزید یہ چیزیں بیان کی گئی ہیں:
- (۱)..... اس سورت کی ابتداء میں لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا حکم دیا گیا اور قیامت کے ہولناک مناظر بیان کئے گئے۔
 - (۲)..... مخلوق کی موت کے بعد اسے دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی دلیل بیان کی گئی کہ جو رب تعالیٰ مردہ نطفے سے زندہ انسان اور بنجر زمین کو پانی برسا کر سرسبز کرنے پر قادر ہے تو وہ مخلوق کو دوبارہ زندہ کرنے پر بھی قادر ہے۔
 - (۳)..... دین اسلام کے بارے میں شک اور تردد میں رہنے والوں کا حال بیان کیا گیا۔
 - (۴)..... پانچ قسم کے کفار کو ہونے والا عذاب اور مسلمانوں کو ملنے والی جزاء بیان کی گئی۔
 - (۵)..... حج کے اعلان عام کا ذکر کیا گیا اور حج اور حرم سے متعلق چند احکام بیان کئے گئے۔
 - (۶)..... کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی۔
 - (۷)..... کفار مکہ کو پچھلی امتوں کے احوال سے ڈرایا گیا کہ جب انہوں نے ایمان کی دعوت قبول نہ کی وہ عذاب میں گرفتار ہو گئے۔
 - (۸)..... نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور مسلمانوں کو اس بات پر تسلی دی گئی کہ وہ شیطان کی گمراہ کن باتوں سے

①..... مرآة المناجیح، قرآنی سجدوں کا باب، دوسری فصل، ۱۴۲/۲۔

نہ گھبرائیں کیونکہ وہ ہر نبی اور رسول کی دینی سرگرمیوں میں رخنہ اندازی کرتا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ شیطان کی ہر سازش ناکام بنا دیتا ہے۔

(9)..... مکہ مکرمہ سے ہجرت کے دوران شہید کر دیئے جانے والوں اور انتقال کر جانے والوں کی جزاء بیان کی گئی۔

(10)..... قرآن پاک کی عظمت و شان بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا کہ کفار و مشرکین قرآن مجید کو پسند نہیں کرتے اور وہ انبیاء و مُرْسَلِیْنَ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے بغض رکھتے ہیں۔

(11)..... یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے چند فرشتوں کو دیگر فرشتوں پر اور چند انسانوں کو دیگر انسانوں پر فضیلت دی ہے۔

سورۃ انبیاء کے ساتھ مناسبت

سورۃ حج کی اپنے سے ما قبل سورت ”الانبیاء“ سے مناسبت یہ ہے کہ سورۃ الانبیاء میں بھی قیامت کی ہولناکیوں کا بیان تھا اور اس سورت کا آغاز بھی قیامت کی ہولناکیوں کے بیان سے ہو رہا ہے، نیز سورۃ الانبیاء میں اللہ عَزَّوَجَلَّ کے واحد و یکتا ہونے کا بیان تھا اور اس سورت میں بھی اللہ عَزَّوَجَلَّ کی وحدانیت کا بیان ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ۚ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ ۝۱

ترجمہ کنزالایمان: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، بیشک قیامت کا زلزلہ بڑی سخت چیز ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو، بیشک قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ: اے لوگو! اپنے رب سے ڈرو۔﴾ اس سورہ مبارکہ کی پہلی آیت میں اللہ عزوجل سے ڈرنے اور تقویٰ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ تقویٰ اور خوفِ خدا ہی ایسی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان اپنے اعمال و اخلاق کی اصلاح کرتا ہے اور معاشرہ میں ایک اچھا انسان بن کر رہتا ہے۔ اور چونکہ تقویٰ اور خوفِ خداوندی پر سب سے زیادہ اُبھارنے والی چیز قیامت ہے لہذا اس کا تذکرہ بھی اسی آیت میں کر دیا کہ قیامت کی ہولناکیاں، اس کا حساب و کتاب اور اس کے احوال پیش نظر ہوں گے تو کوئی بھی انسان کسی دوسرے کی حق تلفی، ظلم و ستم، اور کسی قسم کی بھی زیادتی نہیں کرے گا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے لوگو! اپنے رب کے عذاب سے ڈرو اور اس کی اطاعت میں مشغول ہو جاؤ، بیشک قیامت کا زلزلہ جو قیامت کی علامات میں سے ہے اور قیامت کے قریب سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کے نزدیک واقع ہوگا بہت بڑی چیز ہے۔^(۱)

يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَ تَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَ تَرَى النَّاسَ سُكَرَى وَ مَا هُمْ بِسُكَرَى وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ ۝۲

ترجمہ کنزالایمان: جس دن تم اسے دیکھو گے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی اور ہر گاہ بھنی اپنا گاہ بھ ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں اور وہ نشہ میں نہ ہوں گے مگر ہے یہ کہ اللہ کی مار کڑی ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: جس دن تم اسے دیکھو گے (تو یہ حالت ہوگی کہ) ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشہ میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے لیکن ہے یہ کہ اللہ کا عذاب بڑا شدید ہے۔

1.....خازن، الحجج، تحت الآية: ۱، ۲۹۸/۳، مدارك، الحجج، تحت الآية: ۱، ص ۷۳۰، ملقطاً.

﴿يَوْمَ تَرُؤُنَهَا﴾: جس دن تم اسے دیکھو گے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ جس دن تم قیامت کے اس زلزلے کو دیکھو گے تو یہ حالت ہوگی کہ اس کی ہیبت سے ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی اور اس دن کی ہولناکی سے ہر حمل والی کا حمل ساقط ہو جائے گا اور تو لوگوں کو دیکھے گا جیسے نشے میں ہیں حالانکہ وہ نشہ میں نہیں ہوں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے خوف سے لوگوں کے ہوش جاتے رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کا عذاب بڑا شدید ہے۔^(۱)

قیامت کے ذکر سے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَا حَال

بعض مفسرین فرماتے ہیں ”یہ دونوں آیات غزوہ بنی مصطلق میں رات کے وقت نازل ہوئیں اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کے سامنے ان کی تلاوت فرمائی تو وہ ساری رات بہت روئے اور جب صبح ہوئی تو انہوں نے اپنے جانوروں سے زمینیں نہ اتاریں اور جس جگہ ٹھہرے وہاں خیمے نصب نہ کئے اور نہ ہی ہانڈیاں پکائیں اور وہ غمزدہ، پر نم اور فکر مند تھے۔^(۲)

یہ ان ہستیوں کا حال ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے بھلائی کا وعدہ فرمایا ہے اور ان میں سے بعض کو دنیا میں ہی زبان رسالت سے جنت کی بشارت مل چکی ہے تو ہمیں قیامت کی شدت، ہیبت، ہولناکی اور سختی سے تو کہیں زیادہ ڈرنا چاہئے کیونکہ ہمارے ساتھ نہ تو کوئی ایسا وعدہ فرمایا گیا ہے جیسا صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کے ساتھ فرمایا گیا اور نہ ہی دنیا میں ہمیں جنت کی قطعی بشارت مل چکی ہے لیکن افسوس! فی زمانہ قیامت سے لوگوں کی غفلت انتہائی عروج پر نظر آ رہی ہے اور نجانے کس امید پر وہ قیامت کے بارے میں بے فکر ہیں۔ امام محمد غزالی دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”اے مسکین! جس دن کی یہ عظمت ہے وہ اس قدر بڑا ہے، حاکم زبردست اور زمانہ قریب ہے تو تو اس دن کے لیے تیاری کر لے جس دن تو دیکھے گا کہ آسمان پھٹ گئے، اس کے خوف سے ستارے جھڑ گئے، روشن ستاروں کی چمک ماند پڑ گئی، سورج کی روشنی لپیٹ دی گئی، پہاڑ چلنے لگے، پانی لانے والی اونٹنیاں کھلی پھرنے لگیں، جنگلی جانور جمع ہو گئے، سمندر ابلنے لگے، روہیں بدنوں سے جا ملیں، جہنم کی آگ بھڑکائی گئی، جنت قریب لائی گئی، پہاڑ اڑائے گئے اور زمین پھیلائی گئی اور جس دن تم دیکھو گے کہ زمین میں زلزلہ برپا ہوگا، زمین اپنے بوجھ باہر نکال دے گی اور لوگ گروہوں میں بٹ جائیں گے تاکہ اپنے

①.....خازن، الحج، تحت الآية: ۲، ۳/۲۹۸.

②.....روح البیان، الحج، تحت الآية: ۲، ۳/۶.

اعمال (کا بدلہ) دیکھیں اور جس دن زمین اور پہاڑ اٹھا کر پٹخ دیئے جائیں گے، اس دن عظیم واقعہ رونما ہوگا اور آسمان پھٹ جائیں گے حتیٰ کہ ان کی بنیادیں کمزور پڑ جائیں گی، فرشتے ان کے کناروں پر ہوں گے اور اس دن تمہارے رب عَزَّوَجَلَّ کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے اٹھایا ہوگا، اس دن تم سب کو پیش ہونا ہوگا اور تم سے کوئی بھی بات پوشیدہ نہ ہوگی، جس دن پہاڑ چلیں گے اور تم زمین کو کھلی ہوئی دیکھو گے، جس دن زمین کانپے گی اور پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو کر اڑنے والی گرد بن جائیں گے، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ دُھنی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے، اس دن ہر دودھ پلانے والی دودھ پیتے بچے سے غافل ہو جائے گی اور ہر حمل والی کا حمل گر جائے گا اور تم لوگوں کو نشے کی حالت میں دیکھو گے حالانکہ وہ نشے کی حالت میں نہیں ہوں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کا عذاب سخت ہوگا۔ جس دن یہ زمین و آسمان دوسری زمین میں بدل جائیں گے اور اللہ تعالیٰ واحد و قہار کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ جس دن پہاڑ اڑا کر بکھیر دیئے جائیں گے اور صاف زمین باقی رہ جائے گی، اس میں کوئی ٹیڑھا راستہ (موڑ وغیرہ) اور ٹیلے نہیں ہوں گے، جس دن تم پہاڑوں کو جے ہوئے دیکھو گے حالانکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے، جس دن آسمان پھٹ کر گلابی لال چمڑے کی طرح ہو جائیں گے اور اس دن کسی انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ اس دن گناہ گار کو بولنے سے روک دیا جائے گا اور نہ ہی اس کے جرموں کے بارے میں پوچھا جائے گا، بلکہ پیشانی کے بالوں اور پاؤں سے گرفت ہوگی، جس دن ہر شخص اپنے اچھے عمل کو سامنے پائے گا اور برے عمل کو بھی اور وہ چاہے گا کہ اس برے عمل اور اس (شخص) کے درمیان بہت زیادہ فاصلہ ہو۔ جس دن ہر نفس اس چیز کو جان لے گا جو وہ لایا ہوگا اور جو آگے بھیجا یا پیچھے چھوڑا وہ سب حاضر ہوگا۔ جس دن زبانیں گنگ ہوں گی اور باقی اعضاء بولیں گے، یہ وہ عظیم دن ہے جس کے ذکر نے نبی اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو بوڑھا کر دیا۔ جب حضرت صدیق اکبر رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، آپ پر بڑھاپے کے آثار ظاہر ہو گئے ہیں، تو آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”مجھے سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔“ اور وہ دوسری سورتیں سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ عَمَّ يَتَسَاءَلُونَ اور اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ (وغیرہ) ہیں۔ تو اے قرآن پڑھنے والے عاجز انسان! تیرا قرآن مجید پڑھنے سے صرف اتنا حصہ ہے کہ تو اس کے ساتھ زبان کو حرکت دے دے، اگر تو قرآن مجید میں جو کچھ پڑھتا ہے اس میں غور و فکر کرتا تو اس لائق تھا کہ ان باتوں سے تیرا کلیجہ پھٹ جاتا جن باتوں نے سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ

تعالیٰ عَلَیْهِ وَاللّٰهِ وَسَلَّمَ کو بوڑھا کر دیا تھا، اگر تم صرف زبان کی حرکت پر قناعت کرو گے تو قرآن مجید کے ثمرے سے محروم رہو گے۔^(۱) اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو صحیح طریقے سے قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اس میں مذکور ڈرانے والی باتوں پر غور و فکر کرنے اور عبرت و نصیحت حاصل کرنی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مَّرِيدٍ ۝۳

ترجمہ کنزالایمان: اور کچھ لوگ وہ ہیں کہ اللہ کے معاملہ میں جھگڑتے ہیں بے جانے بوجھے اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے ہو لیتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتے ہیں اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ﴾ اور کچھ لوگ۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی ہولناکیاں اور اس کی شدت بیان فرمائی اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے اور تقویٰ و پرہیزگاری اختیار کرنے کا حکم دیا اور اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر فرما رہا ہے جو قیامت کا انکار کرتے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت نصر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی جو بڑا ہی جھگڑا لوتا تھا اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں اور قرآن مجید کو گزشتہ لوگوں کے قصے بتاتا تھا اور موت کے بعد اٹھائے جانے کا منکر تھا۔ چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شان کے بارے میں علم کے بغیر جھگڑتے ہیں اور اس کی شان میں باطل باتیں کہتے ہیں اور وہ اپنے جھگڑنے اور عمومی احوال میں ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔^(۲)

علم کلام اچھا علم ہے

اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں علم کے بغیر بحث کرنا حرام ہے۔ صرف علماء دین تحقیق کے لئے اس کی ذات و صفات میں بحث کر سکتے ہیں بشرطیکہ جھگڑا مقصود نہ ہو بلکہ صرف اعتراضات کا اٹھانا اور حق کی تحقیق

①..... احیاء علوم الدین، کتاب ذکر الموت وما بعده، الشطر الثانی، صفة يوم القيامة ودواہیہ واسامیہ، ۲۷۴/۵-۲۷۵۔

②..... تفسیر کبیر، الحج، تحت الآیة: ۳، ۲۰۲/۸، حازن، الحج، تحت الآیة: ۳، ۲۹۹/۳، روح البیان، الحج، تحت الآیة: ۳، ۴/۶، ملتقطاً۔

کا قصد ہو، لہذا علمِ کلام برا نہیں، اچھا علم ہے۔

﴿وَيَتَّبِعُ كُلَّ شَيْطَانٍ مُّرِيدٍ﴾ اور ہر سرکش شیطان کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ ﴿اس آیت میں سرکش شیطان کے بارے میں دو قول ہیں، (1) اس سے انسانی شیا طین مراد ہیں اور یہ کافروں کے وہ سردار ہیں جو دوسروں کو کفر کی طرف بلا تے ہیں۔ (2) اس سے ابلیس اور اس کے لشکر مراد ہیں۔ (1)

شیطان انسانوں اور جنوں سے نجات کی صورت

یاد رہے کہ شیطان خواہ انسانوں میں سے ہوں یا جنوں میں سے ان کی کوئی بھی بات نہ مانی جائے کیونکہ اگر ان کی ایک بات مان لی تو یہ ملعون اسی پر اکتفا نہ کریں گے بلکہ اور باتیں منوانے کی تاک میں بھی رہیں گے اور جتنا ان کی بات مانتے چلے جائیں گے اس کا سلسلہ اتنا ہی بڑھتا جائے گا۔ اسی طرح ان کے ساتھ جھگڑے اور بحث میں مصروف نہ ہوا جائے کیونکہ اس کے ذریعے بھی وہ اپنے ناپاک عزائم میں کامیاب ہو جاتے ہیں لہذا ان سے نجات کی صورت یہ ہے کہ ان کی کوئی بات سنی ہی نہ جائے کیونکہ اگر ان کی بات سنیں گے تو ممکن ہے کہ کوئی بات دل پر اثر کر جائے اور سننے والا کفر و گمراہی کی دلدل میں پھنس کر رہ جائے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ كَلَامٌ خَلَّاصٌ ہے کہ شیطان دو قسم کے ہیں (1) شَيَاطِينُ الْجِنِّ۔ ان سے ابلیس لعین اور اس کی ملعون اولاد مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمام مسلمانوں کو ان کے شر اور تمام شیا طین کے شر سے پناہ دے۔ (2) شَيَاطِينُ الْإِنْسِ۔ اس سے کفار اور بدعتی لوگوں کے داعی اور مُنادی مراد ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان پر لعنت فرمائے اور ان کو ہمیشہ بے سہارا رکھے اور ان پر ہمیں دائمی نصرت عطا فرمائے۔ اے اللہ! سید المرسلین صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے طفیل ہماری یہ دعا قبول فرما۔

ہمارا رب عَزَّ وَجَلَّ فرماتا ہے

وَكذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيْطَانِينَ
الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ
رُحُوفَ الْقَوْلِ غُرُورًا (2)

یوں ہی ہم نے ہر نبی کا دشمن کیا شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کو کہ آپس میں ایک دوسرے کے دل میں بناوٹ کی بات ڈالتے ہیں دھوکا دینے کیلئے۔

1.....خازن، الحج، تحت الآية: ۳، ۳/۲۹۹۔

2.....انعام: ۱۱۲۔

حدیث میں ہے، رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت ابو ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا ”شیطان آدمیوں اور شیطان جنوں کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ۔ حضرت ابو ذر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عرض کی: کیا آدمیوں میں بھی شیطان ہیں؟ ارشاد فرمایا: ہاں۔^(۱)

ائمہ دین فرمایا کرتے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔^(۲)

میں کہتا ہوں: اس آیت کریمہ میں ”شَيْطَانِ الْاِنْسِ“ کو مقدم کرنا بھی اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ شیطان آدمی شیطان جن سے سخت تر ہوتا ہے۔ اس حدیث کریمہ نے کہ ”جب شیطان وسوسہ ڈالے اتنا کہہ کر الگ ہو جاؤ کہ تو جھوٹا ہے“ دونوں قسم کے شیطانوں کا علاج فرمادیا، شیطان آدمی ہو خواہ جن اُس کا قابو اسی وقت چلتا ہے جب اس کی سنیں گے اور جب تک توڑ کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیں گے کہ ”تو جھوٹا ہے“ تو وہ خبیث اپنا سامنہ لے کر رہ جاتا ہے۔^(۳)

كُتِبَ عَلَيْهِ اَنَّهُ مَنْ تَوَلَّاهُ فَاِنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ اِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ ﴿۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: جس پر لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی دوستی کرے گا تو یہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے عذابِ دوزخ کی راہ بتائے گا۔

ترجمہ کنز العرفان: جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس سے دوستی کرے گا تو وہ ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔

﴿كُتِبَ عَلَيْهِ﴾: جس پر یہ لکھ دیا گیا ہے۔ ﴿اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ لوح محفوظ میں جتات اور انسانوں کے ہر سرکش شیطان کے متعلق لکھ دیا گیا ہے کہ جو اس کی اطاعت اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کا راستہ بتائے گا۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ لوح محفوظ میں اس شخص کے بارے میں لکھ دیا گیا ہے جو شیطان کی

①.....مسند امام احمد، مسند الانصار، حدیث ابی ذر الغفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ۱۳۲/۸، الحدیث: ۲۱۶۰۸۔

②.....تفسیر طبری، الناس، تحت الآیة: ۴، ۷۵۳/۱۲۔

③.....فتاویٰ رضویہ، ۱/۸۰-۸۱۔

پیروی اور اس سے دوستی کرے گا تو شیطان ضرور اسے جنت سے گمراہ کر دے گا اور اسے جہنم کے عذاب کی راہ بتائے گا۔^(۱)

بد مذہبوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے کی ممانعت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد مذہبوں سے دوستی اور تعلق نہیں رکھنا چاہئے اور نہ ہی ان کے ساتھ رشتہ داری قائم کرنی چاہئے کیونکہ یہ خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور اپنی چکنی چپڑی باتوں، طاہری عبادت و ریاضت اور دکھلاوے کی پرہیزگاری کے ذریعے دوسروں کو بھی گمراہ کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”عنقریب میری امت کے آخر میں کچھ ایسے لوگ ظاہر ہوں گے جو تم سے ایسی باتیں کریں گے جنہیں نہ تم نے سنا ہوگا اور نہ تمہارے باپ دادا نے، تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں (خود سے) دور رکھنا۔“^(۲)

اسی کتاب کی دوسری روایت میں ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”آخری زمانے میں دَجَال اور کذاب ظاہر ہوں گے، وہ تمہارے پاس ایسی باتیں لے کر آئیں گے جنہیں تم اور تمہارے باپ دادا نے نہ سنا ہوگا تو تم ان سے دور رہنا اور انہیں دور رکھنا، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں اور تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں۔“^(۳)

بد مذہبوں سے دور رہنے اور انہیں خود سے دور رکھنے کے ساتھ ساتھ متعدد احادیث میں ان سے زندگی اور موت کے تمام تعلقات ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ان کے ساتھ کھانا نہ کھاؤ، ان کے ساتھ پانی نہ پیو، ان کے پاس نہ بیٹھو، ان سے رشتہ نہ کرو، وہ بیمار پڑیں تو پوچھنے نہ جاؤ، مرجائیں تو ان کی میت کے پاس نہ جاؤ، ان کی نماز جنازہ نہ پڑھو اور نہ ہی ان کے ساتھ نماز پڑھو۔^(۴) اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ تُرَابٍ

①..... روح البیان، الحجج، تحت الآیة: ۴، ۶/۴-۵، تفسیر کبیر، الحجج، تحت الآیة: ۴، ۸/۲۰۲، ملقطاً.

②..... مسلم، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء... الخ، ص ۹، الحدیث: ۶(۶).

③..... مسلم، باب النهی عن الروایة عن الضعفاء... الخ، ص ۹، الحدیث: ۷(۷).

④..... کنز العمال، کتاب الفضائل، الباب الثالث فی ذکر الصحابة وفضلهم... الخ، الفصل الاول، ۶/۶، الجزء الحادی

عشر، الحدیث: ۳۲۵۲۵، ۳۲۵۲۶، تاریخ بغداد، حرف الواو من آباء الحسينین، ۴۲۴۰ - الحسين بن الولید... الخ، ۸/۱۳۹، ملقطاً.

ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ ثُمَّ مِنْ مُضْغَةٍ مُخَلَّقَةٍ وَغَيْرِ مُخَلَّقَةٍ
لِنَبِّئَنَّكُمْ ۖ وَنُقَرِّ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَىٰ آجَلٍ مُّسَيَّئٍ ثُمَّ
نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ لِنَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَّنْ يُتَوَفَّىٰ وَمِنْكُمْ
مَّنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا وَتَرَىٰ
الْأَرْضَ هَامِدَةً فَاذًا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ
مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ ۝

ترجمہ کنزالایمان: اے لوگو! اگر تمہیں قیامت کے دن جینے میں کچھ شک ہو تو یہ غور کرو کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا مٹی سے پھر پانی کی بوند سے پھر خون کی پھٹک سے پھر گوشت کی بوٹی سے نقشہ بنی اور بے بنی تاکہ ہم تمہارے لئے اپنی نشانیاں ظاہر فرمائیں اور ہم ٹھہرائے رکھتے ہیں ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہیں ایک مقرر میعاد تک پھر تمہیں نکالتے ہیں بچہ پھر اس لئے کہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب میں نکلی عمر تک ڈالا جاتا ہے کہ جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو زمین کو دیکھے مرجھائی ہوئی پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور ابھر آئی اور ہر رونق دار جوڑا اگلائی۔

ترجمہ کنزالعرفان: اے لوگو! اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو (اس بات پر غور کر لو کہ) ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پھر پانی کی ایک بوند سے پھر جمے ہوئے خون سے پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے تاکہ ہم تمہارے لئے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں پھر (عمر دیتے ہیں) تاکہ تم اپنی

جوانی کو پہنچو اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نکمی عمر کی طرف لوٹا یا جاتا ہے تاکہ (بالآخر) جاننے کے بعد کچھ نہ جانے اور تو زمین کو مرجھایا ہوا دیکھتا ہے پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ (تروتازہ ہو کر) لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے اور وہ ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ: اے لوگو!﴾ اس سے پہلی آیت میں شیطان کی پیروی کرنے پر ڈانٹا گیا اور اس آیت میں ان لوگوں پر حجت قائم فرمائی جا رہی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے کے منکر ہیں، چنانچہ اس کی پہلی دلیل یہ ارشاد فرمائی کہ اے لوگو! اگر تمہیں قیامت کے دن اٹھنے کے بارے میں کچھ شک ہو تو اس بات پر غور کر لو کہ ہم نے تمہاری نسل کی اصل یعنی تمہارے جدِ اعلیٰ، حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مٹی سے پیدا کیا، پھر ان کی تمام اولاد کو مٹی کے قطرے سے، پھر جمے ہوئے خون سے کہ نطفہ گاڑھا خون ہو جاتا ہے، پھر گوشت کی بوٹی سے جس کی شکل بن چکی ہوتی ہے اور ادھوری بھی ہوتی ہے سے پیدا کیا۔ انسان کی پیدائش کا حال اس لئے بیان فرمایا گیا تاکہ ہم تمہارے لیے اپنی قدرت کو ظاہر فرمائیں اور تم اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کے کمال کو جان لو اور اپنی پیدائش کے ابتدائی حالات پر نظر کر کے سمجھ لو کہ جو قادرِ برحق بے جان مٹی میں اتنے انقلاب کر کے جاندار آدمی بنا دیتا ہے وہ مرے ہوئے انسان کو زندہ کر دے تو یہ اس کی قدرت سے کیا بعید ہے۔^(۱)

انسانی تخلیق کے مراحل

اللہ تعالیٰ انسان کی پیدائش کس طرح فرماتا ہے اور اس کو ایک حال سے دوسرے حال کی طرف کس طرح منتقل کرتا ہے، اس کا کچھ بیان تو اس آیت میں ہوا اور اس کی مزید تفصیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث میں ہے، چنانچہ سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا ”تم لوگوں کی پیدائش کا مادہ ماں کے پیٹ میں چالیس دن تک نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت جما ہوا خون ہو جاتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کی بوٹی کی طرح رہتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ بھیجتا ہے جو اس کا رزق، اس کی عمر، اس کے عمل، اس کا بد بخت یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے، پھر اس میں روح پھونک دیتا ہے۔“^(۲)

①.....بخاری، الحج، تحت الآية: ۵، ۳/۲۹۹-۳۰۰.

②.....بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق آدم صلوات اللہ علیہ وذریئہ، ۲/۱۳، الحدیث: ۳۳۳۲، مسلم، کتاب القدر، باب کیفیۃ الخلق الادمی فی بطن امہ... الخ، ص ۱۴۲۱، الحدیث: ۱ (۲۶۴۳).

﴿وَنَقِرُ فِي الْأَرْضِ حَامِرًا نِسَاءً﴾: اور ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں ٹھہرائے رکھتے ہیں۔ ﴿مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر ایک دلیل قائم کرنے کے بعد پیدائش کے بعد کا حال بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہم ماؤں کے پیٹ میں جسے چاہتے ہیں اسے ولادت کی مقررہ مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں بچے کی صورت میں نکالتے ہیں، پھر تمہیں عمر دیتے ہیں تاکہ تم اپنی جوانی کو پہنچو اور تمہاری عقل وقوت کامل ہو اور تم میں کوئی پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی سب سے نگی عمر کی طرف لوٹایا جاتا ہے اور اس کو اتنا بڑھا پا آ جاتا ہے کہ عقل و حواس بجا نہیں رہتے اور بالآخر ایسا ہو جاتا ہے کہ اس کی نظر کمزور، عقل ناقص اور فہم و سمجھ کم ہو جاتی ہے اور جو باتیں اسے معلوم ہوتی ہیں وہ بھول جاتا ہے۔^(۱)

انتہائی ضعیفی کی عمر میں عقل و حواس ختم ہونے سے محفوظ لوگ

یاد رہے کہ اس آیت میں بڑھاپے کے وقت انسان کی جو حالت بیان کی گئی اس سے انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ محفوظ تھے کیونکہ اگر انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بھی بڑھاپے میں اس حال کو پہنچ جایا کرتے تو ان پر تبلیغ فرض نہ رہتی اور نبوت سلب کر لی جاتی کہ اس صورت میں تبلیغ میں غلطی کا احتمال تھا لیکن چونکہ وہ حضرات آخری دم تک صاحبِ وحی نبی رہے اس لئے وہ اس حال سے محفوظ تھے۔ نیز اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے خاص اولیاء کرام کو بھی اس حال سے جدا رکھتا ہے اور ان کے علاوہ بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جنہیں انتہائی ضعیفی کے عالم میں اس حال سے بچا لیا جاتا ہے، چنانچہ حضرت عکرمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں ”جو شخص تلاوتِ قرآن کا عادی ہوگا وہ اس حالت کو نہ پہنچے گا (کہ اس کی عقل اور حواس قائم نہ رہیں)۔“^(۲)

اور علامہ احمد صاوی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”علماء کرام پر بھی یہ حالت طاری نہیں ہوتی بلکہ جیسے جیسے ان کی عمر میں اضافہ ہوتا جاتا ہے ان کی عقل بھی بڑھتی جاتی ہے۔“^(۳)

نوٹ: انتہائی ضعیفی اور نگی پن کی عمر سے متعلق کچھ کلام سورہ نحل کی آیت نمبر 70 کی تفسیر میں گزر چکا ہے، اسے وہاں ملاحظہ فرمائیں۔

﴿وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً﴾: اور تو زمین کو مر جھایا ہوا دیکھتا ہے۔ ﴿یہاں سے مرنے کے بعد اٹھنے پر دوسری دلیل قائم کی

①.....خازن، الحج، تحت الآية: ۵، ۳/۳۰، روح البیان، الحج، تحت الآية: ۵، ۶/۶-۷، ملقطاً.

②.....جلالین، الحج، تحت الآية: ۵، ص ۲۷۸.

③.....صاوی، الحج، تحت الآية: ۵، ۴/۱۳۲۷.

جارہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے انسان! تو زمین کو مرجھایا ہوا اور خشک دیکھتا ہے، پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ تروتازہ ہو کر لہلہاتی ہے اور بڑھتی ہے اور وہ ہر قسم کا خوبصورت سبزہ اگاتی ہے تو جو قادر و برحق رب تعالیٰ مرجھائی ہوئی زمین کو سبز و شاداب کر سکتا ہے تو وہ ان بندوں کو بھی زندہ کر سکتا ہے جن کے اجزا موت کے بعد بکھر چکے ہوں۔^(۱)

ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ وَاِنَّهُ يُحْيِي الْمَوْتٰى وَاِنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ﴿۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: یہ اس لئے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مردے چلائے گا اور یہ کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور یہ کہ وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ کہ وہ ہر شے پر قادر ہے۔

﴿ذٰلِكَ بِاَنَّ اللّٰهَ هُوَ الْحَقُّ﴾: یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ ﴿مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر دو دلیلیں بیان فرمانے کے بعد اس آیت میں ان کا نتیجہ مُرْتَب فرمایا جا رہا ہے کہ آدمی کی پیدائش کے ابتدائی حالات اور مرجھائی ہوئی خشک زمین کو سبز و شاداب کر دینے کے بارے ذکر کیا گیا تا کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے اور یہ چیزیں اس کی حکمت کی دلیلیں ہیں اور یہ بھی جان لو کہ جس طرح اس نے مردہ زمین کو زندہ کیا اسی طرح وہ مردوں کو زندہ کرے گا اور یہ کہ اللہ تعالیٰ ہر ممکن چیز پر قادر ہے۔^(۲)

وَاَنَّ السَّاعَةَ اَتِيَةٌ لَا رَيْبَ فِيْهَا وَاَنَّ اللّٰهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُوْرِ ﴿۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اس لئے کہ قیامت آنے والی اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ اٹھائے گا انہیں جو قبروں میں ہیں۔

①.....خازن، الحج، تحت الآية: ۵، ۳۰۰/۳، روح البيان، الحج، تحت الآية: ۵، ۸/۶، ملقطاً.

②.....خازن، الحج، تحت الآية: ۶، ۳۰۰/۳، مدارك، الحج، تحت الآية: ۶، ص ۷۳۲، ملقطاً.

ترجمہ کنزالعرفان: اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے اس میں کچھ شک نہیں اور یہ کہ اللہ انہیں اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ﴾ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ یہ دلائل اس لئے ذکر کئے گئے تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ قیامت آنے والی ہے اور اس کے آنے میں کچھ شک نہیں اور یہ معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ ان مردوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں اور مرنے کے بعد اٹھایا جانا حق ہے۔^(۱)

خیال رہے کہ قبر سے مراد عالم برزخ ہے جو موت اور حشر کے بیچ میں ہے، نہ کہ محض وہ غار جو مردوں کا مدفن ہو، لہذا جلنے والے، ڈوبنے والے وغیرہ سب ہی قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنبِئٍ ۙ ۱۰ ثَانِي عَطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۗ لَهُ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ ۖ وَنَذِيقُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَذَابَ الْحَرِيقِ ۙ ۱۱ ذٰلِكَ بِمَا قَدَّمْتَ يَدَكَ وَ
 أَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ ۙ ۱۲

ترجمہ کنزالایمان: اور کوئی آدمی وہ ہے کہ اللہ کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ نہ تو علم نہ کوئی دلیل اور نہ کوئی روشن نوشتہ۔ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکادے اس کے لئے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم اور بغیر ہدایت اور بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑتا ہے۔ اس حال میں کہ وہ حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ اللہ کی راہ سے بہکادے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی

1.....خازن، الحج، تحت الآية: ۷، ۳/۳۰۰.

ہے اور قیامت کے دن ہم اسے آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یہ اس کا بدلہ ہے جو تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا اور (اس لیے) کہ اللہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ﴾ اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کے بارے میں بغیر علم کے جھگڑتا ہے۔ ﴿﴾
 شانِ نزول: یہ آیت ابو جہل وغیرہ کفار کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو اللہ تعالیٰ کی صفات میں جھگڑا کرتے تھے اور اس کی طرف ایسے اوصاف منسوب کرتے تھے جو اس کی شان کے لائق نہیں۔ چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں میں کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان و صفت کے بارے میں یوں جھگڑتا ہے کہ اس کے پاس نہ تو علم ہے، نہ کوئی دلیل ہے اور نہ کوئی روشن تحریر ہے، اس کے باوجود اس کا انداز یہ ہے کہ وہ اپنی بات پر اصرار کئے ہوئے اور تکبر کی بنا پر حق سے اپنی گردن موڑے ہوئے ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی راہ سے بھٹکا دے اور اس کے دین سے منحرف کر دے، اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے آگ کا عذاب چکھائے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ یہ اس کفر و تکذیب کا بدلہ ہے جو تو نے دنیا میں کیا اور اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ بندوں پر ظلم نہیں کرتا اور کسی کو جرم کے بغیر پکڑتا ہے اور نہ ہی کسی کے جرم کے بدلے گرفت فرماتا ہے۔^(۱)

آیت ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ“ سے معلوم ہونے والے احکام

اس آیت سے دو احکام معلوم ہوئے

- (۱)..... آدمی کو کوئی بات علم اور سند و دلیل کے بغیر نہیں کہنی چاہئے اور خاص طور پر اللہ تعالیٰ کی شان میں ہرگز ایسی کوئی بات نہ کرے جو اس کی عظمت و شان کے لائق نہ ہو اور علم، سند اور دلیل کے بغیر ہو۔
- (۲)..... علم والے کے خلاف جو بات بے علمی سے کہی جائے گی وہ باطل ہوگی۔

ہمارے آج کے زمانے کا حال بھی کچھ ایسا ہی ہے کہ ہر آدمی اپنی عقل سے جو چاہتا ہے اللہ عزَّ وَّجَلَّ کے بارے میں کہتا ہے اور پھر اس پر اصرار کرتا ہے بلکہ دوسروں کو مجبور کرتا ہے کہ اُس کی بات مانیں اگرچہ اس کی بات عقل و نقل سے دور، قرآن و حدیث کے خلاف اور جہالت و حماقت سے بھرپور ہو۔

1.....خازن، الحج، تحت الآية: ۸-۱۰، ۳۰۰/۳، مدارك، الحج، تحت الآية: ۸-۱۰، ص ۷۳۲، ملقطاً.

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ ۚ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ ۚ
وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ ۚ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ۗ
ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور کچھ آدمی اللہ کی بندگی ایک کنارہ پر کرتے ہیں پھر اگر انہیں کوئی بھلائی بن گئی جب تو چین سے ہیں اور جب کوئی جانچ آپڑی منہ کے بل پلٹ گئے دنیا اور آخرت دونوں کا گھاٹا یہی ہے صریح نقصان۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچے تو وہ اس پر مطمئن ہو جاتا ہے اور اگر اسے کوئی آزمائش آجائے تو منہ کے بل پلٹ جاتا ہے۔ ایسا آدمی دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتا ہے۔ یہی کھلا نقصان ہے۔

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ﴾ اور کوئی آدمی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر ہو کر کرتا ہے۔
شان نزول: یہ آیت دیہات میں رہنے والے عربوں کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی جو اطراف سے آ کر مدینہ میں داخل ہوتے اور اسلام لاتے تھے، ان کی حالت یہ تھی کہ اگر وہ خوب تندرست رہے اور ان کی دولت بڑھی اور ان کے ہاں بیٹا ہوا تب تو کہتے تھے کہ اسلام اچھا دین ہے، اس میں آ کر ہمیں فائدہ ہوا اور اگر کوئی بات اپنی امید کے خلاف پیش آئی، مثلاً بیمار ہو گئے، یا ان کے ہاں لڑکی پیدا ہو گئی، یا مال کی کمی ہوئی تو کہتے تھے: جب سے ہم اس دین میں داخل ہوئے ہیں ہمیں نقصان ہی ہوا اور اس کے بعد دین سے پھر جاتے تھے۔ ان کے بارے میں بتایا گیا کہ انہیں ابھی دین میں ثابت قدمی حاصل ہی نہیں ہوئی اور یہ دین کے معاملے میں اس طرح شک و تردید میں رہتے ہیں جس طرح پہاڑ کے کنارے کھڑا ہوا شخص حرکت کی حالت میں ہوتا ہے اور ان کا حال یہ ہے کہ اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچے تو مطمئن ہو جاتے ہیں اور اگر انہیں کوئی آزمائش آجائے اور کسی قسم کی سختی پیش آئے تو مُرْتَد ہو کر منہ کے بل پلٹ جاتے اور کفر کی طرف لوٹ

جاتے ہیں۔ ایسے لوگ دنیا اور آخرت دونوں میں نقصان اٹھاتے ہیں۔ دنیا کا نقصان تو یہ ہے کہ جوان کی امیدیں تھیں وہ پوری نہ ہوئیں اور مرتد ہو جانے کی وجہ سے ان کا خون مباح ہوا اور آخرت کا نقصان ہمیشہ کا عذاب ہے اور یہی کھلا نقصان ہے۔^(۱)

دینِ اسلام دُنیوی منفعت کی وجہ سے نہیں بلکہ حق سمجھ کر قبول کیا جائے

اس سے معلوم ہوا کہ انسان دینِ اسلام کو حق سمجھ کر قبول کرے اور پھر اس پر ڈٹ جائے چاہے نفع ہو یا نقصان، ہر حال میں خوش رہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کا شکر ادا کرتا رہے کہ اس نے اسے اسلام جیسی عظیم لازوال دولت سے نوازا۔ اسی طرح نماز و عبادت وغیرہ کو دُنیوی نفع و نقصان کے ساتھ نہ تولا جائے بلکہ عبادت کی حیثیت ہی سے کیا جائے۔

يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ ۖ ذَلِكُمْ هُوَ الضَّلٰلُ
الْبَعِيْدُ ﴿۱۲﴾ يَدْعُوا لِمَنْ ضُرُّهُ اَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ ۖ لَيْسَ الْمَوْلٰى
وَلَيْسَ الْعَشِيْرُ ﴿۱۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کے سوا ایسے کو پوجتے ہیں جو ان کا بُرا بھلا کچھ نہ کرے یہی ہے دور کی گمراہی۔ ایسے کو پوجتے ہیں جس کے نفع سے نقصان کی توقع زیادہ ہے بیشک کیا ہی بُرا مولیٰ اور بیشک کیا ہی بُرا ریش۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ اللہ کے سوا اس (بت) کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے اور نہ اسے نفع دے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ وہ اسے پوجتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے بیشک وہ کیا ہی برا مولیٰ ہے اور بیشک کیا ہی برا ساتھی ہے۔

﴿يَدْعُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ﴾: وہ اللہ کے سوا اس (بت) کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچائے۔

①.....خازن، الحج، تحت الآية: ۱۱، ۳/۲۰۰-۳۰۱، مدارك، الحج، تحت الآية: ۱۱، ص ۷۳۳، ملتقطاً.

ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ مُرْتَد ہونے کے بعد بت پرستی کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے اس کی عبادت کرتے ہیں جو نہ انہیں نقصان پہنچا سکتا ہے اور نہ نفع دے سکتا ہے کیونکہ وہ بے جان ہے، ایسے خداؤں کی پوجا انتہا درجے کی گمراہی ہے۔^(۱)

﴿يَدْعُوا الْمَنَ ضُرَّةً أَقْرَبُ مِنْ نَفْعِهِ﴾: وہ اس کو پوجتے ہیں جس کا نقصان اس کے نفع سے زیادہ ہے۔ ﴿اس آیت میں نقصان سے مراد واقعی نقصان ہے، یعنی دنیا میں قتل اور آخرت میں دوزخ کا عذاب۔ اور نفع سے مراد ان کا خیالی نفع یعنی بتوں کی شفاعت وغیرہ ہے یعنی یہ کفار بتوں سے جس نفع کی امید رکھتے ہیں وہ تو بہت دور ہے کہ ناممکن ہے جبکہ ان کا حقیقی نقصان عنقریب ضرور دیکھ لیں گے۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ ﴿۱۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور بھلے کام کئے باغوں میں جن کے نیچے نہریں رواں بیشک اللہ کرتا ہے جو چاہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک اللہ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ بیشک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾: بیشک اللہ ایمان والوں کو داخل فرمائے گا۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں ایمان اور اسلام کے متعلق شکوک و شبہات رکھنے والوں کا اور مُرْتَد ہونے کے بعد جن کی وہ پوجا کرتے تھے ان کا حال بیان کیا گیا اور اب یہاں سے ایمان پر ثابت قدم رہنے والوں کا حال اور ان کے حقیقی معبود کی شان بیان کی جا رہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ وہ فرمانبرداروں پر انعام اور نافرمانوں پر عذاب فرماتا ہے۔^(۲)

①..... مدارك، الحج، تحت الآية: ۱۲، ص ۷۳۳، روح البیان، الحج، تحت الآية: ۱۲، ۱۲/۶، ملقطاً.

②..... تفسیر کبیر، الحج، تحت الآية: ۱۴، ۲۱۰/۸، ابو سعید، الحج، تحت الآية: ۱۴، ۱۱/۴، ملقطاً.

ایمان جنت میں داخلے کا سبب ہے اور نیک اعمال وہاں کی نعمتوں اور درجات میں اضافے کا باعث ہیں۔

مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْصُرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ فَلْيَمِدُّ ذِرَاعَيْهِ إِلَى السَّمَاءِ ثُمَّ لِيَقْطَعْ فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُدْهِبَنَّ كَيْدَهُ مَا يَغِيظُ ①

ترجمہ کنزالایمان: جو یہ خیال کرتا ہو کہ اللہ اپنے نبی کی مدد نہ فرمائے گا دنیا اور آخرت میں تو اسے چاہیے کہ اوپر کو ایک رسی تانے پھر اپنے آپ کو پھانسی دے لے پھر دیکھے کہ اس کا یہ دانوں کچھ لے گیا اس بات کو جس کی اسے جلن ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: جو یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اپنے نبی کی مدد نہیں فرمائے گا تو اسے چاہیے کہ اوپر کی طرف ایک رسی دراز کر لے پھر اپنے آپ کو پھانسی دیدے پھر دیکھے کہ کیا اس کے داؤ پیچ نے وہ چیز مٹا دی جس پر اسے غصہ آتا ہے۔

﴿مَنْ كَانَ يَظُنُّ﴾: جو یہ خیال کرتا ہے۔ ﴿اس آیت میں نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور آپ کے دین کی مخالفت کرنے اور ان سے دشمنی رکھنے والوں کی ناکامی اور محرومی کو بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اس آیت کی ایک تفسیر یہ ہے کہ جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے دین کو غلبہ عطا فرما کر اور آخرت میں ان کے درجے بلند فرما کر ان کی مدد نہیں فرمائے گا، لیکن اس کا خیال غلط ثابت ہوتا ہے اور وہ یوں غصے میں آجاتا ہے تو اسے چاہیے کہ غصہ دلانے والی چیز کو ختم کرنے کیلئے ہر طرح کی کوشش کر لے حتیٰ کہ گھر میں چھت سے رسی باندھ کر اپنے آپ کو پھانسی دے لے، پھر اس بات پر غور کرے کہ کیا اس کی کوئی تدبیر اللہ تعالیٰ کی وہ مدد روک سکتی ہے جس پر اسے غصہ آتا ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور ان کے دین کا مددگار ہے اور ان کے حاسدین اور دشمنوں میں سے جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور ان کے دین کی مدد نہیں فرمائے گا، پھر اپنا مطلب پورا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جل بھن گیا تو اسے چاہیے کہ کسی طرح آسمان تک پہنچ کر اس مدد کو موقوف کر دے جو اس کے غیظ و غضب کا باعث ہے اور ظاہر ہے کہ ایسا کوئی

کر ہی نہیں سکتا تو اس کا غضب میں آنا اور غصہ کرنا بیکار ہے۔^(۱)

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ عاجز ہرگز نہیں بلکہ وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور اپنے محبوب بندوں کی مدد فرماتا ہے۔ یاد رہے کہ کفار دین اسلام کو صفحہ ہستی سے مٹانے اور اس کے نور کو بجھانے کا ارادہ رکھتے تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے سچے غلاموں کی مدد فرمائی، کفار کو نیست و نابود کیا اور ان کے لشکروں کو شکست و ہزیمت سے دوچار کر دیا، اسی طرح آج بھی کفار دین اسلام کو ختم کرنے کے ناپاک عزائم اور ارادے رکھتے ہیں اور اس کے لئے ہر طرح کے ذرائع بھی استعمال کر رہے ہیں لیکن ان کی یہ تمام تر کوششیں اسلام کو مٹا نہیں سکتیں کیونکہ اللہ تعالیٰ دین اسلام اور اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کا مددگار ہے البتہ مسلمانوں کو چاہئے کہ جب وہ کفار کی طرف سے کسی مشکل میں گرفتار ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوری طور پر انہیں مدد نہ پہنچے تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہیں اور دشمنوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر صبر کریں کیونکہ حق غالب رہے گا کبھی مغلوب نہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو عنقریب مسلمانوں سے یہ مشکلات دور ہو جائیں گی اور کفار و مشرکین کی راجتیں ختم ہو کر رہ جائیں گی۔

وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّ اللَّهُ يَهْدِي مَنْ يُرِيدُ ﴿۱۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بات یہی ہے کہ ہم نے یہ قرآن اتارا روشن آیتیں اور یہ کہ اللہ راہ دیتا ہے جسے چاہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو روشن آیتوں کی صورت میں نازل فرمایا اور یہ کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔

﴿وَكَذَلِكَ﴾ اور اسی طرح۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے دلائل نازل فرمائے جن میں کچھ ابہام نہیں اور جو شخص ان میں غور کرے اس شخص پر حق واضح ہو جائے، نیز اس پر عقیدہ توحید، قیامت اور سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ

①..... تفسیر کبیر، الحج، تحت الآیة: ۱۵، ۲۱۰/۸-۲۱۱، ابو سعود، الحج، تحت الآیة: ۱۵، ۱۱/۴، البحر المحیط، الحج، تحت الآیة: ۱۵، ۳۳۲/۶، ملتقطاً۔

وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ كِي رسالت واضح ہو جائے، اور دلائل خواہ کتنے ہی واضح اور روشن کیوں نہ ہوں، ہدایت اسے ہی ملتی ہے جس کے لئے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

ہدایت حاصل ہونے کا ایک عظیم ذریعہ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن عظیم ہدایت ملنے، ہدایت پر ثابت قدمی عطا ہونے اور ہدایت میں اضافے کا ایک عظیم ترین ذریعہ ہے اور قرآن مجید سیکھنے میں مشغول ہونا اور اس کے دیئے ہوئے احکامات پر عمل کرنا ہدایت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، لہذا جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پر ایمان لانے کی توفیق دی ہے اسے چاہئے کہ وہ قرآن کریم صحیح طریقے سے پڑھنا سیکھے، اسے سمجھنے کی کوشش کرے، اس میں دیئے گئے تمام احکامات پر عمل کرے اور جن کاموں سے منع کیا گیا ان سے باز رہے تاکہ اسے ہدایت پر ثابت قدمی نصیب ہو اور اس کی ہدایت میں مزید اضافہ بھی ہو۔

صحیح مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

وَاللّٰهُ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ذریعے کچھ قوموں کو سر بلند کرے گا اور کچھ کو گرا دے گا۔“^(۱)

علامہ اسماعیل حقی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”وہ لوگ جو قرآن کریم پر ایمان لائے اور انہوں نے اس کے تقاضوں کے مطابق عمل کیا انہیں اللہ تعالیٰ سر بلند کرے گا اور جنہوں نے قرآن عظیم پر ایمان لانے سے اعراض کیا اور اس کے احکامات پر عمل نہ کیا انہیں اللہ تعالیٰ گرا دے گا۔“^(۲)

قرآن مجید کے سلسلے میں صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کا حال یہ تھا کہ وہ قرآن کریم کی دس آیتیں سیکھتے اور اس وقت تک دوسری آیات سیکھنے کی طرف متوجہ نہ ہوتے جب تک ان دس آیتوں کے تمام تقاضوں پر عمل نہ کر لیتے، یونہی وہ انتہائی تنگدستی کے باوجود قرآن عظیم سننے سنانے اور اس کی آیات میں غور و فکر کرنے میں مصروف رہا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں ”میں غریب مہاجرین کی ایک جماعت میں جا بیٹھا جو نیم برہنہ ہونے کے باعث ایک دوسرے سے بمشکل اپناستر چھپاتے تھے۔ ہم میں ایک قاری صاحب قرآن مجید پڑھ رہے تھے کہ حضور پُر نُوْر صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تشریف لے آئے، جب رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہمارے پاس کھڑے

①.....مسلم، کتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه... الخ، ص ۴۰۷، الحدیث: ۲۶۹ (۸۱۷)۔

②.....روح البیان، الحج، تحت الآية: ۱۶، ۱۴/۶۔

ہوئے تو قاری صاحب خاموش ہو گئے۔ آپ نے سلام کیا اور ارشاد فرمایا ”تم کیا کر رہے ہو؟ ہم نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، یہ ہمیں قرآن سنار ہے ہیں اور ہم غور سے اللہ تعالیٰ کی کتاب کو سن رہے ہیں۔ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں جس نے میری امت میں ایسے لوگ بھی شامل فرمائے جن کے ساتھ ٹھہرے رہنے کا مجھے بھی حکم دیا گیا ہے۔“^(۱) اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ وَالنَّصْرِيَّةَ وَالجُوسَ
وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُم يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ
شَيْءٍ شَهِيدٌ ﴿۱۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک مسلمان اور یہودی اور ستارہ پرست اور نصرانی اور آتش پرست اور مشرک بیشک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کرے گا بیشک ہر چیز اللہ کے سامنے ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک مسلمان اور یہودی اور ستاروں کی پوجا کرنے والے اور عیسائی اور آگ کی پوجا کرنے والے اور مشرک بیشک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا بیشک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾: بیشک مسلمان۔ ﴿وَالَّذِينَ هَادُوا﴾: ارشاد فرمایا کہ بیشک وہ لوگ جو مسلمان ہیں اور جو یہودی ہیں اور جو ستاروں کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو عیسائی ہیں اور جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں اور جو مشرک ہیں، بیشک اللہ تعالیٰ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا اور ان میں جو جنت کا مستحق ہوگا اسے جنت میں اور جو جہنم کا حق دار ہوگا اسے جہنم میں داخل کر دے گا۔ بیشک ہر چیز اللہ تعالیٰ کے سامنے ہے لہذا اس فیصلے میں کسی کے ساتھ کوئی ظلم نہ ہوگا۔^(۲)

①.....ابوداؤد، کتاب العلم، باب فی القصص، ۴۵۲/۳، الحدیث: ۳۶۶۶.

②.....روح البیان، الحج، تحت الآیة: ۱۷، ۱۵/۶، خازن، الحج، تحت الآیة: ۱۷، ۳۰۲/۳، ملتقطاً.

آیت ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا“ سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوئیں

(1)..... آج اگرچہ ہر شخص اپنے آپ کو حق اور ہدایت کا پیر و کار کہتا ہے مگر اس کا عملی فیصلہ قیامت کے دن ہوگا جب اہل حق کو عزت و احترام کے ساتھ جنت میں بھیجا جائے گا اور اہل باطل کو ذلت و خواری کے ساتھ اوندھے منہ دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ لیکن یہاں یاد رہے کہ دین اسلام ہی حق ہے اور اسے ماننے والا حق پر ہے اور تمام انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا دین، اسلام ہی تھا لیکن اب دین اسلام سے وہ دین مراد ہے جو حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لے کر آئے ہیں، لہذا اب آپ کے دین کے علاوہ اور کوئی دین اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معتبر نہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ (1)

ترجمہ کنز العرفان: بیشک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔

اور ارشاد فرماتا ہے

ترجمہ کنز العرفان: اور جو کوئی اسلام کے علاوہ کوئی اور دین چاہے گا تو وہ اس سے ہرگز قبول نہ کیا جائے گا اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ
مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ (2)

(2)..... اس آیت میں ہر ایک کے لئے بہت وعید ہے، لہذا ہر عقل مند انسان کو چاہئے کہ وہ فیصلے اور قضا کے دن کو یاد رکھے اور وہ اعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرے جن سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرمائے اور اپنے فضل و رحمت سے اس کے حق میں اچھا فیصلہ فرمائے اور اسے جہنم کے دردناک عذاب سے بچا کر جنت کی ہمیشہ رہنے والی عالی شان نعمتیں عطا فرمائے۔

الْمُتَرَاتِنَ اللَّهُ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَالنُّجُومُ وَالْجِبَالُ وَالشَّجَرُ وَالذَّوَابُّ وَكَثِيرٌ

1.....ال عمران: ۱۹۰۔

2.....ال عمران: ۸۵۔

مِّنَ النَّاسِ ۖ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ ۗ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ
مِن مَّكْرِمٍ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ ۗ

السجدة
ط
۱۸

ترجمہ کنزالایمان: کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لئے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور تارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی اور بہت وہ ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا اور جسے اللہ ذلیل کرے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں بیشک اللہ جو چاہے کرے۔

ترجمہ کنزالعرفان: کیا تم نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج اور چاند اور ستارے اور تمام پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے آدمی یہ سب اللہ کو سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے لوگ وہ (بھی) ہیں جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے اور جسے اللہ ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بیشک اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔

﴿الْمَثَرُ﴾ کیا تم نے نہیں دیکھا۔ ﴿ارشاد فرمایا﴾ اے حبیبِ اکرم! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں اور سورج، چاند، ستارے، تمام پہاڑ، درخت اور چوپائے یہ سب جیسا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ویسا اسے سجدہ کرتے ہیں اور بہت سے آدمی یعنی مسلمان طاعت و عبادت کا سجدہ بھی کرتے ہیں اور بہت سے وہ لوگ ہیں جن پر ان کے کفر کی وجہ سے عذاب مقرر ہو چکا ہے لیکن ان کے بھی سائے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور جسے اللہ تعالیٰ اس کی شقاوت کے سبب ذلیل کرے تو اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، بیشک اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ (1)

نوٹ: یہ آیت سجدہ ہے، اسے پڑھنے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے۔

عزت و ناموری کسی کی میراث نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ کسی قوم یا کسی فرد کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ عزت و ناموری کو اپنی میراث سمجھ لے اور اسی فریب

1..... مدارك، الحج، تحت الآية: ۱۸، ص ۷۳۴، حازن، الحج، تحت الآية: ۱۸، ۲/۳-۳، ۳۰۳، ملقطاً.

میں مبتلا رہے کہ چاہے ہم جو کچھ کرتے رہیں کتنے ہی اعمالِ سیاہ سے اپنا اعمال نامہ بھر دیں اور کردار اور سیرت کتنی ہی داغدار نہ کر لیں ساری زندگی عزت کے ساتھ ہی رہیں گے، ایسا نہیں ہے بلکہ جو اپنے آپ کو اس نعمتِ عظمیٰ کا اہل ثابت کر دیتا ہے اللہ عَزَّوَجَلَّ اسے عزت دیتا ہے اور جو مسلسل نافرانیوں میں مبتلا رہتا ہے وہ ذلت کے عمیق گڑھے میں گرادیا جاتا ہے۔

هٰذِنِ حَصْبِنِ اِخْتَصَبُوا فِي رَايِهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا اَقْطَعَتْ لَهُمْ
ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿۱۹﴾ يُصْهَرُ بِهِ
مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿۲۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: یہ دو فریق ہیں کہ اپنے رب میں جھگڑتے تو جو کافر ہوئے ان کے لئے آگ کے کپڑے بیونٹے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا۔ جس سے گل جانے گا جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے اور ان کی کھالیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو کافروں کے لیے آگ کے کپڑے کاٹے گئے ہیں اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا۔ جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں ہے وہ سب اور ان کی کھالیں جل جائیں گی۔

﴿هٰذِنِ حَصْبِنِ﴾: یہ دو فریق ہیں۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مومنین اور پانچوں قسم کے کفار جن کا اوپر ذکر کیا گیا، یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے دین اور اس کی ذات و صفات کے بارے میں جھگڑتے ہیں تو وہ لوگ جو کافر ہیں انہیں ہر طرف سے آگ گھیر لے گی اور ان کے سروں پر کھولتا پانی ڈالا جائے گا جس سے جو کچھ ان کے پیٹوں میں چربی وغیرہ ہے وہ سب اور ان کی کھالیں جل جائیں گی۔^(۱)

جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی کیفیت

جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی کچھ کیفیت ان آیات میں بیان ہوئی اور حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ

1..... جلالین، الحج، تحت الآية: ۱۹-۲۰، ص ۲۸۱۔

تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”انتہائی گرم پانی ان جہنمیوں کے سر پر ڈالا جائے گا تو وہ سرایت کرتے کرتے ان کے پیٹ تک پہنچ جائے گا اور جو کچھ پیٹ میں ہوگا اسے کاٹ کر قدموں سے نکل جائے گا اور یہ صہر (یعنی گل جانا) ہے، پھر انہیں ویسا ہی کر دیا جائے گا (اور بار بار ان کے ساتھ ایسا ہی کیا جائے گا)۔^(۱)

اور حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا ”کافروں پر ڈالا جانے والا پانی ایسا تیز گرم ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا کے پہاڑوں پر ڈال دیا جائے تو ان کو گلا ڈالے۔^(۲)

اللہ تعالیٰ ہمارا ایمان سلامت رکھے اور ہمیں جہنم کے اس عذاب سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔

وَلَهُمْ مَقَامِعٌ مِنْ حَرِيٍّ ۲۱

ترجمہ کنزالایمان: اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ان کے لیے لوہے کے گرز ہیں۔

﴿وَلَهُمْ﴾: اور ان کے لیے۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ جہنم میں کافروں کو عذاب دینے کے لئے لوہے کے گرز ہیں جن سے انہیں مارا جائے گا۔^(۳)

جہنم کے گرز

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہنم میں جن گرزوں سے مارا جائے گا وہ لوہے کے ہیں، ان کے بارے میں حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اگر وہ لوہے کا گرز زمین پر رکھا جائے پھر جن و انس سب جمع ہو جائیں تو اسے زمین سے نہ اٹھا سکیں گے۔^(۴)

اور دوسری روایت میں ہے کہ اگر وہ گرز پہاڑ پر مارا جائے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ (گرز لگنے کے بعد) پھر

۱.....سنن ترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ما جاء في صفة شراب اهل النار، ۲/۴، الحدیث: ۲۵۹۱.

۲.....مدارك، الحج، تحت الآية: ۱۹، ص ۷۳۵.

۳.....روح البيان، الحج، تحت الآية: ۲۱، ۱۸/۶.

۴.....مسند امام احمد، مسند ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ۵۸/۴، الحدیث: ۱۱۲۳۳.

بندے کو پہلی حالت میں لوٹا دیا جائے گا۔^(۱)

حضرت حسن بصری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرمایا کرتے تھے: جہنم کا ذکر کثرت سے کیا کرو کیونکہ اس کی گرمی بہت شدید ہے، اس کی گہرائی بہت زیادہ ہے اور اس کے گرز لوہے کے ہیں۔
(یعنی اس یاد سے خوفِ خدا پیدا ہوگا۔)^(۲)

اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے اس خوفناک عذاب سے پناہ عطا فرمائے، آمین۔

كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا
عَذَابَ الْحَرِيقِ ۝۲۲

ترجمہ کنزالایمان: جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اس میں لوٹا دیئے جائیں گے اور حکم ہوگا کہ چکھو آگ کا عذاب۔

ترجمہ کنزالعرفان: جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو۔

﴿كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ﴾: جب گھٹن کے سبب اس میں سے نکلنا چاہیں گے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ جب وہ کفار گھٹن کے سبب جہنم میں سے نکلنا چاہیں گے تو گرزوں سے مار کر پھر اسی میں لوٹا دیئے جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ آگ کا عذاب چکھو جس کا جلانا انتہائی شدید ہے۔^(۳)

جہنم کو پیدا فرمانے میں حکمت

جہنم اللہ تعالیٰ کے جلال کا مظہر ہے اور اللہ تعالیٰ نے جہنم کو اس لئے پیدا فرمایا ہے تاکہ مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے

①.....مسند امام احمد، مسند ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ، ۱/۶۶، الحدیث: ۱۱۷۸۶.

②.....مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب ذکر النار، ما ذکر فیما أعد لاهل النار وشدتہ، ۸/۹۷، الحدیث: ۴۰.

③.....جلالین، الحج، تحت الآیة: ۲۲، ص ۲۸۰.

جلال اور اس کی کبریائی کا اندازہ ہو جائے اور لوگ اس سے ڈرتے رہیں اور اس کے خوف کی وجہ سے گناہوں سے باز رہیں۔ (۱) افسوس! آج لوگوں کے دل کی سختی کا یہ حال ہے کہ قرآن مجید میں جہنم کے انتہائی دردناک عذابات کے بارے میں پڑھنے کے باوجود ان سے ڈرتے نہیں اور بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ گناہوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقل سلیم عطا فرمائے، آمین۔

إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ يُحَلَّونَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَلُؤْلُؤًا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا
حَرِيرٌ ۚ ۲۲ وَهُدًى إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ ۚ وَهُدًى إِلَى صِرَاطٍ الْحَبِيدِ ۚ ۲۳

ترجمہ کنز الایمان: بیشک اللہ داخل کرے گا انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے بہشتوں میں جن کے نیچے نہریں بہیں اس میں پہنائے جائیں گے سونے کے کنگن اور موتی اور وہاں ان کی پوشاک ریشم ہے۔ اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت کی گئی اور سب خوبیوں سے اس کی راہ بتائی گئی۔

ترجمہ کنز العرفان: بیشک اللہ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی اور انہیں تمام تعریفوں کے لائق (اللہ) کا راستہ دکھایا گیا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ بیشک اللہ ایمان والوں کو داخل فرمائے گا۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں کفار کا عبرتناک انجام بیان کیا گیا اور اب یہاں سے قیامت کے دن ایمان والوں اور نیک اعمال کرنے والوں پر ہونے والے انعامات بیان کئے جا رہے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور نیک اعمال کرنے والوں کو ان باغوں میں

①.....روح البیان، الحج، تحت الآية: ۲۲، ۱۹/۶.

داخل فرمائے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ انہیں ان باغوں میں سونے کے کنگن اور ایسے موتی پہنائے جائیں گے جن کی چمک مشرق سے مغرب تک روشن کر ڈالے گی اور جنتوں میں ان کا لباس ریشم ہوگا جسے پہننا دنیا میں مردوں پر حرام ہے۔^(۱)

آیت میں بیان کی گئی جنتی نعمتوں سے متعلق 3 احادیث

اس آیت میں جنت کی جن نعمتوں کے بارے میں بیان ہوا ان سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ ہوں:

- (1)..... حضرت حکیم بن معاویہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جنت میں پانی کا دریا، شہد کا دریا، دودھ کا دریا اور شراب کا دریا ہے، پھر ان سے نہریں نکلتی ہیں۔“⁽²⁾
- (2)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”مومن کے اعضاء میں وہاں تک زیور پہنایا جائے گا جہاں تک اس کے وضو کو پانی پہنچے گا۔“⁽³⁾
- (3)..... حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جنتیوں کے سر پر تاج ہوں گے اور ان تاجوں کا ادنیٰ موتی مشرق سے مغرب تک کو روشن کر دے گا۔“⁽⁴⁾

مردوں کے لئے ریشم پہننے کی وعیدیں

- احادیث میں ریشم پہننے والے مرد کے لئے سخت وعیدیں بیان ہوئی ہیں، ان میں سے چند درج ذیل ہیں،
- (1)..... حضرت علی المرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمُ فرماتے ہیں، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے دائیں ہاتھ میں ریشم اور بائیں ہاتھ میں سونے لے کر ارشاد فرمایا: ”بے شک یہ دونوں میری امت کے مردوں پر حرام ہیں۔“⁽⁵⁾
 - (2)..... حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے دنیا میں ریشم پہنا وہ آخرت میں ریشم نہیں پہنے گا۔“⁽⁶⁾

①..... حازن، الحجج، تحت الآية: ۲۳، ۴/۳، ۳۰، ملقطاً.

②..... ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء في صفة انهار الجنة، ۲۵۷/۴، الحديث: ۲۵۸۰.

③..... مسلم، کتاب الطهارة، باب تبلغ الحلية حيث يبلغ الوضوء، ص ۱۵۱، الحديث: ۴۰ (۲۵۰).

④..... ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء لادنى اهل الجنة من الكرامة، ۲۵۳/۴، الحديث: ۲۵۷۱.

⑤..... ابو داؤد، کتاب اللباس، باب في الحرير للنساء، ۷۱/۴، الحديث: ۴۰۵۷.

⑥..... بخاری، کتاب اللباس، باب لبس الحرير واقتراشه للرجال... الخ، ۵۹/۴، الحديث: ۵۸۳۲.

(3)..... حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”ریشم وہ پہنے گا جس کے لیے آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔“ (1)

(4)..... حضرت عبد اللہ بن زبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ ”جو دنیا میں ریشم پہنے گا وہ جنت میں نہ جائے گا۔“ (2)

(5)..... حضرت جویریہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جس نے ریشم کا لباس پہنا اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن آگ کا کپڑا پہنائے گا۔“ (3)

﴿وَهُدُوا إِلَى الطَّيِّبِ مِنَ الْقَوْلِ﴾ اور انہیں پاکیزہ بات کی ہدایت دی گئی۔ ﴿اس آیت میں پاکیزہ بات سے کلمہ توحید مراد ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے قرآن مجید مراد ہے اور صراطِ حمید سے مراد اللہ تعالیٰ کا دین اسلام ہے۔ (4)

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ
الَّذِي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ سَوَاءً الْعَاكِفُ فِيهِ وَالْبَادِ ط وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ
بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُزِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ٢٥

ترجمہ کنزالایمان: بیشک وہ جنہوں نے کفر کیا اور روکتے ہیں اللہ کی راہ اور اس ادب والی مسجد سے جسے ہم نے سب لوگوں کے لیے مقرر کیا کہ اس میں ایک ساحق ہے وہاں کے رہنے والے اور پردیسی کا اور جو اس میں کسی زیادتی کا ناحق ارادہ کرے ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ کے راستے اور مسجدِ حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا

1..... مسلم، کتاب اللباس والزینة، باب تحريم استعمال اناء الذهب والفضة... الخ، ص ۱۱۴۵، الحدیث: ۷ (۲۰۶۸)۔

2..... سنن الکبریٰ للنسائی، کتاب الزینة، لبس الحریر، ۴۶۵/۵، الحدیث: ۹۵۸۵۔

3..... مسند امام احمد، حدیث جویریة بنت الحارث بن ابی ضرار زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ۲۳۱/۱۰، الحدیث: ۲۶۸۱۹۔

4..... حازن، الحج، تحت الآية: ۲۴، ۳۰۴/۳۔

ارادہ کرے گا تو ہم اسے دردناک عذاب چکھائیں گے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ بیشک جنہوں نے کفر کیا۔ ﴿شأن نزول﴾: یہ آیت سفیان بن حرب وغیرہ کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے روکا تھا، اس پر ارشاد فرمایا کہ ”بیشک انہیں دردناک عذاب دیا جائے گا جنہوں نے کفر کیا اور وہ اللہ تعالیٰ کے دین اور اس کی اطاعت سے اور اس مسجدِ حرام میں داخل ہونے سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے عبادت گاہ بنایا ہے اور اس میں وہاں کے رہنے والوں اور دور سے آنے والوں کا حق برابر ہے۔^(۱)

﴿وَالسَّجِدِ الْحَرَامِ﴾ اور مسجدِ حرام۔ ﴿مفسرین فرماتے ہیں کہ اگر یہاں آیت میں مسجدِ حرام سے خاص کعبہ معظمہ مراد ہو جیسا کہ امام شافعی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا فرمان ہے تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ مسجدِ حرام تمام لوگوں کا قبلہ ہے اور اس کی طرف منہ کرنے میں وہاں کے رہنے والے اور پردیسی سب برابر ہیں، سب کے لئے اس کی تعظیم و حرمت اور اس میں حج کے ارکان کی ادائیگی یکساں ہے اور طواف و نماز کی فضیلت میں شہری اور پردیسی کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ اور اگر اس آیت میں مسجدِ حرام سے مکہ مکرمہ یعنی پورا حرم مراد ہو جیسا کہ امام اعظم ابوحنیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا فرمان ہے تو اس صورت میں آیت کے معنی یہ ہوں گے کہ حرم شریف شہری اور پردیسی سب کے لئے برابر ہے، اس میں رہنے اور ٹھہرنے کا سب کو حق حاصل ہے جبکہ کوئی کسی کو اس کے گھر سے نکالے نہیں۔ اسی لئے امام اعظم ابوحنیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مکہ مکرمہ کی زمینوں کو بیچنے اور ان کا کرایہ حاصل کرنے کو منع فرماتے ہیں جیسا کہ حدیث شریف میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”مکہ مکرمہ حرم ہے، اس کی زمینیں فروخت نہ کی جائیں۔^(۲)

﴿وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِإِلْحَادٍ بِظُلْمٍ﴾ اور جو اس میں ناحق کسی زیادتی کا ارادہ کرے گا۔ ﴿مسجدِ حرام میں ناحق زیادتی سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں مفسرین کے چند اقوال ہیں۔ (۱) اس سے شرک و بت پرستی مراد ہے۔ (۲) اس سے ہر ممنوع قول اور فعل مراد ہے حتیٰ کہ خادم کو گالی دینا بھی اس میں داخل ہے۔ (۳) اس سے حرم میں احرام کے بغیر داخل ہونا یا حرم کے ممنوعات کا ارتکاب کرنا جیسے شکار مارنا اور درخت کا ٹٹا وغیرہ مراد ہے۔ (۴) حضرت عبد اللہ بن عباس

۱.....تفسیرات احمدیہ، الحج، تحت الآية: ۲۵، ص ۵۲۸.

۲.....تفسیرات احمدیہ، الحج، تحت الآية: ۲۵، ص ۵۲۸، حازن، الحج، تحت الآية: ۲۵، ۳/۳۰۴-۳۰۵، ملقطاً.

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: اس سے مراد یہ ہے کہ جو تجھے قتل نہ کرے تو اسے قتل کرے یا جو تجھ پر ظلم نہ کرے تو اس پر ظلم کرے۔ (۱)

شانِ نزول: حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے عبد اللہ بن اُنَيس (بن خطل) کو دو آدمیوں کے ساتھ بھیجا تھا جن میں ایک مہاجر تھا دوسرا انصاری، ان لوگوں نے اپنے اپنے نسب کی فخریہ باتیں بیان کیں تو عبد اللہ بن اُنَيس کو غصہ آیا اور اس نے انصاری کو قتل کر دیا اور خود مُرْتَد ہو کر مکہ مکرمہ کی طرف بھاگ گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ (۲)

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَنْ لَا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِي
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودِ ②۲

ترجمہ کنز الایمان: اور جب کہ ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا ٹھکانا ٹھیک بتا دیا اور حکم دیا کہ میرا کوئی شریک نہ کر اور میرا گھر ستھرا رکھ طواف والوں اور اعتکاف والوں اور رکوع سجدے والوں کے لئے۔

ترجمہ کنز العرفان: اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں اور قیام کرنے والوں اور رکوع سجدہ کرنے والوں کیلئے خوب صاف ستھرا رکھو۔

﴿وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ﴾: اور یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کو اس گھر کا صحیح مقام بتا دیا۔ ﴿كعبہ معظمہ کی عمارت پہلے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نے بنائی تھی اور جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی قوم پر طوفان آیا تو اس وقت وہ آسمان پر اٹھالی گئی۔ پھر جب حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو کعبہ شریف کی عمارت دوبارہ تعمیر کرنے کا حکم دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام بتانے کے لئے ایک ہوا مقرر کی جس نے اس کی جگہ کو صاف کر دیا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت

①.....خازن، الحج، تحت الآية: ۲۵، ۳۰۵/۳.

②.....درمشور، الحج، تحت الآية: ۲۵، ۲۷/۶.

موجود تھی اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بادل بھیجا جو خاص زمین کے اس حصے کے اوپر تھا جہاں پہلے کعبہ معظمہ کی عمارت تھی، اس طرح حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کعبہ شریف کی جگہ بتائی گئی اور آپ نے اس کی پرانی بنیاد پر کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کی۔^(۱)

﴿ اِنَّ لَا تُشْرِكُ بِيْ شَيْئًا ﴾ اور حکم دیا کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ ﴿ کعبہ شریف کی تعمیر کے وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور میرے گھر کو طواف کرنے والوں، قیام کرنے والوں اور نماز پڑھنے والوں کیلئے شرک سے، بتوں سے اور ہر قسم کی نجاستوں سے خوب صاف ستھرا رکھو۔^(۲)

انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام شرک سے پاک ہیں

یاد رہے کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام ایک آن کے لئے بھی شرک نہیں کرتے، وہ شرک سے پاک ہیں اور گناہوں سے بھی معصوم ہیں اور اس آیت میں جو حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے فرمایا گیا کہ ”میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو“ اس سے یہ مراد نہیں کہ آپ معاذ اللہ شرک میں مبتلا تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے منع فرمایا بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یا اس سے مراد یہ ہے کہ خانہ کعبہ کی تعمیر میں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے ساتھ کوئی دوسری غرض نہ ملانا۔^(۳)

مسجد تعمیر کرنے اور اسے صاف ستھرا رکھنے کے فضائل

اس آیت سے معلوم ہوا کہ مسجد تعمیر کرنا، اسے صاف ستھرا رکھنا اور اس کی زینت کرنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی سنت اور اعلیٰ درجے کی عبادت ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں مسجد تعمیر کرنے اور اسے صاف ستھرا رکھنے کے تین فضائل ملاحظہ ہوں۔

(۱)..... حضرت ابو بکر صافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”مسجدیں تعمیر کرو اور ان سے کوڑا کرکٹ نکالو، پس جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے مسجد بنائی اللہ

①..... مدارك، الحج، تحت الآية: ۲۶، ص ۷۳۶، حازن، الحج، تحت الآية: ۲۶، ۳/۵۰، ملقطاً.

②..... حازن، الحج، تحت الآية: ۲۶، ۳/۵۰.

③..... تفسیر کبیر، الحج، تحت الآية: ۲۶، ۸/۲۱۹.

تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا اور اس سے کوڑا کرکٹ نکالنا حورِ عین کے مہر ہیں۔^(۱)

(۲)..... حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا

”جس نے مسجد سے اذیت دینے والی چیز (جیسے مٹی، کنکر) نکالی تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں ایک گھر بنائے گا۔^(۲)

(۳)..... حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ایک عورت مسجد سے تینکے اٹھایا کرتی تھی، اس کا انتقال

ہو گیا اور حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو اسے دفن کرنے کی اطلاع نہ دی گئی تو آپ نے ارشاد فرمایا ”جب تم

میں کسی کا انتقال ہو جائے تو مجھے اطلاع دے دیا کرو، پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس عورت پر نماز پڑھی اور

فرمایا ”میں نے اسے جنت میں دیکھا ہے کیونکہ وہ مسجد سے تینکے اٹھایا کرتی تھی“^(۳)۔^(۴)

مسجد کا متولی کیسا ہونا چاہئے؟

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مسجد کا متولی نیک آدمی ہونا چاہیے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ

تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”متولی بننے کے لائق وہ ہے جو دیانت دار، کام کرنے والا اور ہوشیار ہو۔ اس پر وقف کی حفاظت اور

خیر خواہی کے معاملے میں کافی اطمینان ہو۔ فاسق نہ ہو کہ اس سے نفسانی خواہش یا بے پرواہی یا حفاظت نہ کرنے یا لہو

و لعب میں مشغول ہونے کی وجہ سے وقف کو نقصان پہنچانے یا پہنچنے کا اندیشہ ہو۔ بد عقل، عاجز یا کاہل نہ ہو کہ اپنی حماقت،

نادانی، کام نہ کر سکنے یا محنت سے بچنے کے باعث وقف کو خراب کر دے۔ فاسق اگرچہ کیسا ہی ہوشیار، کام کرنے والا اور

مالدار ہو ہرگز متولی بننے کے لائق نہیں کہ جب وہ شریعت کی نافرمانی کی پرواہ نہیں رکھتا تو کسی دینی کام میں اس پر کیا اطمینان

ہو سکتا ہے اور اسی وجہ سے یہ حکم ہے کہ وقف کرنے والا اگر خود فسق کرے تو واجب ہے کہ وقف اس کے قبضے سے نکال لیا

جائے اور کسی امانت دار اور دیانت دار کو سپرد کیا جائے۔^(۵)

①..... معجم الکبیر، مسند جندرة بن حيشنة، ۱۹/۳، الحدیث: ۲۵۲۱.

②..... ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب تطهير المساجد وتطبيها، ۴۱۹/۱، الحدیث: ۷۵۷.

③..... معجم الکبیر، عكرمة عن ابن عباس، ۱۹۰/۱۱، الحدیث: ۱۱۶۰۷.

④..... مسجد کی صفائی ستھرائی سے متعلق مفید معلومات حاصل کرنے کے لئے امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے رسالے ”مسجدیں صاف رکھئے“

(مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ مفید ہے۔

⑤..... فتاویٰ رضویہ، ۵۵۷/۱۶، ملخصاً۔

وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ
كُلِّ فَجٍّ عَبِيقٍ ﴿۲۷﴾ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي
أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيَّةٍ إِلَّا نَعَامٌ فَكُلُوا مِنْهَا
وَأَطِعُوا الْبَآئِسَ الْفَقِيرَ ﴿۲۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور لوگوں میں حج کی عام نداء کر دے وہ تیرے پاس حاضر ہوں گے پیادہ اور ہر ڈبلی اونٹنی پر کہ ہر
دور کی راہ سے آتی ہیں۔ تاکہ وہ اپنا فائدہ پائیں اور اللہ کا نام لیں جانے ہوئے دنوں میں اس پر کہ انہیں روزی دی بے
زبان چوپائے تو ان میں سے خود کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو، وہ تمہارے پاس پیدل اور ہر ڈبلی اونٹنی پر (سوار ہو کر) آئیں
گے جو ہر دور کی راہ سے آتی ہیں۔ تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں اس
بات پر کہ اللہ نے انہیں بے زبان مویشیوں سے رزق دیا تو تم ان سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔

﴿وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ﴾ اور لوگوں میں حج کا عام اعلان کر دو۔ ﴿كعبہ شریف کی تعمیر کے بعد حضرت ابراہیم علیہ
الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ کو حکم دیا گیا کہ اب لوگوں کو میرے گھر آنے کی دعوت دو، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ نے
ابو قیس پہاڑ پر چڑھ کر جہان کے لوگوں کو ندا کر دی کہ بیٹ اللہ کا حج کرو۔ جن کی قسمت میں حج کرنا لکھا تھا انہوں نے
اپنے باپوں کی پشتوں اور ماؤں کے پیٹوں سے جواب دیا ”لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ“ یعنی میں حاضر ہوں، اے اللہ! میں
حاضر ہوں۔ حضرت حسن رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ کا قول ہے کہ اس آیت ”أَذِّنْ“ میں رسول کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
کو خطاب ہے، چنانچہ حجۃ الوداع میں آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اعلان کر دیا اور ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! اللہ
عَزَّ وَجَلَّ نے تم پر حج فرض کیا تو حج کرو۔ (۱)

۱.....مدارك، الحج، تحت الآية: ۲۷، ص ۷۳۶، حازن، الحج، تحت الآية: ۲۷، ۳۰/۵، ملقطاً.

﴿يَأْتُونَكَ بِجَالًا﴾: وہ تمہارے پاس پیدل آئیں گے۔ یعنی جب آپ لوگوں میں حج کا اعلان کریں گے تو لوگ آپ کے پاس پیدل اور ہر دہلی اونٹنی پر سوار ہو کر آئیں گے جو دور کی راہ سے آتی ہیں اور کثیر سفر کرنے کی وجہ سے دہلی ہو جاتی ہیں۔^(۱)

پیدل حج کرنے کے فضائل

اس آیت میں حج کے لئے پیدل آنے والوں کا پہلے ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ پیدل حج کرنا بہت فضیلت کا باعث ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں مکہ مکرمہ سے پیدل حج کرنے کے دو فضائل ملاحظہ ہوں:

(۱)..... حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے مکہ سے پیدل حج شروع کیا حتیٰ کہ (حج مکمل کر کے) مکہ لوٹ آیا تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر قدم کے بدلے سات سو نیکیاں حرم کی نیکیوں میں لکھے گا۔ عرض کی گئی: حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ”ہر نیکی کے بدلے ایک لاکھ نیکیاں۔“^(۲)

(۲)..... حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”سوار ہو کر حج کرنے والے کے لئے ہر اس قدم کے بدلے میں ستر نیکیاں ہیں جو اس کی سواری چلے اور پیدل حج کرنے والے کے لئے ہر قدم کے بدلے حرم کی نیکیوں میں سے سات سو نیکیاں ہیں۔ کسی نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا ”ایک نیکی ایک لاکھ نیکیوں کے برابر ہے۔“^(۳)

﴿لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾: تاکہ وہ اپنے فوائد پر حاضر ہو جائیں۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں حج کرنے کا حکم دیا گیا اور اب اس حکم کی حکمت بیان کی جا رہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو حج کے لئے بلائیں تاکہ وہ حج کر کے اپنے دینی اور دنیوی دونوں طرح کے فوائد حاصل کریں جو اس عبادت کے ساتھ خاص ہیں، دوسری عبادت میں نہیں پائے جاتے۔“^(۴)

حج کا دینی اور دنیوی فائدہ

حج کرنے والے کو دینی فائدہ تو یہ حاصل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہ بخش دیتا ہے اور وہ گناہوں سے ایسے

①..... حازن، الحج، تحت الآية: ۲۷، ۳/۳۰۵-۳۰۶.

②..... مستدرک، اول کتاب المناسك، فضيلة الحج ماشياً، ۱۱۴/۲، الحديث: ۱۷۳۵.

③..... مسند البزار، مسند ابن عباس رضي الله عنهما، ۳۱۳/۱۲، الحديث: ۵۱۱۹.

④..... تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ۲۸، ۸/۲۲۰، مدارك، الحج، تحت الآية: ۲۸، ص ۷۳۷.

پاک ہو کر لوٹتا ہے جیسے اُس دن گناہوں سے پاک تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے حج کیا اور (حج کے دوران) کوئی فحش کلام کیا نہ فسق کیا تو وہ گناہوں سے ایسے پاک ہو کر لوٹے گا جیسے اُس دن تھا جب وہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔“^(۱)

اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُرَنُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”حج و عمرہ محتاجی اور گناہوں کو ایسے دور کرتے ہیں جیسے بھٹی لوہے، چاندی اور سونے کے میل کو دور کر دیتی ہے اور حج مُبْرُور کا ثواب جنت ہی ہے۔“^(۲)

اور دُنْيَوِي فائدہ یہ ہے کہ حج کے دنوں میں لوگ تجارت کر کے مالی نفع بھی حاصل کرتے ہیں۔

﴿وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ﴾ اور معلوم دنوں میں اللہ کے نام کو یاد کریں۔ اللہ تعالیٰ کا نام یاد کرنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشیوں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ کے ذریعے رزق دیا انہیں ذبح کرتے وقت وہ ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں۔ یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حج کرنے والوں کو جو بے زبان مویشیوں اونٹ، گائے، بکری اور بھیڑ سے رزق دیا اس نعمت پر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور شکر کریں اور اس کی پاکی بیان کریں۔ معلوم دنوں سے کیا مراد ہے اس کے بارے میں دو قول ہیں: (۱) ان سے ذی الحجہ کے دس دن مراد ہیں۔ یہ حضرت علی المرتضیٰ، حضرت عبد اللہ بن عباس، حضرت حسن اور حضرت قتادہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کا قول ہے اور یہی امام اعظم ابو حنیفہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا مذہب ہے۔ (۲) معلوم دنوں سے قربانی کے دن مراد ہیں۔ یہ حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا قول ہے اور امام ابو یوسف اور امام محمد رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمَا بھی اسی کے قائل ہیں۔^(۳)

﴿فَكُلُوا مِنْهَا﴾ تو تم ان سے کھاؤ۔ دورِ جاہلیت میں کفار حج کے موقع پر جو جانور ذبح کرتے تھے ان کا گوشت خود نہیں کھاتے تھے، اس آیت میں ان کا رد کیا گیا اور مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ تم حج کے دنوں میں جو جانور ذبح کرو اس کا

۱..... بخاری، کتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، ۵۱۲/۱، الحدیث: ۱۵۲۱.

۲..... سنن ترمذی، کتاب الحج، باب ما جاء في ثواب الحج والعمرة، ۲۱۸/۲، الحدیث: ۸۱۰.

۳..... البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ۲۸، ۲۲۸/۶، تفسیرات احمدیہ، الحج، تحت الآية: ۲۸، ص ۵۳۱، مدارك، الحج، تحت الآية: ۲۸، ص ۷۳۷، ملتقطاً.

گوشت خود بھی کھاؤ اور محتاج فقیروں کو بھی کھلاؤ۔^(۱)

حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق 4 شرعی مسائل

یہاں آیت کی مناسبت سے حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق 4 شرعی مسائل ملاحظہ ہوں

(1)..... ہدی اُس جانور کو کہتے ہیں جو قربانی کے لیے حرم کو لے جایا جائے۔ یہ تین قسم کے جانور ہیں: (۱) بکری۔ اس میں بھیڑ اور دنبہ بھی داخل ہے۔ (۲) گائے۔ بھینس بھی اسی میں شمار ہے۔ (۳) اونٹ۔

(2)..... قربانی کے جانور میں جو شرطیں ہیں وہ ہدی کے جانور میں بھی ہیں مثلاً اونٹ پانچ سال کا، گائے دو سال کی، بکری ایک سال کی مگر بھیڑ اور دنبہ چھ مہینے کا اگر سال بھر والی بکری کی مثل ہو تو اس کی قربانی ہو سکتی ہے اور اونٹ گائے میں یہاں بھی سات آدمیوں کی شرکت ہو سکتی ہے۔

(3)..... ہدی یعنی قربانی کے لیے حرم میں لے جایا جانے والا جانور اگر حج قرآن یا تمتع کی قربانی کا ہو تو قربانی کرنے کے بعد اس کے گوشت میں سے کچھ کھا لینا بہتر ہے، اسی طرح اگر قربانی نفلی ہو اور جانور حرم میں پہنچ گیا ہو تو اس کا گوشت بھی کھا سکتا ہے البتہ اگر جانور حرم میں نہ پہنچا تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا بلکہ اب وہ فقرا کا حق ہے۔ اگر وہ جانور حج قرآن، تمتع اور نفلی قربانی کے علاوہ کسی اور جیسے کفارے کی قربانی کے لئے ہو تو اس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا اور جس قربانی کا گوشت قربانی کرنے والا خود کھا سکتا ہے وہ مالداروں کو بھی کھلا سکتا ہے اور جس کا گوشت خود نہیں کھا سکتا وہ نہ مالداروں کو کھلا سکتا اور نہ ہی اس کی کھال وغیرہ سے نفع لے سکتا ہے۔

(4)..... ہدی کا گوشت حرم کے مسکینوں کو دینا بہتر ہے، اس کی تکیل اور جھول کو خیرات کر دیں اور قصاب کو اس کے گوشت میں سے کچھ نہ دیں۔ ہاں اگر اُسے صدقہ کے طور پر کچھ گوشت دیں تو اس میں حرج نہیں۔⁽²⁾

نوٹ: ہدی سے متعلق مزید شرعی مسائل کی معلومات حاصل کرنے کے لئے بہار شریعت جلد 1 حصہ 6 سے

”ہدی کا بیان“ مطالعہ فرمائیں۔

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلِيُوفُوا نَدْوَاهُمْ وَلِيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴿۲۹﴾

①..... تفسیرات احمدیہ، الحج، تحت الآیة: ۲۸، ص ۵۳۲، مدارك، الحج، تحت الآیة: ۲۸، ص ۷۳۷، ملتقطاً.

②..... بہار شریعت، حصہ ششم، ہدی کا بیان، ۱۲۱۳-۱۲۱۴، ملخصاً.

ترجمہ کنزالایمان: پھر اپنا میل کچیل اُتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اُتاریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔

﴿ثُمَّ لِيَقْضُوا تَلْتَمِهِمْ﴾: پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اُتاریں۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ پھر انہیں چاہیے کہ اپنا میل کچیل اُتاریں، موچھیں کتروائیں، ناخن تراشیں، بغلوں اور زیر ناف کے بال دور کریں اور جو منتیں انہوں نے مانی ہوں وہ پوری کریں اور اس آزاد گھر کا طواف کریں۔ اس سے طواف زیارت مراد ہے۔^(۱)

خانہ کعبہ کی شان

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کو بڑی عظمت و شان عطا فرمائی ہے کہ کوئی ظالم و جابر شخص اس گھر پر قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی اس کا مالک ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یہ لوگوں کے قبضے اور ملکیت سے آزاد ہے اور جس نے بھی اس پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ نے اسے تباہ و برباد کر دیا جیسا کہ ابرہہ اور اس کے لشکر نے جب خانہ کعبہ پر قبضہ کرنے کی نیت سے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا تو اس کا جو حشر ہوا اس سے شاید ہی کوئی مسلمان ناواقف ہو۔

ذَلِكَ وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ ۖ وَأُحِلَّتْ لَكُمْ
الْأَنْعَامُ إِلَّا مَا يُشْلَىٰ عَلَيْكُمْ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ
وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ ﴿۳۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: بات یہ ہے اور جو اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کے لئے اس کے رب کے یہاں بھلا ہے اور تمہارے لیے حلال کیے گئے بے زبان چوپائے سوا ان کے جن کی ممانعت تم پر پڑھی جاتی ہے تو دور ہو بتوں کی گندگی سے اور بچو جھوٹی بات سے۔

1..... مدارك، الحج، تحت الآية: ۲۹، ص ۷۳۷.

ترجیہ کنذاعرفان: حکم الہی یہ ہے اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے تو وہ اس کیلئے اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے اور تمہارے لیے بے زبان چوپائے حلال کئے گئے سوائے ان کے جن کا (حرام ہونا) تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے۔ پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔

﴿وَمَنْ يُعْظِمِ حُرْمَتِ اللَّهِ: اور جو اللہ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے۔﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرنے پر ابھارتے ہوئے فرمایا گیا کہ جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے جنہیں اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت عطا کی ہے تو یہ تعظیم اُس کے لئے بہتر ہے کہ اس پر اللہ تعالیٰ اُسے آخرت میں ثواب عطا فرمائے گا۔^(۱)

اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کے بارے میں مفسرین کا ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں خواہ وہ حج کے مناسک ہوں یا ان کے علاوہ اور احکام ہوں اور ان کی تعظیم سے مراد یہ ہے کہ جو کام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ کئے جائیں اور جن کاموں سے منع کیا انہیں نہ کیا جائے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ یہاں حرمت والی چیزوں سے حج کے مناسک مراد ہیں اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ حج کے مناسک پورے کئے جائیں اور انہیں ان کے تمام حقوق کے ساتھ ادا کیا جائے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ ان سے وہ مقامات مراد ہیں جہاں حج کے مناسک ادا کئے جاتے ہیں جیسے بیتِ حرام، مشعرِ حرام، بلدِ حرام اور مسجدِ حرام وغیرہ اور ان کی تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ ان کے حقوق اور ان کی عزت و حرمت کی حفاظت کی جائے۔^(۲)

مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام

حضرت عیاش بن ابوربیعہ مخزومی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”میری امت کے لوگ (تب تک) ہمیشہ بھلائی پر ہوں گے جب تک وہ مکہ کی تعظیم کا حق ادا کرتے رہیں گے اور جب وہ اس حق کو ضائع کر دیں گے تو ہلاک ہو جائیں گے۔“^(۳)

مفتی احمد یار خان نعیمی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس حدیث پاک کی شرح میں فرماتے ہیں ”تجربہ سے بھی ثابت ہے کہ جس بادشاہ نے کعبہ معظمہ یا حرم شریف کی بے حرمتی کی، ہلاک و برباد ہو گیا، یزید پلید کے زمانہ میں جب حرم شریف

①..... البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ۳۰، ۳۳۹/۶، روح البيان، الحج، تحت الآية: ۳۰، ۲۹/۶، ملقطاً.

②..... مدارك، الحج، تحت الآية: ۳۰، ص ۷۳۸، حازن، الحج، تحت الآية: ۳۰، ۳۰/۷/۳، ملقطاً.

③..... سنن ابن ماجه، كتاب المناسك، باب فضل مكة، ۵۱۹/۳، الحديث: ۳۱۱۰.

کی بے حرمتی ہوئی (تو) بیزید ہلاک ہوا (اور) اس کی سلطنت ختم ہو گئی۔ (۱)

اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کی جائے

اس سے معلوم ہوا کہ جن چیزوں اور جن مقامات کو اللہ تعالیٰ نے عزت و حرمت عطا کی ہے ان کی تعظیم کرنے والا بھلائی پاتا ہے اور ان کی بے حرمتی کرنے والا نقصان اٹھاتا اور تباہ و برباد ہو جاتا ہے لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے اور ان کی بے حرمتی کرنے سے بچے نیز جن ہستیوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قرب و شرف عطا فرما کر عزت و عظمت سے نوازا ہے جیسے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام، صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اور اولیاء عظام رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ وغیرہ، ان کی اور ان سے نسبت رکھنے والی چیزوں کی بھی تعظیم کرے اور کسی طرح ان کی بے ادبی نہ کرے۔

﴿وَأُحِلَّتْ لَكُمْ الْبَهِيمَاتُ أَلْبَانًا﴾ اور تمہارے لیے تمام جانور حلال کئے گئے۔ ﴿آیت کے اس حصے کا معنی یہ ہے کہ قرآن پاک میں جن جانوروں کا حرام ہونا تمہارے سامنے بیان کیا جاتا ہے ان کے علاوہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں، تم انہیں شرعی طریقے سے ذبح کر کے کھا سکتے ہو لہذا تم اللہ تعالیٰ کی حدوں کی حفاظت کرو اور اس نے جو چیز حلال فرمائی اسے حرام قرار نہ دو جیسا کہ بعض لوگ بحیرہ اور سائبہ وغیرہ کو حرام قرار دیتے ہیں، اسی طرح جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا ہے اسے حلال قرار نہ دو جیسا کہ بعض لوگ دھاری دار چیز کی چوٹ کے بغیر مارے ہوئے اور مردہ جانور کا گوشت کھانے کو حلال کہتے ہیں۔ (۲)

نوٹ: حرام جانوروں سے متعلق تفصیلی بیان سورہ مائدہ کی آیت نمبر ۳ کی تفسیر میں گزر چکا ہے، وہاں سے اس کا مطالعہ فرمائیں۔

اولیاء کرام رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ کی طرف منسوب جانوروں کا شرعی حکم

یاد رہے کہ جن جانوروں کو ذبح کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی طرف منسوب کیا جائے اور انہیں ذبح شرعی طریقے کے مطابق کیا جائے تو وہ بھی حلال ہیں اور قرآن و حدیث میں کہیں بھی ایسے جانوروں کا حرام ہونا بیان

①.....مراة المناجیح، باب حرم مکہ حرمہا اللہ تعالیٰ، تیسری فصل، ۲۴۲/۴-۲۴۳، تحت الحدیث: ۲۶۰۵۔

②.....مدارک، الحج، تحت الآیة: ۳۰، ص ۷۳۸۔

نہیں کیا گیا لہذا کسی شرعی دلیل کے بغیر انہیں حرام کہنا اور اس پر شرک کے فتوے لگانا ہرگز درست نہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْرِمُوا طَيِّبَاتِ مَا
أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُعْتَدِينَ ﴿۸۷﴾ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمْ اللَّهُ حَلَالًا
طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ (۱)

ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو! ان پاکیزہ چیزوں کو حرام نہ قرار دو جنہیں اللہ نے تمہارے لئے حلال فرمایا ہے اور حد سے نہ بڑھو۔ بیشک اللہ حد سے بڑھنے والوں کو ناپسند فرماتا ہے۔ اور جو کچھ تمہیں اللہ نے حلال پاکیزہ رزق دیا ہے اس میں سے کھاؤ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔

اور حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”حلال وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا اور جس سے خاموشی اختیار فرمائی تو وہ معاف شدہ چیزوں میں سے ہے۔“ (۲)

﴿فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ﴾: پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو جن کی پوجا کرنا بدترین گندگی سے آلودہ ہونا ہے اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ یہاں جھوٹی بات سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد اپنی طرف سے چیزوں کو حلال اور حرام کہنا ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جھوٹی گواہی دینا ہے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد جھوٹ اور بہتان ہے۔ چوتھا قول یہ ہے کہ اس سے مراد دورِ جاہلیت میں تلبیہ میں ایسے الفاظ ذکر کرنا جن میں اللہ تعالیٰ کے لئے شریک کا ذکر ہو۔ (۳)

جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر 4 احادیث

آیت کی مناسبت سے یہاں جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر مشتمل 4 احادیث ملاحظہ ہوں:

(1)..... حضرت خریم بن فاتک اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صبح کی

1..... مائدہ: ۸۷، ۸۸.

2..... ترمذی، کتاب اللباس، باب ما جاء فی لبس الفراء، ۳/ ۲۸۰، الحدیث: ۱۷۳۲.

3..... تفسیر کبیر، الحج، تحت الآية: ۳۰، ۸/ ۲۲۳.

نماز پڑھ کر کھڑے ہوئے اور تین مرتبہ یہ ارشاد فرمایا ”جھوٹی گواہی ہی شرک کے ساتھ برابر کر دی گئی۔ پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی:

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا
قَوْلَ الزُّورِ ۚ حُنْفَاءُ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ

ترجمہ کنز العرفان: پس تم بتوں کی گندگی سے دور رہو اور جھوٹی بات سے اجتناب کرو۔ ایک اللہ کیلئے ہر باطل سے جدا ہو کر (اور) اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے۔^(۱)

(۲)..... حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جھوٹے گواہ کے قدم ہٹنے بھی نہ پائیں گے کہ اللہ تعالیٰ اُس کے لیے جہنم واجب کر دے گا۔“^(۲)

(۳)..... حضرت معاویہ بن حیدر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”اس کے لئے ہلاکت ہے جو لوگوں کو ہنسانے کے لئے جھوٹی بات کرتا ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے، اس کے لیے ہلاکت ہے۔“^(۳)

(۴)..... حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”اے لوگو! جھوٹ سے بچو، کیونکہ جھوٹ ایمان کے مخالف ہے۔“^(۴)

حُنْفَاءُ لِلَّهِ غَيْرَ مُشْرِكِينَ بِهِ ۚ وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ
فَتَخَطَفَهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوَىٰ بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيبٍ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: ایک اللہ کے ہو کر کہ اس کا سا جھی کسی کو نہ کرو اور جو اللہ کا شریک کرے وہ گویا گرا آسمان سے کہ پرندے اُسے اُچک لے جاتے ہیں یا ہوا اُسے کسی دور جگہ پھینکتی ہے۔

①..... ابو داؤد، کتاب الاقضية، باب فی شهادة الزور، ۴۲۷/۳، الحدیث: ۳۵۹۹.

②..... ابن ماجہ، کتاب الاحکام، باب شهادة الزور، ۱۲۳/۳، الحدیث: ۲۳۷۲.

③..... ترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء من تكلم بالكلمة ليضحك الناس، ۱۴۱/۴، الحدیث: ۲۳۲۲.

④..... مسند امام احمد، مسند ابی بكر الصديق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ۲۲/۱، الحدیث: ۱۶.

ترجہ کنز العرفان: ایک اللہ کیلئے ہر باطل سے جدا ہو کر (اور) اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے (بتوں سے دور رہو) اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر پڑا تو اسے پرندے اچک لے جاتے ہیں یا ہوا سے کسی دور کی جگہ پھینک دیتی ہے۔

﴿حُنَفَاءَ لِلَّهِ﴾: ایک اللہ کیلئے ہر باطل سے جدا ہو کر۔ یعنی اے لوگو! تم ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کیلئے ہر باطل سے جدا ہو کر اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتے ہوئے بتوں کی گندگی سے دور رہو۔

﴿وَمَنْ يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَذَ مِنَ السَّمَاءِ﴾: اور جو اللہ کے ساتھ شرک کرے وہ گویا آسمان سے گر پڑا۔ اس آیت میں ایک انتہائی نفیس تشبیہ سے شرک کا برا انجام سمجھایا گیا ہے، اس تشبیہ کا خلاصہ یہ ہے کہ جو شخص انتہائی بلندی سے زمین پر گر پڑے تو اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ پرندے اس کی بوٹی بوٹی نوچ کر لے جاتے ہیں یا پھر ہوا اس کے اعضاء کو دور کسی وادی میں پھینک دیتی ہے اور یہ ہلاکت کی ایک بدترین صورت ہے۔ اسی طرح جو شخص ایمان ترک کر کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو وہ ایمان کی بلندی سے کفر کی وادی میں گر پڑتا ہے، پھر بوٹی بوٹی لے جانے والے پرندے کی طرح نفسانی خواہشات اس کی فکروں کو منتشر کر دیتی ہیں یا ہوا کی طرح آنے والے شیطانی وسوسے اسے گمراہی کی وادی میں پھینک دیتے ہیں اور یوں شرک کرنے والا اپنے آپ کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔^(۱)

ایمان کی اہمیت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ایمان ایسی عظیم چیز ہے جسے اختیار کرنے والا عزت و عظمت کی بلند یوں کو چھو لیتا ہے اور ایمان کو ترک کرنے والا اور دین اسلام کو چھوڑ کر کسی دوسرے دین کو اختیار کر لینے والا خود کو بدترین ہلاکت میں ڈال دیتا ہے کیونکہ اگر یہ مرتد ہونے والا صحیح توبہ کئے بغیر اسی کفر کی حالت میں مر گیا تو اسے ہمیشہ کے لئے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

﴿وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ﴾
 ﴿فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ﴾

ترجہ کنز العرفان: اور تم میں جو کوئی اپنے دین سے مرتد ہو جائے پھر کافر ہی مر جائے تو ان لوگوں کے تمام اعمال دنیا و آخرت

1..... ابو سعود، الحج، تحت الآية: ۳۱، ۴/۱۸، ملخصاً.

وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (۱)

میں برباد ہو گئے اور وہ دوزخ والے ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

افسوس! فی زمانہ مسلمانوں میں ایمان کی قدر اور اہمیت کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور بعض مسلمان دنیا کا نفع، دنیا کی سہولت و آسائش اور دنیا کا مال و دولت حاصل کرنے کی خاطر اپنا ایمان ضائع کر دینے کی پرواہ بھی نہیں کرتے اور چند ٹکوں کے لئے ایمان جیسی قیمتی ترین دولت لٹا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور انہیں اپنے ایمان کی قدر اور اس کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

ذٰلِكَ وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوٰى الْقُلُوْبِ ﴿۳۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: بات یہ ہے اور جو اللہ کے نشانوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بات یونہی ہے اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔

﴿وَمَنْ يُعْظِمُ شَعَائِرَ اللّٰهِ﴾ اور جو اللہ کی نشانیوں کی تعظیم کرے۔ ﴿یہاں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے کیا مراد ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے تین قول ہیں، (۱) اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں تمام عبادات داخل ہیں۔ (۲) ان سے حج کے مناسک مراد ہیں۔ (۳) ان سے بدنہ یعنی وہ اونٹ اور گائے مراد ہیں جنہیں قربانی کے لئے حرم میں بھیجا جائے اور ان کی تعظیم یہ ہے کہ فریب، خوبصورت اور قیمتی لئے جائیں۔ (۲)

حج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حج کے موقع پر جو جانور قربان کیا جائے وہ عمدہ، موٹا، خوبصورت اور قیمتی ہو۔ امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں ”ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں تعظیم سے مراد عمدہ اور موٹے جانور کی قربانی دینا ہے۔ (لہذا قربانی کا جانور خریدنے والے کو چاہئے کہ) اس کی خریداری میں قیمت کم کرنے کے درپے نہ ہو۔ بزرگان دین تین چیزوں میں قیمت زیادہ دیتے تھے اور اس میں کمی کروانے کو پسند نہیں کرتے تھے (۱) حج کے موقع پر خرید جانے والا قربانی

۱..... بقرہ: ۲۱۷۔

۲..... تفسیر کبیر، الحج، تحت الآیة: ۳۲، ۲۲۳/۸، جلالین، الحج، تحت الآیة: ۳۲، ص ۲۸۲، ملقطاً۔

کا جانور۔ (2) عید کی قربانی کا جانور۔ (3) غلام۔ کیونکہ قربانی میں زیادہ قیمت والا جانور ان کے مالکوں کے نزدیک زیادہ نفیس ہوتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ (حج کے موقع پر) ایک غیر عربی اونٹ قربانی کے لئے لے گئے، کسی نے آپ سے وہ اونٹ تین سو دیناروں کے بدلے میں طلب کیا، آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے دریافت کیا کہ اسے بیچ کر ہلکا جانور خرید لوں تو نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے آپ کو روک دیا اور ارشاد فرمایا کہ اسی کی قربانی کرو۔

یہ اس لئے فرمایا کہ تھوڑی اور عمدہ چیز زیادہ اور ہلکی چیز سے بہتر ہوتی ہے اور تین سو دیناروں میں تیس اونٹ آسکتے تھے اور ان میں گوشت بھی زیادہ ہوتا لیکن مقصود گوشت نہیں تھا بلکہ مقصد تو نفس کو بخل سے پاک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم کے جمال سے مزین کرنا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ہرگز ان کے گوشت اور خون نہیں پہنچیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تو تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے، اور یہ مقصد اسی صورت حاصل ہونا ممکن ہے جب قیمت (اور دیگر چیزوں) میں عمدگی کا لحاظ رکھا جائے، تعداد کم ہو یا زیادہ۔⁽¹⁾

نوٹ: یاد رہے کہ جانور خریدتے وقت قیمت کم نہ کروائی جائے تو بہتر ہے لیکن اس میں یہ ضرور دیکھ لیا جائے کہ وہ جانور اتنی قیمت کا بنتا بھی ہو، ایسا نہ ہو کہ جانور دبلا پتلا ہے اور اس کی قیمت اتنی بتائی جا رہی ہے کہ عام طور پر ایسا جانور اس قیمت پر نہیں ملتا۔ لہذا ایسی صورت میں قیمت کم کروانا درست ہے۔

﴿فَاتَّيَبَتْ قُلُوبُهُمْ﴾: تو یہ دلوں کی پرہیزگاری سے ہے۔ ﴿عَنِ اللَّهِ تَعَالَى كِي نَشَانِيُوں كِي تَعْظِيْم كَرْنَا دِلُوں كِي پَرہیزگار ہونے کی علامت ہے۔⁽²⁾

پرہیزگاری کا مرکز

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دل پرہیزگاری کا مرکز ہے اور جب دل میں تقویٰ و پرہیزگاری جم جائے گی تو اس کا اثر دیگر اعضا میں خود ہی ظاہر ہو جائے گا۔ حضرت نعمان بن بشیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے اور ان کے درمیان کچھ شے والی چیزیں ہیں جنہیں

1..... احیاء علوم الدین، کتاب اسرار الحج، الباب الثالث فی الآداب الدقیقة والاعمال الباطنة، ۱/۳۵۳.

2..... روح البیان، الحج، تحت الآية: ۳۲، ۶/۳۲.

بہت سے لوگ نہیں جانتے تو جو شبہات سے بچے گا وہ اپنا دین اور اپنی آبرو بچالے گا اور جو شبہات میں پڑے گا وہ حرام میں مبتلا ہو جائے گا، جیسے جو چرواہا شاہی چراگاہ کے آس پاس چرائے تو قریب ہے کہ اس چراگاہ میں جانور چر لیں۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی چراگاہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ چراگاہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ آگاہ رہو کہ جسم میں ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، جب وہ ٹھیک ہو جائے تو سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے اور جب وہ بگڑ جائے تو پورا جسم بگڑ جاتا ہے، خبردار وہ دل ہے۔^(۱)

امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: دل بادشاہ کی طرح ہے اور اس کا جو لشکر آنکھ سے دکھائی دیتا ہے وہ ہاتھ، پاؤں، آنکھ، زبان اور باقی تمام ظاہری و باطنی اعضاء ہیں، یہ تمام دل کے خادم اور اس کے قابو میں ہیں، وہی ان سب میں تصرف کرتا ہے اور انہیں ادھر ادھر پھیرتا ہے، وہ تمام اس کی اطاعت پر مجبور ہیں اور نہ اس سے اختلاف کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ اس سے سرکشی اختیار کر سکتے ہیں، جب وہ آنکھ کو کھلنے کا حکم دیتا ہے تو وہ کھل جاتی ہے، جب وہ پاؤں کو حرکت کرنے کا حکم دیتا ہے تو وہ حرکت کرتا ہے اور جب وہ زبان کو بولنے کا حکم دیتا ہے تو وہ بولتی ہے اور اسی طرح دیگر اعضاء کا معاملہ ہے۔^(۲)

لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے دل کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دے کیونکہ اس کی اصلاح کے بغیر دیگر اعضاء کی اصلاح مشکل ترین ہے۔

لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَيِّئٍ ثُمَّ مَجِيئًا إِلَىٰ الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ۚ

ترجمہ کنز الایمان: تمہارے لیے چوپایوں میں فائدے ہیں ایک مقرر میعاد تک پھر ان کا پہنچنا ہے اس آزاد گھر تک۔

ترجمہ کنز العرفان: تمہارے لیے ان جانوروں میں ایک مقرر مدت تک بہت سے فائدے ہیں پھر ان کے ذبح کرنے کی جگہ آزاد گھر کے پاس ہے۔

①.....بخاری، کتاب الایمان، باب فضل من استبرأ لدينه، ۳۳/۱، الحدیث: ۵۲۔

②.....احیاء علوم الدین، کتاب شرح عجائب القلب، بیان جنود القلب، ۶/۳۔

﴿لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ﴾: تمہارے لیے ان جانوروں میں بہت سے فائدے ہیں۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ تمہارے لئے ان جانوروں میں ان کے ذبح کے وقت تک بہت سے فائدے ہیں جیسے ضرورت کے وقت ان پر سوار ہو سکتے ہو اور حاجت کے وقت ان کا دودھ پی سکتے ہو، پھر انہیں حرم شریف تک پہنچانا ہے جہاں وہ ذبح کئے جائیں گے۔^(۱)

خیال رہے کہ یہاں ہدی یعنی اس جانور کا ذکر ہے جو صرف حرم شریف میں ہی ذبح ہو سکتا ہے جبکہ وہ قربانی جو مالداروں پر عید الاضحیٰ کے موقع پر واجب ہوتی ہے وہ ہر جگہ کی جائے گی۔

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنَسَكًا لِّذِكْرِ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّنْ بَيْهَاتِهِ
الْأَنْعَامِ ۖ فَالهِكْمُ لِلَّهِ ۖ وَاحِدٌ فَالَّذِينَ اسْلَبُوا ۖ وَبَشِيرِ السُّخْرِيَيْنِ ۖ
الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ
وَالْبُقِيَّةِ الصَّلَاةِ ۖ وَمِمَّا رَزَقَهُمْ يَفْقُونَ ۖ

ترجمہ کنز الایمان: اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی کہ اللہ کا نام لیں اس کے دیئے ہوئے بے زبان چوپایوں پر تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو اور اے محبوب خوشی سنا دو ان تو واضح والوں کو۔ کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور جو افتاد پرے اس کے سہنے والے اور نماز برپا رکھنے والے اور ہمارے دیئے سے خرچ کرتے ہیں۔

ترجمہ کنز العرفان: اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا تو تمہارا معبود ایک معبود ہے تو اسی کے حضور گردن رکھو اور عاجزی کرنے والوں کیلئے خوشخبری سنا دو۔ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور انہیں جو مصیبت

①.....مدارک، الحج، تحت الآية: ۳۳، ص ۷۳۹.

پہنچے اس پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم رکھنے والے ہیں اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے خرچ کرتے ہیں۔

﴿وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا﴾ اور ہر امت کے لیے ہم نے ایک قربانی مقرر فرمائی۔ یعنی گزشتہ ایماندار اُمتوں میں سے ہر امت کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں، تو اے لوگو! تمہارا معبود ایک معبود ہے اس لئے ذبح کے وقت صرف اسی کا نام لو اور اسی کے حضور گردن جھکاؤ اور اخلاص کے ساتھ اس کی اطاعت کرو اور اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ عاجزی کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیں۔^(۱)

جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا شرط ہے

اس آیت میں اس بات پر دلیل ہے کہ جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا شرط ہے اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک امت کے لئے مقرر فرما دیا تھا کہ وہ اس کے لئے تقرب کے طور پر قربانی کریں اور تمام قربانیوں پر صرف اسی کا نام لیا جائے۔^(۲)

﴿الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ﴾ وہ لوگ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں۔ یعنی عاجزی کرنے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے تو اس کی ہیبت و جلال سے ان کے دل ڈرنے لگتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف ان کے اعضاء سے ظاہر ہونے لگتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں جو مصیبت و مشقت پہنچے اس پر صبر کرتے ہیں اور نماز کو اس کے اوقات میں قائم رکھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے رزق میں سے صدقہ و خیرات کرتے ہیں۔^(۳)

وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ ۗ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافٍ ۗ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطِيعُوا الْقَانِعَ وَالْمَعْتَرَّ ۗ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿۳۶﴾

①.....خازن، الحج، تحت الآية: ۳۴، ۳/۹، مدارك، الحج، تحت الآية: ۳۴، ص ۷۳۹، ملقطاً.

②.....مدارك، الحج، تحت الآية: ۳۴، ص ۷۳۹.

③.....مدارك، الحج، تحت الآية: ۳۵، ص ۷۴۰، تفسير كبير، الحج، تحت الآية: ۳۵، ۸/۲۲۵، ملقطاً.

ترجیہ کنزالایمان: اور قربانی کے ذیل دار جانور اونٹ اور گائے ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں سے کیے تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو ایک پاؤں بندھے تین پاؤں سے کھڑے پھر جب ان کی کروٹیں گر جائیں تو ان میں سے خود کھاؤ اور صبر سے بیٹھنے والے اور بھیک مانگنے والے کو کھلاؤ ہم نے یونہی ان کو تمہارے بس میں دے دیا کہ تم احسان مانو۔

ترجیہ کنزالعرفان: اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے تو ان پر اللہ کا نام لو اس حال میں کہ ان کا ایک پاؤں بندھا ہوا ہو (اور) تین پاؤں پر کھڑے ہوں پھر جب ان کے پہلو گر جائیں تو ان (کے گوشت) سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ اسی طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔

﴿وَالْبَدَنَ﴾ اور قربانی کے بڑی جسامت والے جانور۔ ﴿أَحْنَفَ﴾ کے نزدیک بد نہ کا اطلاق اونٹ اور گائے دونوں پر ہوتا ہے جبکہ امام شافعی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے نزدیک بد نہ کا اطلاق صرف اونٹ پر ہوتا ہے۔^(۱)

﴿جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِّنْ شَعَائِرِ اللَّهِ﴾: ان جانوروں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی نشانیوں میں سے بنایا۔ ﴿لِعَنِی اللّٰهُ تَعَالٰی﴾ نے قربانی کے بڑی جسامت والے جانوروں کو مسلمانوں کے لئے اپنے دین کی نشانیوں میں سے بنایا ہے۔^(۲) آیت کے اس حصے سے معلوم ہوا کہ جس جانور کو عظمت والے مقام سے نسبت ہو جائے، وہ شعائر اللہ بن جاتا ہے۔

﴿لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ﴾: تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ ﴿لِعَنِی قُرْبَانِی﴾ کے ان بڑی جسامت والے جانوروں میں تمہارے لیے بھلائی ہے کہ تمہیں ان سے دنیا میں کثیر نفع اور آخرت میں اجر و ثواب ملے گا۔^(۳)

قربانی کا دنیوی اور اخروی فائدہ

قربانی کا دنیوی فائدہ تو وہ ہے جو اوپر بیان ہوا کہ ضرورت کے وقت قربانی کے جانور پر سواری کی جاسکتی ہے

۱.....تفسیرات احمدیہ، الحج، تحت الآية: ۳۶، ص ۵۳۷.

۲.....روح البیان، الحج، تحت الآية: ۳۶، ۳۵/۶.

۳.....روح البیان، الحج، تحت الآية: ۳۶، ۳۵/۶.

اور حاجت کے وقت ان کے دودھ سے نفع اٹھایا جاسکتا ہے اور اخروی فائدہ ثواب ہے۔

آیت ”وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا“ پر عمل سے متعلق بزرگانِ دین کے دو واقعات

یہاں اس آیت مبارکہ پر عمل کے سلسلے میں بزرگانِ دین کے دو واقعات ملاحظہ ہوں

(1)..... حضرت مالک بن انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن مسیب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حج کیا اور ان کے ساتھ حضرت ابنِ حرملة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حج کیا۔ اس موقع پر حضرت سعید رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے مینڈھا خریدا اور اس کی قربانی دی جبکہ حضرت ابنِ حرملة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے چھ دینار میں ایک اونٹ خریدا اور اسے نحر کیا۔ حضرت سعید رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ان سے پوچھا: کیا آپ کو ہمارا طریقہ کافی نہ تھا؟ حضرت ابنِ حرملة رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کہا: میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے ”وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ“ اس لئے میں نے پسند کیا کہ میں اس خیر کو حاصل کروں جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے میری رہنمائی کی ہے۔ حضرت سعید بن مسیب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ان کی اس بات سے بہت خوش ہوئے اور آپ ان کی طرف سے یہ بات بیان کیا کرتے تھے۔⁽¹⁾

(2)..... حضرت سفیان بن عیینہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ حضرت صفوان بن سلیم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے حج کیا، ان کے پاس سات دینار تھے جس سے انہوں نے ایک اونٹ خرید لیا۔ ان سے کہا گیا کہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے پاس صرف سات دینار تھے جن کا آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اونٹ خرید لیا ہے! انہوں نے فرمایا: میں نے اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد سنا ہے جس میں وہ (تم سے) فرماتا ہے ”لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ“ تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے (اور میں نے اس بھلائی کو حاصل کرنے کے لئے ایسا کیا ہے۔)⁽²⁾

لہذا جس مسلمان پر حج کی قربانی لازم ہو یا وہ حج کے موقع پر نقلی قربانی کرنا چاہتا ہو اور اونٹ یا گائے کی قربانی کرنا اس کے لئے ممکن ہو تو وہ اونٹ یا گائے کی قربانی کرے تاکہ اسے یہ فضیلت حاصل ہو۔

﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عَلَيْهِمَا: تُوَانِ عَلَى اللَّهِ كَانَامُ لُو﴾ یہاں اونٹ نحر کرنے کا طریقہ بیان فرمایا گیا کہ جب اونٹ کو نحر کرنے لگو تو ان کا ایک پاؤں باندھ دو اور تین کھڑے رکھو، پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر انہیں نحر کرو اور اس کے بعد جب وہ

1..... تفسیر ابن ابی حاتم، الحج، تحت الآية: ۳۶، ۲۴۹۴/۸.

2..... حلیۃ الاولیاء، ذکر طبقة من تابعی المدینة... الخ، صفوان بن سلیم، ۱۸۷/۳.

زمین پر گر جائیں اور ان کی حرکت ساکن ہو جائے تو اس وقت تمہارے لئے ان کا گوشت کھانا حلال ہے۔^(۱)

اونٹ نحر کرنے سے متعلق دو شرعی مسائل

یہاں آیت کی مناسبت سے اونٹ نحر کرنے سے متعلق دو شرعی مسائل ملاحظہ ہوں،

(۱)..... اونٹ کو نحر کرنا اور گائے بکری وغیرہ کو ذبح کرنا سنت ہے اور اگر اس کا عکس کیا یعنی اونٹ کو ذبح کیا اور گائے وغیرہ

کو نحر کیا تو جانور اس صورت میں بھی حلال ہو جائے گا مگر ایسا کرنا مکروہ ہے کہ سنت کے خلاف ہے۔

(۲)..... عوام میں یہ مشہور ہے کہ اونٹ کو تین جگہ (سے) ذبح کیا جاتا ہے، (یہ) غلط ہے اور یوں کرنا مکروہ ہے کہ بلا فائدہ

ایذا دینا ہے۔^(۲)

جانور ذبح کرنے سے متعلق شرعی مسائل کی تفصیل جاننے کے لئے بہار شریعت، جلد 3 حصہ 15 سے ”ذبح

کا بیان“ مطالعہ فرمائیں۔

﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِبُوا الْقَائِمَ وَالْمُعْتَرَّ﴾: تو ان میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک مانگنے والے کو

کھلاؤ۔ ﴿اس آیت میں قربانی کے گوشت سے متعلق فرمایا گیا کہ اس میں سے خود کھاؤ اور قناعت کرنے والے اور بھیک

مانگنے والے کو بھی کھلاؤ۔ قناعت کرنے والے سے وہ شخص مراد ہے جو کسی سے سوال نہ کرتا ہو اور بن مانگے اسے جو مل

جائے اس پر اور اپنے پاس موجود مال پر راضی ہو۔

﴿كَذَلِكَ سَخَّرْنَا لَكُمْ﴾: اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دے دیا۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ ہم نے ان

جانوروں کو انتہائی طاقتور ہونے کے باوجود ذبح کرنے اور سواری کرنے کے لئے تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ تم اپنے

اوپر اللہ تعالیٰ کے اس انعام کا شکر ادا کرو۔^(۳)

لَنْ يَبَالَ اللَّهُ لِحُومِهَا وَلَا دِمَائِهَا وَلَكِنْ يَبَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ ط

①..... مدارك، الحج، تحت الآية: ۳۶، ص ۷۴۰، روح البيان، الحج، تحت الآية: ۳۶، ۳۵/۶، ملقطاً.

②..... بہار شریعت، حصہ پانزدہم، ذبح کا بیان، ۳۱۲/۳۔

③..... جلالین، الحج، تحت الآية: ۳۶، ص ۲۸۲، روح البيان، الحج، تحت الآية: ۳۶، ۳۶/۶، ملقطاً.

كَذٰلِكَ سَخَّرَ هٰلِكُمْ لِتُكْبِرُوْا اللّٰهَ عَلٰى مَا هَدٰكُمْ ط وَبِشِّرِ

الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۳۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کو ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں نہ ان کے خون ہاں تمہاری پرہیزگاری اس تک باریاب ہوتی ہے یونہی ان کو تمہارے بس میں کر دیا کہ تم اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ تم کو ہدایت فرمائی اور اے محبوب خوش خبری سناؤ نیکی والوں کو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے۔ اسی طرح اس نے یہ جانور تمہارے قابو میں دیدیے تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دیدی۔

﴿لَنْ يَّبَالَ اللّٰهُ لِحَوْمِهَا وَلَا دِمَآؤِهَا﴾: اللہ کے ہاں ہرگز نہ ان کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون۔ ﴿شان نزول: دور جاہلیت کے کفار اپنی قربانیوں کے خون سے کعبہ معظمہ کی دیواروں کو آلودہ کرتے تھے اور اسے قرب کا سبب جانتے تھے، جب مسلمانوں نے حج کیا اور یہی کام کرنے کا ارادہ کیا تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہرگز نہ ان کی قربانیوں کے گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ان کے خون، البتہ تمہاری طرف سے پرہیزگاری اس کی بارگاہ تک پہنچتی ہے اور قربانی کرنے والے صرف نیت کے اخلاص اور تقویٰ کی شرائط کی رعایت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں۔ (۱)

اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر نیک عمل مقبول نہیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو نیک عمل اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر کیا جائے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول نہیں۔ نیت و اخلاص کی اہمیت بیان کرتے ہوئے امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں ”اہل دل لوگوں پر ایمانی

①.....مدارك، الحج، تحت الآية: ۲۷، ص ۷۴۰۔

بصیرت اور انوارِ قرآن کی وجہ سے یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ابدی سعادت تک رسائی کے لئے علم اور عبادت ضروری ہے، چنانچہ علم والوں کے علاوہ تمام لوگ ہلاک ہونے والے ہیں اور عمل کرنے والوں کے علاوہ تمام علماء ہلاک ہونے والے ہیں اور مخلص لوگوں کے علاوہ تمام عمل کرنے والے بھی ہلاک ہونے والے ہیں جبکہ مخلص لوگوں کو بھی بڑا خطرہ ہے (کیونکہ انہیں اپنے خاتمے اور اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کا علم نہیں) اور نیت کے بغیر عمل محض مشقت اور اخلاص کے بغیر نیت ریاکاری ہے اور یہ منافقت کے لئے کافی اور گناہ کے برابر ہے جبکہ صداقت کے بغیر اخلاص گرو وغبار کے ذرات ہیں کیونکہ ہر وہ عمل جو اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے ارادے سے کیا جائے اور اس میں نیت خالص نہ ہو تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ

هَبَاءً مَّنْثُورًا (۱)

ترجمہ کنز العرفان: اور انہوں نے جو کوئی عمل کیا ہوگا ہم اس

کی طرف قصد کر کے باریک غبار کے بکھرے ہوئے ذروں

کی طرح (بے وقعت) بنا دیں گے جو روشن دان کی دھوپ میں

نظر آتے ہیں۔

تو جو شخص نیت کی حقیقت سے واقف نہ ہو اس کی نیت کیسے صحیح ہوگی؟ یا جس کی نیت درست ہو وہ اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہوئے بغیر مخلص کیسے ہوگا؟ یا وہ شخص جو صداقت کے مفہوم سے آگاہ ہی نہ رکھتا ہو وہ اپنے نفس سے صداقت کا مطالبہ کیسے کرے گا؟ لہذا جو شخص اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا ارادہ رکھتا ہو اس کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ نیت کا علم حاصل کرے تاکہ اسے نیت کی معرفت حاصل ہو، پھر صداقت اور اخلاص کی حقیقت سے آگاہ ہو کر عمل کے ذریعے نیت کو صحیح کرے کیونکہ بندے کی نجات اور چھٹکارے کا وسیلہ یہی دو باتیں (صداقت اور اخلاص) ہیں۔ (۲)

نیت، اخلاص اور صداقت کے بارے میں تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى

عَلَيْهِ کی تصنیف ”احیاء العلوم“ (۳) کی چوتھی جلد سے ان ابواب کا مطالعہ کریں تاکہ ان کی معرفت حاصل ہو۔

﴿كَذٰلِكَ سَخَّرَ هٰلِكُمْ﴾: اسی طرح ہم نے یہ جانور تمہارے قابو میں دیدیئے۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ اسی طرح ہم نے

①..... فرقان: ۲۳۔

②..... احیاء علوم الدین، کتاب النیة والاخلاص والصدق، ۸۶/۵۔

③..... دعوتِ اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے احیاء العلوم (مترجم) کی جلد 04 اور جلد 05 ہدیہ حاصل کر کے مطالعہ فرمائیں۔

یہ جانور تمہارے قابو میں دیدیئے تاکہ اس سے تمہیں اللہ تعالیٰ کی عظمت معلوم ہو کہ اس نے ان جانوروں کو تمہارے قابو میں دیدیا جنہیں لوگوں کے قابو میں دینے پر اس کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں اور اس بات پر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ان جانوروں کو مسخر کرنے اور ان کے ذریعے تقرب حاصل کرنے کے طریقے کی ہدایت دی اور اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ ان لوگوں کو اعمال مقبول ہونے کی خوشخبری اور جنت کی بشارت دے دیں جو نیک کام کرنے میں مخلص ہیں۔^(۱)

حضرت مالک بن دینار رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اور ایک حاجی

یہاں حج سے متعلق ایک حکایت ملاحظہ ہو، چنانچہ حضرت مالک بن دینار رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: میں مکہ مکرمہ کی طرف نکلا تو راستے میں ایک نوجوان کو دیکھا، جس کا معمول یہ تھا کہ رات کے وقت اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھا کر کہتا: اے وہ ذات! جو نیکیوں سے راضی ہوتی ہے اور بندوں کے گناہ اسے کوئی نقصان نہیں دیتے، مجھے ان اعمال کی توفیق دے جن سے تو راضی ہو جائے اور میرے ان اعمال کو بخش دے جن سے تیرا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ پھر جب لوگوں نے احرام باندھا اور تَلْبِيَةَ پڑھا تو میں نے اس نوجوان سے کہا: تم تلبیہ کیوں نہیں پڑھتے؟ اس نے عرض کی: یا شیخ! پچھلے گناہوں اور لکھ دیئے گئے جرموں کے مقابلے میں تلبیہ کافی نہیں، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ میں لبیک کہوں اور مجھ سے یہ کہہ دیا جائے کہ تیری حاضری قبول نہیں، تیرے لئے کوئی سعادت نہیں، میں نہ تیرا کلام سنوں گا اور نہ تیری طرف نظر رحمت فرماؤں گا۔ پھر وہ نوجوان چلا گیا اور اس کے بعد میں نے اسے منیٰ میں ہی دیکھا اور اس وقت وہ کہہ رہا تھا: اے اللہ! عَزَّ وَجَلَّ، مجھے بخش دے، بے شک لوگوں نے قربانیاں کر لیں اور تیری بارگاہ میں نذرانہ پیش کر دیا اور میرے پاس میری جان کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں جسے میں تیری بارگاہ میں نذر کروں تو تو میری طرف سے میری جان قبول فرمائے۔ پھر اس نوجوان نے ایک چیخ ماری اور اس کی روح قَفْسِ عَنُصْرِي سے پرواز کر گئی۔^(۲)

إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ ۝۳۸

۱..... روح البیان، الحج، تحت الآية: ۳۷، ۳۶/۶.

۲..... روح البیان، الحج، تحت الآية: ۳۷، ۳۶/۶-۳۷.

ترجمہ کنزالایمان: بیشک اللہ بلائیں ٹالتا ہے مسلمانوں کی بیشک اللہ دوست نہیں رکھتا ہر بڑے دعا باز ناشکرے کو۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے۔ بیشک اللہ ہر بڑے بددیانت، ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔

﴿إِنَّ اللَّهَ يُدْفِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا﴾: بیشک اللہ مسلمانوں سے بلائیں دور کرتا ہے۔ ﴿مشرکوں نے حدیثیہ کے سال سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور ان کے صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کو حج کرنے سے روک دیا تھا اور جو صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مکہ مکرمہ میں موجود تھے انہیں وہ طرح طرح کی اذیتیں اور تکلیفیں دیا کرتے تھے، چنانچہ حج کے لوازمات اور مناسک بیان فرمانے کے بعد ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ بشارت دی کہ بیشک اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر آنے والی بلائیں ان سے دور کر دے گا اور مشرکوں کے خلاف ان کی مدد فرمائے گا۔^(۱)

عزت و نصرت بالآخر مسلمانوں کے لئے ہے

علامہ احمد صاوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ اس آیت کے نزول کا سبب اگرچہ خاص ہے لیکن اعتبار الفاظ کے عموم کا ہے، اس لئے مسلمان اگرچہ بلاؤں اور مصیبتوں وغیرہ سے آزمائے جائیں بالآخر عزت، نصرت اور بڑی کامیابی مسلمانوں کے لئے ہے اور یہ مصیبتیں ان کے گناہوں کا کفارہ اور درجات کی بلندی کا ذریعہ ہیں۔^(۲) خیال رہے کہ نیک اعمال کی برکت سے یا محبوب بندوں کے طفیل اور بارہا محض اپنے کرم سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مسلمانوں سے بلائیں ٹالتا ہے اور آخرت میں بھی ٹالے گا، جیسا کہ قرآنی آیات اور صحیح احادیث سے ثابت ہے۔

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ﴾: بیشک اللہ ہر بڑے بددیانت، ناشکرے کو پسند نہیں فرماتا۔ ﴿یعنی اللہ تعالیٰ ان کفار کو پسند نہیں فرماتا جو اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ کفر کر کے ان کی خیانت اور خدا کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ انہیں اس عمل پر سزا دے گا۔^(۳)

①..... البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ۳۸، ۶/۶، ۳۴۶.

②..... صاوی، الحج، تحت الآية: ۳۸، ۴/۴، ۱۳۴۰-۱۳۴۱.

③..... جلالین، الحج، تحت الآية: ۳۸، ص ۲۸۲، خازن، الحج، تحت الآية: ۳۸، ۳/۳، ۳۱۰، ملقطاً.

اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقْتَلُونَ بِاَنَّهُمْ ظَلَمُوا ۗ وَاِنَّ اِلَهَآءَ عِندِ رَبِّكَ لَخَدِيْرٌ ۙ (۳۹)

ترجمہ کنزالایمان: پروانگی عطا ہوئی انہیں جن سے کافر لڑتے ہیں اس بنا پر کہ ان پر ظلم ہوا اور بیشک اللہ اُن کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: جن سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں اجازت دیدی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بیشک اللہ ان کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔

﴿اُذِنَ﴾ اجازت دیدی گئی ہے۔ ﴿شان نزول﴾ کفار مکہ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کو ہاتھ اور زبان سے شدید ایذائیں دیتے اور تکلیفیں پہنچاتے رہتے تھے اور صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے پاس اس حال میں پہنچتے تھے کہ کسی کا سر پھٹا ہے، کسی کا ہاتھ ٹوٹا ہے اور کسی کا پاؤں بندھا ہوا ہے۔ روزانہ اس قسم کی شکایتیں بارگاہ اقدس میں پہنچتی تھیں اور صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے دربار میں کفار کے ظلم و ستم کی فریادیں کیا کرتے اور آپ یہ فرما دیا کرتے کہ ”صبر کرو، مجھے ابھی جہاد کا حکم نہیں دیا گیا ہے۔ جب حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی، تب یہ آیت نازل ہوئی اور یہ وہ پہلی آیت ہے جس میں کفار کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ مشرکین کی طرف سے جن مسلمانوں سے لڑائی کی جاتی ہے انہیں مشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کی اجازت دیدی گئی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ ان مسلمانوں کی مدد کرنے پر ضرور قادر ہے۔^(۱)

الَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّا اَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللهُ ط
وَلَوْلَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَهَلَّامَتْ صَوَامِعُ وَبِيْعٌ وَصَلَوٰتٌ

①.....روح البیان، الحج، تحت الآية: ۳۹، ۶/۳۸.

وَمَسْجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا ۖ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَبْتَغِي اللَّهَ
 إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿۴۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: وہ جو اپنے گھروں سے ناحق نکالے گئے صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور اللہ اگر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور ڈھادی جاتیں خانقاہیں اور گرجا اور کلیسا اور مسجدیں جن میں اللہ کا بکثرت نام لیا جاتا ہے اور بیشک اللہ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس کے دین کی مدد کرے گا بیشک ضرور اللہ قدرت والا غالب ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا صرف اتنی بات پر کہ انہوں نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو ضرور عبادت گاہوں اور گرجوں اور کلیساؤں اور مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے اور بیشک اللہ اس کی ضرور مدد فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا، بیشک اللہ ضرور قوت والا، غلبے والا ہے۔

﴿الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ﴾: وہ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکال دیا گیا۔ ﴿یعنی ان لوگوں کو جہاد کی اجازت دے دی گئی جنہیں ان کے گھروں سے صرف اتنی بات پر ناحق نکال دیا گیا اور بے وطن کیا گیا کہ انہوں نے کہا ”ہمارا رب صرف اللہ ہے“ حالانکہ یہ کلام حق ہے اور حق پر گھروں سے نکالنا اور بے وطن کرنا قطعاً طور پر ناحق ہے۔^(۱) ﴿وَلَوْلَا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ﴾: اور اگر اللہ آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا۔ ﴿آیت کے اس حصے کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ جہاد کی اجازت دے کر اور حدود قائم فرما کر آدمیوں میں ایک کو دوسرے سے دفع نہ فرماتا تو نتیجہ یہ ہوتا کہ مشرکین غالب آجاتے اور کوئی دین و ملت والا ان کی سرکشی سے نہ بچ پاتا اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں یہودیوں کے کلیساؤں، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کے زمانے میں راہبوں کی

۱..... جلالین، الحج، تحت الآیة: ۴۰، ص ۲۸۳، روح البیان، الحج، تحت الآیة: ۴۰، ۳۹/۶، ملتقطاً.

عبادت گا ہوں، عیسائیوں کے گرجوں اور حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے زمانے میں مسلمانوں کی ان مسجدوں کو گرا دیا جاتا جن میں اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے۔^(۱)

جہاد کی برکت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر گزشتہ زمانہ میں جہاد نہ ہوئے ہوتے تو نہ یہودیوں کے عبادت خانے محفوظ رہتے اور نہ عیسائیوں کے گرجے۔ ہر زمانے میں جہاد کی ایک برکت یہ ہوتی کہ لوگوں کی عبادت گاہیں محفوظ ہو گئیں، لیکن یہاں یہ یاد رہے کہ اب ہمارے زمانے میں گرجوں وغیرہ غیر مسلموں کی عبادت گاہوں کا اس اعتبار سے کوئی احترام نہیں کہ وہ کوئی مقدس جگہیں ہیں، صرف یہ ہے کہ اسلامی ملک میں غیر مسلموں کو اپنی عبادت گاہیں بنانے کی اجازت ہے اور ہم انہیں اس معاملے میں چھیڑیں گے نہیں اور نہ ہی مسلمانوں کو حق ہوگا کہ بلاوجہ دوسروں کے عبادت خانے گرائیں۔ ہمیں ہماری شریعت کا حکم یہ ہے کہ ہم کافروں کو اور ان کے دین کو ان کے حال پر چھوڑ دیں اور اسلام کا پیغام ان کی عبادت گاہیں گرا کر نہیں بلکہ دعوت و تبلیغ کے ذریعے دیں۔

﴿وَلِيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ﴾ اور بیشک اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت فرمائے گا جو اس کے دین کی مدد کرے گا۔^(۲) ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت فرمائے گا، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنا یہ وعدہ پورا فرمایا اور مہاجرین و انصار رَضِيَ اللَّهُ تَعَالٰی عَنْهُمْ کو عرب کے سرکش کافر سرداروں پر غلبہ عطا فرمایا، پھر ایران کے کسریٰ اور روم کے قیصر پر غلبہ عنایت کیا اور ان کی سرزمین اور شہروں کا مسلمانوں کو وارث بنا دیا۔^(۲)

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَآمَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَاللَّهُ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ۝۳

ترجمہ کنزالایمان: وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں قابو دیں تو نماز برپا رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور

①.....مدارک، الحج، تحت الآیة: ۴۰، ص ۷۴۱، حازن، الحج، تحت الآیة: ۴۰، ۳/۳۱۱-۳۱۱، ملتقطاً.

②.....روح البیان، الحج، تحت الآیة: ۴۰، ۴۰/۶.

برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے لئے سب کاموں کا انجام۔

ترجیہ کنز العرفان: وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو نماز قائم رکھیں اور زکوٰۃ دیں اور بھلائی کا حکم کریں اور برائی سے روکیں اور اللہ ہی کے قبضے میں سب کاموں کا انجام ہے۔

﴿الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ﴾: وہ لوگ کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناکام نکالا گیا، اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں ان کی مدد فرمائیں تو ان کی سیرت ایسی پاکیزہ ہوگی کہ وہ میری تعظیم کے لئے نماز قائم رکھیں گے، زکوٰۃ دیں گے، بھلائی کا حکم کریں گے اور برائی سے روکیں گے۔ (1)

امام عبداللہ بن احمد نسفی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”اس آیت میں خبر دی گئی ہے کہ آئندہ مہاجرین کو زمین میں تَصَرُّف عطا فرمانے کے بعد (بھی) ان کی سیرتیں بڑی پاکیزہ رہیں گی اور وہ دین کے کاموں میں اخلاص کے ساتھ مشغول رہیں گے۔ اس میں خلفاء راشدین کے عدل و انصاف اور ان کے تقویٰ و پرہیزگاری کی دلیل ہے جنہیں اللہ تعالیٰ نے اقتدار اور حکومت عطا فرمائی اور عادلانہ سیرت عطا کی۔ (2)

خلفاء راشدین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كِي پاكيزه سيرت كِي جھلك

حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي ظاهري حيات مباركه ميں چار صحابہ كرام، حضرت ابو بكر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت علي المرتضى رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كوتا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي بارگاہ ميں ديگر صحابہ كرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كے مقابلے ميں خاص قرب اور مقام حاصل تھا اور يہ چار صحابہ كرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كے سیرت و عمل اور پاكيزه كردار كے لحاظ سے بقیہ صحابہ كرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كے پر فوقیت ركھتے تھے اور ان كِي عبادت و رياضت، تقویٰ و پرہیزگاری اور عدل و انصاف بے مثل حیثیت ركھتے تھے، پھر جب سيد المرسلين صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كا ظاهري وصال ہوا تو بالترتيب ان چار صحابہ كرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كے مسلمانوں كِي امامت و خلافت

1..... روح البیان، الحج، تحت الآية: ۴۱، ۴۱/۶.

2..... مدارك، الحج، تحت الآية: ۴۱، ص ۷۴۲.

کی ذمہ داری کو سنبھالا، ان کی خلافت کو خلافتِ راشدہ کہا جاتا ہے۔ ان کے دورِ خلافت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو زمین پر غلبہ و اقتدار عطا فرمایا اور مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مدد و نصرت سے روم اور ایران جیسی اپنے وقت کی سپر پاورز کو قدموں تلے روند کر رکھ دیا، عراق اور مصر پر قبضہ کر لیا اور افریقی ممالک میں بھی دینِ اسلام کے جھنڈے گاڑ دیئے۔ اتنا عظیم اقتدار اور اتنی بڑی سلطنت رکھنے کے باوجود ان صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی سیرت پہلے کی طرح پاکیزہ رہی بلکہ اس کی پاکیزگی اور طہارت میں مزید اضافہ ہوتا چلا گیا۔ خلافت ملنے کے بعد بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کے فرائض کو پابندی سے ادا کیا، نماز اور زکوٰۃ کی ادائیگی کے باقاعدہ نظام بنائے، لوگوں کو نیک کام کرنے کا حکم دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو بڑی خوبی سے ادا کیا، الغرض ان کی پاکیزہ سیرت کا حال یہ ہے کہ ان کے تقویٰ و پرہیزگاری، دنیا سے بے رغبتی، اللہ تعالیٰ کے خوف سے گریہ و زاری، عاجزی و انکساری، حلم و بردباری، شفقت و رحم دلی، جرأت و بہادری، امت کی خیر خواہی، غیرتِ ایمانی اور عدل و انصاف کے اتنے واقعات ہیں جنہیں جمع کیا جائے تو ہزاروں صفحات بھر جائیں۔ اللہ تعالیٰ ان عظیم ہستیوں کے صدقے آج کے مسلم حکمرانوں کو بھی عقلِ سلیم عطا فرمائے اور انہیں اسلام کے زریں اصولوں کے مطابق حکومت کا نظام چلانے کی توفیق عطا فرمائے، امین۔

صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی دینِ اسلام پر استقامت

اس آیت میں دی گئی خبر سے معلوم ہوا کہ جب ہجرت کرنے والے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کو زمین میں اقتدار ملے گا تو اس کے بعد بھی وہ اسی دین پر قائم ہوں گے جسے انہوں نے حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر ایمان لاکر اختیار کیا تھا، لہذا قرآن مجید کی اس سچی خبر کے مطابق حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے وصالِ ظاہری کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو اس وقت صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مَعَاذَ اللهِ مُرْتَد نہیں ہوئے تھے بلکہ وہ دینِ اسلام پر ہی مضبوطی سے قائم تھے اور انہوں نے اسلام کے اصول و قوانین پر ہی عمل کیا اور ہر جگہ انہی اصولوں کو نافذ کیا، اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہئے جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی بیعت کر کے مَعَاذَ اللهِ سب صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ مُرْتَد ہو گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقلِ سلیم عطا فرمائے۔

وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٌ وَشُعُوبٌ ۙ
 وَقَوْمٌ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمٌ لُوطٍ ۙ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ ۚ وَكَذَّبَ مُوسَىٰ
 فَأَمَلَيْتُ لِلْكَافِرِينَ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ ۙ

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بیشک ان سے پہلے جھٹلا چکی ہے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود۔ اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم۔ اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب ہوئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو کیسا ہوا میرا عذاب۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں تو بیشک ان سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور ثمود تکذیب کر چکے ہیں۔ اور ابراہیم کی قوم اور لوط کی قوم۔ اور مدین والے اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی پھر انہیں پکڑا تو میرا عذاب کیسا ہوا؟

﴿وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ﴾ اور اگر یہ تمہاری تکذیب کرتے ہیں۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں پچھلی کافر قوموں کا اپنے اپنے رسولوں کے ساتھ طرزِ عمل بیان کر کے حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس دل کو تسلی دی گئی ہے، چنانچہ ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے پیارے حبیب! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اگر یہ کفار آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ تسلی رکھیں اور ان کی طرف سے آنے والی ان پتھوں پر صبر کریں، کفار کا یہ پرانا طریقہ ہے اور پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے ساتھ بھی ان کا یہی دستور رہا ہے، چنانچہ کفار مکہ سے پہلے حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم، حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم یعنی عاد، حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم یعنی ثمود، حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم، حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے لوگ اپنے اپنے انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کر چکے ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو بھی جھٹلایا گیا ہے، تو

میں نے ان کافروں کو ڈھیل دی اور ان کے عذاب میں تاخیر کی اور انہیں مہلت دی، پھر میں نے انہیں پکڑا اور مختلف عذابوں سے ان کے کفر و سرکشی کی سزا دی تو ان پر میرا عذاب کیسا ہولناک اور دردناک ہوا!۔ اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، آپ کی تکذیب کرنے والوں کو چاہیے کہ اپنے انجام کے بارے میں سوچیں اور پچھلوں کے انجام سے عبرت حاصل کریں، اگر یہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے تو ان کا انجام بھی بہت خوفناک ہوگا۔^(۱)

﴿وَكُذِّبَ مُوسَى﴾ اور موسیٰ کی تکذیب کی گئی۔ ﴿یہاں حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کے بارے میں یہ نہیں فرمایا گیا کہ آپ کی قوم نے آپ کی تکذیب کی، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی قوم بنی اسرائیل نے آپ کی تکذیب نہ کی تھی بلکہ فرعون کی قوم قبطیوں نے حضرت موسیٰ عَلَیْہِ السَّلَام کی تکذیب کی تھی۔^(۲)

فَكَآئِن مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا
وَبَدْرٌ مُّعْطَلَةٌ وَقَصْرٌ مَّشِيدٌ ﴿۲۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور کتنی ہی بستیاں ہم نے کھپا دیں کہ وہ ستم گارتھیں تو اب وہ اپنی چھتوں پر ڈھٹی پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے اور کتنے محل گچ کئے ہوئے۔

ترجمہ کنز العرفان: اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں تو اب وہ اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہوئے اور کتنے بلند و بالا مضبوط محل (ہم نے برباد کر دیئے)۔

﴿فَكَآئِن مِّنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا﴾ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ اور کتنی ہی بستیوں کو ہم نے برباد کر دیا اور ان میں رہنے والے لوگوں کو ہلاک کر دیا کیونکہ ان بستیوں میں رہنے والے کافر تھے، تو اب وہ بستیاں اپنی چھتوں کے بل پر گری پڑی ہیں اور کتنے کنویں بیکار پڑے ہیں کہ ان سے کوئی پانی بھرنے والا نہیں اور کتنے بلند و بالا محل

①.....مدارك، الحجج، تحت الآية: ۴۲-۴۴، ص ۷۴۲، روح البیان، الحجج، تحت الآية: ۴۲-۴۴، ۴۲/۶، ملنقطاً.

②.....مدارك، الحجج، تحت الآية: ۴۴، ص ۷۴۲.

خالی اور ویران پڑے ہیں کیونکہ ان میں رہنے والے مر چکے ہیں۔^(۱)

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ
يَسْمَعُونَ بِهَا فَإِنَّهَا لَا تَعْيَىٰ إِلَّا بَصَارُ الَّذِينَ تَعَى الْقُلُوبُ الَّتِي
فِي الصُّدُورِ ۝۳۶

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے سمجھیں یا کان ہوں جن سے سُنیں تو یہ کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے کہ ان کے دل ہوں جن سے یہ سمجھیں یا کان ہوں جن سے سُنیں پس بیشک آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں۔

﴿أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ﴾: تو کیا یہ لوگ زمین میں نہ چلے۔ ﴿اس آیت میں کفار مکہ کو زمین میں سفر کرنے پر ابھارا گیا تاکہ وہ کفر کی وجہ سے ہلاک ہونے والوں کے مقامات دیکھیں اور ان کے آثار کا مشاہدہ کر کے عبرت حاصل کریں، چنانچہ فرمایا گیا کہ کیا کفار مکہ نے زمین میں سفر نہیں کیا تاکہ وہ سابقہ قوموں کے حالات کا مشاہدہ کریں اور ان کے پاس ایسے دل ہوں جن سے یہ سمجھ سکیں کہ انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو جھٹلانے کی وجہ سے ان قوموں کا کیا انجام ہوا اور اس سے عبرت حاصل کریں یا ان کے پاس ایسے کان ہوں جن سے پچھلی امتوں کے حالات، ان کا ہلاک ہونا اور ان کی بستیوں کی ویرانی کے بارے میں سُنیں تاکہ اس سے عبرت حاصل ہو۔ پس بیشک کفار کی ظاہری حس باطل نہیں ہوئی اور وہ ان آنکھوں سے دیکھنے کی چیزیں دیکھتے ہیں بلکہ وہ ان دلوں کے اندھے ہیں جو سینوں میں ہیں اور دلوں ہی کا اندھا ہونا غضب ہے اور اسی وجہ سے آدمی دین کی راہ پانے سے محروم رہتا ہے۔^(۲)

①.....مدارك، الحج، تحت الآية: ۴۵، ص ۷۴۲، جلالین، الحج، تحت الآية: ۴۵، ص ۲۸۳، ملتقطاً.

②.....مدارك، الحج، تحت الآية: ۴۶، ص ۷۴۲-۷۴۳، حازن، الحج، تحت الآية: ۴۶، ص ۳۱۱/۳-۳۱۲، تفسیر کبیر، الحج، تحت الآية: ۴۶، ص ۲۳۳/۸-۲۳۴، متقطاً.

عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند دو چیزیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان مقامات کو دیکھنا جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا ہے اور ان قوموں کے بارے میں سننا جن پر اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرمایا ہے، عبرت اور نصیحت حاصل کرنے کے لئے بہت فائدہ مند ہے اور اس دیکھنے اور سننے سے فائدہ اسی صورت میں اٹھایا جاسکتا ہے جب دل سے غور و فکر کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھا اور ان کے بارے میں سنا جائے اور جو شخص عذاب والی جگہوں کا مشاہدہ تو کرے اور عذاب یافتہ قوموں کے بارے میں سنے، پھر ان کے حالات و انجام میں غور و فکر نہ کرے تو وہ عبرت و نصیحت حاصل نہیں کر پاتا، لہذا جب بھی کسی ایسی جگہ سے گزر ہو جہاں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوا تھا یا عذاب میں مبتلا ہونے والی قوم کے واقعات سنیں تو اس وقت دل سے ان پر غور و فکر ضرور کریں تاکہ دل میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف اور ڈر پیدا ہو اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے اور اس کی اطاعت گزاری کرنے میں مدد ملے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرًا لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ
أَوْ أَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ^(۱)
ترجمہ کنزالعرفان: بیشک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو
دل رکھتا ہو یا کان لگائے اور وہ حاضر ہو۔

اور ایک بزرگ دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”نصیحت کے ساتھ اپنے دل کو زندہ رکھو، غور و فکر کے ساتھ دل کو منور کرو، زہد اور دنیا سے بے رغبتی کے ساتھ نفس کو مارو، یقین کے ساتھ اس کو مضبوط کرو، موت کی یاد سے دل کو ذلیل کرو، فنا ہونے کے یقین سے اس کو صبر کرنے والا بناؤ، زمانے کی مصیبتیں دکھا کر اس کو خوفزدہ کرو، دن اور رات کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے سے اس کو بیدار رکھو، گزشتہ لوگوں کے واقعات سے اسے عبرت دلاؤ، پہلے لوگوں کے قصے سنا کر اسے ڈراؤ، ان کے شہروں اور ان کے حالات میں اس کو غور و فکر کرنے کا عادی بناؤ اور دیکھو کہ بدکاروں اور گناہ گاروں کے ساتھ کیسا معاملہ ہوا اور وہ کس طرح الٹ پلٹ کر دیئے گئے۔“^(۲)

دل کے اندھے پن کا نقصان

اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جس کا دل بصیرت کی نظر سے اندھا ہو وہ تمام ظاہری اسباب ہونے کے

۱.....ق: ۳۷.

۲.....ابن کثیر، الحج، تحت الآية: ۴۶، ۲۸۴/۵-۳۸۵.

باوجود دین کا راستہ پانے اور حق و ہدایت کی راہ چلنے سے محروم رہتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اندھا وہ نہیں جو ظاہری آنکھوں سے محروم ہے بلکہ اندھا وہ ہے جو بصیرت سے محروم ہے۔^(۱)

اور حضرت سہل دحمة اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں: جس شخص کا دل بصیرت سے روشن ہو وہ نفسانی خواہشات اور شہوتوں پر غالب رہتا ہے اور جب وہ دل کی بصیرت سے اندھا ہو جائے تو اس پر شہوت غالب آجاتی ہے اور غفلت طاری ہو جاتی ہے، اس وقت اس کا بدن گناہوں میں گم ہو جاتا ہے اور وہ کسی حال میں بھی حق کے سامنے گردن نہیں جھکاتا۔^(۲) اللہ تعالیٰ ہمیں دل کی بصیرت عطا فرمائے اور دل کی بصیرت سے اندھا ہونے سے محفوظ فرمائے، آمین۔

وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا
عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ ﴿۳۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدہ جھوٹا نہ کرے گا اور بیشک تمہارے رب کے یہاں ایک دن ایسا ہے جیسے تم لوگوں کی گنتی میں ہزار برس۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا اور بیشک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے ہزار سال کے برابر ہے۔

﴿وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ﴾ اور یہ تم سے عذاب مانگنے میں جلدی کرتے ہیں۔ یعنی اے حبیب! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، کفار مکہ جیسے نضر بن حارث وغیرہ مذاق اڑانے کے طور پر آپ سے جلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہرگز اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا اور وعدے کے مطابق ضرور عذاب نازل فرمائے گا چنانچہ یہ

①..... نوادر الاصول، الاصل التاسع والثلاثون، ۱/۵۷، الحدیث: ۲۴۰.

②..... روح البیان، الحج، تحت الآية: ۴۶، ۶/۴۵.

وعدہ بدر میں پورا ہوا اور مذاق اڑانے والے کفار ذلت کی موت مارے گئے۔^(۱)

﴿وَإِنَّ يَوْمًا عِنْدَ رَبِّكَ:﴾ بیشک تمہارے رب کے ہاں ایک دن ایسا ہے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ کے ہاں آخرت میں عذاب کا ایک دن ایسا ہے جو تم لوگوں کی گنتی کے ہزار سال کے برابر ہے، تو یہ کفار کیا سمجھ کر جلدی عذاب نازل کرنے کا تقاضا کرتے ہیں۔^(۲)

یاد رہے کہ اس آیت اور سورہ سجدہ کی آیت نمبر 5 میں یہ بیان ہوا کہ قیامت کا دن لوگوں کی گنتی کے ایک ہزار سال کے برابر ہوگا اور سورہ معارج کی آیت نمبر 4 میں یہ بیان ہوا ہے کہ قیامت کے دن کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔ ان میں مطابقت یہ ہے کہ قیامت کے دن کفار کو جن سختیوں اور ہولناکیوں کا سامنا ہوگا ان کی وجہ سے بعض کفار کو وہ دن ایک ہزار سال کے برابر لگے گا اور بعض کفار کو پچاس ہزار سال کے برابر لگے گا۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْنَاهَا بِالنَّصِيرِ ۝۲۸

ترجمہ کنزالایمان: اور کتنی بستیاں کہ ہم نے ان کو ڈھیل دی اس حال پر کہ وہ ستم گارتھیں پھر میں نے انہیں پکڑا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کے ظالم ہونے کے باوجود میں نے انہیں ڈھیل دی پھر میں نے انہیں پکڑ لیا اور میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے۔

﴿وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَيْتُ لَهَا:﴾ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جنہیں میں نے ڈھیل دی۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ کثیر بستیاں ایسی ہیں جن میں رہنے والے لوگوں کو ظالم ہونے کے باوجود میں نے ڈھیل دی اور ان سے عذاب کو مؤخر کیا، پھر میں نے مہلت ختم ہونے کے بعد انہیں پکڑ لیا اور دنیا میں ان پر عذاب نازل کیا، اور آخرت میں سب کو میری ہی طرف پلٹ کر آنا ہے تو میں ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ سلوک کروں گا۔^(۳)

①.....روح البیان، الحجج، تحت الآية: ۴۷، ۶/۴۶.

②.....مدارک، الحجج، تحت الآية: ۴۷، ص ۷۴۳.

③.....روح البیان، الحجج، تحت الآية: ۴۸، ۶/۴۷.

ظلم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ظالم شخص کو ڈھیل دیتا رہتا ہے اور فوری طور پر اس کی گرفت نہیں فرماتا حتیٰ کہ وہ یہ گمان کرنے لگ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی گرفت نہیں فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کی وہاں سے پکڑ فرماتا ہے جہاں سے اسے وہم و گمان تک نہیں ہوتا اور اس وقت اپنے آپ کو ملامت کرنے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں رہتا تو ظالم کی نجات اسی میں ہے کہ وہ اپنے اوپر اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہونے سے پہلے پہلے ظلم سے باز آجائے اور اس کی بارگاہ میں سچی توبہ کر کے جن پر ظلم کیا اور ان کے حقوق کو ضائع کیا ان سے معافی مانگ لے اور ان کے حقوق انہیں ادا کر دے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ﴿۷۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: تم فرمادو کہ اے لوگو! میں تو یہی تمہارے لیے صریح ڈر سنانے والا ہوں۔

ترجمہ کنز العرفان: تم فرمادو! اے لوگو! میں تو صرف تمہارے لیے کھلم کھلا ڈر سنانے والا ہوں۔

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ: تم فرمادو! اے لوگو!﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ اے پیارے حبیب! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کافروں کو اللہ تعالیٰ کی گرفت اور اس کے عذاب سے مسلسل ڈراتے رہیں اور ان کی طرف سے مذاق اڑانے کے طور پر جلدی عذاب نازل کرنے کے مطالبات کی وجہ سے انہیں ڈرانا موقوف نہ فرمائیں اور ان سے فرمادیں کہ مجھے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کا ڈر سنانے کے لئے بھیجا گیا ہے اور تمہارا مذاق اڑانا مجھے اس سے نہیں روک سکتا۔^(۱)

مبلغین کے لئے نصیحت

اس میں ان تمام مسلمانوں کے لئے بھی بڑی نصیحت ہے جو اسلام کے احکامات لوگوں تک پہنچانے کی

1.....تفسیر کبیر، الحج، تحت الآیة: ۴۹، ۲۳/۸، ۲۳/۸.

کوششوں میں مصروف ہیں اور نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے کے اہم ترین فریضے کو انجام دے رہے ہیں، انہیں چاہئے کہ ان کاموں کے دوران دل مضبوط رکھیں اور لوگوں کی طرف سے ہونے والی طعن و تشنیع اور طنز و مذاق کو خاطر میں نہ لائیں اور اس وجہ سے یہ کام چھوڑ نہ دیں بلکہ اپنے پیش نظر صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کو رکھتے ہوئے ان کاموں کو جاری رکھیں، اور ایسے لوگوں کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہدایت کی دعا کرتے رہیں، اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں ہدایت مل جائے گی۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَزْوَاقٌ كَرِيمٌ ﴿۵۰﴾
وَالَّذِينَ سَعَوْا فِي آيَاتِنَا مُعْجِزِينَ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ ﴿۵۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بخشش ہے اور عزت کی روزی۔ اور وہ جو کوشش کرتے ہیں ہماری آیتوں میں ہارجیت کے ارادہ سے وہ جہنمی ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں میں ہارجیت کے ارادے سے کوشش کرتے ہیں وہ جہنمی ہیں۔

﴿فَالَّذِينَ آمَنُوا﴾: تو جو لوگ ایمان لائے۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے ان کے لیے گناہوں سے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے جو کبھی ختم نہ ہوگی اور وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا رد کرنے اور انہیں جھٹلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کبھی ان آیات کو جادو کہتے ہیں، کبھی شعر اور کبھی پچھلوں کے قصے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اسلام کے ساتھ ان کا یہ مکر چل جائے گا، وہ جہنمی ہیں۔^(۱)

اس سے اشارہ معلوم ہوا کہ جو صدی عالم جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کرے اور سند کے طور پر قرآن مجید کی آیات پیش کرے، وہ جہنمی ہے۔ اسی طرح مناظرہ محض اپنی جیت کے لئے کرنا جس میں حق کو ثابت کرنا اور دین کی

۱..... تفسیر کبیر، الحج، تحت الآیة: ۵۰-۵۱، ۲۳۵/۸، مدارک، الحج، تحت الآیة: ۵۰-۵۱، ص ۷۴۳، ملتقطاً۔

خدمت مقصود نہ ہو، کافروں کا کام ہے جبکہ اظہارِ حق کے لئے مناظرہ کرنا انبیاءِ کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی سنت ہے۔

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَسَى الْقَى
الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ^ج فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ
أَيَّتَهُ^ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول یا نبی بھیجے سب پر یہ واقعہ گزرا ہے کہ جب انہوں نے پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو مٹا دیتا ہے اللہ اس شیطان کے ڈالے ہوئے کو پھر اللہ اپنی آیتیں سچی کر دیتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول اور نبی بھیجے (ہر ایک کو کبھی نہ کبھی یہ واقعہ پیش آیا کہ) جب اس نے (اللہ کا کلام) پڑھا تو شیطان نے ان کے پڑھنے میں لوگوں پر کچھ اپنی طرف سے ملا دیا تو اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے پھر اللہ اپنی آیتوں کو پکا کر دیتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔

﴿إِذَا تَسَى﴾: جب اس نے پڑھا۔ ﴿اس آیت کا شانِ نزول یہ ہے کہ جب ”سورہ نجم“ نازل ہوئی تو سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے مسجدِ حرام میں آیتوں کے درمیان وقفہ فرماتے ہوئے بہت آہستہ آہستہ اس کی تلاوت فرمائی تاکہ سننے والے غور بھی کر سکیں اور یاد کرنے والوں کو یاد کرنے میں مدد بھی ملے، جب آپ نے آیت ”وَمِنۡوۃِ النَّبَاتِیۡنَ الْاٰخِرٰی“ پڑھ کر پہلے کی طرح وقفہ فرمایا تو شیطان نے مشرکین کے کان میں اس سے ملا کر دو کلمے ایسے کہہ دیئے جن سے بتوں کی تعریف نکلتی تھی۔ حضرت جبریل امین عَلَیْہِ السَّلَام نے حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی خدمت میں حاضر ہو کر یہ حال عرض کیا تو اس سے حضور پُر نُوْر صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو رنج ہوا، اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لئے یہ آیت نازل فرمائی۔^(۱)

①..... روح البیان، الحجج، تحت الآية: ۵۲، ۶/۹۰۔

لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ
قُلُوبَهُمْ ۗ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ ﴿۵۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے ان کے لیے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بیشک ستم گار دُھر کے جھگڑا لو ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو ان لوگوں کیلئے فتنہ کر دے جن کے دلوں میں بیماری ہے اور جن کے دل سخت ہیں اور بیشک ظالم لوگ دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔

﴿لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً﴾ تاکہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو فتنہ کر دے۔ یعنی شیطان کو لوگوں پر اپنی طرف سے کچھ ملا دینے پر قدرت دینا اس لئے ہے تاکہ اللہ تعالیٰ شیطان کے ڈالے ہوئے کلام کو ان لوگوں کیلئے فتنہ کر دے اور ابتلا و آزمائش بنا دے جن کے دلوں میں شک اور نفاق کی بیماری ہے اور جن کے دل حق قبول کرنے سے سخت ہیں اور یہ مشرکین ہیں اور بیشک مشرکین و منافقین دونوں حق کے معاملے میں دور کے جھگڑے میں پڑے ہوئے ہیں۔^(۱)
چنانچہ جب یہ واقعہ رونما ہوا تو مشرکین و منافقین شبہ میں پڑ گئے مگر مخلص مومنوں کو کوئی تردد نہ ہوا۔

وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ
لَهُ قُلُوبُهُمْ ۗ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۵۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اس لیے کہ جان لیں وہ جن کو علم ملا ہے کہ وہ تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو جھک جائیں اس کے لیے ان کے دل اور بیشک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ چلانے والا ہے۔

①..... روح البیان، الحج، تحت الآية: ۵۳، ۵۰/۶.

ترجمہ کنزالعرفان: اور تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ یہ (قرآن) تمہارے رب کے پاس سے حق ہے تو اس پر ایمان لائیں تو اس کیلئے ان کے دل جھک جائیں اور بیشک اللہ ایمان والوں کو سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔

﴿وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾: اور تاکہ جنہیں علم دیا گیا ہے وہ جان لیں۔ ﴿ارشاد فرمایا: شیطان کو قدرت دینا اس لئے ہے تاکہ جنہیں اللہ تعالیٰ کے دین کا اور اس کی آیات کا علم دیا گیا ہے وہ جان لیں کہ اس قرآن شریف کا تمہارے رب کے پاس سے نازل ہونا حق ہے اور شیطان اس میں کسی طرح کا کوئی تَصَرُّف نہیں کر سکتا، تو وہ اس پر ایمان لانے میں ثابت قدم رہیں اور اس کیلئے ان کے دل جھک جائیں اور بیشک اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو دینی امور میں سیدھی راہ کی طرف ہدایت دینے والا ہے۔^(۱) مراد یہ ہے کہ شیطان کی یہ حرکت مومنوں کے ایمان کی قوت کا ذریعہ بن جاتی ہے کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ شیطان نے پچھلے پیغمبروں کے ساتھ بھی یہی برتاؤ کیا تھا اور رب عَزَّوَجَلَّ نے اس کے داؤ کو بیکار کر دیا تھا۔ یہ حقانیت قرآن کی دلیل ہے۔

وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً

أَوْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ يَوْمٍ عَقِيمٍ ﴿۵۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آجائے اچانک یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس کا پھل ان کے لیے کچھ اچھا نہ ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آجائے یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس میں ان کیلئے کوئی خیر نہ ہو۔

﴿وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ﴾: اور کافر اس سے ہمیشہ شک میں رہیں گے۔ ﴿یعنی کافر قرآن سے یا

①.....روح البیان، الحج، تحت الآية: ۵۴، ۵۰/۶.

دین اسلام کے بارے میں ہمیشہ شک میں رہیں گے یہاں تک کہ ان پر قیامت آجائے یا انہیں موت آجائے کیونکہ موت بھی قیامتِ صغریٰ ہے یا ان پر ایسے دن کا عذاب آئے جس میں ان کیلئے کوئی خیر نہ ہو۔ اس دن سے بدر کا دن مراد ہے جس میں کافروں کے لئے کچھ کشادگی اور راحت نہ تھی اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے قیامت کا دن مراد ہے اور ”السَّاعَةُ“ سے قیامت آنے سے پہلے کی چیزیں مراد ہیں۔^(۱)

آیت ”وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا“ سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے دو مسئلے معلوم ہوئے

- (۱)..... اُزلی کافر کے لئے کوئی دلیل مفید نہیں، وہ ہمیشہ شک میں گرفتار رہے گا۔
- (۲)..... موت کے وقت، یا قیامت میں یا اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھ کر کفار ایمان قبول کر لیتے ہیں مگر وہ ایمان اللہ عَزَّوَجَلَّ کے نزدیک معتبر نہیں۔

الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ ۖ فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ فِي جَنَّاتِ النَّعِيمِ ﴿۵۶﴾ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا
فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ ﴿۵۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہے وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ چین کے باغوں میں ہیں۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتیں جھٹلائیں ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اس دن بادشاہی اللہ ہی کے لئے ہے۔ وہ ان میں فیصلہ کر دے گا تو ایمان والے اور اچھے کام کرنے والے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے۔ اور جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔

۱..... مدارك، الحجج، تحت الآية: ۵۵، ص ۷۴۵.

﴿الْمَلِكُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ﴾: اس دن بادشاہی اللہ ہی کیلئے ہے۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کے دن بادشاہی اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے جس کا اصلاً کوئی شریک نہیں اور وہ بادشاہی اس طرح ہے کہ اس دن کوئی شخص سلطنت کا دعویٰ بھی نہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی بادشاہ کا قانون نہ ہوگا ورنہ حقیقی بادشاہت تو آج بھی اس کی ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس دن مسلمانوں اور کافروں کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ایمان لانے والے اور اچھے کام کرنے والے مسلمان اللہ تعالیٰ کے فضل سے نعمتوں کے باغات میں ہوں گے اور جنہوں نے کفر کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلایا ان کے لیے ان کے کفر کی وجہ سے رسوا کر دینے والا عذاب ہے۔^(۱)

وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ قُتِلُوا أَوْ مَاتُوا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ
رِزْقًا حَسَنًا وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ﴿۵۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر مارے گئے یا مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بیشک اللہ کی روزی سب سے بہتر ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے پھر قتل کر دیئے گئے یا خود مر گئے تو اللہ ضرور انہیں اچھی روزی دے گا اور بیشک اللہ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ هَاجَرُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ﴾: اور وہ جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے۔ ﴿شان نزول﴾: بعض صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نے نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے عرض کی: یا رسول الله! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ہمارے جو اصحاب شہید ہو گئے ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے بڑے درجے ہیں اور ہم جہادوں میں حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ رہیں گے، لیکن اگر ہم آپ کے ساتھ رہیں اور ہمیں شہادت کے بغیر موت آئی تو آخرت میں ہمارے لئے کیا ہے؟ اس پر یہ آیت اور اس کے بعد والی آیت نازل ہوئی اور اس آیت

①..... روح البیان، الحج، تحت الآية: ۵۶-۵۷، ۵۱/۶، جلالین، الحج، تحت الآية: ۵۶-۵۷، ص ۲۸۴، ملقطاً.

میں فرمایا گیا کہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنے گھر بار چھوڑے اور اس کی رضا کے لئے عزیز و اقارب کو چھوڑ کر وطن سے نکلے اور مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی، پھر جنگ میں یا تو شہید کر دیئے گئے یا انہیں طبعی طور پر موت آگئی تو اللہ تعالیٰ ضرور انہیں جنت کی اچھی روزی دے گا جو کبھی ختم نہ ہوگی اور بیشک اللہ تعالیٰ سب سے اچھا رزق دینے والا ہے کیونکہ وہ بے حساب رزق دیتا ہے اور جو رزق وہ دیتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قادر نہیں۔^(۱)

لِيَدْخُلَهُمْ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ وَإِنَّ اللَّهَ لَعَلِيمٌ حَلِيمٌ ۝۵۹

ترجمہ کنزالایمان: ضرور انہیں ایسی جگہ لے جائے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بیشک اللہ علم اور حلم والا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے اور بیشک اللہ علم والا، حلم والا ہے۔

﴿لِيَدْخُلَهُمْ مَدْخَلًا يَرْضَوْنَهُ﴾: وہ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے۔ ﴿اس سے پہلی آیت میں جن ہستیوں کے لئے جنت کی روزی کا بیان ہوا یہاں ان کی رہائش کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ضرور انہیں ایسی جگہ داخل فرمائے گا جسے وہ پسند کریں گے، وہاں ان کی ہر مراد پوری ہوگی اور انہیں کوئی ناگوار بات پیش نہ آئے گی اور بیشک اللہ تعالیٰ ہر ایک کے احوال کو جاننے والا اور قدرت کے باوجود دشمنوں کو جلد سزا نہ دے کر حلم فرمانے والا ہے۔^(۲)

راہِ خدا میں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت مرنے والے سے افضل ہے

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے کی نیت سے مجاہدین کے ساتھ نکلے، پھر اسے طبعی طور پر موت آجائے تو اسے اور شہید دونوں کو جنت میں اچھا رزق دیا جائے گا، البتہ یہاں یہ بات یاد رہے کہ شہید کا مرتبہ طبعی موت مرنے والے سے بڑا ہے۔ چنانچہ علامہ ابو حیان محمد بن یوسف اندلسی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں:

①.....مدارك، الحج، تحت الآية: ۵۸، ص ۷۴۵، حازن، الحج، تحت الآية: ۵۸، ۳/۳۱۵، جلالین، الحج، تحت الآية: ۵۸،

ص ۲۸۴، روح البيان، الحج، تحت الآية: ۵۸، ۶/۵۲، ملتقطاً.

②.....حازن، الحج، تحت الآية: ۵۹، ۳/۳۱۵، روح البيان، الحج، تحت الآية: ۵۹، ۶/۵۲، ملتقطاً.

”راہِ خدا میں شہید ہونے والا اور اس راہ میں طبعی موت مرنے والا رزق ملنے کا وعدہ کئے جانے میں برابر ہیں لیکن وعدے میں برابری اس بات پر دلالت نہیں کرتی کہ جو رزق انہیں عطا کیا جائے گا اس کی مقدار بھی برابر ہوگی، دیگر دلائل اور ظاہر شریعت سے یہ ثابت ہے کہ شہید (طبعی موت مرنے والے سے) افضل ہے۔^(۱)

علامہ اسماعیل حقی دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ لکھتے ہیں: اس آیت میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مرنے والے، دونوں کے لئے ایک جیسا وعدہ کیا گیا ہے کیونکہ دونوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے اور دین کی مدد کرنے نکلے ہیں اور بعض مفسرین فرماتے ہیں ”راہِ خدا میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مر جانے والے دونوں حضرات کو اچھی روزی ملے گی لیکن اس آیت سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ راہِ خدا میں شہید ہونے والے اور طبعی موت مرنے والے کا اجر ہر اعتبار سے برابر ہے بلکہ ان دونوں کے حال میں فرق ہونے کی بنا پر انہیں ملنے والی اچھی روزی میں بھی فرق ہوگا کیونکہ راہِ خدا میں شہید ہونے والے کو طبعی موت مرنے والے پر فضیلت حاصل ہے کہ اسے اللہ تعالیٰ کی راہ میں زخم پہنچے اور اس کا خون بہا (جبکہ طبعی موت مرنے والے کو یہ تکلیفیں برداشت نہیں کرنی پڑیں۔) نیز شہید کے طبعی موت مرنے والے سے افضل ہونے پر کثیر دلائل موجود ہیں جن میں سے پانچ درج ذیل ہیں۔

(۱)..... نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں عرض کی گئی: کون سا جہاد (یعنی مجاہد) افضل ہے؟ ارشاد فرمایا: ”جس کا خون بہایا جائے اور اس کا گھوڑا زخمی کر دیا جائے۔“^(۲)

(۲)..... راہِ خدا میں شہید ہونے والا قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہو گی۔^(۳) جبکہ راہِ خدا میں طبعی موت مرنے والے کو یہ فضیلت حاصل نہ ہوگی۔

(۳)..... شہید ہونے والا شہادت کی فضیلت دیکھ لینے کی وجہ سے یہ تمنا کرے گا کہ اسے دنیا میں لوٹا دیا جائے تاکہ اسے دوبارہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کیا جائے۔^(۴) لیکن طبعی موت مرنے والا ایسی تمنا نہ کرے گا۔

(۴)..... راہِ خدا میں شہید ہونے سے (مخصوص گناہوں کے علاوہ) تمام گناہ بخش دیئے جاتے ہیں۔^(۵) اور طبعی موت

①..... البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ۵۸، ۳۵۴/۶، ملخصاً.

②..... ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب القتال في سبيل الله، ۳۵۸/۳، الحديث: ۲۷۹۴.

③..... بخاری، كتاب الجهاد والسير، باب من يجرح في سبيل الله عز وجل، ۲۵۴/۲، الحديث: ۲۸۰۳.

④..... بخاری، كتاب الجهاد والسير، باب الحور العين و صفتهن... الخ، ۲۵۲/۲، الحديث: ۲۷۹۵.

⑤..... ترمذی، كتاب فضائل الجهاد، باب ما جاء في ثواب الشهيد، ۲۴۰/۳، الحديث: ۱۶۴۸.

مرنے والے کے لئے ایسی کوئی فضیلت وارد نہیں ہوئی۔

(5)..... راہِ خدا میں شہید ہونے والے کو غسل نہیں دیا جاتا جبکہ راہِ خدا میں طبعی موت مرنے والے کو غسل دیا جاتا ہے۔ (1)

ذٰلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوِّقَ بِهِ ثُمَّ بُغِيَ عَلَيْهِ لِيُصْرَنَهُ اللَّهُ ط
 اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ ﴿۶۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: بات یہ ہے اور جو بدلہ لے جیسی تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر اس پر زیادتی کی جائے تو بیشک اللہ اس کی مدد فرمائے گا بیشک اللہ معاف کرنے والا بخشنے والا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بات یوں ہی ہے اور جو کسی کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی پھر (بھی) اس پر زیادتی کی جائے تو بیشک اللہ اس کی مدد فرمائے گا، بیشک اللہ معاف کرنے والا، بخشنے والا ہے۔

﴿وَمَنْ عَاقَبَ﴾ اور جو سزا دے۔ اس سے پہلی آیت میں ان لوگوں کا اجر و ثواب بیان کیا گیا جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہو گئے یا انہیں طبعی طور پر موت آگئی اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ جو مسلمانوں پر زیادتی کرے گا اس کے خلاف اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرماتا رہے گا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو مسلمان کسی ظالم کو ویسی ہی سزا دے جیسی اسے تکلیف پہنچائی گئی تھی اور بدلہ لینے میں حد سے نہ بڑھے، پھر بھی اس مسلمان پر زیادتی کی جائے تو بیشک اللہ تعالیٰ ظالم کے خلاف اس کی مدد فرمائے گا، بیشک اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو معاف کرنے والا اور ان کی بخشش فرمانے والا ہے۔ شان نزول: یہ آیت ان مشرکین کے بارے میں نازل ہوئی جو محرم کے مہینے کی آخری تاریخوں میں مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے اور مسلمانوں نے مبارک مہینے کی حرمت کے خیال سے لڑنا نہ چاہا، مگر مشرک نہ مانے اور انہوں نے لڑائی شروع کر دی، مسلمان ان کے مقابلے میں ثابت قدم رہے اور اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے خلاف مسلمانوں کی مدد فرمائی۔ (2)

①..... روح البیان، الحج، تحت الآية: ۵۹، ۵۲/۶-۵۳، ملخصاً.

②..... البحر المحيط، الحج، تحت الآية: ۶۰، ۳۵/۶-۳۵، روح البیان، الحج، تحت الآية: ۶۰، ۵۳/۶، خازن، الحج، تحت الآية: ۶۰، ۲۱۵/۳، ملتقطاً.

ظلم کے مطابق سزا دینا عدل و انصاف اور معاف کر دینا بہتر ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جو شخص جتنا ظلم کرے اسے اتنی ہی سزا دینا عدل و انصاف ہے، لیکن ممکنہ صورت میں بدلہ لینے کی بجائے ظالم کو معاف کر دینا بہتر حال بہتر اور افضل ہے کیونکہ معاف کرنے کا اجر و ثواب بہت زیادہ ہے، چنانچہ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

فَمَنْ اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاَعْتَدُوْا عَلَيْهِ بِمِثْلِ
مَا اَعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْا
اَنَّ اللّٰهَ مَعَ السّٰبِقِيْنَ (۱)

اور ارشاد فرماتا ہے:

وَجَزَاؤُا سِیِّئَةٍ سِیِّئَةٌ مِّثْلُهَا ۗ فَمَنْ عَفَا وَاَصْدَحَ
فَاَجْرُهُ عَلَى اللّٰهِ ۗ اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الظّٰلِمِیْنَ ۝۳۰
وَلَمَنْ اَنْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهٖ فَاُولٰٓئِكَ مَا عَلَیْهِمْ مِّنْ
سَبِیْلِ ۝۳۱ اِنَّمَّا السَّبِیْلُ عَلَى الَّذِیْنَ یُظْلَمُوْنَ
النَّاسِ وَیَبْغُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ ۗ
اُولٰٓئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌ ۝۳۲ وَلَسَنْ صَبِرَ وَغَفَرَ
اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْاُمُوْرِ (۲)

ترجیہ کنز العرفان: تو جو تم پر زیادتی کرے اس پر اتنی ہی زیادتی کرو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔

ترجیہ کنز العرفان: اور برائی کا بدلہ اس کے برابر برائی ہے تو جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ (کے ذمہ کرم) پر ہے، بیشک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ اور بے شک جس نے اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا بدلہ لیا ان کی پکڑ کی کوئی راہ نہیں۔ گرفت صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکشی پھیلاتے ہیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور بیشک جس نے صبر کیا اور معاف کر دیا تو یہ ضرور بہت والے کاموں میں سے ہے۔

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جب لوگ حساب کے لئے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا: جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر

1..... بقرہ: ۱۹۴.

2..... شوری: ۴۰-۴۳.

ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ پوچھا جائے گا کہ وہ کون ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے۔ مُنادی کہے گا: ان کا جو لوگوں (کی خطاؤں) کو معاف کرنے والے ہیں۔ پھر تیسری بار مُنادی اعلان کرے گا: جس کا اجر اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ تو ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے۔^(۱)

بدلہ نہ لینے سے متعلق تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سیرت

سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ لوگوں کی خطاؤں سے درگزر فرماتے اور ان کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کا بدلہ لینے کی بجائے معاف کر دیا کرتے تھے، چنانچہ حضرت ابو عبد اللہ جدلی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اخلاقِ مبارکہ کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا ”حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ طبعی طور پر فحش باتیں کرنے والے نہ تھے اور نہ ہی تکلف کے ساتھ فحش کہنے والے تھے اور آپ بازاروں میں شور کرنے والے بھی نہ تھے۔ آپ برائی کا بدلہ برائی سے نہ دیا کرتے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر فرمایا کرتے تھے۔“^(۲)

حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے کسی معاملے میں اپنی ذات کا کبھی انتقام نہیں لیا خواہ آپ کو کیسی ہی تکلیف دی گئی ہو، ہاں جب اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا تو اللہ تعالیٰ کے لئے (ان کا) انتقام لیا کرتے تھے۔^(۳)

ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ

سَبِيحٌ بَصِيرٌ ۶۱

ترجمہ کنزالایمان: یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ رات کو ڈالتا ہے دن کے حصہ میں اور دن کو لاتا ہے رات کے حصہ میں

①..... معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه: احمد، ۵۴۲/۱، الحدیث: ۱۹۹۸.

②..... ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في خلق النبي صلى الله عليه وسلم، ۴۰۹/۳، الحدیث: ۲۰۲۳.

③..... بخاری، کتاب المحاربين من اهل الكفر والردة، باب كم التعزير والادب، ۳۵۲/۴، الحدیث: ۶۸۵۳.

اور اس لیے کہ اللہ سُنتادیکھتا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: یہ اس لیے ہے اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات کے حصے میں داخل کرتا ہے اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ﴾: یہ اس لیے ہے اللہ رات کو دن کے حصے میں داخل کر دیتا ہے۔ ﴿یعنی مظلوم کی مدد فرمانا اس لئے ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو چاہے اس پر قادر ہے اور اس کی قدرت کی نشانیاں اس سے ظاہر ہیں کہ وہ کبھی دن کو بڑھاتا، رات کو کم کر دیتا ہے اور کبھی رات کو بڑھاتا، دن کو کم کر دیتا ہے، اس کے سوا کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا تو جو ایسا قدرت والا ہے وہ جس کی چاہے مدد فرمائے اور جسے چاہے غالب کرے۔ نیز مظلوم کی مدد فرمانا اس لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کی باتیں سننے والا اور سب کے اعمال دیکھنے والا ہے، اس سے نہ کسی کی کوئی بات پوشیدہ ہے اور نہ کسی کا کوئی عمل چھپا ہوا ہے۔ (1)

کافروں کے غلبے سے دل تنگ نہیں ہونا چاہئے

اس آیت میں اشارہ فرمایا گیا کہ جیسے کبھی دن بڑے کبھی راتیں ایسے ہی کبھی کفار کا غلبہ ہوتا ہے اور کبھی مومنوں کا تسلط۔ لہذا کافروں کا غلبہ دیکھ کر مسلمانوں کو دل تنگ نہیں ہونا چاہیے بلکہ اپنے اقوال، اعمال اور افعال کی اصلاح کرنے میں مشغول ہونا چاہئے تاکہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے صدقے مسلمانوں کو کفار پر غلبہ اور فتح و نصرت عطا فرمائے۔

**ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّ مَا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ هُوَ الْبَاطِلُ
وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴿۲۲﴾**

ترجمہ کنزالایمان: یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جسے پوجتے ہیں وہی باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ ہی بلند و بڑا ہے۔

1..... مدارك، الحج، تحت الآية: ۲۱، ص ۷۴۶، طبری، الحج، تحت الآية: ۲۱، ۱۸۳/۹، ملنقطاً.

ترجہ کنز العرفان: یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے اور اس کے سوا جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہے اور اس لیے کہ اللہ ہی بلندی والا، بڑائی والا ہے۔

﴿ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ﴾: یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے۔ یعنی یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی حق والا ہے تو اس کا دین حق ہے اور اس کی عبادت کرنا بھی حق ہے اور مسلمانوں سے چونکہ اللہ تعالیٰ نے مدد کرنے کا سچا وعدہ فرمایا ہے لہذا یہ اللہ تعالیٰ کی مدد کے مستحق ہیں اور مشرکین جن بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہی باطل ہیں اور وہ عبادت کئے جانے کا کوئی حق نہیں رکھتے اور یہ مدد فرمانا اس لیے بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اپنی قدرت سے ہر چیز پر غالب ہے، اس کی کوئی شبیہ نہیں اور نہ ہی کوئی اس کی مثل ہے اور وہ کافروں کی منسوب کردہ ان تمام باتوں سے پاک ہے جو اس کی شان کے لائق نہیں اور وہی عظمت و جلال اور بڑائی والا ہے۔^(۱)

الْمُرْتَأَنَّ اللَّهُ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَتُصْبِحُ الْأَرْضُ مُخْضَرَّةً ط
 إِنَّ اللَّهَ لَطِيفٌ خَبِيرٌ ج ۶۳ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ط وَإِنَّ اللَّهَ
 لَهُ الْغَنِيُّ الْحَبِيدُ ع ۶۴

ترجہ کنز الایمان: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو صبح کو زمین ہریالی ہوگئی بیشک اللہ پاک خبردار ہے۔ اسی کا مال ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے اور بیشک اللہ ہی بے نیاز سب خوبیوں سراہا ہے۔

ترجہ کنز العرفان: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین سرسبز ہو جاتی ہے بیشک اللہ بڑا مہربان، خبردار ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے اور بیشک اللہ ہی بے نیاز، تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔

①.....تفسیر قرطبی، الحج، تحت الآیة: ۶۲، ۶۱/۶-۶۹، ۷۰، الجزء الثانی عشر.

﴿الْمُتَرِّ:﴾ کیا تو نے نہ دیکھا۔ ﴿اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر دلالت کرنے والی ایک نشانی دن اور رات کو کم زیادہ کرنا ذکر کی گئی اور اب یہاں سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مزید دلائل ذکر کئے جا رہے ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کیا تو نے نہ دیکھا کہ خشک زمین پر جب اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کا پانی نازل فرماتا ہے تو وہ نباتات سے سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے۔ بیشک اللہ تعالیٰ پانی کے ذریعے زمین سے نباتات نکال کر اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے اور بارش میں تاخیر ہونے کی وجہ سے جو کچھ ان کے دلوں میں آتا ہے اس سے خبردار ہے۔^(۱)

﴿لَهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ﴾: جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب کا حقیقی مالک وہی ہے اور اس ملکیت میں اُس کا کوئی شریک نہیں اور بیشک اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز سے بے نیاز اور اپنے افعال و صفات میں تمام تعریفوں کا مستحق ہے۔^(۲)

اَلَمْ تَرَ اَنَّ اللّٰهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْاَرْضِ وَالْفُلْكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ
بِاَمْرِهٖ ۙ وَيُسَبِّحُ السَّمٰوٰتِ اَنْ تَقَعَّ عَلٰى الْاَرْضِ اِلَّا بِاِذْنِهٖ ۗ اِنَّ اللّٰهَ
بِالنَّاسِ لَرَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ ﴿۲۵﴾

ترجمہ کنز الایمان: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے بس میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کہ دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہ رو کے ہوئے ہے آسمان کو کہ زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے بیشک اللہ آدمیوں پر بڑی مہربان اور مہربان ہے۔

ترجمہ کنز العرفان: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے اور وہ آسمان کو رو کے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے مگر اس کے حکم سے۔ بیشک اللہ لوگوں

①.....تفسیر کبیر، الحج، تحت الآیة: ۶۳، ۶/۸، ۲۴، جلالین، الحج، تحت الآیة: ۶۳، ص ۲۸۵، ملتقطاً.

②.....جلالین، الحج، تحت الآیة: ۶۴، ص ۲۸۵، روح البیان، الحج، تحت الآیة: ۶۴، ۶/۶، ۵، ملتقطاً.

پر بڑی مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔

﴿ **الْم تَرَانَّ اللَّهُ سَخَّرَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ** ﴾: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نے تمہارے قابو میں کر دیا جو کچھ زمین میں ہے۔ ﴿ یہاں سے اللہ تعالیٰ اپنے ان احسانات کا ذکر فرما رہا ہے جو اس نے اپنے بندوں پر فرمائے ہیں، چنانچہ آیت کے اس حصے میں ارشاد فرمایا کہ جو کچھ زمین میں ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں کر دیا، جیسے پتھر جیسی سخت ترین، لوہے جیسی انتہائی وزنی اور آگ جیسی انتہائی گرم چیز کو تمہارے اختیار میں دے دیا اور جانوروں کو بھی تمہارے لئے مسخر کر دیا تاکہ تم ان کا گوشت کھا سکو، ان پر سامان وغیرہ لاد سکو، ان پر سواری کر سکو اور ان سے دیگر کام لے سکو۔ (1)

ان سب چیزوں کا عملی مشاہدہ ہم اپنی روزمرہ زندگی میں کرتے رہتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے اونٹ جیسے قوی ہیکل اور گائے جیسے طاقتور جانور کو اس طرح لے کر جا رہے ہوتے ہیں جیسے وہ بچوں کا کوئی کھلونا ہو۔

﴿ **وَالْفَلَكَ تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِ رَبِّهِ** ﴾: اور کشتی کو جو دریا میں اس کے حکم سے چلتی ہے۔ ﴿ آیت کے اس حصے میں دوسرے احسان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ وہ کشتی جو دریا میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے چلتی ہے اسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے قابو میں دے دیا اور تمہاری خاطر کشتی چلانے کے لئے ہوا اور پانی کو مسخر کر دیا۔ (2)

﴿ **وَيُسِطُّ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ** ﴾: اور وہ آسمان کو روکے ہوئے ہے کہ کہیں زمین پر نہ گر پڑے۔ ﴿ یہاں تیسرے احسان کا ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے آسمان کو روکے ہوئے ہے تاکہ وہ زمین پر نہ گر پڑے اور اس نے لوگوں کو جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں وہ ختم نہ ہو جائیں البتہ جب قیامت قائم ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آسمان گر جائے گا۔ آیت کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ لوگوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے کہ اس نے ان کے لئے دین و دنیا کی منفعتوں کے دروازے کھولے اور طرح طرح کے نقصانوں سے انہیں محفوظ کیا۔ (3)

﴿ **وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورًا** ﴿٦٦﴾

1.....تفسیر کبیر، الحج، تحت الآیة: ۶۵، ۲۴۷/۸.

2.....تفسیر کبیر، الحج، تحت الآیة: ۶۵، ۲۴۷/۸.

3.....تفسیر کبیر، الحج، تحت الآیة: ۶۵، ۲۴۸/۸، بیضاوی، الحج، تحت الآیة: ۶۵، ۱۳۹/۴، حازن، الحج، تحت الآیة:

۶۵، ۳۱۶/۳، ملقطاً.

ترجیہ کنزالایمان: اور وہی ہے جس نے تمہیں زندہ کیا پھر تمہیں مارے گا پھر تمہیں جلانے کا بیشک آدمی بڑانا شکر ہے۔

ترجیہ کنزالعرفان: اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی پھر وہ تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا بیشک آدمی بڑانا شکر ہے۔

﴿وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ﴾ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی بخشی۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ تمہارا معبود وہی ہے جس نے تمہاری ماؤں کے رحموں میں بے جان نطفے سے پیدا فرما کر تمہیں زندگی بخشی، پھر تمہاری عمریں پوری ہونے پر وہ تمہیں موت دے گا، پھر قیامت کے دن ثواب اور عذاب کے لئے تمہیں دوبارہ زندہ کرے گا، بیشک آدمی بڑانا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتوں کے باوجود اس کی عبادت سے منہ پھیرتا ہے اور بے جان مخلوق کی پوجا کرتا ہے۔^(۱)

شکر گزار اور ناشکر بندہ

یہاں آیت میں بڑے ناشکرے انسان سے کافر مراد ہے، البتہ عمومی طور پر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو یہ عزت، عظمت اور شان عطا فرمائی ہے کہ پہلے اسے جمادات کے عالم سے نباتات کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے جانداروں کے عالم کی طرف منتقل کیا، پھر اسے بولنے اور کلام کرنے کی صلاحیت سے نوازا اور اسے ظاہری و معنوی نعمتیں عطا کیں اور تمام موجود چیزوں کو اس کا خادم بنایا، اس لئے ہر بندے پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو اس کی پسند اور رضا کے کاموں میں استعمال کر کے اُس کے لطف و کرم اور بے پناہ انعامات کا شکر ادا کرے۔

لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهَا فَلَا يَبْزُكُوكَ فِي الْأُمُورِ وَإِدْعُ
إِلَىٰ رَبِّكَ ۖ إِنَّكَ لَعَلَىٰ هُدًى مُّسْتَقِيمٍ ﴿۲۷﴾

ترجیہ کنزالایمان: ہر امت کے لیے ہم نے عبادت کے قاعدے بنا دیے کہ وہ ان پر چلے تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ

1.....خازن، الحج، تحت الآية: ۶۶، ۳/۲۱۶، مدارك، الحج، تحت الآية: ۶۶، ص ۷۴۷، جلالین، الحج، تحت الآية: ۶۶، ص ۲۸۵، ملقطاً.

میں جھگڑانہ کریں اور اپنے رب کی طرف بلاؤ بیشک تم سیدھی راہ پر ہو۔

ترجہ کنز العرفان: ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی جس پر انہیں عمل کرنا ہے تو ہرگز وہ تم سے اس معاملہ میں جھگڑانہ کریں اور تم اپنے رب کی طرف بلاؤ بیشک تم سیدھی راہ پر ہو۔

﴿لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ﴾ ہر امت کے لیے ہم نے ایک شریعت بنا دی۔ یعنی سابقہ دین و ملت والوں میں سے ہر امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک مخصوص شریعت بنائی تاکہ وہ عبادات اور دیگر معاملات میں اپنے اپنے شرعی قوانین پر عمل کریں، تو اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ کے زمانے میں موجود دیگر ملتوں والے ہرگز آپ سے دین کے معاملے میں یہ گمان کر کے جھگڑانہ کریں کہ ان لوگوں کی بھی شریعت وہی ہے جو ان کے آباؤ اجداد کی تھی، وہ شریعتیں منسوخ ہونے سے پہلے سابقہ لوگوں کی شریعتیں تھیں جبکہ اس امت کی جداگانہ اور مستقل شریعت ہے اور اب قیامت تک ہر ایک کو اسی شریعت پر عمل کرنا ہے۔ اور اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ تمام لوگوں کو اپنے رب عَزَّ وَجَلَّ کی طرف بلائیں اور انہیں اُس پر ایمان لانے، اس کا دین قبول کرنے اور اس کی عبادت میں مشغول ہونے کی دعوت دیں، بیشک آپ سیدھی راہ پر ہیں۔^(۱)

وَإِنْ جَادَلُوكَ فَقُلِ اللهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٦٨﴾ اللهُ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِيمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴿٦٩﴾

ترجہ کنز الایمان: اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے تمہارے کو تک۔ اللہ تم میں فیصلہ کر دے گا قیامت کے دن جس بات میں اختلاف کر رہے ہو۔

ترجہ کنز العرفان: اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو فرما دو کہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو۔ اللہ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔

1..... روح البیان، الحج، تحت الآية: ۶۷، ۵۸/۶.

﴿وَأِنْ جَدَلْتُمْ﴾ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، اگر حق ظاہر ہونے اور حجت لازم ہونے کے بعد بھی وہ آپ سے جھگڑا کریں تو آپ ان سے وعید کے طور پر فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ ان باطل کاموں کو خوب جانتا ہے جو تم کر رہے ہو اور وہ تمہیں یہ کام کرنے کی سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان قیامت کے دن اس بات میں فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو، تو اس وقت تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ حق کیا تھا اور باطل کیا ہے۔^(۱)

ہر باتونی اور جھگڑالو سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے

اس سے معلوم ہوا کہ ہر باتونی اور جھگڑالو سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے اور یہ بات اس واقعے سے مزید مضبوط ہو جاتی ہے کہ جب شیطان نے حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو سجدہ نہ کرنے پر دلائل پیش کئے تو اللہ تعالیٰ نے اس کے دلائل کا جواب نہ دیا بلکہ اس سے فرمایا:

فَاخْرِجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَاجِمٌ ﴿۲﴾
ترجمہ کنز العرفان: تو جنت سے نکل جا کیونکہ تو مردود ہے۔

علامہ ابو عبد اللہ محمد بن احمد قرطبی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں اس آیت میں اللہ عَزَّوَجَلَّ نے اپنے بندوں کو بڑا عمدہ ادب سکھایا ہے کہ جو شخص محض تعصب اور جھگڑا کرنے کے شوق میں تم سے مناظرہ کرنا چاہے تو اسے کوئی جواب نہ دو اور نہ اس کے ساتھ مناظرہ کرو بلکہ اس کی تمام باتوں کے جواب میں صرف وہ بات کہہ دو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو سکھائی ہے۔^(۳)

أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّ ذَلِكَ فِي كِتَابٍ ط

إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴿۷۰﴾

ترجمہ کنز الایمان: کیا تو نے نہ جانا کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بیشک یہ سب ایک کتاب میں

①..... روح البیان، الحج، تحت الآية: ۶۸-۶۹، ۵۸/۶، تفسیر کبیر، الحج، تحت الآية: ۶۸-۶۹، ۲۴۹/۸، ملقطاً.

②..... حجر: ۳۴.

③..... قرطبی، الحج، تحت الآية: ۶۹، ۷۲/۶، الجزء الثاني عشر.

ہے بیشک یہ اللہ پر آسان ہے۔

ترجمہ کنز العرفان: کیا تجھے معلوم نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے بیشک یہ سب ایک کتاب میں ہے بیشک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔

﴿اَلَمْ تَعْلَمْ﴾: کیا تجھے معلوم نہیں۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ اے بندے! کیا تجھے معلوم نہیں کہ آسمانوں اور زمین میں کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے پوشیدہ نہیں، وہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ان چیزوں میں کفار کی باتیں اور ان کے اعمال بھی داخل ہیں، بیشک آسمانوں اور زمین کی ہر چیز ایک کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے اور بیشک ان سب چیزوں کا علم اور تمام موجودات کو لوح محفوظ میں ثبت فرمانا اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے۔^(۱)

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ يَنْزِلْ بِهِ سُلْطَانٌ وَمَا لَيْسَ لَهُمْ بِهِ
عِلْمٌ ۖ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ ﴿۴۱﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کے سوا ایسوں کو پوجتے ہیں جن کی کوئی سند اس نے نہ اتاری اور ایسوں کو جن کا خود انہیں کچھ علم نہیں اور ستم گاروں کا کوئی مددگار نہیں۔

ترجمہ کنز العرفان: اور (مشرک) اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کی کوئی دلیل اللہ نے نہیں اتاری اور جن کا خود انہیں بھی کچھ علم نہیں اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔

﴿وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ﴾: اور اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں۔ ﴿اس آیت میں کفار کی جہالت بیان فرمائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے بتوں کی پوجا کرتے ہیں اور ان کے پاس اپنے اس فعل کی نہ کوئی عقلی دلیل ہے نہ نقلی بلکہ محض جہالت اور نادانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں اور جو کسی طرح بھی پوجے جانے کے

①.....تفسیر کبیر، الحج، تحت الآیة: ۷۰، ۸/۲۵۰، روح البیان، الحج، تحت الآیة: ۷۰، ۵۸/۶، ملتقطاً.

مستحق نہیں اسے پوجتے ہیں، یہ شدید ظلم ہے اور جو شرک کر کے اپنی جان پر ظلم کرتا ہے اس کا کوئی مددگار نہیں جو اسے اللہ تعالیٰ کے اس عذاب سے بچا سکے جس کا یہ شرک کرنے کی وجہ سے مستحق ہوا۔^(۱)

وَإِذَا تَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَالسُّكَّرَ ط
يَكَادُونَ يَسْطُونَ بِالَّذِينَ يَتْلُونَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا ط قُلْ أَفَأَنْبِيئِكُمْ بِشَرِّ
مِّنْ ذَلِكُمْ ط النَّارُ ط وَعَدَهَا اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ط وَبِئْسَ الْبَصِيرُ ع

ترجمہ کنزالایمان: اور جب ان پر ہماری روشن آیتیں پڑھی جائیں تو تم ان کے چہروں پر بگڑنے کے آثار دیکھو گے جنہوں نے کفر کیا قریب ہے کہ لپٹ پڑیں ان کو جو ہماری آیتیں ان پر پڑھتے ہیں تم فرما دو کیا میں تمہیں بتا دوں جو تمہارے اس حال سے بھی بدتر ہے وہ آگ ہے اللہ نے اس کا وعدہ دیا ہے کافروں کو اور کیا ہی بری ملنے کی جگہ۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے تو تم کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثار دیکھو گے۔ قریب ہے کہ انہیں لپٹ جائیں جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں۔ تم فرما دو: کیا میں تمہیں وہ چیز بتا دوں جو تمہیں اس سے زیادہ ناپسند ہے؟ وہ آگ ہے۔ اللہ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے اور وہ کیا ہی بری ملنے کی جگہ ہے۔

﴿وَإِذَا تَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ﴾ اور جب ان پر ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ جہالت کے ساتھ ساتھ کافروں کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے ہماری روشن آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے اور قرآن کریم انہیں سنایا جاتا ہے جس میں احکام کا بیان اور حلال و حرام کی تفصیل ہے تو تمہیں کافروں کے چہروں میں ناپسندیدگی کے آثار واضح طور پر نظر آئیں گے اور غیظ و غضب سے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ جو ان کے سامنے ہماری آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں لپٹ جانے پر تیار ہو جاتے ہیں۔ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ ان کافروں سے فرمادیں: کیا میں

①.....مدارك، الحجج، تحت الآية: ۷۱، ص ۷۴۸، روح البيان، الحجج، تحت الآية: ۷۱، ۵۹/۶، ملقطاً.

تمہیں وہ چیز بتادوں جو تمہیں اُس غیظ اور ناگواری سے بھی زیادہ ناپسند ہے جو قرآن پاک سن کر تم میں پیدا ہوتی ہے؟ وہ جہنم کی آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کافروں سے اس کا وعدہ کیا ہے اور وہ کیا ہی بری پلٹنے کی جگہ ہے۔^(۱)

دل کا آئینہ اور مومن کی علامت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ چہرہ دل کا آئینہ ہے کیونکہ دل کے آثار چہرے پر نمودار ہوتے ہیں۔ نیز یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی حمد اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نعت شریف سن کر چہرے پر خوشی کے آثار نمودار ہونا مومن ہونے کی علامت ہے اور حمد و نعت سن کر منہ بگاڑنا کفار کا طریقہ ہے۔

جنت اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال

یاد رہے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنا افضل ترین نعمت اور اعلیٰ ترین عمل ہے کیونکہ اس کی وجہ سے بندے کو ابدی سعادت حاصل ہوگی اور بندہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی رحمت سے جنت کی عمدہ ترین نعمتوں سے لطف اندوز ہوگا جبکہ توحید و رسالت کا انکار کرنا اور کفر و شرک کا ارتکاب کرنا ایسے بدترین اعمال ہیں کہ ان کی وجہ سے بندہ ہمیشہ کے لئے بد بخت بن جاتا ہے اور اسے جہنم کے انتہائی دردناک عذابات میں مبتلا ہونا پڑے گا، لہذا ہر عقلمند انسان کو چاہئے کہ وہ ان تمام اقوال، افعال اور اعمال سے بچے جو کفر و شرک اور توحید و رسالت کے انکار کی طرف لے جاتے ہیں اور اسے چاہئے کہ توحید و رسالت کا اقرار کرنے والوں کی صحبت اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں سے محبت کرے، اسلام کے دیئے ہوئے احکامات پر عمل کرے اور منع کردہ کاموں سے بچے، نیز گمراہوں اور بد مذہبوں کی صحبت سے دور بھاگے اور انہیں خود سے دور رکھے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے ان سے بغض رکھے۔

يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاستَبِعُوا لَهُ ۖ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۖ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۖ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْبَطُولُ ۝۴۳

1.....تفسیر کبیر، الحج، تحت الآیة: ۷۲، ۸/۲۵۱-۲۵۰، روح البیان، الحج، تحت الآیة: ۷۲، ۶/۵۹-۶۰، ملتقطاً۔

مَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَعَزِيزٌ ۞

ترجمہ کنزالایمان: اے لوگو! ایک کہاوت فرمائی جاتی ہے اسے کان لگا کر سنو وہ جنہیں اللہ کے سوا تم پوجتے ہو ایک مکھی نہ بنا سکیں گے اگرچہ سب اس پر اکٹھے ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑانہ سکیں کتنا کمزور چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا۔ اللہ کی قدر نہ جانی جیسی چاہیے تھی بیشک اللہ قوت والا غالب ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے تو اسے کان لگا کر سنو، بیشک اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ ہرگز ایک مکھی (بھی) پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب اس کیلئے جمع ہو جائیں اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین کر لے جائے تو اس سے چھڑانہ سکیں گے۔ کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جسے چاہا گیا۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے، بیشک اللہ قوت والا، غلبے والا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ﴾: اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے۔ گزشتہ آیات میں بیان کیا گیا کہ بتوں کی عبادت کرنے پر مشرکین کے پاس کوئی عقلی و نقلی دلیل نہیں ہے بلکہ یہ محض جہالت اور بیوقوفی کی وجہ سے ایسا کر رہے ہیں اور اس آیت میں ایک مثال کے ذریعے بتوں کی عبادت کا باطل ہونا بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! ایک مثال بیان کی گئی ہے، تو اسے کان لگا کر سنو اور اس میں خوب غور کرو، وہ مثال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو، ان کے عاجز اور بے قدرت ہونے کا یہ حال ہے کہ وہ ہرگز ایک انتہائی چھوٹی سی چیز مکھی بھی پیدا نہیں کر سکیں گے اگرچہ سب مکھی پیدا کرنے کے لئے جمع ہو جائیں تو عقلمند انسان کو یہ زیبا کب دیتا ہے کہ وہ ایسے عاجز اور بے قدرت کو معبود ٹھہرائے، ایسے کو پوجنا اور معبود قرار دینا کتنی انتہا درجے کی جہالت ہے! اور اگر مکھی ان سے وہ شہد وزعفران وغیرہ چھین کر لے جائے جو مشرکین بتوں کے منہ اور سروں پر ملتے ہیں اور ان پر مکھیاں بیٹھتی ہیں تو وہ بت مکھی سے شہد وزعفران چھڑانہ سکیں گے تو ایسے بے بس کو خدا بنانا اور معبود ٹھہرانا کتنا عجیب اور عقل سے دور ہے۔^(۱)

﴿ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْبَطْلُوبُ﴾: کتنا کمزور ہے چاہنے والا اور وہ جس کو چاہا گیا۔ آیت کے اس حصے میں چاہنے والے

1.....خازن، الحج، تحت الآية: ۷۳، ۳۱۷/۳، جلالین، الحج، تحت الآية: ۷۳، ص ۲۸۶، ملتقطاً.

سے بت پرست اور چاہے ہوئے سے بت مراد ہے، یا چاہئے والے سے مکھی مراد ہے جو بت پرست شہد وزعفران کی طالب ہے اور مطلوب سے بت مراد ہے، اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ طالب سے بت مراد ہے اور مطلوب سے مکھی۔^(۱)

اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی اجازت سے عاجز اور بے بس نہیں

یاد رہے کہ اس آیت کا تعلق اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ سے نہیں ہے، یہ عاجز اور بے بس نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اجازت اور قدرت سے مخلوق کو نفع پہنچانے اور ان سے نقصان دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں حتیٰ کہ ان میں سے بعض کو مردوں کو زندہ کرنے کی قدرت بھی عطا ہوتی ہے، جیسا کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کا یہ فرمان خود قرآن پاک میں موجود ہے کہ

اِنِّیْ اَخْلَقْتُ لَکُمْ مِّنَ الطَّیْرِ کَھِیۡةَ الطَّیْرِ
فَاَنْفُخْ فِیْہِ فِیْکُوْنُ طَیْرًا بِاِذْنِ اللّٰهِ
وَاُبْرِئِ الْاَکْبۡبَہُ وَالْاَبْرَصَ وَاُحِی الْمَوْتِی
بِاِذْنِ اللّٰهِ^(۲)

ترجمہ کنز العرفان: میں تمہارے لئے مٹی سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں پھر اس میں پھونک ماروں گا تو وہ اللہ کے حکم سے فوراً پرندہ بن جائے گی اور میں پیدائشی اندھوں کو اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا دیتا ہوں اور میں اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں۔

یہ آیت بتوں کے بارے میں ہے اور اس میں ان کا عاجز اور بے بس ہونا بیان کیا گیا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کے انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام اور اولیاء رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ پر چسپاں کرنا خارجیوں اور ان کی پیروی کرنے والوں کا کام ہے۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما خارجیوں کو اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے بدتر قرار دیتے تھے اور فرماتے تھے کہ جو آیات کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں یہ ان آیات کو مومنین پر چسپاں کر دیتے ہیں۔^(۳)

﴿مَا قَدَرُوا اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِہِ﴾: انہوں نے اللہ کی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ جنہوں نے عاجز و بے بس اور مکھی سے بھی کمزور بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا انہوں نے اللہ تعالیٰ کی ویسی قدر نہ کی جیسا اس کی قدر کا حق ہے اور اس کی عظمت نہ پہچانی، حقیقی معبود وہی ہے جو کامل قدرت رکھے اور بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا اور غلبے والا ہے۔^(۴)

①.....خازن، الحجج، تحت الآیة: ۷۳، ۳/۳۱۷.

②.....ال عمران: ۴۹.

③.....بخاری، کتاب استنباط المرتدین والمعاندین وقاتلہم، باب قتل الخوارج والملحدین بعد اقامة الحجّة علیہم، ۴/۳۸۰.

④.....مدارک، الحجج، تحت الآیة: ۷۴، ص ۷۴۹.

اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ ۗ إِنَّ اللَّهَ سَبِيحٌ بَصِيرٌ ﴿٤٥﴾
يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۗ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ﴿٤٦﴾

ترجمہ کنزالایمان: اللہ چن لیتا ہے فرشتوں میں سے رسول اور آدمیوں میں سے بیشک اللہ سُنتادیکھتا ہے۔ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور سب کاموں کی رجوع اللہ کی طرف ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے، بیشک اللہ سننے والا، دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے اور سب کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔

﴿اللَّهُ يُصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلًا وَمِنَ النَّاسِ﴾: اللہ فرشتوں میں سے اور آدمیوں میں سے رسول چن لیتا ہے۔ گزشتہ آیات میں توحید کا بیان تھا اور اس آیت میں رسالت کا بیان کیا جا رہا ہے کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ فرشتوں اور انسانوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے رسالت کا منصب عطا فرمادیتا ہے۔ فرشتوں میں مثلاً حضرت جبرئیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل عَلَيْهِمُ السَّلَام اور انسانوں میں حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام اور سرکارِ دُعا لَمْ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ۔ شانِ نزول: یہ آیت ان کفار کے رد میں نازل ہوئی جنہوں نے بشر کے رسول ہونے کا انکار کیا اور کہا تھا کہ بشر کیسے رسول ہو سکتا ہے؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ عَزَّوَجَلَّ مالک ہے جسے چاہے اپنا رسول بنائے، وہ انسانوں میں سے بھی رسول بناتا ہے اور ملائکہ میں سے بھی جنہیں چاہے۔^(۱)

سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر رسولوں کا چناؤ ختم ہو گیا

یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ انسانوں کی ہدایت کیلئے ان میں سے ہی بعض کو منصب رسالت کے لئے چن لینا اللہ تعالیٰ کی قدیم عادت ہے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی تشریف آوری کے بعد بھی لوگوں کو رسالت کے عظیم منصب کے لئے چنا رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کیلئے جنہیں چنا تھا چن لیا اور جنہیں چن لیا وہ دائمی نبی اور رسول ہو گئے اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر

1.....حازن، الحج، تحت الآية: ۷۵، ۳۱۷/۳-۳۱۸، مدارك، الحج، تحت الآية: ۷۵، ص ۷۴، ملتقطاً.

نبوت و رسالت کا منصب ختم فرما دیا ہے لہذا ان کی تشریف آوری کے بعد نبوت و رسالت کا سلسلہ اختتام پزیر ہو گیا اور اب قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا۔ تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے آخری نبی ہونے کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (1)

ترجمہ کنز العرفان: محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں اور سب نبیوں کے آخر میں تشریف لانے والے ہیں اور اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔

اور صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”بنی اسرائیل میں انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حکومت کیا کرتے تھے، جب ایک نبی کا وصال ہوتا تو دوسرا نبی ان کا خلیفہ ہوتا، (لیکن یاد رکھو!) میرے بعد ہرگز کوئی نبی نہیں ہے، ہاں عنقریب خلفاء ہوں گے اور کثرت سے ہوں گے۔“ (2)

اور سنن ترمذی میں حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”بے شک رسالت و نبوت ختم ہو گئی، تو میرے بعد نہ کوئی رسول ہے اور نہ ہی نبی۔“ (3)

﴿يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ﴾: وہ جانتا ہے جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ دنیا کے امور کو بھی جانتا ہے اور آخرت کے امور کو بھی، یا اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے گزرے ہوئے اعمال کو بھی جانتا ہے اور آئندہ کے احوال کا بھی علم رکھتا ہے۔ (4)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا

الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تَفْلِحُونَ ﴿٤٤﴾

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی بندگی کرو اور بھلے کام کرو اس امید پر کہ تمہیں چھڑکارا ہو۔

1..... احزاب: ۴۰.

2..... بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب ما ذکر عن بنی اسرائیل، ۶۱۱/۲، الحدیث: ۳۴۵۵.

3..... ترمذی، کتاب الرؤیا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، باب ذہبت النبوة... الخ، ۱۲۱/۴، الحدیث: ۲۲۷۹.

4..... مدارك، الحج، تحت الآية: ۷۶، ص ۷۴۹.

ترجمہ کنزالعرفان: اے ایمان والو! رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور اچھے کام کرو اس امید پر کہ تم فلاح پا جاؤ۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْجُدُوا: اے ایمان والو! رکوع اور سجدہ کرو۔﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو 3 احکام دیئے ہیں،

(1)..... نماز پڑھو۔ کیونکہ نماز کے سب سے افضل ارکان رکوع اور سجدہ ہیں اور یہ دونوں نماز کے ساتھ خاص ہیں تو ان کا ذکر گویا کہ نماز کا ذکر ہے۔

(2)..... اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو۔ اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو اور اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کام کرنے کا حکم دیا ہے اور جن کاموں سے منع کیا ہے، ان سب (پر عمل کرنے کی صورت) میں اپنے رب کی عبادت کرو۔ تیسرا مطلب یہ ہے کہ رکوع، سجدہ اور دیگر نیک اعمال کو اپنے رب کی عبادت کے طور پر کرو کیونکہ عبادت کی نیت کے بغیر فقط ان افعال کو کرنا کافی نہیں۔

(3)..... نیک کام کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں ان سے مراد صلہ رحمی کرنا اور دیگر اچھے اخلاق ہیں۔

آیت کے آخر میں فرمایا کہ تم یہ سب کام اس امید پر کرو کہ تم جنت میں داخل ہو کر فلاح و کامیابی پا جاؤ اور تمہیں جہنم سے چھٹکارا نصیب ہو جائے۔⁽¹⁾

نیک اعمال کس امید پر کرنے چاہئیں؟

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بندہ عبادات اور نیک اعمال ضرور کرے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے لیکن ان عبادات و نیک اعمال کی وجہ سے یہ ذہن نہ بنائے کہ اب اس کی بخشش و مغفرت یقینی ہے بلکہ اس امید پر اخلاص کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے نیک کام کرے کہ ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر اپنا فضل و رحمت فرمائے گا اور اپنی رحمت سے جہنم کے عذاب سے چھٹکارا اور جنت میں داخلہ نصیب فرمائے گا۔

سورہ حج کی آیت نمبر 77 سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ

یاد رہے کہ احناف کے نزدیک سورہ حج کی اس آیت کو پڑھنے یا سننے سے سجدہ تلاوت واجب نہیں ہوتا کیونکہ

1..... تفسیر کبیر، الحج، تحت الآية: ۷۷، ۲۵۴/۸، مدارك، الحج، تحت الآية: ۷۷، ص ۷۴۹-۷۵۰، ملقطاً.

اس میں سجدے سے مراد نماز کا سجدہ ہے، البتہ اگر کسی حنفی نے شافعی مذہب سے تعلق رکھنے والے امام کی اقتدا کی اور اُس نے اس موقع پر سجدہ کیا تو اُس کی پیروی میں معتدی پر بھی واجب ہے۔^(۱)

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ ۗ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي
الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ۗ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ ۗ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ۗ مِنْ
قَبْلُ وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ
عَلَى النَّاسِ ۗ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ
هُوَ مَوْلَاكُمْ ۗ فَنِعْمَ الْمَوْلَىٰ وَنِعْمَ النَّصِيرُ ۗ

ترجمہ کنز الایمان: اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا حق ہے جہاد کرنے کا اس نے تمہیں پسند کیا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی تمہارے باپ ابراہیم کا دین اللہ نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے اگلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تاکہ رسول تمہارا نگہبان و گواہ ہو اور تم اور لوگوں پر گواہی دو تو نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو وہ تمہارا مولیٰ ہے تو کیا ہی اچھا مولیٰ اور کیا ہی اچھا مددگار۔

ترجمہ کنز العرفان: اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا اس (کی راہ) میں جہاد کرنے کا حق ہے۔ اس نے تمہیں منتخب فرمایا اور تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی جیسے تمہارے باپ ابراہیم کے دین (میں کوئی تنگی نہ تھی)۔ اس نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں تمہارا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ تو نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، وہ تمہارا دوست ہے تو کیا ہی اچھا دوست اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔

①..... بہار شریعت، حصہ چہارم، سجدہ تلاوت کا بیان، ۱/۲۹۱۔

﴿وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ﴾: اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو جیسا جہاد کرنے کا حق ہے۔ ﴿اس آیت میں چند باتیں ارشاد فرمائی گئیں۔

- (1)..... ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو! تم اللہ تعالیٰ کی راہ میں اس کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے کہ اس میں تمہاری نیت سچی اور خالص ہو اور تمہارا یہ عمل دین اسلام کی سر بلندی کے لئے ہو۔
- (2)..... اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین اور عبادت کیلئے منتخب فرمایا تو اس سے بڑا رتبہ اور اس سے بڑی سعادت اور کیا ہے۔
- (3)..... اللہ تعالیٰ نے تم پر دین میں کچھ تنگی نہ رکھی بلکہ ضرورت کے موقعوں پر تمہارے لئے سہولت کر دی جیسے کہ سفر میں نماز قصر کرنے اور روزہ نہ رکھنے کی اجازت دے دی اور پانی نہ پانے یا پانی کے نقصان پہنچانے کی حالت میں غسل اور وضو کی جگہ تیمم کی اجازت دی، تو تم دین کی پیروی کرو۔

- (4)..... تاجدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا دین ایسے آسان ہے جیسے حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا دین آسان تھا اور حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا دین حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے دین میں داخل ہے۔
- (5)..... اللہ تعالیٰ نے پہلی کتابوں میں اور اس قرآن میں دین اسلام کو ماننے والوں کا نام مسلمان رکھا ہے تاکہ قیامت کے دن رسول تم پر نگہبان و گواہ ہو کہ انہوں نے تمہارے پاس خدا کا پیام پہنچا دیا اور تم دوسرے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ کہ انہیں ان رسولوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام پہنچا دیئے۔

- (6)..... اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ عزت و کرامت عطا فرمائی ہے تو تم پابندی کے ساتھ نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور اللہ تعالیٰ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور اس کے دین پر قائم رہو، وہ تمہارا مالک و ناصر ہے اور تمہارے تمام امور کا انتظام فرمانے والا ہے، تو وہ کتنا اچھا مولیٰ ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔⁽¹⁾

نفس و شیطان کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے دین کے دشمنوں کے ساتھ ساتھ نفس، خواہشات اور شیطان کے خلاف جہاد کرنا بھی داخل ہے اور شیطان کی انسان دشمنی اور اس کے مقصد سے خبردار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوا لَهُ عَدُوًّا ۗ

ترجمہ کنز العرفان: بیشک شیطان تمہارا دشمن ہے تو تم

1.....خازن، الحج، تحت الآية: ۷۸، ۳/۳۱۹، مدارك، الحج، تحت الآية: ۷۸، ص ۷۵۰، ملقطاً.

اِنَّمَا يَدْعُوا حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ اَصْحَابِ
السَّعِيْدِ (۱)

بھی اسے دشمن سمجھو، وہ تو اپنے گروہ کو اسی لیے بلاتا ہے تاکہ
وہ بھی دوزخیوں میں سے ہو جائیں۔

اور نفسانی خواہشات کی پیروی سے رکنے والے کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے:

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ
عَنِ الْهَوَىٰ ۗ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ (۲)

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے
ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا۔ تو بیشک جنت ہی
ٹھکانا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کچھ لوگ جہاد سے واپسی پر حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”تم آگئے، خوش آمدید! اور تم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف آئے ہو۔ انہوں نے عرض کی: بڑا جہاد کیا ہے؟ ارشاد فرمایا ”بندے کا اپنی خواہشوں سے جہاد کرنا۔“ (۳)

حضرت فضالہ بن عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”مجاہد وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری میں اپنے نفس سے لڑتا ہے۔“ (۴)

حضرت یحییٰ بن معاذ رازی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں: انسان کے دشمن تین ہیں: (۱) اس کی دنیا۔ (۲) شیطان۔ (۳) نفس۔ لہذا دنیا سے بے رغبتی اختیار کر کے اس سے بچو، شیطان کی مخالفت کر کے اس سے محفوظ رہو اور خواہشات کو چھوڑ دینے کے ذریعے نفس سے حفاظت میں رہو۔ (۵)

اللہ اللہ کے نبی سے
دن بھر کھیلوں میں خاک اڑائی
شب بھر سونے ہی سے غرض تھی
ایمان پہ موت بہتر او نفس

فریاد ہے نفس کی بدی سے
لاج آئی نہ ذروں کی ہنسی سے
تاروں نے ہزار دانت پیسے
تیری ناپاک زندگی سے

①.....فاطر: ۶.

②.....نازعات: ۴۰، ۴۱.

③.....الزهد الكبير للبيهقي، فصل في ترك الدنيا ومخالفة النفس، ص ۱۶۵، الحديث: ۳۷۳.

④.....مسند امام احمد، مسند فضالة بن عبید الانصاری رضی اللہ عنہ، ۲۴۹/۵، الحديث: ۲۴۰۱۳.

⑤.....احیاء علوم الدین، کتاب ریاضة النفس و تہذیب الاخلاق، بیان شواہد النقل من ارباب البصائر... الخ، ۸۱/۳.

قَدَائِم

18

سُورَةُ الْمُؤْمِنُونَ

سورۃ مؤمنون کا تعارف

مقام نزول

سورۃ مؤمنون مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ (1)

رکوع اور آیات کی تعداد

اس میں 6 رکوع اور 118 آیتیں ہیں۔

”مؤمنون“ نام رکھنے کی وجہ

اس سورت کی ابتداء میں مؤمنوں کی کامیابی، ان کے اوصاف اور آخرت میں ان کی جزاء بیان کی گئی ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام ”سورۃ مؤمنون“ رکھا گیا ہے۔

سورۃ مؤمنون کی فضیلت

حضرت یزید بن ابیہنول رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ ہم نے حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے عرض کی: اے اُمّ المؤمنین! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اخلاق کیسے تھے؟ ارشاد فرمایا: حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا خلق قرآن تھا، پھر فرمایا: ”تم سورۃ مؤمنون پڑھتے ہو تو پڑھو۔“ چنانچہ انہوں نے ”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ“ سے لے کر دس آیتیں پڑھیں تو حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے فرمایا: ”رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اخلاق ایسے ہی تھے۔“ (2)

سورۃ مؤمنون کے مضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں خالق کے وجود، اس کی وحدانیت، نبوت و رسالت کے ثبوت اور

1.....حازن، تفسیر سورۃ المؤمنین، ۳/۳۱۹.

2.....مستدرک، کتاب التفسیر، تفسیر سورۃ المؤمنون، خلق اللہ جنۃ عدن... الخ، ۳/۱۵۳، الحدیث: ۵۳۳۳.

موت کے بعد زندہ کئے جانے پر مختلف دلائل کے ساتھ کلام کیا گیا ہے، اور اس سورت میں یہ مضامین بیان کئے گئے ہیں:

(1)..... اس سورت کی ابتدا میں 7 اوصاف کے حامل مومنوں کو آخرت میں کامیاب ہونے کی بشارت سنائی گئی اور آخرت میں انہیں ملنے والی عظیم جزا فردوس کی میراث بیان کی گئی۔

(2)..... اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی وحدانیت اور قدرت پر انسان کی مختلف مراحل میں تخلیق، آسمانوں کو کسی سابقہ مثال کے بغیر پیدا کرنے، باغات اور نباتات کی نشوونما کے لئے آسمان کی طرف سے پانی نازل کرنے، انسان کے لئے مختلف منافع والے جانور پیدا کرنے اور سامان کی نقل و حمل اور سواری کے لئے کشتیوں کو انسان کے تابع کرنے کے ساتھ استدلال کیا گیا ہے۔

(3)..... مشرکین کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو تسلی دینے کیلئے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، حضرت عیسیٰ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور ان کی والدہ حضرت مریم رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا کے واقعات بیان فرمائے۔

(4)..... دین اسلام قبول کرنے سے تکبر کرنے پر نیز اللہ تعالیٰ کے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی طرف جنون اور جادوگر ہونے وغیرہ کی نسبت کرنے پر، اور سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی رسالت پر ایمان نہ لانے کی وجہ سے کفار مکہ کو سرزنش کی گئی اور عذاب کی وعید سنائی گئی اور انہیں قیامت کے دن پہنچنے والے عذاب اور سختی کی خبر دی گئی اور ان کے سامنے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے پر مختلف دلائل پیش کئے گئے۔

(5)..... انہی آیات کے ضمن میں انسان پر کی گئی نعمتوں کے ذریعے اسے نصیحت کی گئی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کرنے، اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد کی نسبت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے شریک ٹھہرانے کا شدید رد کیا گیا۔

(6)..... حساب کے وقت کی شدتیں اور ہولناکیاں بیان کی گئیں۔

(7)..... قیامت کے دن لوگوں کو سعادت مند اور بد بخت دو گروہوں میں تقسیم کر دیئے جانے کا ذکر کیا گیا۔

(8)..... اس دن نسب کے فائدہ مند نہ ہونے کو بیان کیا گیا اور کفار کی دنیا کی طرف لوٹ جانے اور نیک اعمال بجا لانے کی تمنا بیان کی گئی۔

(9)..... مسلمانوں پر ہنسنے اور ان کا مذاق اڑانے پر کفار کو سرزنش کی گئی اور ان سے دنیا میں ٹھہرنے کی مدت کے بارے

میں سوال کیا گیا۔

(10).....بتوں کی پوجا کرنے والوں کے خسارے اور نیک اعمال کرنے والے اہل ایمان کی نجات اور ان پر اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کا ذکر کیا گیا۔

سورہ حج کے ساتھ مناسبت

سورہ مؤمنون کی اپنے سے ما قبل سورت ”حج“ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ حج کے آخر میں مسلمانوں کو آخری کامیابی حاصل ہونے کی امید پر اچھے اعمال کرنے کا حکم دیا گیا اور سورہ مؤمنون کی ابتداء میں وہ اچھے کام بتا دیئے گئے جن سے مسلمان آخری کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔⁽¹⁾

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۱

ترجمہ کنزالایمان: بیشک مراد کو پہنچے ایمان والے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک ایمان والے کامیاب ہو گئے۔

﴿قَدْ أَفْلَحَ﴾: بیشک کامیاب ہو گئے۔ اس آیت میں ایمان والوں کو بشارت دی گئی ہے کہ بے شک وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے اور ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہو کر ہرنا پسندیدہ چیز سے نجات پا جائیں گے۔⁽²⁾

1.....تناسق الدرر، سورہ المؤمنون، ص ۱۰۳۔

2.....تفسیر کبیر، المؤمنون، تحت الآیة: ۱، ۲۵۸/۸، روح البیان، المؤمنون، تحت الآیة: ۱، ۶۶/۶، ملتقطاً۔

حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے

یاد رہے کہ ہر ایک نے موت کا کڑوا ترین ذائقہ چکھ کر اس دنیا سے کوچ کرنا ہے اور قیامت کے دن سب کو اپنے اعمال کا بدلہ پانا ہے اور جسے اس دن جہنم کے دردناک عذابات سے بچالیا گیا اور بے مثل نعمتوں کی جگہ جنت میں داخل کر دیا گیا وہی حقیقی طور پر کامیاب ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ۗ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ
أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۗ فَمَن ذُحِرَ عَنِ النَّارِ
وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ (۱)

ترجمہ کنز العرفان: ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے اور قیامت کے دن تمہیں تمہارے اجر پورے پورے دیئے جائیں گے تو جسے آگ سے بچالیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔

اور جہنم سے بچنے اور جنت میں داخلے کے لئے ایمان پر خاتمہ ضروری ہے، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس شخص کو جہنم سے بچنا اور جنت میں داخل ہونا پسند ہو تو اسے موت ضرور اس حال میں آئے کہ وہ اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور جس معاملے کو وہ اپنے لئے پسند کرتا ہو وہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرے۔“ (۲)

اور چونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں اس لئے ایمان پر ثابت قدم رہنا اور اس کی حفاظت کی بھرپور کوشش کرنا ضروری ہے تاکہ موت کے وقت ایمان سلامت رہے اور قیامت کے دن جنت میں داخلہ نصیب ہو۔

سورۃ مؤمنون کی ابتدائی دس آیات کی فضیلت

سورۃ مؤمنون کی ابتدائی دس آیات کے بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ”جب نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ کے چہرہ اقدس کے پاس مکھیوں کی بھنبھناہٹ کی طرح آواز سنائی دیتی۔ ایک دن وحی نازل ہوئی تو ہم کچھ دیر ٹھہرے رہے، جب یہ کیفیت ختم ہوئی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبلہ رو ہو کر ہاتھ اٹھائے اور یہ دعا مانگی ”اے اللہ! عَزَّوَجَلَّ، ہمیں زیادہ عطا کرنا اور کمی نہ فرمانا، ہمیں عزت دینا اور ذلیل

۱.....ال عمران: ۱۸۵۔

۲.....مسند امام احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ۲/۲۲۵، الحدیث: ۶۸۲۱۔

نہ کرنا، ہمیں عطا فرمانا اور محروم نہ رکھنا۔ ہمیں چن لے اور ہم پر کسی دوسرے کو نہ چن۔ اے اللہ! عزَّ وَجَلَّ، ہمیں راضی فرما اور ہم سے راضی ہو جا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ”مجھ پر دس آیات نازل ہوئی ہیں، جس نے ان میں مذکور باتوں کو اپنایا وہ جنت میں داخل ہوگا، پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ”قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ“ سے لے کر دسویں آیت کے آخر تک پڑھا۔^(۱)

الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خِشْعُونَ ۝۲

ترجمہ کنزالایمان: جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: جو اپنی نماز میں خشوع و خضوع کرنے والے ہیں۔

﴿خِشْعُونَ﴾: خشوع و خضوع کرنے والے۔ ﴿یہاں سے ایمان والوں کے چند اوصاف ذکر فرمائے گئے ہیں، چنانچہ ان کا پہلا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں، اس وقت ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔^(۲)

نماز میں ظاہری و باطنی خشوع

نماز میں خشوع ظاہری بھی ہوتا ہے اور باطنی بھی، ظاہری خشوع یہ ہے کہ نماز کے آداب کی مکمل رعایت کی جائے مثلاً نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے اور آنکھ کے کنارے سے کسی طرف نہ دیکھے، آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، کوئی عبت و بیکار کام نہ کرے، کوئی کپڑا شانوں پر اس طرح نہ لٹکائے کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے ہوئے نہ ہوں، انگلیاں نہ چٹھائے اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ باطنی خشوع یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پیش نظر ہو، دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو اور نماز میں دل لگا ہو۔^(۳)

①.....ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة المؤمنین، ۱۱۷/۵، الحدیث: ۳۱۸۴.

②.....مدارک، المؤمنون، تحت الآیة: ۲، ص ۷۵۱.

③.....صاوی، المؤمنون، تحت الآیة: ۲، ۴/۱۳۵، خازن، المؤمنون، تحت الآیة: ۲، ۳/۳۲۰، مدارک، المؤمنون، تحت

الآیة: ۲، ص ۷۵۱.

یہاں نماز کے دوران آسمان کی طرف نظریں اٹھانے، ادھر ادھر دیکھنے اور یہاں وہاں توجہ کرنے سے متعلق 3 احادیث ملاحظہ ہوں،

(1)..... حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنی نماز میں نظریں آسمان کی طرف اٹھاتے ہیں! پھر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اس میں بہت سختی کی اور ارشاد فرمایا ”یہ لوگ اس سے باز آ جائیں ورنہ ان کی نظریں چھین لی جائیں گی۔“ (1)

(2)..... حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے مجھ سے ارشاد فرمایا: ”اے بیٹے! نماز میں ادھر ادھر دیکھنے سے بچو کیونکہ نماز میں ادھر ادھر توجہ ہلاکت ہے۔“ (2)

(3)..... حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: میں نے حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے نماز میں ادھر ادھر توجہ کرنے کے بارے میں سوال کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا ”یہ شیطانی لغزش ہے، اس کے ذریعے شیطان بندے کو نماز سے پھسلانا چاہتا ہے۔“ (3)

لہذا ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہئے کہ وہ پوری توجہ اور خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح کرے جیسے عبادت کرنے کا حق ہے۔

خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور دو واقعات

حضرت عثمان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس مسلمان شخص پر فرض نماز کا وقت آجائے اور وہ اس نماز کا وضو اچھی طرح کرے پھر نماز میں اچھی طرح خشوع اور رکوع کرے تو وہ نماز اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہو جاتی ہے جب تک کہ وہ کوئی کبیرہ گناہ نہ کرے اور یہ سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا۔“ (4)

اگر صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اور دیگر بزرگان دین رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِمْ کی سیرت کا مطالعہ کیا جائے تو

- 1..... بخاری، کتاب الاذان، باب رفع البصر الى السماء في الصلاة، ۲۶۵/۱، الحديث: ۷۵۰.
- 2..... ترمذی، کتاب السفر، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، ۱۰۲/۲، الحديث: ۵۸۹.
- 3..... ترمذی، کتاب السفر، باب ما ذكر في الالتفات في الصلاة، ۱۰۲/۲، الحديث: ۵۹۰.
- 4..... مسلم، کتاب الطهارة، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه، ص ۱۴۲، الحديث: ۷ (۲۲۸).

بکثرت ایسے واقعات مل جائیں گے کہ جو اس آیت میں مذکور وصف کے اعلیٰ نمونے ہوں گے، جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں ”جب صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نماز پڑھتے تو وہ اپنی نماز کی طرف متوجہ رہتے، اپنی نظریں سجدہ کرنے کی جگہ پر رکھتے تھے اور انہیں یہ یقین ہوتا تھا کہ اللہ تعالیٰ انہیں دیکھ رہا ہے اور وہ دائیں بائیں توجہ نہیں کرتے تھے۔ (1)

حضرت جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں ”غزوة ذات الرقاع میں ایک صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے ایک مشرک کی بیوی کو گرفتار کیا۔ اس نے انتقام لینے کے لئے قسم کھالی کہ جب تک حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے صحابہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ میں سے کسی صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے خون سے زمین کو رنگین نہ کر لوں گا، چنانچہ جب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ غزوة سے واپس ہوئے تو اس نے تعاقب کیا۔ جب تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ایک جگہ قیام کیا تو دریافت فرمایا کہ کون میرا پہرہ دینے کی ذمہ داری اپنے سر لے گا۔ مہاجرین و انصار دونوں میں سے ایک ایک بہادر اس شرف کو حاصل کرنے کے لئے اٹھے، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حکم دیا کہ گھائی کے دہانے پر جا کر پہرہ دو۔ دونوں صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا وہاں پہنچے تو مہاجر صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سو گئے اور انصاری صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ مشرک آیا اور فوراً تار گیا کہ یہ محافظ اور نگہبان ہیں، چنانچہ اس نے تین تیر مارے اور تینوں کے تینوں ان انصاری صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے جسم میں پیوست ہو گئے لیکن وہ اسی طرح رکوع اور سجدہ کرتے رہے۔ (2)

وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہ جو فضول بات سے منہ پھیرنے والے ہیں۔

1..... در منثور، المؤمنون، تحت الآية: ۲، ۶/۸۴.

2..... ابو داؤد، کتاب الطہارة، باب الوضوء من الدم، ۱/۹۹، الحدیث: ۱۹۸.

﴿عَنِ اللَّغْوِ﴾: فضول بات سے۔ ﴿فلاح پانے والے مومنوں کا دوسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ ہر لہو و باطل سے بچے رہتے ہیں۔ (1)

لغو سے کیا مراد ہے؟

علامہ احمد صاوی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”لغو سے مراد ہر وہ قول، فعل اور ناپسندیدہ یا مباح کام ہے جس کا مسلمان کو دینی یا دنیوی کوئی فائدہ نہ ہو جیسے مذاق مسخری، بیہودہ گفتگو، کھیل کود، فضول کاموں میں وقت ضائع کرنا، شہوات پوری کرنے میں ہی لگے رہنا وغیرہ وہ تمام کام جن سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ مسلمان کو اپنی آخرت کی بہتری کے لئے نیک اعمال کرنے میں مصروف رہنا چاہئے یا وہ اپنی زندگی بسر کرنے کے لئے بقدرِ ضرورت (حلال) مال کمانے کی کوشش میں لگا رہے۔ (2)

احادیث میں بھی لایعنی اور بیکار کاموں سے بچنے کی ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”آدمی کے اسلام کی اچھائی میں سے یہ ہے کہ وہ لایعنی چیز چھوڑ دے۔ (3) یعنی جو چیز کارآمد نہ ہو اس میں نہ پڑے، زبان، دل اور دیگر اعضاء کو بے کار باتوں کی طرف متوجہ نہ کرے۔ (4)

اور حضرت عقبہ بن عامر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فَرَمَاتے ہیں ”میں حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، نجات کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ”اپنی زبان پر قابو رکھو اور تمہارا گھر تمہارے لیے گنجائش رکھے (یعنی بے کار ادھر ادھر نہ جاؤ) اور اپنی خطا پر آنسو بہاؤ۔ (5)

زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اور اس کے فوائد و نقصانات

یاد رہے کہ زبان کی حفاظت و نگہداشت اور فضولیات و لغویات سے اسے باز رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ زیادہ

1.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۳، ۳۲۰/۳.

2.....صاوی، المؤمنون، تحت الآية: ۳، ۱۳۵۶-۱۳۵۷.

3.....ترمذی، کتاب الزهد، ۱۱-باب، ۱۴۲/۴، الحدیث: ۲۳۲۴.

4.....بہار شریعت، حصہ شانزدہم، زبان کو روکنا اور گالی گلوچ، غیبت اور چغلی سے پرہیز کرنا، ۵۲۰/۳.

5.....ترمذی، کتاب الزهد، باب ما جاء في حفظ اللسان، ۱۸۲/۴، الحدیث: ۲۴۱۴.

سرکشی اور سب سے زیادہ فساد و نقصان اسی زبان سے رونما ہوتا ہے اور جو شخص زبان کو کھلی چھٹی دے دیتا اور اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے تو شیطان اسے ہلاکت میں ڈال دیتا ہے۔ زبان کی حفاظت کرنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اس سے نیک اعمال کی حفاظت ہوتی ہے کیونکہ جو شخص زبان کی حفاظت نہیں کرتا بلکہ ہر وقت گفتگو میں مصروف رہتا ہے تو ایسا شخص لوگوں کی غیبت میں مبتلا ہونے سے بچ نہیں پاتا، یونہی اس سے کفر یہ الفاظ نکل جانے کا بہت اندیشہ رہتا ہے اور یہ دونوں ایسے عمل ہیں جس سے بندے کے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ منقول ہے کہ حضرت امام حسن بصری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے کسی شخص نے کہا: فلاں شخص نے آپ کی غیبت کی ہے۔ یہ سن کر آپ نے غیبت کرنے والے آدمی کو کھجوروں کا تھال بھر کر روانہ کیا اور ساتھ میں یہ کہلا بھیجا: سنا ہے کہ تم نے مجھے اپنی نیکیاں ہدیہ کی ہیں، تو میں نے ان کا معاوضہ دینا بہتر جانا (اس لئے کھجوروں کا یہ تھال حاضر ہے۔) (1)

اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دنیا کی آفات سے محفوظ رہتا ہے، چنانچہ حضرت سفیان ثوری رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: زبان سے ایسی بات نہ نکالو جسے سن کر لوگ تمہارے دانت توڑ دیں۔ اور ایک بزرگ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: اپنی زبان کو بے لگام نہ چھوڑو تا کہ یہ تمہیں کسی فساد میں مبتلا نہ کر دے۔ (2)

نیز زبان کی حفاظت نہ کرنے کا ایک نقصان یہ ہے کہ بندہ ناجائز و حرام، لغو اور بیکار باتوں میں مصروف ہو کر گناہوں میں مبتلا ہوتا اور اپنی زندگی کی قیمتی ترین چیز ”وقت“ کو ضائع کر دیتا ہے۔ حضرت حسان بن سنان رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ کے بارے میں مروی ہے کہ آپ ایک بالا خانے کے پاس سے گزرے تو اس کے مالک سے دریافت فرمایا ”یہ بالا خانہ بنائے تمہیں کتنا عرصہ گزرا ہے؟ یہ سوال کرنے کے بعد آپ کو دل میں سخت ندامت ہوئی اور نفس کو مخاطب کرتے ہوئے یوں فرمایا ”اے مغرور نفس! تو فضول اور لالیعنی سوالات میں قیمتی ترین وقت کو ضائع کرتا ہے؟ پھر اس فضول سوال کے گفارے میں آپ نے ایک سال روزے رکھے۔“ (3)

اور دوسرا نقصان یہ ہے کہ ناجائز و حرام گفتگو کی وجہ سے انسان قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے جسے برداشت کرنے کی طاقت کسی میں نہیں۔ لہذا عافیت اسی میں ہے کہ بندہ اپنی زبان کی حفاظت کرے اور

①.....منہاج العابدین، العقبة الثالثة، العائق الرابع، الفصل الثالث: اللسان، ص ۷۶.

②.....منہاج العابدین، العقبة الثالثة، العائق الرابع، الفصل الثالث: اللسان، ص ۷۶.

③.....منہاج العابدین، العقبة الثالثة، العائق الرابع، الفصل الثالث: اللسان، ص ۷۵.

اسے ان باتوں کے لئے استعمال کرے جو اُسے دنیا اور آخرت میں نفع دیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو زبان کی حفاظت و نگہداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔^(۱)

وَالَّذِينَ هُمْ لِزَكَاةٍ فَعِلُونَ ﴿۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہ جو زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔

﴿هُم لِمَنْ زَكَاةٍ فَعِلُونَ﴾ وہ زکوٰۃ دینے کا کام کرنے والے ہیں۔ اس آیت میں کامیابی پانے والے اہل ایمان کا تیسرا وصف بیان کیا گیا کہ وہ پابندی کے ساتھ اور ہمیشہ اپنے مالوں پر فرض ہونے والی زکوٰۃ دیتے ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت میں مذکور لفظ ”زکاة“ کا ایک معنی ”تذکیہ نفس“ بھی کیا ہے یعنی ایمان والے اپنے نفس کو دنیا کی محبت وغیرہ مذموم صفات سے پاک کرنے کا کام کرتے ہیں۔^(۲)

زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید

کثیر احادیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعیدیں بیان کی گئی ہیں، ان میں سے 4 احادیث درج ذیل ہیں:

(1)..... حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی، تو بیشک اس کے مال کا شر اُس سے چلا گیا۔“⁽³⁾

(2)..... حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

①..... زبان کی حفاظت اور اس سے متعلق دیگر چیزوں کی معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب ”جنت کی دو چابیاں“ (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔

②..... مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۴، ص ۷۵۱، البحر المحيط، المؤمنون، تحت الآية: ۴، ۶ / ۳۶۶، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ۴، ۶ / ۶۸، ملقطاً.

③..... معجم الاوسط، باب الالف، من اسمہ: احمد، ۴۳۱/۱، الحديث: ۱۵۷۹.

”زکوٰۃ دے کر اپنے مالوں کو مضبوط قلعوں میں کر لو اور اپنے بیماروں کا علاج صدقہ سے کرو۔“ (1)

(3)..... حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اپنے مال کی زکاۃ نکال، کہ وہ پاک کرنے والی ہے تجھے پاک کر دے گی۔“ (2)

(4)..... صحیح بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جس کو اللہ تعالیٰ مال دے اور وہ اُس کی زکاۃ ادا نہ کرے تو قیامت کے دن وہ مال گنجه سانپ کی صورت میں کر دیا جائے گا، جس کے سر پر دو نشان ہوں گے۔ وہ سانپ اُس کے گلے میں طوق بنا کر ڈال دیا جائے گا، پھر اس کی باچھیں پکڑے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں اور میں تیرا خزانہ ہوں۔“ (3)

نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنا کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے

اس آیت کی دوسری تفسیر سے معلوم ہوا کہ نفس کو مذموم صفات جیسے تکبر و ریاکاری، بغض و حسد اور دنیا کی محبت وغیرہ سے پاک کرنا اخروی کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اسی سے متعلق اللہ تعالیٰ ایک اور مقام پر ارشاد فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى (4)
ترجمہ کنز العرفان: بیشک جس نے خود کو پاک کر لیا وہ

کامیاب ہو گیا۔

اور ارشاد فرماتا ہے:

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا (5)
ترجمہ کنز العرفان: بیشک جس نے نفس کو پاک کر لیا وہ

کامیاب ہو گیا۔ اور بیشک جس نے نفس کو گناہوں میں چھپا دیا وہ ناکام ہو گیا۔

1..... شعب الایمان، باب الثانی و العشرین من شعب الایمان... الخ، فصل فیمن اتاه اللہ مالاً من غیر مسألة، ۳ / ۲۸۲، الحدیث: ۳۵۵۷.

2..... مسند امام احمد، مسند انس بن مالک رضی اللہ عنہ، ۴ / ۲۷۳، الحدیث: ۱۲۳۹۷.

3..... بخاری، کتاب الزکاۃ، باب اثم مانع الزکاۃ، ۱ / ۴۷۴، الحدیث: ۱۴۰۳.

4..... اعلیٰ: ۱۴.

5..... شمس: ۹، ۱۰.

حضرت زید بن ارقم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اس طرح دعا مانگا کرتے تھے: "اللَّهُمَّ آتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا وَزَكَّاهَا أَنْتَ خَيْرُ مَنْ زَكَّاهَا أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا" اے اللہ! میرے نفس کو تقویٰ عطا فرما اور اسے پاکیزہ کر، تو سب سے بہتر پاک کرنے والا ہے، تو ہی اس کا ولی اور مولیٰ ہے۔^(۱)

نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی یہ دعا امت کی تعلیم کے لئے ہے، اس لئے ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنے نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنے کی کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی پاکی کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے اور اس دعا کے لئے وہ الفاظ سب سے بہترین ہیں جو اوپر حدیث پاک میں مذکور ہوئے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لِغُرُوحِهِمْ حَفِظُونَ ۝ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۝ ج

ترجمہ کنز الایمان: اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ مگر اپنی بیبیوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں کہ ان پر کوئی ملامت نہیں۔

ترجمہ کنز العرفان: اور وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں پس بیشک ان پر کوئی ملامت نہیں۔

﴿هُم لِحُرُوحِهِمْ حَفِظُونَ﴾: وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ ﴿اس آیت سے کامیابی حاصل کرنے والے اہل ایمان کا چوتھا وصف بیان کیا گیا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ ایمان والے زنا اور زنا کے اسباب و لوازمات وغیرہ حرام کاموں سے اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں البتہ اگر وہ اپنی بیویوں اور شرعی باندیوں کے ساتھ جائز طریقے سے صحبت کریں تو اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں۔^(۲)

①.....مسلم، کتاب الذکر و الدعاء و التوبة و الاستغفار، باب التعمد من شرم ما عمل... الخ، ص ۱۴۵۷، الحدیث: ۷۳ (۲۷۲۲)۔

②.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۶-۵، ۳/۳۲۰-۳۲۱، ملخصاً۔

شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی فضیلت

حدیث پاک میں زبان اور شرمگاہ کو حرام اور ممنوع کاموں سے بچانے پر جنت کا وعدہ کیا گیا ہے، چنانچہ صحیح بخاری میں حضرت سہل بن سعد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جو شخص میرے لیے اس چیز کا ضامن ہو جائے جو اس کے جبرڑوں کے درمیان میں ہے یعنی زبان کا اور اس کا جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان میں ہے یعنی شرمگاہ کا، میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔“^(۱)

شرمگاہ کی شہوت کا علمی اور عملی علاج

یاد رہے کہ شرمگاہ کی شہوت کو پورا کرنا انسانی فطرت کا تقاضا اور بے شمار فوائد حاصل ہونے کا ذریعہ ہے، اگر اس تقاضے کو شریعت کے بتائے ہوئے جائز طریقے سے پورا کیا جائے تو یہ دنیا میں بہت بڑی نعمت اور آخرت میں ثواب حاصل ہونے کا ایک ذریعہ ہے اور اگر اسے ناجائز و حرام ذرائع سے پورا کیا جائے تو یہ دنیا میں بہت بڑی آفت اور قیامت کے دن جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ہے، لہذا جو شخص اپنی خواہش کی تکمیل چاہتا ہے تو اسے چاہئے کہ اگر کسی عورت سے شرعی نکاح کر سکتا ہے تو نکاح کر لے تاکہ اسے اپنے لئے جائز ذریعہ مل جائے اور اگر وہ شرعی نکاح کرنے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر روزے رکھ کر اپنے نفس کو مغلوب کرنے کی کوشش کرے اور اس کے ساتھ ساتھ ان تمام اسباب اور محرکات سے بچنے کی بھی بھرپور کوشش کرے جن کی وجہ سے نفس کی اس خواہش میں اضافہ ہوتا ہے، نیز ناجائز و حرام ذریعے سے اس خواہش کو پورا کرنے پر قرآن مجید اور احادیث مبارکہ میں جن سزاؤں اور عذابات کا ذکر کیا گیا ہے ان کا بغور مطالعہ کرے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے نفس کی حفاظت کے لئے خوب دعائیں کرے۔

فَمَنْ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْعٰدُوْنَ ﴿۷۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو جو ان کے سوا کچھ اور چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں۔

1.....بخاری، کتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، ۴/۲۴، الحدیث: ۶۴۷۴.

﴿فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذٰلِكَ: تو جو ان دو کے سوا کچھ اور چاہے۔﴾ یعنی جو بیویوں اور شرعی باندیوں کے علاوہ کسی اور ذریعے سے شہوت پوری کرنا چاہے تو وہی حد سے بڑھنے والے ہیں کہ حلال سے حرام کی طرف تجاؤز کرتے ہیں۔^(۱)

ہم جنس پرستی، مشیت زنی اور متعہ حرام ہے

اس سے معلوم ہوا کہ شریعت میں صرف بیویوں اور شرعی باندیوں سے جائز طریقے کے ساتھ شہوت پوری کرنے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ شہوت پوری کرنے کی دیگر صورتیں جیسے مرد کا مرد سے، عورت کا عورت سے، شوہر کا بیوی یا شرعی باندی کے پچھلے مقام سے، اپنے ہاتھ سے شہوت پوری کرنا حرام ہے یونہی کسی عورت سے متعہ کرنا بھی حرام ہے۔

علامہ علی بن محمد خازن رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”اس آیت سے ثابت ہوا کہ اپنے ہاتھ سے قضائے شہوت کرنا حرام ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالٰی عَنْهُ نے فرمایا ”اللّٰهُ تَعَالٰی نے ایک اُمت کو عذاب کیا جو اپنی شرمگاہوں سے کھیل کرتے تھے۔“^(۲)

اور امام فخر الدین رازی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”اس آیت سے ثابت ہوا کہ متعہ حرام ہے کیونکہ جس عورت سے متعہ کیا جاتا ہے وہ مرد کی بیوی نہیں کیونکہ اگر ان دونوں میں سے کوئی مر جائے تو دوسرا اس کا وارث نہیں بنتا، اگر وہ عورت بیوی ہوتی تو مرد کے انتقال کے بعد اس کی وارث بھی بنتی کیونکہ بیوی کی وراثت قرآن سے ثابت ہے۔ لہذا جب واضح ہو گیا کہ متعہ کروانے والی عورت مرد کی بیوی نہیں تو ضروری ہے کہ وہ مرد کے لئے حلال نہ ہو۔“^(۳)

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے ہیں۔

①..... روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۷، ۶/۸، ملخصاً.

②..... خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۷، ۳/۳۲۱.

③..... تفسیر کبیر، المؤمنون، تحت الآية: ۷، ۸/۲۶۲.

﴿لَا مُنْتِهِم وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ﴾: اپنی امانتوں اور اپنے وعدے کی رعایت کرنے والے۔ ﴿اس آیت میں فلاح حاصل کرنے والے اہل ایمان کے مزید دو وصف بیان کئے گئے کہ اگر ان کے پاس کوئی چیز امانت رکھوائی جائے تو وہ اس میں خیانت نہیں کرتے اور جس سے وعدہ کرتے ہیں اسے پورا کرتے ہیں۔

یاد رہے کہ امانتیں خواہ اللہ عزَّوَجَلَّ کی ہوں یا مخلوق کی اور اسی طرح عہد خدا عزَّوَجَلَّ کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ، سب کی وفا لازم ہے۔^(۱)

6 چیزوں کی ضمانت دینے پر جنت کی ضمانت

حضرت عبادہ بن صامت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”میرے لیے چھ چیزوں کے ضامن ہو جاؤ، میں تمہارے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ (1) بات بولو تو سچ بولو۔ (2) وعدہ کرو تو پورا کرو۔ (3) تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو ادا کرو اور (4) اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو اور (5) اپنی نگاہوں کو پست کرو اور (6) اپنے ہاتھوں کو روکو۔“⁽²⁾

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔

﴿هُم عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ﴾: جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ یعنی کامیابی حاصل کرنے والے وہ مومن ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں اور انہیں ان کے وقتوں میں، ان کے شرائط و آداب کے ساتھ پابندی سے ادا کرتے ہیں اور فرائض و واجبات اور سنن و نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔⁽³⁾

①..... روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۸، ۶/۶۹، حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۸، ۳/۳۲۱، ملتقطاً.

②..... مستدرک، کتاب الحدود، ست يدخل بها الرجل الجنة، ۵/۵۱۲، الحدیث: ۸۱۳۰.

③..... حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۹، ۳/۳۲۱، مدارک، المؤمنون، تحت الآية: ۹، ص ۷۵۲، ملتقطاً.

عظیم الشان عبادت

ایمان والوں کا پہلا وصف خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کرنا بیان کیا گیا اور آخری وصف نمازوں کی حفاظت کرنا ذکر کیا گیا، اس سے معلوم ہوا کہ نماز بڑی عظیم الشان عبادت ہے اور دین میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ پانچوں نمازیں پابندی کے ساتھ اور ان کے تمام حقوق کی رعایت کرتے ہوئے ادا کرے۔ حضرت عبادہ بن صامت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”پانچ نمازیں اللہ تعالیٰ نے بندوں پر فرض کیں، جس نے اچھی طرح وضو کیا اور وقت میں سب نمازیں پڑھیں اور رکوع و خشوع کو پورا کیا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ کرم پر عہد کر لیا ہے کہ اسے بخش دے، اور جس نے نہ کیا اس کے لیے عہد نہیں، چاہے بخش دے، چاہے عذاب کرے۔“ (۱)

أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ﴿۱۰﴾ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿۱۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: یہی لوگ وارث ہیں۔ کہ فردوس کی میراث پائیں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: یہی لوگ وارث ہیں۔ یہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔

﴿أُولَئِكَ﴾: یہی لوگ۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جن ایمان والوں میں ما قبل آیات میں مذکور اوصاف پائے جاتے ہیں یہی لوگ کافروں کے جنتی مقامات کے وارث ہوں گے۔ یہ فردوس کی میراث پائیں گے اور وہ جنت الفردوس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ انہیں اس میں سے نکالا جائے گا اور نہ ہی وہاں انہیں موت آئے گی۔﴾ (۲)

ہر شخص کے دو مقام ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”ہر شخص کے دو مقام ہوتے ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں، جب کوئی شخص مر کر (ہمیشہ کے لئے) جہنم میں داخل ہو

۱..... ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب المحافظة على وقت الصلوات، ۱/ ۱۸۶، الحدیث: ۴۲۵.

۲..... حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۱۰-۱۱، ۳/ ۳۲۱.

جائے تو اہل جنت اس کے جنتی مقام کے وارث ہوں گے۔ یہی اس آیت ”أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ“ کا مقصد ہے۔^(۱)

اللہ تعالیٰ سے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں

یاد رہے کہ فردوس سب سے اعلیٰ جنت ہے اور اسی کا سوال کرنے کی حدیث پاک میں ترغیب دی گئی ہے، چنانچہ حضرت معاذ بن جبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جنت میں سو درجے ہیں، دو درجوں کے درمیان اتنی مسافت ہے جتنی آسمان اور زمین کے درمیان ہے۔ فردوس سب سے اعلیٰ اور درمیانی جنت ہے اور اس سے اوپر رحمن عَزَّوَجَلَّ کا عرش ہے اور اس سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں۔ جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کرو۔^(۲) لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ جب اللہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگے تو جنت الفردوس کی ہی دعا مانگے، اگر اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے یہ دعا قبول فرمائی تو آخرت میں ملنے والی یہ سب سے عظیم نعمت ہوگی۔

دعا: اے اللہ! ہمیں فردوس کی میراث پانے والوں اور اس کی عظیم الشان نعمتوں سے لطف اندوز ہونے والوں میں سے بنادے اور جہنم کی طرف لے جانے والے تمام اسباب سے ہماری حفاظت فرما، آمین۔

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ۚ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً ۚ
فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ۝۱۳

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے آدمی کو چینی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھر اسے پانی کی بوند کیا ایک مضبوط ٹھہراؤ میں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے انسان کو چینی ہوئی مٹی سے بنایا۔ پھر اس کو ایک مضبوط ٹھہراؤ میں پانی کی بوند بنایا۔

﴿الْإِنْسَانُ: انسان﴾۔ اس آیت سے رکوع کے آخر تک اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر چار دلائل ذکر فرمائے ہیں۔ سب

①..... ابن ماجہ، کتاب الزہد، باب صفة الجنة، ۵۴۲/۴، الحدیث: ۴۳۴۱۔

②..... ترمذی، کتاب صفة الجنة، باب ما جاء فی صفة درجات الجنة، ۲۳۸/۴، الحدیث: ۲۵۳۸۔

سے پہلے انسان کی پیدائش کے مختلف مراحل سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، اس کے بعد آسمانوں کی تخلیق سے، پھر پانی نازل کرنے سے اور سب سے آخر میں حیوانات کے مختلف منافع سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا۔^(۱)

مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں انسان سے مراد حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہوں سے چنی ہوئی مٹی سے بنایا۔^(۲)

﴿ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً﴾: پھر اس کو پانی کی بوند بنایا۔ ﴿عِنِّي﴾ پھر حضرت آدم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی نسل کو ایک مضبوط ٹھہراؤ یعنی ماں کے رحم میں پانی کی بوند بنایا۔^(۳)

ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً وَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظًا فَكَسَوْنَا الْعِظَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ ۖ فَتَبَرَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ۝۱۳

ترجمہ کنزالایمان: پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنایا پھر اسے اور صورت میں اٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جما ہوا خون بنا دیا پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اسے ایک دوسری صورت بنا دیا تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔

﴿ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً﴾: پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جما ہوا خون بنا دیا۔ ﴿عِنِّي﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ماں کے رحم

①..... صاوی، المؤمنون، تحت الآية: ۱۲، ۱۳۵۸/۴.

②..... خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۱۲، ۳۲۱/۳.

③..... مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۱۳، ص ۷۵۳.

میں نطفہ قرار پکڑنے کے بعد والے مراحل بیان فرمائے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو جما ہوا خون بنا دیا پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنا دیا پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں بنا دیا پھر ہم نے ان ہڈیوں کو گوشت پہنایا، پھر اس میں روح ڈال کر اس بے جان کو جان دار کیا، بولنے، سننے اور دیکھنے کی صلاحیت عطا کی اور اسے ایک دوسری صورت بنا دیا جو مکمل انسان ہوتا ہے تو بڑی برکت والا ہے وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ جو سب سے بہتر بنانے والا ہے۔^(۱)

حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی سعادت

حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے (اس کا ابتدائی حصہ سن کر) کہا ”فَتَبَارَكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ“ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اے عمر! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، اسی طرح نازل ہوا ہے۔“^(۲)

انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے

انسان کے ظاہر و باطن، اس کے ہر عضو اور ہر جزی میں اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کی اتنی نشانیاں موجود ہیں جنہیں شمار نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ان کی شرح بیان کی جاسکتی ہے۔ اگر کوئی شخص انصاف کے ساتھ اپنی تخلیق کے مراحل اور اپنے جسم کی بناوٹ میں غور و فکر کرے تو اس کے پاس یہ بات ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہ ہوگا کہ ایسی حیرت انگیز تخلیق پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی قادر نہیں اور وہی اکیلا اس لائق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَلْبَاطِلُونَ ۝ ط ۱۵ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ ۝ ۱۶
وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ ۚ وَمَا كُنَّا عَنِ الْخَلْقِ غَفِيلِينَ ۝ ۱۷

ترجمہ کنزالایمان: پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور بیشک ہم نے تمہارے اوپر سات راہیں بنائیں اور ہم خلق سے بے خبر نہیں۔

①.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۱۴، ۳۲۱/۳-۳۲۲، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۱۴، ص ۷۵۳، ملقطاً.

②.....تفسیر کبیر، المؤمنون، تحت الآية: ۱۴، ۲۶۶/۸.

ترجمہ کنزالعرفان: پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو۔ پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے۔ اور بیشک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے اور ہم مخلوق سے بے خبر نہیں۔

﴿بَعْدَ ذَلِكَ: اس کے بعد۔﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ تخلیق مکمل ہونے کے بعد جب تمہاری عمریں پوری ہو جائیں گی تو تمہیں ضرور موت آئے گی، پھر تم سب قیامت کے دن حساب و جزا کے لئے اٹھائے جاؤ گے۔^(۱)

﴿وَلَقَدْ خَلَقْنَا: اور بیشک ہم نے بنائے۔﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی تخلیق سے اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک ہم نے تمہارے اوپر سات راستے بنائے۔ ان سے مراد سات آسمان ہیں جو فرشتوں کے چڑھنے اترنے کے راستے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہم مخلوق سے بے خبر نہیں، سب کے اعمال، اقوال اور چھپی حالتوں کو جانتے ہیں اور کوئی چیز ہم سے چھپی نہیں۔^(۲)

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَسْكَنَتْهُ فِي الْآرْضِ طَائِفَاتٌ
ذَهَابٍ بِهِنَّ يُنْفَسُونَ ﴿۱۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازہ پر پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور بیشک ہم اس کے لے جانے پر قادر ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ پانی اتارا پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور بیشک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں۔

﴿وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً: اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا۔﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پانی نازل کرنے سے

۱.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۱۵-۱۶، ۳/۳۲۲.

۲.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۱۷، ۳/۳۲۲.

اپنی قدرت پر استدلال فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اور ہم نے آسمان سے ایک اندازے کے ساتھ یعنی جتنی ہمارے علم و حکمت میں مخلوق کی حاجتوں کے لئے چاہیے اتنی بارش برسائی، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا اور بیشک ہم اسے لے جانے پر قادر ہیں یعنی جیسے اپنی قدرت سے پانی نازل فرمایا ایسے ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو ختم کر دیں تو بندوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکرگزاری سے حفاظت کریں۔^(۱)

فَأَنشَأْنَا لَكُمْ بِهِ جَنَّاتٍ مِّنْ نَّجِيلٍ وَأَعْنَابٍ لَّكُمْ فِيهَا فَاوَاكِهِ كَثِيرَةٌ
وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ۝۱۹ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ
وَصِبْغٍ لِلَّيْلِ ۝۲۰

ترجمہ کنزالایمان: تو اس سے ہم نے تمہارے لئے باغ پیدا کئے کھجوروں اور انگوروں کے تمہارے لئے ان میں بہت سے میوے ہیں اور ان میں سے کھاتے ہو۔ اور وہ پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے لے کر اگتا ہے تیل اور کھانے والوں کے لئے سالن۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو اس پانی سے ہم نے تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کئے۔ تمہارے لئے ان باغوں میں بہت سے پھل میوے ہیں اور ان میں سے تم کھاتے ہو۔ اور (ہم نے) درخت (پیدا کیا) جو طور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لئے سالن لے کر اگتا ہے۔

﴿فَأَنشَأْنَا لَكُمْ﴾: تو ہم نے تمہارے لئے پیدا کئے۔ یعنی جو پانی آسمان سے نازل فرمایا اس سے ہم نے تمہارے لئے کھجوروں اور انگوروں کے باغات پیدا کئے۔ تمہارے لئے ان باغوں میں کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ مزید بہت سے پھل میوے ہیں اور سردی گرمی وغیرہ موسموں میں ان میں سے تم کھاتے ہو اور عیش کرتے ہو۔^(۲)

①.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۱۸، ۳۲۲/۳، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۱۸، ص ۷۵۴، ملقطاً.

②.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۱۹، ۳۲۳/۳، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۱۹، ص ۷۵۴، ملقطاً.

﴿وَشَجَرَةً﴾ اور درخت۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے زیتون کا درخت پیدا کیا جو طورِ سینا نامی پہاڑ سے نکلتا ہے، تیل اور کھانے والوں کے لیے سالن لے کر آگتا ہے۔ یہ اس میں عجیب صفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے کہ تیل کے منافع اور فوائد اس سے حاصل کئے جاتے ہیں، جلایا بھی جاتا ہے، دوا کے طریقے پر بھی کام میں لایا جاتا ہے اور سالن کا بھی کام دیتا ہے کہ تنہا اس سے روٹی کھائی جاسکتی ہے۔^(۱)

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً ۖ نُسُقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿۲۱﴾ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ ﴿۲۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور ان سے تمہاری خوراک ہے۔ اور ان پر اور کشتی پر سوار کیے جاتے ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں اس میں سے پلاتے ہیں جو ان کے پیٹ میں ہے اور تمہارے لیے ان میں بہت فائدے ہیں اور انہی سے تم کھاتے ہو۔ اور ان پر اور کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔

﴿فِي الْأَنْعَامِ﴾: چوپایوں میں۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے منافع سے اپنی قدرتِ کاملہ پر استدلال فرمایا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ بیشک تمہارے لیے چوپایوں میں سمجھنے کا مقام ہے جس کے ذریعے تم عبرت حاصل کر سکتے ہو، ہم تمہیں ان کے پیٹ میں موجود دودھ پلاتے ہیں اور وہ خوشگوار، طبیعت کے موافق لطیف غذا ہے اور تمہارے لیے ان میں اور بھی بہت سے فائدے ہیں کہ ان کے بال، کھال اور اون وغیرہ سے کام لیتے ہو اور انہی میں سے تم بعض چوپایوں کو ذبح کر کے ان کا گوشت بھی کھا لیتے ہو۔^(۲)



۱..... ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ۲۰، ۴/۴۱-۴۲، ملخصاً.

۲..... خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۲۱، ۳/۳۲۳، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۲۱، ص ۷۵۴، ملنقطاً.

نوٹ: اس آیت کی مزید تفصیل جاننے کے لئے سورہ نحل آیت نمبر 66 کے تحت تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

﴿وَعَلَيْهَا: اور ان پر۔﴾ یعنی خشکی میں ان جانوروں پر اور دریاؤں میں کشتیوں پر تمہیں سوار کیا جاتا ہے۔⁽¹⁾

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَقَالَ لِقَوْمِ أَعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنِّ
إِلَٰهِ غَيْرُهُ ۖ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کو پوجو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا تو اس نے فرمایا: اے میری قوم! اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں۔

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ: اور بیشک ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔﴾ اللہ تعالیٰ نے ان آیات سے حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تخلیق کے علاوہ پانچ واقعات بیان فرمائے ہیں۔ پہلا: حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ۔ دوسرا: حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کا۔ تیسرا: قرونِ آخرین کا قصہ۔ چوتھا: حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام کا واقعہ اور پانچواں: حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا واقعہ۔ ان تمام واقعات کو بیان کرنے سے مقصود یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی امت سابقہ امتوں کے حالات سے آگاہ ہوتا کہ ان کے اچھے اوصاف اپنانے کی کوشش کریں اور مذموم اوصاف سے بچیں۔⁽²⁾

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک ہم نے حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو انہوں نے قوم سے فرمایا: اے میری قوم! تم (ایمان قبول کر کے) اللہ عزوجل کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، کیا

1.....مدارک، المؤمنون، تحت الآیة: ۲۲ ص ۷۵۴.

2.....صاوی، المؤمنون، تحت الآیة: ۲۳، ۱۳۶۱/۴.

تم اس کے عذاب سے ڈرتے نہیں جو اس کے سوا اوروں کو پوجتے ہو۔^(۱)

نوٹ: حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے واقعے کی تفصیلات سورہ اعراف آیت نمبر 59 تا 64 اور سورہ ہود

آیت نمبر 25 تا 49 میں گزر چکی ہیں۔

فَقَالَ الْبَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لَا
يُرِيدُ أَنْ يَنْفَضِلَ عَلَيْكُمْ ۖ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَأَنْزَلَ مَلَائِكَةً مَّا سَبَعْنَا
بِهَذَا فِي آبَاءِنَا إِلَّا وَلِيِّينَ ۗ إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَمَا تَبْصُرُونَ
حَتَّىٰ حِينٍ ۚ قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كَدَّبُونِ ۙ

ترجمہ کنزالایمان: تو اس کی قوم کے جن سرداروں نے کفر کیا بولے یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی چاہتا ہے کہ تمہارا بڑا بنے اور اللہ چاہتا تو فرشتے اتارتا ہم نے تو یہ اپنے اگلے باپ داداؤں میں نہ سنا۔ وہ تو نہیں مگر ایک دیوانہ مرد تو کچھ زمانہ تک اس کا انتظار کئے رہو۔ نوح نے عرض کی اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا: یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے جو چاہتا ہے کہ تم پر بڑا بن جائے اور اگر اللہ چاہتا تو وہ فرشتے اتارتا۔ ہم نے تو یہ اپنے پہلے باپ داداؤں میں نہیں سنی۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون (طاری) ہے تو ایک مدت تک اس کا انتظار کر لو۔ نوح نے عرض کی: اے میرے رب! میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔

﴿فَقَالَ﴾: تو کہا۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی قوم کے کافر سرداروں نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے کہ کھاتا اور پیتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم پر

1.....حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۲۳، ۳/۳۲۳، ملخصاً.

بڑا بن جائے اور تمہیں اپنا تابع بنالے اور اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ چاہتا کہ رسول بھیجے اور مخلوق پرستی کی ممانعت فرمائے تو وہ فرشتے اتار دیتا لیکن اس نے ایسا تو نہیں کیا، نیز ہم نے تو اپنے پہلے باپ داداؤں میں یہ بات نہیں سنی کہ بشر بھی رسول ہوتا ہے۔ یہ ان کی حماقت کی انتہاء تھی کہ بشر کا رسول ہونا تو تسلیم نہ کیا، پتھروں کو خدا مان لیا اور انہوں نے حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام کے بارے میں یہ بھی کہا ”یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس پر جنون طاری ہے تو ایک مدت تک انتظار کر لو یہاں تک کہ اس کا جنون دور ہو جائے، ایسا ہوا تو خیر ورنہ اس کو قتل کر ڈالنا۔“ (1)

﴿قَالَ: عَرَضَ لِي-﴾ جب حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام کو ان لوگوں کے ایمان لانے اور ان کے ہدایت پانے کی امید نہ رہی تو حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَام نے عرض کی: اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، میری مدد فرما اور اس قوم کو ہلاک کر دے کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ (2)

فَاَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحِينَا فَإِذَا جَاءَ أَمْرُنَا
وَفَارَ التَّنُورُ فَاسْلُكْ فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ وَأَهْلَكَ إِلَّا
مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ مِنْهُمْ ج وَلَا تَخَاطِبُنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا ج
إِنَّهُمْ مُّعْرِضُونَ ﴿۲۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو ہم نے اسے وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنور ابلے تو اس میں بٹھالے ہر جوڑے میں سے دو اور اپنے گھر والے لگرا ان میں سے وہ جن پر بات پہلے پڑ چکی اور ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا یہ ضرور ڈبوئے جائیں گے۔

1..... مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۲۴-۲۵، ص ۷۵۵، ملخصاً.

2..... مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۲۶، ص ۷۵۵.

ترجمہ کنزالعرفان: تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی کہ ہماری نگاہ کے سامنے اور ہمارے حکم سے کشتی بنا پھر جب ہمارا حکم آئے اور تنوراہل پرے تو کشتی میں ہر جوڑے میں سے دو اور اپنے گھر والوں کو داخل کر لو سوائے ان میں سے ان لوگوں کے جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے اور ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا، یہ ضرور غرق کئے جانے والے ہیں۔

﴿فَاذْحِبْنَا إِلَيْهِ: تو ہم نے اس کی طرف وحی بھیجی۔﴾ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے دعا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرماتے ہوئے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم ہماری حمایت و حفاظت میں اور ہمارے حکم سے کشتی بناؤ پھر جب ان کی ہلاکت کا ہمارا حکم آئے اور عذاب کے آثار نمودار ہوں اور تنوراہل لگ جائے اور اس میں سے پانی برآمد ہو تو یہ عذاب کے شروع ہونے کی علامت ہے، تو اس وقت کشتی میں ہر طرح کے جانوروں کے جوڑے میں سے نر اور مادہ اور اپنے گھر والوں یعنی اپنی مومنہ بیوی اور ایماندار اولاد یا تمام مومنین کو داخل کر لو، البتہ ان میں سے ان لوگوں کو سوار نہ کرنا جن پر بات پہلے طے ہو چکی ہے اور کلامِ ازلی میں ان پر عذاب اور ہلاکت مُعَيَّن ہو چکی ہے۔ اس سے مراد حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کا کنعان نامی ایک بیٹا اور ایک بیوی ہیں کہ یہ دونوں کافر تھے، چنانچہ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنے تین فرزندوں سام، حام، یافث اور ان کی بیویوں کو اور دوسرے مومنین کو سوار کیا، کل لوگ جو کشتی میں تھے ان کی تعداد ایک قول کے مطابق 80 تھی نصف مرد اور نصف عورتیں۔ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام سے مزید ارشاد فرمایا کہ ان ظالموں کے معاملہ میں مجھ سے بات نہ کرنا اور ان کے لئے نجات طلب کرنا نہ دعا فرمانا، یہ ضرور غرق کئے جانے والے ہیں۔^(۱)

نوٹ: اس واقعے کی مزید تفصیل سورہ ہود کی آیت نمبر 37 تا 40 میں ملاحظہ فرمائیں۔

فَإِذَا اسْتَوَيْتَ أَنْتَ وَمَنْ مَعَكَ عَلَى الْفُلِّ فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي

نَجَّانَا مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۲۸﴾

1.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۲۷، ۳ / ۳۲۴، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۲۷، ص ۷۵۵ - ۷۵۶، جلالین مع صاوی، ہود، تحت الآية: ۴۰، ۳ / ۹۱۳، ملتقطاً.

ترجمہ کنزالایمان: پھر جب ٹھیک بیٹھے کشتی پر تو اور تیرے ساتھ والے تو کہہ سب خوبیاں اللہ کو جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر جب تم اور تمہارے ساتھ والے کشتی پر ٹھیک بیٹھ جاؤ تو تم کہنا تمام تعریفیں اس اللہ کیلئے جس نے ہمیں ان ظالموں سے نجات دی۔

﴿فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ﴾: تو تم کہنا تمام تعریفیں اللہ کیلئے ہیں۔ ﴿کافروں سے نجات حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے تمام لوگوں کو نصیب ہوئی لیکن اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے کا حکم صرف حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو دیا گیا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام ان کے نبی اور امام تھے تو ان کا حمد و ثنا کرنا ان ایمان والوں کا حمد و ثنا کرنا ہے نیز اس میں اللہ تعالیٰ کی کبریائی اور ربوبیت اور نبوت کی عظمت و فضیلت کی طرف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونا وہ عظیم رتبہ ہے جو فرشتے اور نبی کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوتا۔^(۱) نیز بحیثیت نبی حمد کا حکم حضرت نوح علیہ السلام کو ہوا تو امت نے اس کی پیروی کرنی تھی۔

وَقُلْ سَبِّ اَنْزَلْنِي مُنْزَلًا مُّبْرَكًا وَاَنْتَ خَيْرُ الْمُنْزِلِينَ ﴿۲۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور عرض کر کہ اے میرے رب مجھے برکت والی جگہ اتار اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور عرض کرنا: اے میرے رب! مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔

﴿وَقُلْ﴾: اور عرض کرنا۔ ﴿یعنی کشتی سے اترتے وقت یا اس میں سوار ہوتے وقت عرض کرنا کہ: اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، مجھے برکت والی جگہ اتار دے اور تو سب سے بہتر اتارنے والا ہے۔ کشتی میں سوار ہوتے وقت کی برکت عذاب سے نجات ہے اور کشتی سے اترتے وقت کی برکت نسل کی کثرت اور پے در پے بھلائیوں کا ملنا ہے۔^(۲)

①.....تفسیر کبیر، المؤمنون، تحت الآیة: ۲۸، ۲۷۳/۸.

②.....مدارک، المؤمنون، تحت الآیة: ۲۹، ص ۷۵۶.

اس آیت میں اشارہ ہے کہ ہر مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ایسی برکت والی جگہ کی دعا مانگنی چاہئے جس میں اس کے لئے دین اور دنیا دونوں کی برکتیں ہوں۔^(۱)

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَبَدِيلِينَ ﴿۳۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بیشک ضرور ہم جانچنے والے تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اور بیشک ہم ضرور آزمانے والے تھے۔

﴿إِنَّ فِي ذَلِكَ﴾ بیشک اس میں۔ یعنی حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کے واقعے میں اور اس میں جو دشمنانِ حق کے ساتھ کیا گیا ضرور نشانیاں، عبرتیں، نصیحتیں اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں اور بیشک ہم حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کو اس قوم میں بھیج کر اور ان کو وعظ و نصیحت پر مامور فرما کر انہیں ضرور آزمانے والے تھے تاکہ ظاہر ہو جائے کہ عذاب نازل ہونے سے پہلے کون نصیحت قبول کرتا اور تصدیق و اطاعت کرتا ہے اور کون نافرمان تکذیب و مخالفت پر ڈٹا رہتا ہے۔^(۲)

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ ﴿۳۱﴾ فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِ اعْبُدُوا لِلَّهِ مَا لَكُمْ مِنَ الْغَيْرِ ؕ أَفَلَا تَتَّقُونَ ﴿۳۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگت پیدا کی۔ تو ان میں ایک رسول انہیں میں سے بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں تو کیا تمہیں ڈر نہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر ان کے بعد ہم نے ایک دوسری قوم پیدا کی۔ تو ہم نے ان میں ایک رسول انہیں میں سے بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم ڈرتے نہیں؟

①.....روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۳۰، ۸۱/۶.

②.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۳۰، ۳۲۴/۳، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۳۰، ص ۷۵۶، ملقطاً.

﴿ثُمَّ: پھر۔﴾ یعنی حضرت نوح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے اور اس کی ہلاکت کے بعد ہم نے پھر ایک دوسری قوم پیدا کی اور وہ حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم عادیہ ہے۔^(۱)

نوٹ: حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام اور قوم عاد کا واقعہ سورہ اعراف آیت نمبر 65 تا 72 اور سورہ ہود آیت نمبر 50 تا 60 میں گزر چکا ہے۔

﴿فَاَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا: تو ہم نے ان میں ایک رسول بھیجا۔﴾ یعنی ہم نے قوم عاد میں انہیں میں سے ایک رسول بھیجا، جن کا نام حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام ہے اور ان کی معرفت اس قوم کو حکم دیا کہ اللہ عزوجل کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں تو کیا تم اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈرتے نہیں؟ تاکہ شرک چھوڑ کر ایمان قبول کر لو۔^(۲)

وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِإِيقَاعِ الْآخِرَةِ وَ
 أَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ لَا يَأْكُلُ مِمَّا
 تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ^(۳۳) وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ
 إِنَّكُمْ إِذًا لَخَسِرُونَ^(۳۴)

ترجمہ کنزالایمان: اور بولے اس قوم کے سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی حاضری کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں دنیا کی زندگی میں چین دیا کہ یہ تو نہیں مگر تم جیسا آدمی جو تم کھاتے ہو اسی میں سے کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے پیتا ہے۔ اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو جب تو تم ضرور گھاٹے میں ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اس کی قوم کے وہ سردار بولے جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا اور ہم نے انہیں

①..... روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۳۱، ۸۱/۶.

②..... روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۳۲، ۸۱/۶، ملخصاً.

دنیا کی زندگی میں خوشحالی عطا فرمائی (بولے): یہ تو تمہارے جیسا ہی ایک آدمی ہے، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے۔ اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہو گے۔

﴿وَقَالَ: اور بولے۔﴾ یہاں سے حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے کافر سرداروں کے شبہات بیان کئے گئے ہیں، اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعوت سن کر ان کی قوم کے وہ سردار جنہوں نے کفر کیا اور آخرت کی ملاقات اور وہاں کے ثواب و عذاب وغیرہ کو جھٹلایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں عیش کی وسعت اور دنیا کی نعمت عطا فرمائی تھی، یہ اپنے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں اپنی قوم کے لوگوں سے کہنے لگے ”یہ تو تمہارے جیسے ہی ایک آدمی ہیں، جو تم کھاتے ہو اسی میں سے یہ کھاتا ہے اور جو تم پیتے ہو اسی میں سے یہ پیتا ہے۔ یعنی اگر یہ نبی ہوتے تو فرشتوں کی طرح کھانے پینے سے پاک ہوتے۔ ان باطن کے اندھوں نے کمالاتِ نبوت کو نہ دیکھا اور کھانے پینے کے اوصاف دیکھ کر نبی کو اپنی طرح بشر کہنے لگے اور یہی چیز ان کی گمراہی کی بنیاد ہوئی، چنانچہ اسی سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپس میں کہنے لگے ”اور اگر تم کسی اپنے جیسے آدمی کی بات مان کر اس کی اطاعت کرو گے جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہو گے۔“ (۱)

آیت ”وَقَالَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ“ سے معلوم ہونے والی باتیں

اس سے دو باتیں معلوم ہوئیں:

- (۱)..... ہمیشہ مالدار، سردار، دنیاوی عزت والے زیادہ تر لوگ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے مخالف ہوئے۔
- غریب و مساکین زیادہ مومن ہوئے، اب بھی یہی دیکھا جا رہا ہے کہ عموماً غریب لوگ ہی دینی کام زیادہ کرتے ہیں۔
- (۲)..... نبی کو اپنے جیسا بشر کہنا اور ان کے ظاہری کھانے پینے کو دیکھنا، باطنی اسرار کو نہ دیکھنا، ہمیشہ سے کفار کا کام رہا ہے۔ پہلی بار شیطان نے نبی کو بشر کہا، پھر ہمیشہ کفار نے ایسا کہا۔

﴿إِنَّكُمْ إِذَا لَحِيسُونَ﴾: جب تو تم ضرور خسارہ پانے والے ہو گے۔ یعنی خدا کی قسم! اگر تم نے اس کے احکامات کی

۱..... مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۳۳-۳۴، ص ۷۵۷، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ۳۳-۳۴، ۸۲/۶، ملقطاً.

پیروی کی تو اس صورت میں اپنے آپ کو ذلت میں ڈال کر تم ضرور خسارہ پانے والے ہو گے۔^(۱)

کافر بہت بڑا بے عقل ہے

اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پیروی سے دونوں جہاں میں سعادتیں نصیب ہوتی ہیں لیکن ان بیوقوفوں نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت میں اپنی ناکامی جبکہ پتھروں کی عبادت میں کامیابی سمجھی، اس سے معلوم ہوا کہ کافر بہت بڑا بے عقل ہوتا ہے۔

أَيْعِدْكُمْ أَنْتُمْ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وَعِظَامًا أَنْتُمْ مُخْرَجُونَ ﴿۳۵﴾
هِيَ بَاتٍ هِيَ بَاتٍ لِبِأْتِ وَعِدُونَ ﴿۳۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے اس کے بعد پھر نکالے جاؤ گے۔ کتنی دُور ہے کتنی دُور ہے جو تمہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے کہ تم جب مر جاؤ گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جاؤ گے (اس کے بعد پھر) تم نکالے جاؤ گے۔ جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے وہ بہت دور ہے۔

﴿أَيْعِدْكُمْ﴾: کیا تمہیں یہ وعدہ دیتا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے کافر سرداروں نے حشر کے صحیح ہونے پر اعتراض کرتے ہوئے کہا ”کیا تمہیں یہ کہا جاتا ہے کہ جب تم مر جاؤ گے اور تمہارا گوشت پوست سب مٹی ہو جائے گا اور ہڈیاں باقی رہ جائیں گی، اس کے بعد پھر تم قبروں سے زندہ نکالے جاؤ گے۔ انہوں نے صرف اتنی بات کہنے کو کافی نہ سمجھا بلکہ مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کو بہت بعید جانا اور کہا ”قبروں سے نکالے جانے کا جو وعدہ تم سے کیا جا رہا ہے وہ بہت دور ہے، وہ بہت دور ہے۔“^(۲)

۱..... روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۳۴، ۸۲/۶.

۲..... تفسیر کبیر، المؤمنون، تحت الآية: ۳۵-۳۶، ۲۷۶/۸، روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۳۵-۳۶، ۸۲/۶، ملتقطاً.

إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا نَمُوتُ وَنَحْيَا وَمَا نَحْنُ بِبَعُوثَيْنِ ﴿۳۷﴾
 إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ ﴿۳۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: وہ تو نہیں مگر ہماری دنیا کی زندگی کہ ہم مرتے جیتے ہیں اور ہمیں اٹھنا نہیں۔ وہ تو نہیں مگر ایک مرد جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور ہم اسے ماننے کے نہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے، ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہم اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ یہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے اور ہم اس کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔

﴿إِنَّ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا﴾: زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ ﴿أَنْ سَرَدَارُونَ﴾: مرنے کے بعد زندہ ہونے کو بہت بعید جانا اور سمجھا کہ ایسا کبھی ہونے والا ہی نہیں اور اسی باطل خیال کی بنا پر کہنے لگے کہ زندگی تو صرف ہماری دنیا کی زندگی ہے۔ اس سے ان کا مطلب یہ تھا کہ اس دُنْیوی زندگی کے سوا اور کوئی زندگی نہیں صرف اتنا ہی ہے، ہم مرتے جیتے ہیں کہ ہم میں کوئی مرتا ہے کوئی پیدا ہوتا ہے اور ہم مرنے کے بعد اٹھائے جانے والے نہیں ہیں۔ (1)

﴿إِنَّ هُوَ إِلَّا رَجُلٌ﴾: یہ تو صرف ایک مرد ہے۔ ﴿كَافِرٍ سَرَدَارُونَ﴾: اپنے رسول حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کے بارے میں یہ کہا کہ وہ تو صرف ایک ایسا مرد ہے جس نے اللہ عَزَّوَجَلَّ پر جھوٹ باندھا ہے کہ اپنے آپ کو اس کا نبی بتایا اور مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کی خبر دی اور ہم اس کی بات کا یقین کرنے والے نہیں ہیں۔ (2)

قَالَ رَبِّ انصُرْنِي بِمَا كُنتُ بِدُونِ ﴿۳۹﴾ قَالَ عَمَّا قَلِيلٍ لَيُصْبِحُنَّ
 نَدِيمِينَ ﴿۴۰﴾ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُرَاءً ﴿۴۱﴾ فَبُعْدًا

1.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۳۷، ۳۲۵/۳، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۳۷، ص ۷۵۷، ملتقطاً.

2.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۳۸، ص ۷۵۷.

لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۳۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: عرض کی کہ اے میرے رب میری مدد فرما اس پر کہ انہوں نے مجھے جھٹلایا۔ اللہ نے فرمایا کچھ دیر جاتی ہے کہ یہ صبح کریں گے پچھتاتے ہوئے۔ تو انہیں آلیا سچی چنگھاڑنے تو ہم نے انہیں گھاس کوڑا کر دیا تو دور ہوں ظالم لوگ۔

ترجمہ کنزالعرفان: عرض کی: اے میرے رب! میری مدد فرما کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے۔ اللہ نے فرمایا: تھوڑی دیر میں یہ پچھتانے والے ہو جائیں گے۔ تو سچی چنگھاڑنے انہیں پکڑ لیا تو ہم نے انہیں سوکھی گھاس کوڑا بنا دیا تو ظالم لوگوں کیلئے دوری ہو۔

﴿قَالَ: عَرْضُ كِي۔﴾ جب حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کو ان کے ایمان لانے کی امید نہ رہی اور انہوں نے دیکھا کہ قوم انتہائی سرکشی پر ہے تو ان کے خلاف دعا کی اور بارگاہِ الہی میں عرض کی: اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، میری مدد فرما اور انہیں ہلاک کر دے کیونکہ انہوں نے مجھے جھٹلایا ہے اور وہ اسی پر قائم ہیں۔^(۱)

﴿قَالَ: اللّٰهُ نَعْمَ مَا يَأْتِي۔﴾ اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا قبول فرمائی اور ان سے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ تھوڑی دیر میں جب اللہ تعالیٰ کا عذاب دیکھیں گے تو یہ اپنے کفر اور تکذیب پر پچھتانے والے ہو جائیں گے۔^(۲)

﴿فَاخَذَتْهُمْ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ:﴾ تو سچی چیخ نے انہیں پکڑ لیا۔ ﴿آیۃ کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ حضرت ہود علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم کے لوگ عذاب اور ہلاکت میں گرفتار کئے گئے اور وہ ہلاک ہو کر گھاس کوڑے کی طرح ہو گئے تو انبیاءِ کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کرنے والے ظالم لوگوں کے لئے خدا کی رحمت سے دوری ہے۔^(۳)

ثُمَّ أَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قُرُونًا آخَرِينَ ﴿۳۲﴾ مَا تَسْبِقُ مِنْ أُمَّةٍ أَجَلَهَا

①.....ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ۳۹، ۴۸/۴.

②.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۴۰، ص ۷۵۷.

③.....نخازن، المؤمنون، تحت الآية: ۴۱، ۳۲۵/۳، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ۴۱، ۸۳/۶، ملتقطاً.

وَمَا يَسْتَأْخِرُونَ ۝

ترجمہ کنزالایمان: پھر ان کے بعد ہم نے اور سنگتیں پیدا کیں۔ کوئی امت اپنی میعاد سے نہ پہلے جائے نہ پیچھے رہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: پھر ان کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں پیدا کیں۔ کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ پیچھے رہتے ہیں۔

﴿ثُمَّ أَنشَأْنَا: پھر ہم نے پیدا کیں۔﴾ یعنی قوم عاد کی ہلاکت کے بعد ہم نے دوسری بہت سی قومیں جیسے حضرت صالح علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم، حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم اور حضرت شعیب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم وغیرہ پیدا کیں تاکہ لوگوں پر ہماری قدرت ظاہر ہو اور ہر امت جان لے کہ ہم ان سے بے نیاز ہیں، اگر وہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت قبول کرتے اور رسولوں علیہم الصلوٰۃ والسلام کی اطاعت کرتے ہیں تو اس کا انہیں ہی فائدہ ہوگا۔^(۱)

﴿مِنْ أُمَّةٍ: کوئی امت۔﴾ ارشاد فرمایا کہ کوئی امت اپنی مدت سے نہ پہلے جاتی ہے اور نہ وہ لوگ اس مدت سے پیچھے رہتے ہیں، جس امت کے لئے ہلاک ہونے کا جو وقت مقرر ہے وہ ٹھیک اسی وقت ہلاک ہوگی اس میں کچھ بھی تقدیم و تاخیر نہیں ہو سکتی۔^(۲)

ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا ۖ كُلَّمَا جَاءَ أُمَّةً رَّسُولَهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا

بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ ۖ وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ۖ فَبَعَدَ الْقَوْمَ لَّا يُؤْمِنُونَ ۝

ترجمہ کنزالایمان: پھر ہم نے اپنے رسول بھیجے ایک پیچھے دوسرا جب کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے انہوں سے پچھلے ملا دیئے اور انہیں کہانیاں کر ڈالا تو دور ہوں وہ لوگ کہ ایمان نہیں لاتے۔

①..... روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۴۲، ۸۴/۶.

②..... مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۴۳، ص ۷۵۸.

ترجیہ کنزالعرفان: پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے۔ جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے اسے جھٹلایا تو ہم نے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور انہیں داستانیں بنا ڈالا تو ایمان نہ لانے والے دور ہوں۔

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا﴾ پھر ہم نے لگاتار اپنے رسول بھیجے۔ یعنی جس طرح ہم نے ایک کے بعد دوسری قوم کو پیدا کیا اسی حساب سے ہم نے ان میں لگاتار اپنے رسول بھیجے اور جب کبھی کسی امت کے پاس اس کا رسول آیا تو انہوں نے پہلوں کی طرح اسے جھٹلایا اور اس کی ہدایت کو نہ مانا اور اس پر ایمان نہ لائے تو ہم نے انہیں ہلاک کر کے ایک کو دوسرے سے ملا دیا اور بعد والوں کو پہلوں کی طرح ہلاک کر دیا اور انہیں داستانیں بنا ڈالا کہ بعد والے افسانے کی طرح ان کا حال بیان کیا کریں اور ان کے عذاب اور ہلاکت کا بیان عبرت کا سبب ہو تو ایمان نہ لانے والے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوں۔ (۱)

جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جس طرح جنت کی نعمتیں ملنے اور جہنم کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ایمان لانا ہے اسی طرح دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہونے کا سبب ایمان نہ لانا ہے، لہذا ہر عقل مند انسان پر لازم ہے کہ وہ کفر کر کے اپنی جان کے ساتھ دشمنی نہ کرے بلکہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت، سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت اور تمام ضروریات دین پر ایمان لا کر عقلمندی کا ثبوت دے اور اپنی جان کو ہلاکت سے بچائے۔

ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ وَأَخَاهُ هَارُونَ بِآيَاتِنَا وَسُلْطٰنٍ مُّبِينٍ ﴿٢٥﴾ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا عَالِينَ ﴿٢٦﴾ ج

ترجیہ کنزالایمان: پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن سند کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے غرور کیا اور وہ لوگ غلبہ پائے ہوئے تھے۔

1.....تفسیر کبیر، المؤمنون، تحت الآیة: ۴۴، ۲۷۸/۸، روح البیان، المؤمنون، تحت الآیة: ۴۴، ۸۴/۶-۸۵، ملتقطاً.

ترجمہ کنزالعرفان: پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی ہارون کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل کے ساتھ بھیجا۔ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔

﴿ثُمَّ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ﴾ پھر ہم نے موسیٰ کو بھیجا۔ ﴿یہاں سے حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا واقعہ بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اس سے پہلی آیت میں جن رسولوں عَلَیْہِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کا ذکر ہوا ان کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ اور ان کے بھائی حضرت ہارون عَلَیْہِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو اپنی آیتوں اور روشن دلیل جیسے عصا اور روشن ہاتھ وغیرہ معجزات کے ساتھ فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا تو فرعون اور اس کے درباریوں نے غرور کیا اور اپنے تکبر کے باعث ایمان نہ لائے اور وہ بنی اسرائیل پر اپنے ظلم و ستم سے غلبہ پائے ہوئے لوگ تھے۔^(۱)

نوٹ: یاد رہے کہ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون عَلَیْہِمَا الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے واقعات متعدد سورتوں میں گزر چکے ہیں۔

فَقَالُوا أَنُؤْمِنُ بِبَشَرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَا لَنَا عِبَادُونَ ﴿۳۷﴾ فَكَذَّبُوهُمَا
فَكَانُوا مِنَ الْبٰهْلِکِیْنَ ﴿۳۸﴾ وَ لَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتٰبَ لَعَلَّهُمْ
يَهْتَدُونَ ﴿۳۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو بولے کیا ہم ایمان لے آئیں اپنے جیسے دو آدمیوں پر اور ان کی قوم ہماری بندگی کر رہی ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کیے ہوؤں میں ہو گئے۔ اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی کہ ان کو ہدایت ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو کہنے لگے: کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم ہماری اطاعت

1..... تفسیر طبری، المؤمنون، تحت الآیة: ۴۵-۴۶، ۲۱۶/۹، ملخصاً.

گزار ہے۔ تو انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک کئے جانے والوں میں سے ہو گئے۔ اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تاکہ (بنی اسرائیل) ہدایت پا جائیں۔

﴿فَقَالُوا: تَوَكَّنْهُ لَكَ﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام نے انہیں ایمان کی دعوت دی تو کہنے لگے ”کیا ہم اپنے جیسے دو آدمیوں یعنی حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما الصلوٰۃ والسلام پر ایمان لے آئیں حالانکہ ان کی قوم بنی اسرائیل ہمارے زیر فرمان ہے، تو یہ کیسے گوارا ہو کہ اسی قوم کے دو آدمیوں پر ایمان لا کر ان کے اطاعت گزار بن جائیں۔ یہ لوگ اپنی تکذیب پر قائم رہے یہاں تک کہ دریا میں غرق ہو کر ہلاک کئے جانے والوں میں سے ہو گئے۔“ (1)

﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ﴾ اور بیشک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ ہم نے فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کے بعد حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کو کتاب یعنی توریت شریف عطا فرمائی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی قوم بنی اسرائیل اس کے احکامات پر عمل کر کے سیدھے راستے کی ہدایت پا جائیں۔“ (2)

وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً وَآوَيْنَهُمَا إِلَىٰ رَبْوَةٍ ذَاتِ قَرَارٍ

مَعِينٍ ﴿۵۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی کیا اور انہیں ٹھکانا دیا ایک بلند زمین جہاں بسنے کا مقام اور نگاہ کے سامنے بہتا پانی۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور ہم نے مریم اور اس کے بیٹے کو نشانی بنا دیا اور انہیں ایک بلند رہائش کے قابل اور آنکھوں کے سامنے بہتے پانی والی سرزمین میں ٹھکانہ دیا۔

1.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۴۷-۴۸، ۳۲-۳۳، ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ۴۷-۴۸، ۴۹/۴-۵۰، ملقطاً.

2.....روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ۴۹، ۸۶/۶.

﴿وَجَعَلْنَا: اور ہم نے بنا دیا۔﴾ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور ان کے بیٹے حضرت عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو اپنی قدرت کی نشانی بنا دیا۔ حضرت مریم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ انہیں کسی مرد نے نہ چھوا لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ میں حمل پیدا فرمادیا اور حضرت عِيسَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کا نشانی ہونا اس طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بغیر باپ کے پیدا فرمایا، جھولے میں انہیں کلام کرنے کی طاقت دی اور ان کے دستِ اقدس سے پیدائشی اندھوں اور کوڑھ کے مریضوں کو شفا دی اور مردوں کو زندہ فرمایا۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ہم نے انہیں ایک بلند، ہموار، کشادہ اور پھلوں والی جگہ دی جو ان چیزوں کی وجہ سے رہائش کے قابل تھی نیز وہاں آنکھوں کے سامنے پانی بہ رہا تھا جو خوبصورتی کی علامت بھی ہے اور قابل رہائش ہونے کی بھی۔ ایک قول کے مطابق اس سرزمین سے مراد بَيْتُ الْمَقْدَس ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک اس سے دمشق یا فلسطین کی سرزمین مراد ہے۔ اس بارے میں اور بھی کئی قول ہیں۔^(۱)

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝۵۱

ترجمہ کنزالایمان: اے پیغمبرو پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا کام کرو، بیشک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔

﴿يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ: اے رسولو!﴾ یہ حکم تمام رسولوں کو تھا جیسا کہ آگے حدیث نمبر چار سے واضح ہے۔ البتہ بطورِ نداء مخاطب کئے جانے کے اعتبار سے بعض مفسرین کے نزدیک اس آیت میں رسولوں سے مراد تمام رسول ہیں اور ہر ایک رسول کو ان کے زمانے میں یہ نداء فرمائی گئی۔ ایک قول یہ ہے کہ رسولوں سے مراد خاص سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہیں اور

1.....تفسیر کبیر، المؤمنون، تحت الآیة: ۵۰، ۲۷۹/۸ - ۲۸۰، خازن، المؤمنون، تحت الآیة: ۵۰، ۳۲۶/۳، مدارک، المؤمنون، تحت الآیة: ۵۰، ص ۷۵۸-۷۵۹، ملقطاً.

ایک قول یہ ہے کہ ان سے مراد حضرت عیسیٰ عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں۔ ان کے علاوہ اور بھی کئی قول ہیں۔ پاکیزہ چیزوں سے مراد حلال چیزیں اور اچھے کام سے مراد شریعت کے احکام پر استقامت کے ساتھ عمل کرنا ہے۔^(۱)

پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور ناپاک و حرام چیزیں کھانے کی مذمت

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسولوں عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کو پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کا حکم دیا اور قرآن مجید میں دوسرے مقام پر یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو بھی دیا ہے، اس مناسبت سے یہاں پاکیزہ و حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور ناپاک و حرام اشیاء کھانے کی مذمت پر مشتمل 4 احادیث ملاحظہ ہوں۔

(1)..... حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جو شخص پاکیزہ (یعنی حلال) چیز کھائے اور سنت کے مطابق عمل کرے اور لوگ اس کے شر سے محفوظ رہیں تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔“⁽²⁾

(2)..... حضرت ابوبکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”ہر وہ جسم جو حرام سے پلا بڑھا تو آگ اس سے بہت قریب ہوگی۔“⁽³⁾

(3)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”تم میں سے کوئی شخص اپنے منہ میں مٹی ڈال لے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اپنے منہ میں ایسی چیز ڈالے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے۔“⁽⁴⁾

(4)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ پاک ہے اور پاک چیز کے سوا اور کسی چیز کو قبول نہیں فرماتا اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہی حکم دیا ہے جو رسولوں کو حکم دیا تھا اور فرمایا:

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُّوْا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا

ترجیہ کنز العرفان: اے رسولو! پاکیزہ چیزیں کھاؤ اور اچھا

①..... مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۵۱، ص ۷۵۹، حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۵۱، ۳/۳۲۶، ملتقطاً.

②..... ترمذی، کتاب صفة القيامة والرقائق والورع، ۶۰-باب، ۴/۲۳۳، الحدیث: ۲۵۲۸.

③..... شعب الایمان، التاسع والثلاثون من شعب الایمان... الخ، فصل فی طیب المطعم والملبس، ۵/۵۶، الحدیث: ۵۷۵۹.

④..... شعب الایمان، التاسع والثلاثون من شعب الایمان... الخ، فصل فی طیب المطعم والملبس، ۵/۵۷، الحدیث: ۵۷۶۳.

صَالِحًا إِنِّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

اور فرمایا:

کام کرو، بیشک میں تمہارے کاموں کو جانتا ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا
رَزَقْنَاكُمْترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو! ہماری دی ہوئی سٹھری
چیزیں کھاؤ۔

پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسے شخص کا ذکر فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال غبار آلود
ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا کر کہتا ہے ”یارب! یارب! اور اس کا کھانا پینا حرام ہو، اس کا لباس حرام ہو، اس کی غذا
حرام ہو تو اس کی دعا کہاں قبول ہوگی۔“^(۱)

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو حلال رزق کھانے اور حرام رزق سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، امین۔

حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی توفیق ملنے کی دعا

حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جبریل
امین علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ آپ یہ دو دعائیں مانگا کریں: ”اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي طَيِّبًا وَاسْتَعْمِلْنِي صَالِحًا“
یعنی اے اللہ! مجھے پاکیزہ رزق عطا فرما اور مجھے نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔“^(۲)

عبادت کرنے سے کوئی مستغنی نہیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر بھی عبادات فرض تھیں، لہذا کوئی شخص خواہ وہ
کسی درجہ کا ہو عبادت سے مستغنی نہیں ہو سکتا۔ اس سے ان لوگوں کو عبرت و نصیحت حاصل کرنے کی بہت ضرورت ہے
جو فقیروں کا لبادہ اوڑھ کر اور اللہ تعالیٰ کے کامل اولیاء جیسی شکل و صورت بنا کر یہ دعوے کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کی
بارگاہ میں قرب کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو مقام
انبیاء کرام اور رسولوں علیہم الصلوٰۃ والسلام کو حاصل ہے وہ کسی ولی اور صحابی کو حاصل نہیں ہو سکتا اور نہ ہی کوئی کامل ولی
ان کے مقام تک پہنچنے کا دعویٰ کر سکتا ہے تو جب انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر عبادات فرض رہیں اور انہیں کوئی

۱.....مسلم، کتاب الزکاة، باب قبول الصدقة من الکسب الطیب و تربیتها، ص ۵۰۶، الحدیث: ۶۵ (۱۰۱۵)۔

۲.....نوادیر الاصول، الاصل الثانی والستون المائة، ۶۳۹/۱، الحدیث: ۸۹۶۔

عبادت معاف نہ ہوئی تو یہ بناوٹی صوفی کس منہ سے دعویٰ کر رہا ہے کہ اب اس پر کوئی عبادت فرض نہیں رہی۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ ﴿۵۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں تو مجھ سے ڈرو۔

﴿وَإِنَّ هَذِهِ﴾ اور بیشک یہ۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اے لوگو! تم جس دین پر ہو یعنی دین اسلام، یہ ایک ہی دین ہے، اسی دین پر تمام انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اور ان پر ایمان لانے والے تھے۔^(۱) مراد یہ ہے کہ اصولی عقائد میں کسی کا اختلاف نہیں، اس اعتبار سے سب متفق ہیں، البتہ ان کی شریعتوں میں فروعی احکام اور عبادت کے طریقوں میں جو اختلاف ہے اسے دین میں اختلاف نہیں کہا جاتا۔

فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا ۖ كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿۵۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا ہر گروہ جو اس کے پاس پر خوش ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو ان کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے۔

﴿فَتَقَطَّعُوا﴾ تو ان کی امتوں نے ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ یعنی اللہ عزوجل کا دین ایک ہی ہے البتہ ان انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی امتوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا اور یہودی، عیسائی، مجوسی وغیرہ فرقے فرقی ہو گئے۔ معنی یہ ہے کہ ہر قوم نے ایک کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، صرف اسی پر ایمان لائے اور دیگر کتابوں کا انکار کر دیا۔ ہر گروہ

①.....تفسیر سمرقندی، المؤمنون، تحت الآية: ۵۲، ۴۱۵/۲.

اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے اور اپنے ہی آپ کو حق پر جانتا ہے اور دوسروں کو باطل پر سمجھتا ہے۔ اس طرح ان کے درمیان دینی اختلافات ہیں۔^(۱)

اسی طرح امتیں یوں بھی ٹکڑوں میں بٹیں کہ فرقوں میں بٹ گئیں اور اپنے دین کی اپنی اپنی تشریحات بنا لیں جیسے یہودیوں اور عیسائیوں میں ہوا کہ بیسیوں فرقوں میں بٹ گئے۔ دین کی یہ تفریق بھی حرام ہے۔ اس حوالے سے یہاں دو احادیث ذکر کی جاتی ہیں۔

(۱)..... حضرت معاویہ بن سفیان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں ”تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہمارے درمیان کھڑے ہوئے اور فرمایا ”خبردار ہو جاؤ! تم سے پہلے اہل کتاب بہتر فرقوں میں بٹ گئے تھے اور عنقریب یہ امت بہتر فرقوں میں بٹ جائے گی، بہتر فرقے تو جہنم میں جائیں گے اور ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا اور وہ سب سے بڑی جماعت ہے۔“ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ عنقریب میری امت میں ایسے لوگ نکلیں گے کہ گمراہی ان میں یوں سرایت کر جائے گی جیسے باؤلے کتے کے کاٹے ہوئے آدمی کے جسم میں زہر سرایت کر جاتا ہے۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ جیسے کتے کے کاٹے ہوئے کے جسم میں زہر داخل ہو جاتا ہے کہ کوئی رگ اور کوئی جوڑا اس سے نہیں بچتا۔^(۲)

(۲)..... حضرت عمر باض بن سار یہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ایک دن صبح کی نماز کے بعد نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ہمیں انتہائی بلیغ و عظیم فرمایا جس سے ہر آنکھ سے آنسو رواں ہو گئے اور سب کے دل لرز گئے۔ ایک صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے عرض کی: یہ تو اس شخص کی نصیحت کی طرح ہے جو رخصت ہو رہا ہو۔ یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ ہمیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”میں تمہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی وصیت کرتا ہوں اور اگر کوئی حبشی غلام تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے تو اس کا بھی حکم سننا اور اس کی اطاعت کرنا۔ بے شک تم میں سے جو شخص زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ تم (شریعت کے خلاف) نئی باتوں سے بچتے رہنا کیونکہ یہ گمراہی ہے۔ تم میں جو شخص یہ زمانہ پائے اسے میرا اور میرے ہدایت یافتہ اور ہدایت دینے والے خلفاء کا طریقہ اختیار کرنا چاہئے اور تم سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو۔“^(۳)

①..... تفسیر سمرقندی، المؤمنون، تحت الآیة: ۵۳، ۴۱۵/۲، حازن، المؤمنون، تحت الآیة: ۵۳، ۳۲۷/۳، ملتقطاً.

②..... ابو داؤد، کتاب السنۃ، باب شرح السنۃ، ۲۶۳/۴، الحدیث: ۴۵۹۷.

③..... ترمذی، کتاب العلم، باب ما جاء فی الاخذ بالسنۃ واجتناب البدع، ۳۰۸/۴، الحدیث: ۲۶۸۵.

قَدْ رَأَاهُمْ فِي غَمَرَاتِهِمْ حَتَّىٰ حِينٍ ﴿۵۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو تم ان کو چھوڑ دو ان کے نشہ میں ایک وقت تک۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو تم انہیں ایک مدت تک ان کی گمراہی میں چھوڑ دو۔

﴿قَدْ رَأَاهُمْ﴾: تو تم ان کو چھوڑ دو۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار مکہ کو ان کے کفر و گمراہی اور ان کی جہالت و غفلت میں ان کی موت کے وقت تک چھوڑ دیں اور ان پر جلد عذاب نازل کرنے کا مطالبہ نہ فرمائیں۔^(۱)

أَيَحْسَبُونَ أَنَّمَا نُمِدُّهُمْ بِهِ مِنْ مَّالٍ وَبَيْنٍ ﴿۵۴﴾ نُسَارِعُ لَهُمْ فِي الْخَيْرَاتِ ۗ بَلْ لَا يَشْعُرُونَ ﴿۵۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم ان کی مدد کر رہے ہیں مال اور بیٹوں سے۔ یہ جلد جلد ان کو بھلائیاں دیتے ہیں بلکہ انہیں خبر نہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: کیا یہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ جو ہم مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو یہ ہم ان کیلئے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں؟ بلکہ انہیں خبر نہیں۔

﴿أَيَحْسَبُونَ﴾: کیا یہ خیال کر رہے ہیں۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں کفار مکہ کے بارے میں فرمایا گیا کہ کیا وہ یہ خیال کر رہے ہیں کہ ہم جو مال اور بیٹوں کے ساتھ ان کی مدد کر رہے ہیں تو یہ ہم ان کیلئے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں اور ہماری یہ نعمتیں ان کے اعمال کی جزاء ہیں یا ہمارے راضی ہونے کی دلیل ہیں؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ

①..... خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۵۴، ۳۲۷/۳، روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۵۴، ۸۹/۶، ملتقطاً.

اصل حقیقت یہ ہے کہ انہیں خبر ہی نہیں کہ ہم انہیں مہلت دے رہے ہیں۔^(۱)

کفار کی ترقی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں

اس سے معلوم ہوا کہ کفار کے پاس مال اور اولاد کی کثرت اللہ تعالیٰ کے ان سے راضی ہونے کی دلیل نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انہیں ڈھیل ہے۔ دوسری آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَعْجَبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَنْ يُعَذِّبَ بِهِمُ بِمَا فِي الدُّنْيَا وَتَرَهُنَّ أَنْفُسَهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ^(۲)

ترجمہ کنز العرفان: اور ان کے مال اور اولاد تمہیں تعجب میں نہ ڈالیں۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ انہیں اس کے ذریعے دنیا میں سزا دے اور کفر کی حالت میں ان کی روح نکل جائے۔

فی زمانہ کفار کی دنیوی علوم و فنون میں ترقی اور مال و دولت کی بہتات دیکھ کر بعض حضرات یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے جی تو وہ اس قدر ترقی یافتہ ہیں، اگر اللہ تعالیٰ ان سے راضی نہ ہوتا تو وہ اس قدر آسائشوں میں تھوڑی ہوتے۔ اگر انہوں نے قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھا ہوتا تو شاید ایسی باتیں ان کی زبان پر کبھی نہ آتیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور فہم عطا فرمائے، آمین۔

إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ^(۵۷) وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ^(۵۸) وَالَّذِينَ هُمْ لَا يُشْرِكُونَ^(۵۹)

ترجمہ کنز الایمان: بیشک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے سہمے ہوئے ہیں۔ اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ اور وہ جو اپنے رب کا کوئی شریک نہیں کرتے۔

ترجمہ کنز العرفان: بیشک وہ جو اپنے رب کے ڈر سے خوفزدہ ہیں۔ اور وہ جو اپنے رب کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں۔

①.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۵۵-۵۶، ۳/۳۲۷، روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۵۵-۵۶، ۸۹/۶، ملنقطاً.

②.....التوبة: ۸۵.

اور وہ جو اپنے رب کے ساتھ (کسی کو) شریک نہیں کرتے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَشْكُرُونَ﴾: بیشک وہ جو۔ گزشتہ آیات میں کفار کی مذمت بیان فرمانے کے بعد اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں ایمان والوں کے اوصاف بیان فرمائے جا رہے ہیں۔ چنانچہ ان کا ایک وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے عذاب سے خوفزدہ ہیں۔ حضرت حسن بصری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا کہ مومن نیکی کرنے کے باوجود اللہ عَزَّوَجَلَّ سے ڈرتا ہے جبکہ منافق گناہ کرنے کے باوجود بے خوف رہتا ہے۔ دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی آیتوں پر ایمان لاتے ہیں اور اس کی تمام کتابوں کو مانتے ہیں۔ تیسرا وصف یہ ہے کہ وہ عرب کے مشرکوں کی طرح اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے۔ (1)

وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ ﴿٦٠﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو دیتے ہیں جو کچھ دیں اور ان کے دل ڈر رہے ہیں یوں کہ ان کو اپنے رب کی طرف پھرنا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہ جنہوں نے جو کچھ دیا وہ اس حال میں دیتے ہیں کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہیں کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

﴿وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ﴾: اور وہ جو دیتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان والوں کا چوتھا وصف بیان فرمایا کہ وہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی راہ میں جو کچھ زکوٰۃ و صدقات دیتے ہیں یا جو نیک اعمال بجالاتے ہیں، اس وقت ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے دل اس بات سے ڈر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں ان کے اعمال رد ہی نہ کر دیئے جائیں، کیونکہ انہیں یقین ہے کہ وہ اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ (2)

ترمذی کی حدیث میں ہے کہ اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے دو عالم کے سردار صَلَّی اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے دریافت کیا کہ کیا اس آیت میں ان لوگوں کا بیان ہے جو شرابیں پیتے ہیں اور چوری کرتے

1.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۵۷-۵۹، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۵۷-۵۹، ص ۷۶، ملتقطاً.

2.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۶۰، ۳۲۷/۳.

ہیں؟ ارشاد فرمایا: اے صدیق کی بیٹی! ایسا نہیں، اس آیت میں اُن لوگوں کا بیان ہے جو روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، صدقے دیتے ہیں اور ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ اعمال نامقبول نہ ہو جائیں۔^(۱)

نیکی کرنا اور ڈرنا، ایمان کے کمال کی علامت ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نیکی کرنا اور ڈرنا، کمال ایمان کی علامت ہے۔

پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال

امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں ”پہلے زمانے کے لوگ دن رات عبادت کرتے اور جو بھی عمل کرتے دل میں خوفِ خدا رہتا تھا کہ انہوں نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، وہ رات دن عبادت میں گزارنے کے باوجود اپنے نفسوں کے بارے میں خوف زدہ رہتے تھے، وہ بہت زیادہ تقویٰ اختیار کرتے اور خواہشات اور شبہات سے بچتے تھے، اس کے باوجود وہ تنہائی میں اپنے نفسوں کے لئے روتے تھے۔

لیکن اب حالت یہ ہے کہ تم لوگوں کو مطمئن، خوش اور بے خوف دیکھو گے حالانکہ وہ گناہوں پر اوندھے گرتے ہیں، دنیا میں پوری توجہ رکھے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے منہ پھیر رکھا ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پر کامل یقین رکھتے ہیں، اس کے عفو و درگزر اور مغفرت کی امید رکھتے ہیں گویا ان کا گمان یہ ہے کہ انہوں نے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی معرفت حاصل کی ہے اس طرح انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ اور پہلے بزرگوں کو بھی حاصل نہ تھی۔ اگر یہ بات محض تمنا اور آسانی سے حاصل ہو جاتی ہے تو ان بزرگوں کے رونے، خوف کھانے اور غمگین ہونے کا کیا مطلب تھا۔ حضرت معقل بن یسار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں قرآن پاک ان کے دلوں میں ایسے پرانا ہو جائے گا جیسے بدن پر کپڑے پرانے ہو جاتے ہیں، ان کے تمام کام لالچ کی وجہ سے ہوں گے جس میں خوف نہیں ہوگا، اگر ان میں سے کوئی اچھا عمل کرے گا تو کہے گا یہ مقبول ہوگا اور اگر برائی کرے گا تو کہے گا میری بخشش ہو جائے گی۔“^(۲)

یہ امام غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے آج سے تقریباً 900 سال پہلے کے حالات لکھے ہیں اور فی زمانہ تو حالات

①.....ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة المؤمنین، ۱۱۸/۵، الحدیث: ۳۱۸۶.

②.....احیاء علوم الدین، کتاب ذم الغرور، بیان ذم الغرور و حقیقتہ و امثلتہ، ۴۷۴/۳.

اس سے کہیں زیادہ نازک ہو چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ہدایت عطا فرمائے اور نیک اعمال کے سلسلے میں اپنے بزرگوں کی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

أُولَٰئِكَ يُسْرِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ ﴿٦١﴾

ترجمہ کنز الایمان: یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی سب سے پہلے انہیں پہنچے۔

ترجمہ کنز العرفان: یہ لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور یہی بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے ہیں۔

﴿**أُولَٰئِكَ:** یہ لوگ۔﴾ یعنی جن لوگوں کے اوصاف سابقہ آیات میں بیان ہوئے وہ بہت رغبت اور اہتمام کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اور ان میں اس لئے جلدی کرتے ہیں کہ کہیں ان کا وقت ختم نہ ہو جائے اور اس نیک عمل کی ادائیگی میں کوئی کوتاہی واقع نہ ہو جائے اور وہ نیک اعمال کرنے میں دوسروں پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مفسرین نے آیت کے اس حصے ”**وَهُمْ لَهَا سَابِقُونَ**“ کے یہ معنی بھی بیان کئے ہیں کہ وہ اپنی نیکیوں کے اجر میں سبقت کرنے والے ہیں یعنی انہیں ان کے نیک اعمال کا اجر آخرت سے پہلے دنیا میں بھی مل جاتا ہے یا وہ نیکیوں کی وجہ سے جنتوں کی طرف سبقت کرنے والے ہیں۔ (۱)

وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَبَيِّنُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿٦٢﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور ہم کسی جان پر بوجھ نہیں رکھتے مگر اس کی طاقت بھر اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے کہ حق بولتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

①..... روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۶۱، ۶۱/۶، تفسیر کبیر، المؤمنون، تحت الآية: ۶۱، ۲۸۴/۸، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۶۱، ص ۷۶۰، ملقطاً.

ترجمہ کنز العرفان: اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے اور ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق بیان کرتی ہے اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔

﴿وَلَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾: اور ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں رکھتے۔ یعنی سابقہ آیت میں نیک لوگوں کے جو اوصاف بیان ہوئے یہ ان کی طاقت اور وسعت سے باہر نہیں، یونہی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر لازم فرمائی ہے وہ ان کی طاقت سے زیادہ نہیں ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا فضل اور احسان ہے کہ وہ اپنے بندوں پر ان کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، ورنہ اس کی شان تو یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرے، اس بارے میں کسی کو سوال کرنے کی مجال نہیں۔^(۱)

مزید ارشاد فرمایا کہ ہمارے پاس ایک کتاب ہے جو حق ہی بیان کرتی ہے، اس میں ہر شخص کا عمل لکھا ہوا ہے، اور وہ لوح محفوظ ہے اور عمل کرنے والوں پر کوئی ظلم نہ ہوگا، نہ کسی کی نیکی گھٹائی جائے گی اور نہ بدی بڑھائی جائے گی۔^(۲)

بَلْ قُلُوبُهُمْ فِي غَمَرٍ مِّنْ هَذَا وَلَهُمْ أَعْيَالٌ مِّنْ دُونِ ذَلِكَ هُمْ لَهَا عَابِدُونَ ﴿۲۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: بلکہ ان کے دل اس سے غفلت میں ہیں اور ان کے کام ان کاموں سے جدا ہیں جنہیں وہ کر رہے ہیں۔

ترجمہ کنز العرفان: بلکہ کافروں کے دل اس قرآن سے غفلت میں ہیں اور کافروں کے کام ان اعمال کے علاوہ ہیں جنہیں یہ کر رہے ہیں۔

﴿بَلْ قُلُوبُهُمْ﴾: بلکہ ان کے دل۔ اس آیت کا ایک معنی یہ ہے کہ کافروں کے دل اس قرآن شریف سے غفلت میں ہیں

①.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۶۲، ص ۷۶۰، صاوی، المؤمنون، تحت الآية: ۶۲، ۱۳۶۹/۴-۱۳۷۰، منقطاً.

②.....حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۶۲، ۳۲۷/۳-۳۲۸.

اور ان کافروں کے خبیث کام جنہیں یہ کر رہے ہیں ان کاموں کے خلاف ہیں جو مذکورہ بالا آیات میں ایمانداروں کے ذکر کئے گئے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ کافروں کے دل اس قرآن سے غفلت میں ہیں اور وہ اس عظیم غفلت کے علاوہ اور بھی بہت سے خبیث کام کر رہے ہیں۔^(۱)

حَتَّىٰ إِذَا آخَذْنَا مَثَرًا فِيهِمْ بِالْعَذَابِ إِذَا هُمْ يَجْرُونَ ۖ ط

ترجمہ کنزالایمان: یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے امیروں کو عذاب میں پکڑا تو جی بھی وہ فریاد کرنے لگے۔

ترجمہ کنزالعرفان: یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا تو جی بھی وہ فریاد کرنے لگے۔

﴿حَتَّىٰ﴾: یہاں تک کہ۔ ﴿اس آیت میں کفار کے اعمال کا انجام بیان کیا گیا کہ کفار اپنے اعمال پر ہی قائم رہے یہاں تک کہ جب ہم نے ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں پکڑا اور وہ بدر کے دن تلواروں سے قتل کئے گئے تو جی بھی وہ فریاد کرنے لگے۔ ایک قول یہ ہے کہ اس عذاب سے مراد فاقوں اور بھوک کی وہ مصیبت ہے جو تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی دعا سے ان پر مُسَلَّط کی گئی تھی اور اس قحط کی وجہ سے ان کی حالت یہاں تک پہنچ گئی تھی کہ وہ کتے اور مردار تک کھا گئے تھے۔^(۲)

لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ ۚ إِنَّكُمْ مِنَّا لَا تُنْصَرُونَ ۖ ق ۖ قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُنْذِرُ
عَلَيْكُمْ فَلَنْتُمْ عَلَىٰ آعْقَابِكُمْ تُنْكَصُونَ ۗ ل ۖ مُسْتَكْبِرِينَ ۙ بِهِ سِيرًا
تَهْجُرُونَ ۚ ط

ترجمہ کنزالایمان: آج فریاد نہ کرو ہماری طرف سے تمہاری مدد نہ ہوگی۔ بیشک میری آیتیں تم پر پڑھی جاتی تھیں تو تم

۱.....جمل مع جلالین، المؤمنون، تحت الآية: ۶۳، ۲۴۶/۵-۲۴۷، روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۶۳، ۲۴۶/۵، ملتقطاً.

۲.....روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۶۴، ۲۴۶/۶، ۹۲/۶، حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۶۴، ۳۲۸/۳، ملتقطاً.

اپنی ایڑیوں کے بل اُلٹے پلٹتے تھے۔ خدمتِ حرم پر بڑائی مارتے ہو رات کو وہاں بیہودہ کہانیاں بکتے حق کو چھوڑے ہوئے۔

ترجمہ کنز العرفان: آج فریاد نہ کرو، بیشک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ بیشک میری آیات کی تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل اُلٹے پلٹتے تھے۔ خانہ کعبہ کی خدمت پر ڈینگلیں مارتے، رات کو الٹی سیدھی باتیں ہانکتے، (حق) کو چھوڑتے ہوئے۔

﴿لَا تَجْرُوا الْيَوْمَ: آج فریاد نہ کرو۔﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار کی فریاد کے جواب میں ان سے کہا گیا کہ آج فریاد نہ کرو، اس سے تمہیں کوئی فائدہ نہ ہوگا کیونکہ بیشک ہماری طرف سے تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ (اس کی وجہ یہ ہے کہ) بے شک قرآن مجید کی آیات تمہارے سامنے تلاوت کی جاتی تھیں، لیکن تم اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتے تھے اور ان آیات پر ایمان نہ لاتے تھے اور تمہارا حال یہ تھا کہ تم خانہ کعبہ کی خدمت پر یہ کہتے ہوئے ڈینگلیں مارتے تھے کہ ہم حرم والے ہیں اور بیت اللہ کے ہمسائے ہیں، ہم پر کوئی غالب نہ ہوگا، ہمیں کسی کا خوف نہیں اور کعبہ معظمہ کے گرد جمع ہو کر الٹی سیدھی باتیں ہانکتے ہوئے رات کو وہاں بیہودہ باتیں کرتے تھے اور ان باتوں میں اکثر قرآن پاک پر طعن کرنا، اسے جادو اور شعر کہنا، اور سید المرسلین صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شان میں بے جا باتیں کہنا ہوتا تھا اور تم نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کو اور مومنوں کو نیز قرآن کریم کو چھوڑے ہوئے تھے۔^(۱)

أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوْلِيْنَ ۖ ﴿۶۸﴾

ترجمہ کنز الایمان: کیا انہوں نے بات کو سوچا نہیں یا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا۔

ترجمہ کنز العرفان: کیا انہوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا؟ یا کیا ان کے پاس وہ آیا جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آیا تھا؟

﴿أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا: کیا انہوں نے غور و فکر نہیں کیا؟﴾ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حق کی پیروی سے اعراض کرنے کی وجہ

1.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۶۵-۶۷، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۶۵-۶۷، ص ۷۶۰، ملقطاً.

سے کفار مکہ کو ڈانٹتے ہوئے فرمایا کہ کیا انہوں نے قرآن پاک میں غور نہیں کیا اور اس کے اعجاز پر نظر نہیں ڈالی جس سے انہیں معلوم ہو جاتا کہ یہ کلام حق ہے، اس کی تصدیق لازم ہے اور جو کچھ اس میں ارشاد فرمایا گیا وہ سب حق اور اسے تسلیم کرنا واجب ہے اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت و حقانیت پر اس میں واضح دلائل موجود ہیں اور کیا ان کے پاس وہ چیز آئی ہے جو ان کے باپ دادا کے پاس نہ آئی تھی۔ یعنی رسول کا تشریف لانا ایسی نرالی بات نہیں ہے جو کبھی پہلے زمانے میں ہوئی ہی نہ ہو اور وہ یہ کہہ سکیں کہ ہمیں خبر ہی نہ تھی کہ خدا عزوجل کی طرف سے رسول آیا بھی کرتے ہیں، کبھی پہلے کوئی رسول آیا ہوتا اور ہم نے اس کا تذکرہ سنا ہوتا تو ہم کیوں اس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نہ مانتے۔ تمہارے پاس یہ عذر کرنے کا موقع بھی نہیں ہے کیونکہ پہلی امتوں میں رسول آچکے ہیں اور خدا عزوجل کی کتابیں نازل ہو چکی ہیں۔^(۱)

أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَمْ يَمُنُّوا

ترجمہ کنزالایمان: یا انہوں نے اپنے رسول کو نہ پہچانا تو وہ اسے بیگانہ سمجھ رہے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: یا کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں ہے؟ تو وہ اس کا انکار کر رہے ہیں۔

﴿أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا: یا کیا انہوں نے پہچانا نہیں ہے؟﴾ کفار مکہ سے مزید فرمایا کہ کیا انہوں نے اپنے رسول کو پہچانا نہیں اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کے جملہ احوال کو نہ دیکھا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عالی نسب، صدق و امانت، وفور عقل، حسن اخلاق، کمال حلم، وفا و کرم اور مروّت وغیرہ پاکیزہ اخلاق، اچھی صفات اور بغیر کسی سے سیکھے آپ کے علم میں کامل اور تمام جہان سے زیادہ علم رکھنے اور فائق ہونے کو نہ جانا، کیا ایسا ہے؟ حقیقت میں یہ بات تو نہیں بلکہ وہ سرور عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف و کمالات کو خوب جانتے ہیں اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برگزیدہ صفات شہرہ آفاق ہیں، پھر بھی وہ بلا وجہ ہٹ دھرمی

①..... تفسیر کبیر، المؤمنون، تحت الآیة: ۶۸، ۸/۲۸۶، خازن، المؤمنون، تحت الآیة: ۶۸، ۳/۳۲۸، ابو سعود، المؤمنون، تحت الآیة: ۶۸، ۴/۵۷، ملقطاً.

کی وجہ سے اس پیارے نبی صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا انکار کر رہے ہیں۔^(۱)

حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عظمت پہچاننے کا ایک طریقہ

قاضی عیاض رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کے کلام کی روشنی میں یہاں ایک مختصر مضمون دیا جا رہا ہے کہ سرکارِ دو عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عظمت پہچاننے اور آپ کے محبت کیلئے قابل ترین ہستی ہونے کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ انسان کے کچھ کمالات فطری ہوتے ہیں جیسے حسن، قوت، عقل، فہم کی درستی، زبان کی فصاحت، حواس اور اعضاء کی قوت، معتدل حرکات، نسب کی شرافت، قومی عزت، وطنی کرامت۔ نیز کچھ چیزیں زندگی کی ضرورت ہوتی ہیں جو اگر چہ دنیوی ہوتی ہیں لیکن جب ان سے تقویٰ مقصود ہو تو وہ آخرت کی خوبیوں اور خصلتوں کے ساتھ لاحق ہو جاتی ہیں جیسے غذا، نیند، لباس، مکان، نکاح، مال اور عہدہ و منصب وغیرہ اور کچھ اوصاف وہ ہوتے ہیں جو مطلقاً آخرت کے شمار ہوتے ہیں جیسے تمام بلند اخلاق، شرعی آداب، علم، بردباری، صبر، شکر، انصاف، زہد، تواضع، عفو، عفت، سخاوت، شجاعت، حیا، مروت، خاموشی، سکون، وقار، مہربانی، آداب و معاشرت کا حسن وغیرہ۔ اور یہی وہ خصائل ہیں جن کے مجموعہ کو حسنِ خلق سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ ان میں سے بعض خصلتیں تو کسی کی فطری عادت ہوتی ہیں اور کسی کی فطری تو نہیں ہوتی لیکن وہ انہیں محنت و ریاضت سے حاصل کر لیتا ہے۔ ان خوبیوں کا حال یہ ہے کہ کسی شخص میں ان میں سے ایک یا دو بھی پائی جائیں تو وہ بڑا مشرف و معزز مانا جاتا ہے، مثلاً نسب یا جمال یا قوت یا علم یا شجاعت یا سخاوت وغیرہ میں سے ایک بھی وصف پایا جائے تو وہ پسندیدہ، محبوب اور عظیم بن جاتا ہے حتیٰ کہ اس بندے کی قدر اتنی بڑھ جاتی ہے کہ اس کے نام کو مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور اس وصف کی وجہ سے دلوں میں اس کے اثر اور عظمت کا سکہ جم جاتا ہے اور یہ بات گزشتہ زمانے سے چلی آرہی ہے، تو پھر اس ذاتِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عظمت اور محبوبیت کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے جس میں یہ تمام کے تمام محاسن و خصائل پیدائشی اور فطری طور پر کامل ترین طرز پر جمع ہیں جن سے بہتر جامعیت کا تصوّر بھی نہیں کیا جاسکتا۔

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ ۖ بَلْ جَاءَهُم بِالْحَقِّ ۖ وَ أَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ

①.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۶۹، ۳/۳۲۸، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۶۹، ص ۷۶۱، روح البيان، المؤمنون، تحت الآية: ۶۹، ۶/۹۴، ملقطاً.

كِرْهُونٌ ﴿۷۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: یا کہتے ہیں اسے سودا ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق لائے اور ان میں اکثر کو حق بُرا لگتا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: یا وہ کہتے ہیں کہ اس رسول پر جنون طاری ہے بلکہ وہ تو ان کے پاس حق کے ساتھ تشریف لائے ہیں اور ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں۔

﴿أَمْ يَقُولُونَ﴾ یا وہ کہتے ہیں۔ ﴿مزید فرمایا کہ کیا وہ کہتے ہیں کہ اس نبی پر جنون طاری ہے، یہ بھی سراسر غلط اور باطل ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ جیسا دانا اور کامل عقل والا شخص اُن کے دیکھنے میں نہیں آیا لہذا اس ہستی کو جنون نہیں بلکہ یہ مقدس نبی ہیں جو ان کے پاس حق یعنی قرآن کریم کے ساتھ تشریف لائے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ربی احکام کے بیان پر مشتمل ہے لیکن اس کے باوجود کافروں کا انہیں برا کہنا اس لئے ہے کہ ان کافروں میں اکثر حق کو ناپسند کرنے والے ہیں کیونکہ قرآن میں اُن کی نفسانی خواہشات کی مخالفت ہے، اس لئے وہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور ان کے صفات و کمالات کو جاننے کے باوجود حق کی مخالفت کرتے ہیں۔ اکثر کی قید سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ حال ان میں بیشتر لوگوں کا ہے چنانچہ ان میں بعض ایسے بھی تھے جو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو حق پر جانتے تھے اور حق اُنہیں برا بھی نہیں لگتا تھا لیکن وہ اپنی قوم سے موافقت کی وجہ سے یا اُن کے طعن و تشنیع کے خوف سے ایمان نہ لائے جیسے کہ ابوطالب۔^(۱)

وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۗ ط
بَلْ أَنْتَبَهُمْ بَدِ كِرْهِهِمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ ﴿۷۱﴾ ط

①.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۷۰، ص ۷۶۱، جلالین، المؤمنون، تحت الآية: ۷۰، ص ۲۹۱، بیضاوی، المؤمنون، تحت الآية: ۷۰، ۱۶۲/۴، ملتقطاً.

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے بلکہ ہم تو ان کے پاس وہ چیز لائے جس میں ان کی ناموری تھی تو وہ اپنی عزت سے ہی منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اگر حق ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا تو ضرور آسمان اور زمین اور جو کوئی ان میں ہیں سب تباہ ہو جاتے بلکہ ہم تو ان کے پاس ان کی نصیحت لائے ہیں تو وہ اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

﴿وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ﴾: اور اگر سچا قرآن ان کی خواہشوں کی پیروی کرتا۔ یعنی اگر قرآن شریف ان کی خواہشات اور نظریات کے مطابق نازل ہوتا اس طرح کہ اس میں وہ مضامین مذکور ہوتے جن کی کفار خواہش کرتے ہیں تو تمام عالم کا نظام درہم برہم ہو جاتا کیونکہ قرآن سچی کتاب ہے اور اس میں اگر یہ مضامین مذکور ہوتے تو حقیقت میں بھی ایسا ہی ہوتا اور جب ایک سے زیادہ خدا ہوں تو ہر خدا کا حکم دوسرے کے مخالف ہوتا یونہی سب کے ارادے کا ایک ہی وقت میں پورا ہونا محال ہے اور یوں کائنات کا نظام تباہ ہو کر رہ جاتا لیکن ہم تو ان کے پاس قرآن لائے ہیں اور ہم یہ قرآن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کر نہیں لائے بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں نصیحت لائے ہیں، مگر وہ تو اپنی نصیحت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔^(۱)

ایک دوسری تفسیر کے اعتبار سے اس کا معنی یہ ہے کہ ہم یہ قرآن حقیقت میں ان کی تباہی کا ذریعہ بنا کر نہیں لائے بلکہ ہم تو اسے ان کے پاس قرآن کی صورت میں ان کی عزت و شہرت کا ذریعہ لائے ہیں کہ یہ اس پر عمل کر کے عزت و شہرت دونوں کما سکتے ہیں لیکن وہ تو اپنی عزت و شہرت ہی سے منہ پھیرے ہوئے ہیں۔

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا وَخَرَجًا رَّحِمًا خَيْرٌ مَّا جَاءَهُمْ خَيْرٌ ۖ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزِقِينَ ﴿۷۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو تو تمہارے رب کا اجر سب سے بھلا اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا۔

①.....حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۷۱، ۳/۲۲۹، جلالین، المؤمنون، تحت الآية: ۷۱، ص ۲۹۱، ملقطاً۔

ترجمہ کنز العرفان: کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ تو تمہارے رب کا اجر سب سے بہتر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔

﴿أَمْ نَسْأَلُهُمْ خَرْجًا﴾: کیا تم ان سے کچھ اجرت مانگتے ہو؟ یعنی اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، کیا آپ انہیں ہدایت کرنے اور راہِ حق بتانے پر کچھ اجرت مانگتے ہو؟ ایسا بھی تو نہیں تو یہ بات آپ کے کمالِ اخلاص کی دلیل ہے جو انہیں سمجھنی چاہیے۔ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ کا اجر تو آپ کے رب کے پاس ہے جو سب سے بہترین اجر ہے اور وہ سب سے بہتر روزی دینے والا ہے اور اس کا آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر فضلِ عظیم ہے اور جو نعمتیں اُس نے آپ کو عطا فرمائیں وہ بہت کثیر اور اعلیٰ ہیں تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو ان کی کیا پرواہ؟ پھر جب وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اوصاف و کمالات سے واقف بھی ہیں، قرآن پاک کا اعجاز بھی ان کی نگاہوں کے سامنے ہے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ان سے ہدایت و ارشاد کا کوئی اجر و عوض بھی طلب نہیں فرماتے تو اب انہیں ایمان لانے میں کیا عذر رہا۔

وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۴۲﴾ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ
بِآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنُكَبُّونَ ﴿۴۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: اور بیشک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلا تے ہو۔ اور بیشک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔

ترجمہ کنز العرفان: اور بیشک تم انہیں سیدھی راہ کی طرف بلا تے ہو۔ اور بیشک جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور سیدھی راہ سے کترائے ہوئے ہیں۔

﴿وَإِنَّكَ﴾: اور بیشک تم۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بے شک آپ انہیں سیدھی راہ یعنی

دین اسلام کی طرف بلا تے ہیں تو ان پر لازم ہے کہ آپ کی دعوت قبول کریں اور اسلام میں داخل ہوں۔^(۱)

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ﴾ اور پیشک جو۔ ﴿یعنی اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ﴾، پیشک جو لوگ قیامت کے دن دوبارہ زندہ

کئے جانے اور اعمال کی جزاء ملنے پر ایمان نہیں لاتے وہ ضرور دین حق سے منہ موڑے ہوئے ہیں۔^(۲)

اس سے معلوم ہوا کہ آخرت پر ایمان لانا اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا خوف راہ حق تلاش کرنے اور اس

پر چلنے کا بہت مضبوط ذریعہ ہے۔^(۳)

وَلَوْ سَأَفْتَهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ صُرُّوا فِي طُعْيَانِهِمْ

يَعْبَهُونَ ﴿٤٥﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور جو مصیبت ان پر پڑی ہے ٹال دیں تو ضرور بھٹ پنا کریں گے اپنی سرکشی میں بہکتے ہوئے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے اور جو مصیبت ان پر پڑی تھی وہ ٹال دیتے تو یہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے ہوئے ضرور ڈھیٹ پن کرتے۔

﴿وَلَوْ سَأَفْتَهُمْ﴾ اور اگر ہم ان پر رحم فرماتے۔ ﴿شان نزول﴾: جب قریش سرکارِ دو عالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی دعا سے سات برس کے قحط میں مبتلا ہوئے اور ان کی حالت بہت اتر ہو گئی تو ابوسفیان ان کی طرف سے نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی: کیا آپ اپنے خیال میں سب جہانوں کے لئے رحمت بنا کر نہیں بھیجے گئے۔ تاجدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا بے شک۔ ابوسفیان نے کہا: قریش اپنے خلاف آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی دعا سے اس حالت کو پہنچ گئے ہیں کہ قحط کی مصیبت میں مبتلا ہوئے، فاقوں سے تنگ

①.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۷۳، ص ۷۶۲.

②.....جلالین، المؤمنون، تحت الآية: ۷۴، ص ۲۹۱.

③.....روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۷۴، ۶/۹۶، ملخصاً.

آگئے، لوگ بھوک کی بے تابی سے ہڈیاں چبا گئے اور مردار تک کھا گئے۔ میں آپ کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اور قرابت کی، آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ ہم سے اس قحط کو دور فرمادے۔ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے دعا کی اور انہوں نے اس بلا سے رہائی پائی اس واقعہ کے متعلق یہ آیت نازل ہوئی۔^(۱)

اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اگر ہم ان پر رحم فرمائیں اور سات سالہ قحط سالی کی جو مصیبت ان اہل مکہ پر پڑی ہے وہ ٹال بھی دیں تو پھر وہ اپنے کفر و عناد اور سرکشی کی طرف لوٹ جائیں گے اور ان کی یہ خوشامد و چا پلوسی جاتی رہے گی اور رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور مومنین کی عداوت اور تکبر جو ان کا پہلا طریقہ تھا، یہ وہی اختیار کریں گے۔^(۲)

وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ ﴿۶۶﴾
حَتَّىٰ إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذْ هُمْ فِيهِ
مُبْلِسُونَ ﴿۶۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تو نہ وہ اپنے رب کے حضور میں جھکے اور نہ گڑگڑاتے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم نے ان پر کھولا کسی سخت عذاب کا دروازہ تو وہ اب اس میں ناامید پڑے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ نہ تب اپنے رب کے حضور جھکے اور نہ ہی (اب) عاجزی کر رہے ہیں۔ یہاں تک کہ جب ہم ان پر کسی سخت عذاب والا دروازہ کھولتے ہیں تو اس وقت وہ اس میں ناامید پڑے ہوتے ہیں۔

﴿وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُم بِالْعَذَابِ﴾ اور بیشک ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کر دیا۔ ﴿آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بے شک ہم نے انہیں بھوک کے عذاب میں گرفتار کر دیا تو وہ پھر بھی نہ اس وقت اپنے رب عَزَّوَجَلَّ کے حضور جھکے ہیں اور نہ ہی وہ آئندہ

۱.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۷۵، ۳/۳۲۹، ملخصاً.

۲.....ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ۷۵، ۴/۲۰، ملخصاً.

اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ کی بارگاہ میں عاجزی کریں گے۔ (1)

اس سے معلوم ہوا کہ مصیبت کے موقع پر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نہ کرنا بڑی بدبختی کی دلیل ہے۔

﴿حَتَّىٰ﴾: یہاں تک۔ ﴿آیت کا معنی یہ ہے کہ جب ہم اُن پر موت کے وقت یا قیامت کے دن کسی سخت عذاب والا دروازہ

کھولیں گے تو اس وقت وہ اس عذاب میں ہر بھلائی سے ناامید پڑے ہوں گے۔ (2)

وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ ۗ قَلِيلًا مَّا

تَشْكُرُونَ ﴿٤٨﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور وہی ہے جس نے بنائے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل تم بہت ہی کم حق مانتے ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے، تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو۔

﴿وَهُوَ﴾: اور وہی ہے۔ ﴿اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق سے خطاب فرمایا اور اس سے مقصود اہل ایمان کو نعمتیں

یا دد لانا جبکہ کفار کو اس بات پر سختی سے تنبیہ کرنا ہے کہ انہوں نے ان نعمتوں کو ان کے مصرف میں استعمال نہیں کیا کیونکہ

کان اس لئے بنائے گئے ہیں کہ ان سے وہ بات سنی جائے جس سے ہدایت ملے اور آنکھیں اس لئے پیدا کی گئی ہیں کہ

ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صفات کے کمال پر دلالت کرنے والی نشانیوں کا مشاہدہ کیا جائے اور دلوں کی تخلیق کا مقصد

یہ ہے کہ ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی صنعتوں میں غور و فکر کیا جائے تو جس نے ان نعمتوں کو ان کے مصرف میں استعمال نہ

کیا تو وہ ایسا شخص ہے جس نے ان نعمتوں سے کوئی فائدہ نہ اٹھایا۔ (3)

اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ وہی ہے جس نے تمہارے لیے کان، آنکھیں اور دل بنائے تاکہ تم ان کے

ذریعے سنو، دیکھو اور سمجھو اور دینی، دنیوی منافع حاصل کرو۔ اے لوگو! تم بہت ہی کم شکر ادا کرتے ہو کیونکہ تم نے ان نعمتوں

①..... جلالین مع صاوی، المؤمنون، تحت الآية: ۷۶، ۱۳۷۳/۴.

②..... خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۷۷، ۲۲۹/۳.

③..... صاوی، المؤمنون، تحت الآية: ۷۸، ۱۳۷۳/۴-۱۳۷۴.

کی قدر نہ جانی اور ان سے فائدہ نہ اٹھایا اور کانوں، آنکھوں اور دلوں سے اللہ تعالیٰ کی آیات سننے، دیکھنے، سمجھنے اور اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے اور حقیقی طور پر نعمتیں عطا فرمانے والے کا حق پہچان کر شکر گزار بننے کا نفع نہ اٹھایا۔^(۱)

وَهُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْأَرْضِ وَإِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿۷۹﴾ وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ وَلَهُ اخْتِلَافُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ ۗ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿۸۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا یا اور اسی کی طرف اٹھنا ہے۔ اور وہی جلائے اور مارے اور اسی کے لیے ہیں رات اور دن کی تبدیلیں تو کیا تمہیں سمجھ نہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلا یا اور اسی کی طرف تمہیں اٹھایا جائے گا۔ اور وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے۔ تو کیا تم سمجھتے نہیں؟

﴿وَهُوَ﴾: اور وہی ہے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ وہی رب عَزَّوَجَلَّ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور نسل بڑھا کر تمہیں زمین میں پھیلا یا اور تم اپنے پھیلاؤ کے باوجود قیامت کے دن اسی کی طرف جمع کیے جاؤ گے نہ کہ کسی اور کی طرف، تو تم کیوں اس پر ایمان نہیں لاتے اور اس کا شکر ادا نہیں کرتے۔^(۲)

﴿وَهُوَ الَّذِي يُحْيِي﴾: اور وہی زندگی دیتا ہے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، رات اور دن کا تبدیل ہونا اسی کے اختیار میں ہے، ان میں سے ہر ایک کا دوسرے کے بعد آنا اور تاریکی و روشنی اور زیادتی و کمی میں ہر ایک کا دوسرے سے مختلف ہونا یہ سب اس کی قدرت کے نشان ہیں، تو کیا تم سمجھتے نہیں کہ ان سے عبرت حاصل کرو اور ان میں خدا عَزَّوَجَلَّ کی قدرت کا مشاہدہ کر کے مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کو تسلیم کرو اور اس پر ایمان لاؤ۔^(۳)

①.....حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۷۸، ۳/۳۲۹، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۷۸، ص ۷۶۲-۷۶۳، ملقطاً.

②.....ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ۷۹، ۴/۶۱.

③.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۸۰، ص ۷۶۳.

بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ ﴿۸۱﴾ قَالُوا إِذَا مِثْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَ
عِظَامًا إِنَّا لَمَبْعُوثُونَ ﴿۸۲﴾ لَقَدْ وَعَدْنَا نَحْنُ وَآبَاءُ نَاهَذَا مِنْ قَبْلُ
إِنْ هَذَا إِلَّا آسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ ﴿۸۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: بلکہ انہوں نے وہی کہی جو اگلے کہتے تھے۔ بولے کیا جب ہم مرجائیں اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں کیا پھر نکالے جائیں گے۔ بیشک یہ وعدہ ہم کو اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو دیا گیا یہ تو نہیں مگر وہی اگلی داستانیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: بلکہ انہوں نے وہی بات کہی جو پہلے والے کہتے تھے۔ انہوں نے کہا تھا: کیا جب ہم مرجائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم اٹھائے جائیں گے؟ بیشک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو یہ وعدہ دیا گیا، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں۔

﴿بَلْ﴾ بلکہ۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار مکہ سمجھے نہیں بلکہ انہوں نے وہی بات کہہ دی جو ان سے پہلے والے کفار کہتے تھے کہ جب ہم مرجائیں گے اور اس کے بعد مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہم پھر زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے؟ بیشک ہمیں اور ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے اٹھائے جانے کا وعدہ دیا گیا اور ہمارے باپ دادا نے تو اس کی کوئی حقیقت نہ دیکھی تو ہمیں کہاں سے نظر آئے گی، یہ تو صرف پہلے لوگوں کی جھوٹی داستانیں ہیں جن کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔^(۱)

قُلْ لِّمَنْ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۴﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ط
قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ ﴿۸۵﴾

①..... جلالین، المؤمنون، تحت الآية: ۸۱-۸۳، ص ۲۹۲، روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۸۱-۸۳، ۱۰۰/۶، ملقطاً.

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ کس کا مال ہے زمین اور جو کچھ اس میں ہے اگر تم جانتے ہو۔ اب کہیں گے کہ اللہ کا تم فرماؤ پھر کیوں نہیں سوچتے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو۔ اب کہیں گے کہ اللہ کا۔ تم فرماؤ: تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟

قُلْ: تم فرماؤ۔ ﴿کفار کی اُس بات کا رد فرمانے اور ان پر حجت قائم فرمانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ”اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، آپ ان سے فرمادیں کہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے وہ سب کس کا ہے؟ اگر تم جانتے ہو تو مجھے بتاؤ کہ ان کا خالق اور مالک کون ہے؟“^(۱)

سَيَقُولُونَ: اب کہیں گے۔ ﴿اللہ تعالیٰ نے کفار کی طرف سے اس سوال کا دیا جانے والا جواب پہلے ہی اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے ارشاد فرمادیا کہ اس سوال کے جواب میں عنقریب کافر کہیں گے: ان کا خالق و مالک اللہ عزَّ وَّجَلَّ ہے۔ کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی جواب ہی نہیں اور مشرکین اللہ تعالیٰ کے خالق ہونے کا اقرار بھی کرتے ہیں، جب وہ یہ جواب دیں تو اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، آپ ان سے فرمائیں کہ پھر تم کیوں غور نہیں کرتے تاکہ یہ بات جان جاؤ کہ جس نے زمین کو اور اس کی کائنات کو ابتداءً پیدا کیا وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہے۔“^(۲)

قُلْ مَنْ رَبُّ السَّمٰوٰتِ السَّبْعِ وَرَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ ﴿۸۲﴾ سَيَقُولُوْنَ
لِلّٰهِ قُلْ اَفَلَا تَتَّقُوْنَ ﴿۸۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ کون ہے مالک ساتوں آسمانوں کا اور مالک بڑے عرش کا۔ اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے تم فرماؤ پھر کیوں نہیں ڈرتے۔

۱.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۸۴، ص ۷۶۳، حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۸۴، ۳/۳۳۰، ملقطاً.

۲.....حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۸۵، ۳/۳۳۰، ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ۸۵، ۶/۱۱۴، ملقطاً.

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: ساتوں آسمانوں کا مالک اور عرشِ عظیم کا مالک کون ہے؟ اب کہیں گے: یہ سب اللہ ہی کا ہے۔ تم فرماؤ: تو کیا تم ڈرتے نہیں؟

﴿سَيَقُولُونَ﴾: اب کہیں گے۔ اس سے پہلی آیت میں کفار سے دوسرا سوال کیا گیا کہ ساتوں آسمانوں کا اور عرشِ عظیم کا مالک کون ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے کفار کی طرف سے دیا جانے والا جواب پہلے ہی ارشاد فرما دیا کہ وہ آپ کی اس بات کے جواب میں کہیں گے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ ہی کا ہے۔ تو آپ ان سے فرمائیں کہ پھر تم غیر اللہ کی عبادت کرنے اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے سے اور اس کے مردوں کو زندہ کرنے پر قادر ہونے کا انکار کرنے سے کیوں نہیں ڈرتے اور اس کے عذاب سے خوف کیوں نہیں کھاتے۔^(۱)

قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿۸۸﴾ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ فَأَنَّى تُسْحَرُونَ ﴿۸۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ کس کے ہاتھ ہے ہر چیز کا قابو اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف کوئی پناہ نہیں دے سکتا اگر تمہیں علم ہو۔ اب کہیں گے یہ اللہ ہی کی شان ہے تم فرماؤ پھر کس جادو کے فریب میں پڑے ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اور وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جاسکتی، اگر تمہیں علم ہے۔ اب کہیں گے: یہ (ملکیت) اللہ ہی کیلئے ہے۔ تم فرماؤ: تو کیسے جادو کے فریب میں پڑے ہو؟

﴿قُلْ﴾: تم فرماؤ۔ یعنی اے حبیب! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان کفار سے فرمائیں ”اگر تمہیں علم ہے تو مجھے اس بات کا جواب دو کہ ہر چیز کی ملکیت کس کے ہاتھ میں ہے اور ہر چیز پر حقیقی قدرت و اختیار کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شان تو یہ ہے کہ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے خلاف پناہ نہیں دی جاسکتی۔ کفار آپ کے سوال کے جواب میں کہیں گے کہ یہ ملکیت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے۔ آپ ان سے فرمائیں کہ تو پھر تم کس جادو کے فریب میں پڑے ہو؟ یعنی کس شیطانی دھوکے میں

۱..... مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۸۶-۸۷، ص ۷۶۳، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۸۶-۸۷، ۳/۳۳۰، ملقطاً.

ہو کہ توحید اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو چھوڑ کر حق کو باطل سمجھ رہے ہو؟ جب تم اقرار کرتے ہو کہ حقیقی قدرت اسی کی ہے اور اس کے خلاف کوئی کسی کو پناہ نہیں دے سکتا تو دوسرے کی عبادت قطعاً باطل ہے۔^(۱)

بَلْ أَتَيْنَهُم بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ ﴿۹۰﴾ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ إِذْ أَذَّاهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقَ وَلَعَلَّ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ سُبْحٰنَ اللَّهِ عَمَّا يُصِفُونَ ﴿۹۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بیشک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا خدا یوں ہوتا تو ہر خدا اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ایک دوسرے پر اپنی تعلیٰ چاہتا پاکی ہے اللہ کو ان باتوں سے جو یہ بناتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے اور وہ بیشک جھوٹے ہیں۔ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا اور نہ اس کے ساتھ کوئی دوسرا معبود ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی و غلبہ چاہتا۔ اللہ ان باتوں سے پاک ہے جو یہ بیان کرتے ہیں۔

﴿بَلْ﴾ بلکہ۔ یعنی مشرکین جیسا گمان کرتے ہیں ویسا قطعاً نہیں بلکہ ہم ان کے پاس حق لائے کہ اللہ عزوجل کی نہ اولاد ہو سکتی ہے نہ اس کا شریک، یہ دونوں باتیں محال ہیں اور وہ بیشک جھوٹے ہیں جو اس کیلئے شریک اور اولاد ٹھہراتے ہیں۔^(۲)

﴿مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ﴾ اللہ نے کوئی بچہ اختیار نہ کیا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کے جھوٹا ہونے کو مزید تاکید سے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بچہ اختیار نہیں کیا، وہ اس سے بری ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نوع اور جنس سے پاک ہے

①..... ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ۸۸، ۶۲/۴، ملخصاً.

②..... تفسیر طبری، المؤمنون، تحت الآية: ۹۰، ۲۳۹/۵ - ۲۴۰، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۹۰، ص ۷۶۳، خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۹۰، ۳۳۰/۳، ملقطاً.

اور اولاد وہی ہو سکتی ہے جو ہم جنس ہو اور نہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا ہے جو الوہیت میں اس کا شریک ہو۔ اگر بالفرض کوئی دوسرا خدا ہوتا تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر معبود اپنی مخلوق لے جاتا اور اسے دوسرے کے تحت تصرف نہ چھوڑتا اور ضرور ان میں سے ایک دوسرے پر بڑائی وغلبہ چاہتا اور دوسرے پر اپنی برتری اور اپنا غلبہ پسند کرتا کیونکہ ایک دوسرے کے مقابل حکومتیں اسی چیز کا تقاضا کرتی ہیں اور ایسی صورت میں کائنات کے نظام کی تباہی یقینی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ دو خدا ہونا باطل ہے، خدا ایک ہی ہے اور ہر چیز اسی کے تحت تصرف ہے۔ آیت کے آخر میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان شرکیہ باتوں سے پاک ہے جو یہ کفار بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لئے شریک اور اولاد ہے۔^(۱)

عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَلَىٰ عِبَادٍ شِرْكُونَ ﴿۹۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: جاننے والا ہر نہاں وعیاں کا تو اسے بلندی ہے ان کے شرک سے۔

ترجمہ کنزالعرفان: (وہ اللہ) ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے تو وہ اس سے بلند ہے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔

﴿عَلِيمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ﴾ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کا جاننے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ وہ ہر پوشیدہ اور ظاہر بات کو جاننے والا ہے یعنی جو مخلوق سے پوشیدہ ہے یا مخلوق پر ظاہر ہے تو ایسا علم والا خدا ان بتوں کا شریک کیسے ہو سکتا ہے جو چھپی ہوئی کوئی بات تک نہیں جانتے اور نہ ہی ظاہری باتوں کی انہیں خبر ہے یعنی مکمل بے خبر ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ اس شرک سے بلند و بالا ہے جو یہ مشرک کرتے ہیں۔

قُلْ رَبِّ إِمَّا تُرِيبِي مَا يُوعَدُونَ ﴿۹۳﴾ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ﴿۹۳﴾

1.....مدارک، المؤمنون، تحت الآية: ۹۱، ص ۷۶۴، حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۹۱، ۳/۳۳۰، ملقطاً.

ترجمہ کنزالایمان: تم عرض کرو کہ اے میرے رب! اگر تو مجھے دکھائے جو انہیں وعدہ دیا جاتا ہے۔ تو اے میرے رب مجھے ان ظالموں کے ساتھ نہ کرنا۔

ترجمہ کنزالعرفان: تم عرض کرو: اے میرے رب! اگر تو مجھے وہ دکھا دے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ تو اے میرے رب! مجھے ان ظالموں میں (شامل) نہ کرنا۔

﴿قُلْ سَبِّ: تم عرض کرو: اے میرے رب!﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، تم یوں دعا کرو کہ اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، اگر تو مجھے وہ عذاب دکھا دے جس کا (دنیا میں) ان کافروں سے وعدہ کیا جاتا ہے تو اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، مجھے ان ظالموں میں شامل نہ کرنا اور ان کا ساتھی نہ بنانا۔^(۱)

یاد رہے کہ یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو کفار کا ساتھی نہ بنائے گا، اس کے باوجود رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اس طرح دعا فرمانا، عاجزی اور بندگی کے اظہار کے طور پر ہے۔ اسی طرح انبیاء معصومین علیہم الصلوٰۃ والسلام استغفار کیا کرتے ہیں حالانکہ انہیں اپنی مغفرت اور اکرام خداوندی کا علم یقینی ہوتا ہے، یہ سب تواضع اور اظہار بندگی کے طور پر ہے۔

وَإِنَّا عَلَىٰ أَنْ نُثْرِكَ مَا نَعِدُهُمْ لَقَدِيرُونَ ﴿۹۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم قادر ہیں کہ تمہیں دکھا دیں جو انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہم اس پر قادر ہیں کہ تمہیں وہ دکھا دیں جس کا ہم انہیں وعدہ دے رہے ہیں۔

﴿وَإِنَّا: اور بیشک ہم۔﴾ اس آیت میں ان کفار کو جواب دیا گیا ہے جو اُس عذاب کا انکار کرتے اور اس کی ہنسی اڑاتی تھے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا، انہیں بتایا گیا کہ اگر تم غور کرو تو سمجھ لو گے کہ اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کرنے پر قادر ہے،

1..... ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ۹۳-۹۴، ۶۲/۴.

تو پھر انکار کی وجہ اور مذاق اڑانے کا سبب کیا ہے؟ اور کفار کے عذاب میں جو تاخیر ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت یہ ہے کہ ان میں سے جو ایمان لانے والے ہیں وہ ایمان لے آئیں اور جن کی نسلیں ایمان لانے والی ہیں ان سے وہ نسلیں پیدا ہو لیں۔^(۱)

إِدْفَعِ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ ﴿۹۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: سب سے اچھی بھلائی سے بُرائی کو دفع کرو ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ بناتے ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: سب سے اچھی بھلائی سے بُرائی کو دفع کرو۔ ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کر رہے ہیں۔

﴿إِدْفَعِ بِالتِّي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ﴾: بُرائی کو اس خصلت و عادت سے دفع کرو جو سب سے اچھی ہو۔ مفسرین نے اس خوبصورت جملے کے کثیر معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے چند یہ ہیں۔ (1) توحید جو کہ سب سے اعلیٰ بھلائی ہے اس سے شرک کی بُرائی کو دفع فرمائیں۔ (2) طاعت و تقویٰ کو رواج دے کر معصیت اور گناہ کی بُرائی دفع کیجئے۔ (3) اپنے مکارمِ اخلاق سے خطا کاروں پر اس طرح عفو و رحمت فرمائیں جس سے دین میں کوئی سستی نہ ہو۔⁽²⁾

رسولِ کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی سیرت سے بُرائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی مثالیں

سُبْحَانَ اللّٰہ! اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللّٰہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اور آپ کے ذریعے آپ کی امت کی کتنی پیاری تربیت فرمائی ہے، اسی طرح ایک اور آیت میں ارشاد باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنزالعرفان: اور اچھائی اور بُرائی برابر نہیں ہو سکتی۔

بُرائی کو بھلائی کے ساتھ دور کر دو تو تمہارے اور جس شخص کے

درمیان دشمنی ہوگی تو اس وقت وہ ایسا ہو جائے گا کہ جیسے وہ

گہرا دوست ہے۔

وَلَا تَسْتَوِی الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۗ اِدْفَعِ بِالتِّي

هِيَ اَحْسَنُ فَاِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ

كَانَہُ وَاِلٰی حَمِيمٍ ﴿۳﴾

①.....مدارک، المؤمنون، تحت الآية: ۹۵، ص ۷۶۵، ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ۹۵، ۶۳/۴، ملقطاً.

②.....ابوسعود، المؤمنون، تحت الآية: ۹۶، ۶۳/۴، ملخصاً.

③.....حم السجدة: ۳۴.

حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سیرت مبارکہ میں برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی بے شمار مثالیں موجود ہیں، جیسے سوانٹوں کے لالچ میں آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو شہید کرنے کے لئے آنے والے سراقہ بن مالک کو امان لکھ دی۔ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو شہید کرنے کے ارادے سے زہر میں بجھی تلوار لے کر آنے والے عمیر بن وہب کے ساتھ ایسا سلوک فرمایا کہ وہ وہیں کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ فتح مکہ کے بعد ان کی سفارش پر صفوان بن امیہ کو بھی معاف کر دیا، منافقوں کے سردار عبد اللہ بن اُبی سلول کی نماز جنازہ پڑھا دی۔ مدینہ منورہ پر کئی حملے کرنے والے ابوسفیان کو معاف کر دیا۔ اپنے چچا حضرت حمزہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو شہید کرنے والے شخص وحشی کو معاف کر دیا۔ حضرت حمزہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کا کلیجہ چبانے والی ہند بنت عتبہ کو معاف کر دیا۔ اگر تمام مسلمان اس آیت مبارکہ میں دیئے گئے حکم پر عمل پیرا ہو جائیں تو کوئی بعید نہیں کہ ہمارے معاشرے میں امن و سکون کا دور دورہ ہو جائے۔

﴿نَحْنُ أَعْلَمُ﴾: ہم خوب جانتے ہیں۔ ﴿اس آیت میں حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو تسلی دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ہم خوب جانتے ہیں جو باتیں یہ کفار اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی شان میں کر رہے ہیں، آپ ان کا معاملہ ہم پہ چھوڑ دیں، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے۔ (1)

وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ ﴿٩٤﴾ وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ
أَنْ يَحْضُرُونِ ﴿٩٥﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور تم عرض کرو کہ اے میرے رب تیری پناہ شیاطین کے وسوسوں سے۔ اور اے میرے رب تیری پناہ کہ وہ میرے پاس آئیں۔

ترجمہ کنز العرفان: اور تم عرض کرو: اے میرے رب! میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور اے

1..... ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ۹۶، ۶۳/۴، بیضاوی، المؤمنون، تحت الآية: ۹۶، ۱۶۷/۴، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۹۶، ص ۷۶۴، ملقطاً.

میرے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔

﴿وَقُلْ: اور تم عرض کرو۔﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو مزید دو دعائیں تعلیم فرمائی ہیں، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ یوں دعا کریں کہ اے میرے رب! عَزَّ وَجَلَّ، میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں جن سے وہ لوگوں کو فریب دے کر معاصی اور گناہوں میں مبتلا کرتے ہیں اور اے میرے رب! عَزَّ وَجَلَّ، میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئیں۔^(۱)

شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے

علامہ احمد صاوی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اگرچہ معصوم ہیں لیکن چونکہ شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے اس لئے آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو یہ دعا مانگنے کا حکم دیا گیا اور اس سے مقصود سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی امت کو تعلیم دینا ہے کہ وہ شیطان اور اس کے وسوسوں سے پناہ مانگتے رہا کریں۔^(۲)

﴿وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ: اور اے میرے رب! میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔﴾ اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضور اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے شیطان کے وسوسوں سے بھی محفوظ ہیں اور حضور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی رسالتی نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو یہ دعا سکھائی اور آپ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے یہ دعا مانگی جو کہ قبول ہوئی۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ بڑے سے بڑا آدمی بھی اپنے آپ کو شیطان سے محفوظ نہ سمجھے۔ جب نبی کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے شیطان سے پناہ مانگی تو ہم کیا چیز ہیں۔

حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ ۙ

ترجمہ کنزالایمان: یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آئے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب مجھے واپس پھیر دیجئے۔

۱.....مدارک، المؤمنون، تحت الآية: ۹۷-۹۸، ص ۷۶۴-۷۶۵، ملخصاً.

۲.....صاوی، المؤمنون، تحت الآية: ۹۷، ۱۳۷۷/۴.

ترجمہ کنزالعرفان: یہاں تک کہ جب ان میں کسی کو موت آتی ہے تو کہتا ہے کہ اے میرے رب! مجھے واپس لوٹا دے۔

﴿حَتَّىٰ: یہاں تک کہ۔﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دی کہ جو کفار مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کر رہے ہیں یہ اپنی موت کے وقت دنیا کی طرف لوٹائے جانے کا سوال کریں گے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی موت کے وقت تک تو اپنے کفر و سرکشی، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول علیہ الصلوٰۃ والسلام کی تکذیب کرنے اور مرنے کے بعد زندہ کئے جانے کا انکار کرنے پر ڈٹا رہتا ہے اور جب اس کی موت کا وقت آتا ہے اور جہنم میں اس کا جو مقام ہے وہ اسے دکھایا جاتا ہے اور جنت کا وہ مقام بھی دکھایا جاتا ہے جو ایمان لانے کی صورت میں اسے ملتا، تو کہتا ہے کہ اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے۔^(۱)

لَعَلَّ أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا ۗ إِنَّهَا كَلْبَةٌ هُوَ قَائِلُهَا ۗ وَمِنْ وَرَاءِهَا يَوْمٌ مَّبْرُورٌ ۗ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ ﴿۱۰۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: شاید اب میں کچھ بھلائی کماؤں اس میں جو چھوڑ آیا ہوں بہشت یہ تو ایک بات ہے جو وہ اپنے منہ سے کہتا ہے اور ان کے آگے ایک آڑ ہے اس دن تک جس میں اٹھائے جائیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: جس دنیا کو میں نے چھوڑ دیا ہے شاید اب میں اس میں کچھ نیک عمل کر لوں۔ ہرگز نہیں! یہ تو ایک بات ہے جو وہ کہہ رہا ہے اور ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے اس دن تک جس دن وہ اٹھائے جائیں گے۔

﴿لَعَلَّ أَعْمَلُ صَالِحًا: شاید اب میں کچھ نیک عمل کر لوں۔﴾ ارشاد فرمایا کہ کافر اپنی موت کے وقت عرض کرے گا کہ اے میرے رب! عَزَّوَجَلَّ، مجھے دنیا کی طرف واپس لوٹا دے، شاید اب میں اس دنیا میں کچھ نیک عمل کر لوں جسے میں نے چھوڑ دیا ہے اور نیک اعمال بجا لا کر اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا تدارک کروں۔ اس پر اس سے فرمایا جائے گا ”ہرگز

1.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۹۹، ۳۳۱/۳، مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۹۹، ص ۷۶۵، جلالین، المؤمنون، تحت الآية: ۹۹، ص ۲۹۲.

نہیں! یہ تو ایک بات ہے جو وہ حسرت و ندامت سے کہہ رہا ہے، یہ ہونے والی نہیں اور اس کا کچھ فائدہ نہیں۔ مزید ارشاد فرمایا کہ ان کے آگے ایک رکاوٹ ہے جو انہیں دنیا کی طرف واپس ہونے سے مانع ہے اور وہ موت ہے کہ قانونِ الہی یہی ہے کہ جو مر گیا وہ دوبارہ دنیا میں نہیں لوٹایا جائے گا۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ انبیاء و اولیاء کا قدرتِ الہی اور اِذِنِ الہی سے مُردوں کو زندہ کرنا اس آیت کے مُنافی نہیں کہ آیت میں عمومی قانون بیان کیا گیا ہے جبکہ انبیاء و اولیاء کا زندہ کرنا قدرتِ الہی کا اظہار ہے۔

موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کافر دونوں کریں گے

یاد رہے کہ جس طرح کافر اپنی موت کے وقت ایمان لانے اور نیک اعمال کرنے کے لئے دوبارہ دنیا میں لوٹا دیئے جانے کا سوال کریں گے اسی طرح وہ مسلمان بھی دنیا میں لوٹائے جانے کا سوال کریں جنہوں نے نیک اعمال کرنے میں کمی یا کوتاہی کی ہوگی، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمْوَالُكُمْ وَلَا
أَوْلَادُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ
فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخٰسِرُونَ ۝ وَأَنْفِقُوا مِنْ مَّا
رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ
فَيَقُولَ سَرَبٌ لَوْ لَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ
فَأَصَّدَّقَ ۚ وَأَكُنْ مِنَ الصَّٰلِحِينَ ۝ وَلَنْ يُؤَخَّرَ
اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا ۚ وَاللَّهُ خَبِيرٌ
بِمَا تَعْمَلُونَ (۱)

ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو! تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے اور جو ایسا کرے گا تو وہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور ہمارے دیئے ہوئے رزق میں سے اس وقت سے پہلے کچھ ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں کسی کو موت آئے تو کہنے لگے، اے میرے رب! تو نے مجھے تھوڑی مدت تک کیوں مہلت نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہو جاتا۔ اور ہرگز اللہ کسی جان کو مہلت نہ دے گا جب اس کا وعدہ آجائے اور اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے۔

ترمذی شریف میں ہے، حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: جس کے پاس اتنا مال ہو کہ وہ بَيْتُ اللَّهِ شَرِيفَ كَاجَجِ كَرْنِي پھینچ سکتا ہو یا اس پر زکوٰۃ فرض ہو، اس کے باوجود وہ حج نہ کرے یا زکوٰۃ نہ دے تو وہ

موتے وقت دنیا میں واپسی کا سوال کرے گا۔ ایک شخص نے کہا: اے عبد اللہ بن عباس! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا، آپ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، دنیا میں واپسی کا سوال تو صرف کفار کریں گے (اور آپ مسلمانوں کے بارے میں ایسا کہہ رہے ہیں) حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: میں اس کے بارے میں تمہارے سامنے قرآن مجید کی آیات پڑھتا ہوں، چنانچہ آپ نے سورہ منافقون کی ان تین آیات کی تلاوت فرمائی۔^(۱)

لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ادائیگی اور اس کے احکام کی بجا آوری میں ہرگز ہرگز غفلت سے کام نہ لے اور دنیا کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کر لے تاکہ موت کے وقت ایسے حال کا سامنا کرنے سے محفوظ رہے۔

فَاِذَا نْفَخَ فِي الصُّوْرِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُوْنَ ۱۰۱

ترجمہ کنزالایمان: تو جب صور پھونکا جائے گا تو نہ ان میں رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو نہ ان کے درمیان رشتے رہیں گے اور نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے۔

﴿فَاِذَا نْفَخَ فِي الصُّوْرِ﴾: تو جب صور میں پھونک ماری جائے گی۔ ﴿رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا﴾ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد پہلی مرتبہ صور میں پھونک مارنا ہے جسے پہلا نفخہ کہتے ہیں اور حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں کہ اس سے مراد دوسری مرتبہ صور میں پھونک مارنا ہے جسے دوسرا نفخہ کہتے ہیں۔^(۲) اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب صور میں پھونک ماری جائے گی تو لوگوں کے درمیان کوئی رشتہ نہ رہیں گے جن پر وہ دنیا میں فخر کیا کرتے تھے اور ان میں آپس کے نسبی تعلقات منقطع ہو جائیں گے اور رشتے داری کی محبتیں باقی نہ رہیں گی اور یہ حال ہوگا کہ آدمی اپنے بھائیوں، ماں باپ، بیوی اور بیٹوں سے بھاگے گا اور اس وقت نہ ایک دوسرے کی بات پوچھیں گے

①.....ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة المنافقين، ۲۰۸/۵، الحدیث: ۳۳۲۷.

②.....حازن، المؤمنون، تحت الآية: ۱۰۱، ۳۳۲/۳.

جیسا کہ دنیا میں پوچھتے تھے کیونکہ ہر ایک اپنے ہی حال میں مبتلا ہوگا، پھر دوسری بار صور پھونکا جائے گا اور حساب کے بعد لوگ ایک دوسرے کا حال دریافت کریں گے۔^(۱)

رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا نسب اس وقت بھی فائدہ دے گا جب رشتے منقطع ہو جائیں گے

یاد رہے کہ اس حکم میں حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا نسب داخل نہیں، آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا نسب قیامت کے دن مومن سادات کو کام آئے گا۔ یہاں اس سے متعلق 4 احادیث ملاحظہ ہوں:

(1)..... حضرت عبداللہ بن زبیر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”قیامت کے دن میرے نسبی اور سرالی رشتے کے علاوہ ہر نسبی اور سرالی رشتے منقطع ہو جائے گا۔“⁽²⁾

(2)..... حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے لوگوں کو جمع کیا اور منبر پر تشریف لے گئے اور ارشاد فرمایا ”ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری قرابت نفع نہ دے گی۔ ہر تعلق اور رشتہ قیامت میں منقطع ہو جائے گا مگر میرا رشتہ اور تعلق (منقطع نہ ہوگا) کیونکہ دنیا و آخرت میں جڑا ہوا ہے۔“⁽³⁾

(3)..... امیر المؤمنین مولیٰ علی كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ کی بہن حضرت امّ ہانی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی بالیاں کسی وجہ سے ایک بار ظاہر ہو گئیں (حالانکہ انہیں چھپانے کا حکم ہے) اس پر ان سے کہا گیا: محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تمہیں نہ بچائیں گے۔ وہ حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں اور حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے یہ واقعہ عرض کیا، حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”ان لوگوں کا کیا حال ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ میری شفاعت میرے اہل بیت کو نہ پہنچے گی؟ بے شک میری شفاعت ضرور ”حَا“ اور ”حَاكِمُ“ (نامی یمن کے دو قبیلوں) کو بھی شامل ہے۔“⁽⁴⁾

(4)..... حضرت انس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”میرے

①..... روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۱۰۱، ۱۰۶/۶-۱۰۷.

②..... معجم الاوسط، باب العين، من اسمه: علی، ۱۴۵/۳، الحدیث: ۴۱۳۲.

③..... مجمع الزوائد، کتاب علامات النبوة، باب فی کرامة اصله صلی الله علیه وسلم، ۳۹۸/۸، الحدیث: ۱۳۸۲۷.

④..... معجم الكبير، عبد الرحمن بن ابی رافع عن امّ هانی، ۴۳۴/۲۴، الحدیث: ۱۰۶۰.

رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے کہ میرے اہل بیت میں سے جو شخص اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور میری رسالت پر ایمان لائے گا، اسے عذاب نہ فرمائے گا۔^(۱)

فَسَنْ تَقُلْتُ مَوَازِيئَهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْبَاقِلِحُونَ ۝۱۰۲ وَمَنْ خَفَّتْ
مَوَازِيئُهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خَالِدُونَ ۝۱۰۳ ج

ترجمہ کنزالایمان: تو جن کی تو لیں بھاری ہونیں وہی مراد کو پہنچے۔ اور جن کی تو لیں ہلکی پڑیں وہی ہیں جنہوں نے اپنی جانیں گھاٹے میں ڈالیں ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے تو وہی کامیاب ہونے والے ہوں گے۔ اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے تو یہ وہی ہوں گے جنہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا، (وہ) ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔

﴿فَسَنْ تَقُلْتُ مَوَازِيئَهُ﴾: تو جن کے پلڑے بھاری ہوں گے۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا معنی یہ ہے کہ جس کے عقائد درست اور اعمال نیک ہوں گے تو اس کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک وزن ہوگا اور یہی لوگ اپنا مقصد و مطلوب کو پا کر کامیاب ہوں گے اور جن کے عقائد غلط اور اعمال نیک نہ ہوں گے، ان کے اعمال کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی وزن نہ ہوگا اور ان سے مراد کفار ہیں، انہوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔^(۲)

نوٹ: اعمال کے وزن سے متعلق مزید تفصیل کے لئے سورہ اعراف آیت نمبر ۸ اور ۹ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔

تَلْفَاحٌ وَجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ ۝۱۰۲ أَلَمْ تَكُنْ أَيْتِي تُسَلِّي

۱..... مستدرک، کتاب معرفة الصحابة رضى الله تعالى عنهم، وعادنى ربى فى اهل بيتى ان لا يعذبهم، ۴/۱۳۲، الحديث: ۴۷۷۲.

۲..... ابو سعود، المؤمنون، تحت الآية: ۱۰۲-۱۰۳، ۴/۶۴-۶۵.

عَلَيْكُمْ فُكِّنْتُمْ بِهَا تُكْذِبُونَ ﴿۱۰۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: ان کے منہ پر آگ لپٹ مارے گی اور وہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔

ترجمہ کنزالعرفان: ان کے چہروں کو آگ جلا دے گی اور وہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔ کیا تم پر میری آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ تو تم انہیں جھٹلاتے تھے۔

﴿وَهُمْ فِيهَا كِلْحُونَ﴾ اور وہ اس میں منہ چڑائے ہوں گے۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالنے والے بد بختوں کا حال یہ ہوگا کہ جہنم کی آگ ان کے چہروں کو جلا دے گی اور جہنم میں ان کے دونوں ہونٹ سکڑ کر دانتوں سے دور ہو جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا ”کیا دنیا میں تمہارے سامنے میرے قرآن کی آیتیں نہ پڑھی جاتی تھیں؟ ضرور پڑھی جاتی تھیں، لیکن تم انہیں سن کر میرے عذاب سے ڈرنے کی بجائے انہیں جھٹلاتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں ہے۔“ (1)

جہنم کا ایک عذاب

حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ”وَهُمْ فِيهَا كِلْحُونَ“ کے بارے میں ارشاد فرمایا ”آگ انہیں بھون ڈالے گی اور اوپر کا ہونٹ سکڑ کر آدھے سر تک پہنچ جائے گا اور نیچے کا ہونٹ لٹک کر ناف کو چھونے لگے گا۔“ (2) اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم کے اس دردناک عذاب سے پناہ عطا فرمائے۔

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جہنم میں بد نصیب ہی جائے گا۔ عرض کی گئی: یا رسولُ اللهِ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، بد نصیب کون ہے؟ ارشاد فرمایا: ”جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کے کام نہ کرے اور اس کی نافرمانی نہ چھوڑے۔“ (3)

①.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۱۰۴-۱۰۵، ص ۷۶۶، جلالین، المؤمنون، تحت الآية: ۱۰۴-۱۰۵، ص ۲۹۳، ملقطاً.

②.....ترمذی، کتاب التفسیر، باب ومن سورة المؤمنین، ۱۱۹/۵، الحدیث: ۳۱۸۷.

③.....ابن ماجہ، کتاب الزهد، باب ما یرجى من رحمة الله عزوجل يوم القيامة، ۵۱۶/۴، الحدیث: ۴۲۹۸.

لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ بھی ان آیات سے عبرت و نصیحت حاصل کرے، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کرے اور کسی بھی حال میں اس کی نافرمانی نہ کرے۔

قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ ﴿۱۰۶﴾ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ ﴿۱۰۷﴾ قَالَ اخْسَوْا فِيهَا وَلَا تُكَلِّبُونَ ﴿۱۰۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: کہیں گے اے رب ہمارے ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب ہم کو دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو ہم ظالم ہیں۔ رب فرمائے گا دھتکارے پڑے رہو اس میں اور مجھ سے بات نہ کرو۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے۔ اے ہمارے رب! ہمیں دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہوں گے۔ اللہ فرمائے گا: دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔

﴿قَالُوا: وہ کہیں گے۔﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ ڈانٹ سن کر کفار کہیں گے: ہم اپنے اختیار سے لذتوں اور نفسانی خواہشات کی تکمیل میں مصروف ہوئے اور یہ چیز ہم پر ایسی غالب آئی کہ ہم اس برے انجام تک پہنچ گئے اور انہی لذتوں کی وجہ سے ہم لوگ حق سے گمراہ ہو گئے تھے اور ہم نے تیرے نبی کو جھٹلادیا اور تیری نافرمانیاں کیں۔ اے ہمارے رب! ہمیں دوزخ سے نکال دے، اس کے بعد اگر ہم نے دوبارہ ویسے ہی کام کئے تو بیشک ہم اپنی جانوں پر ظلم کرنے میں حد سے بڑھنے والے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو کیونکہ یہ سوال کرنے کی جگہ نہیں اور مجھ سے جہنم سے نکال کر دنیا میں لوٹا دینے کی بات نہ کرو کیونکہ اب ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا۔^(۱)

①.....روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۱۰۶-۱۰۸، ۱۰۹/۶.

جہنمیوں کی فریاد

ان آیات میں جہنمیوں کی فریاد کا ذکر ہوا، اس مناسبت سے یہاں دو احادیث ملاحظہ ہوں،

(1)..... حضرت ابو درداء رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک عَلَيْهِ السَّلَام کو پکار کر کہیں گے اے مالک! تیرا رب (ہمیں موت دے کر) ہمارا کام پورا کر دے۔ حضرت مالک عَلَيْهِ السَّلَام ان سے کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فریاد کریں گے پکاریں گے اور کہیں گے ”اے ہمارے رب! عَزَّوَجَلَّ، ہم پر ہماری بدبختی غالب آئی اور ہم گمراہ لوگ تھے، اے ہمارے رب! ہمیں دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہوں گے۔ انہیں جواب دیا جائے گا کہ دھتکارے ہوئے جہنم میں پڑے رہو اور مجھ سے بات نہ کرو۔ اب ان کی امیدیں منقطع ہو جائیں گی اور اس وقت ندامت اور خرابی کی پکار میں مشغول ہوں گے۔ (1)

(2)..... حضرت عبد اللہ بن عمرو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ دوزخی لوگ جہنم کے داروغہ حضرت مالک عَلَيْهِ السَّلَام کو پکاریں گے تو وہ چالیس برس تک انہیں جواب نہ دیں گے، اس کے بعد وہ کہیں گے کہ تم جہنم ہی میں پڑے رہو گے پھر وہ کہیں گے ”اے ہمارے رب! ہمیں دوزخ سے نکال دے پھر اگر ہم ویسے ہی کریں تو بیشک ہم ظالم ہوں گے۔ اور انہیں دنیا سے دگنی عمر تک جواب نہ دیا جائے گا۔ (2)

اور دنیا کی عمر کتنی ہے اس بارے میں کئی قول ہیں ”بعض نے کہا کہ دنیا کی عمر سات ہزار برس ہے، بعض نے کہا بارہ ہزار برس اور بعض نے کہا کہ تین لاکھ ساٹھ برس ہے۔ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (3) اور آخری بیان کردہ عمر بھی قطعی نہیں ہے۔

إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقًا مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمِنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَأَرْحَمْنَا

①..... ترمذی، کتاب صفة جہنم، باب ما جاء في صفة طعام اهل النار، ۲۶۲/۴، الحدیث: ۲۵۹۵۔

②..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب ذکر النار، ما ذکر فیما اعد لاهل النار وشدته، ۹۲/۸، الحدیث: ۶۔

③..... التذکرہ للقرطبی، باب منه و ما جاء في خروج الموحدين من النار... الخ، ص ۴۱۸، صاوی، المؤمنون، تحت الآية:

وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۰۹﴾ فَاتَّخَذُوا لَهُمْ سَخِرِيًّا حَتَّىٰ أَنْسَوْكُم
ذِكْرِي وَكُنْتُمْ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ ﴿۱۱۰﴾ إِنِّي جَزِيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِصَابِرٍ وَّآلِ
أَنْهَمُ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۱۱۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا اے ہمارے رب ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم کر اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں ٹھٹھا بنا لیا یہاں تک کہ انہیں بنانے کے شغل میں میری یاد بھول گئے اور تم ان سے ہنسا کرتے۔ بیشک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا: اے ہمارے رب! ہم ایمان لائے تو ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے۔ تو تم نے انہیں مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تم ان سے ہنسا کرتے تھے۔ بیشک آج میں نے ان کے صبر کا انہیں یہ بدلہ دیا کہ وہی کامیاب ہیں۔

﴿إِنَّهُ كَانَ فَرِيْقًا مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ﴾: بیشک میرے بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا۔ ﴿﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافرو! تمہارا حال یہ تھا کہ جب دنیا میں میرے مومن بندوں کا ایک گروہ کہتا تھا: اے ہمارے رب! ہم تجھ پر ایمان لائے اور ہم نے تیری اور جو کچھ تیری طرف سے آیا اس کی تصدیق کی، تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما کر ہمیں بخش دے اور ہم پر رحم فرما اور ہمیں جہنم سے نجات دے کر اور جنت میں داخل فرما کر ہم پر اپنا احسان فرما اور تو سب سے بہتر رحم کرنے والا ہے کیونکہ تیری رحمت ہی تمام رحمتوں کا منبع ہے۔ تو اے کافرو، تم نے انہیں مذاق بنا لیا یہاں تک کہ ان لوگوں کا مذاق اڑانے نے تمہیں میری یاد بھلا دی اور تمہیں میرے عذاب کا خوف نہ رہا اور تم ان سے ہنسا کرتے اور ان کا بہت مذاق اڑایا کرتے تھے۔ بیشک آج میں نے انہیں تمہاری اذیتوں اور مذاق اڑانے پر صبر کرنے

کا یہ بدلہ دیا کہ وہی ہمیشہ کے لئے جنت کی نعمتیں پا کر کامیاب ہیں۔^(۱)

شانِ نزول: بعض مفسرین کے نزدیک یہ آیتیں ان کفارِ قریش کے بارے میں نازل ہوئیں جو حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور ان جیسے دیگر فقراء صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔^(۲)

قُلْ كَمْ لَبِئْتُمْ فِي الْأَرْضِ عَدَدِ سِنِينَ ﴿١١٢﴾ قَالُوا الْبَيْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ
يَوْمٍ فَسَلِ الْعَادِيْنَ ﴿١١٣﴾ قُلْ إِنْ لَبِئْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا لَّوْ أَنْتُمْ كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ﴿١١٣﴾

ترجمہ کنزالایمان: فرمایا تم زمین میں کتنا ٹھہرے برسوں کی گنتی سے۔ بولے ہم ایک دن رہے یا دن کا حصہ تو گننے والوں سے دریافت فرما۔ فرمایا تم نہ ٹھہرے مگر تھوڑا اگر تمہیں علم ہوتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ فرمائے گا: تم زمین میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ وہ کہیں گے: ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں تو گننے والوں سے دریافت فرما۔ فرمائے گا: تم بہت تھوڑا ہی ٹھہرے ہو، اگر تم جانتے۔

﴿قُلْ﴾ فرمایا۔ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کفار سے فرمائے گا کہ تم دنیا میں اور قبر میں سالوں کی گنتی کے اعتبار سے کتنا عرصہ ٹھہرے ہو؟ کفار اس سوال کے جواب میں کہیں گے: ہم ایک دن رہے یا ایک دن کا بھی کچھ حصہ ٹھہرے ہیں۔ کفار یہ جواب اس وجہ سے دیں گے کہ اس دن کی دہشت اور عذاب

①.....روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۱۰۹-۱۱۱، ۱۰۹/۶، جلالین، المؤمنون، تحت الآية: ۱۰۹-۱۱۱، ص ۲۹۳، ملتقطاً.

②.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۱۰۹، ۳۳۲/۲.

کی پیت سے انہیں اپنے دنیا میں رہنے کی مدت یاد نہ رہے گی اور انہیں شک ہو جائے گا، اسی لئے کہیں گے: اے اللہ! عَزَّوَجَلَّ، تو ان فرشتوں سے دریافت فرما جنہیں تو نے بندوں کی عمریں اور ان کے اعمال لکھنے پر مامور کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کفار کو جواب دے گا کہ اگر تمہیں دنیا میں رہنے کی مدت معلوم ہوتی تو تم جان لیتے کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا میں بہت ہی تھوڑا عرصہ ٹھہرے ہو۔^(۱)

أَفَحَسِبْتُمْ أَنبَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنْتُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجِعُونَ ﴿۱۱۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹنے نہیں جاؤ گے؟

﴿أَفَحَسِبْتُمْ﴾: تو کیا تم یہ سمجھتے ہو۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کو مزید سرزنش فرمائی کہ اے بد بختو! کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹنے نہیں جاؤ گے، ایسا نہیں بلکہ ہم نے تمہیں عبادت کے لئے پیدا کیا تاکہ تم پر عبادت لازم کریں اور آخرت میں تم ہماری طرف لوٹ کر آؤ تو تمہیں تمہارے اعمال کی جزا دیں۔^(۲)

اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت و انشمندی نہیں

یاد رہے کہ ہماری زندگی کا اصلی مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا ہے، جیسا کہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ^(۳) **ترجمہ کنزالعرفان:** اور میں نے جن اور آدمی اسی لئے

بنائے کہ میری عبادت کریں۔

اور یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں بالکل آزاد نہیں چھوڑا جائے گا کہ نہ ہم پر امر و نہی وغیرہ کے احکام ہوں، نہ ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے نہ ہم سے اعمال کا حساب لیا جائے اور نہ ہمیں آخرت میں اعمال کی جزا دی جائے، ایسا نہیں ہے،



①.....خازن، المؤمنون، تحت الآية: ۱۱۲-۱۱۴، ۳/۳۳۳.

②.....مدارك، المؤمنون، تحت الآية: ۱۱۵، ص ۷۶۷، ملخصاً.

③.....الذاريات: ۵۶.

اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

أَيْحَسِبُ الْإِنْسَانُ أَنْ يُتْرَكَ سُدًى (۱)

ترجمہ کنزالعرفان: کیا آدمی اس گھمنڈ میں ہے کہ اسے

آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔

جب ہماری پیدائش کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے اور ہم شریعت کے احکام سے آزاد بھی نہیں ہیں اور ہمیں قیامت کے دن اپنے ہر عمل کا حساب بھی بہر صورت دینا ہے تو اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل ہو کر دنیا کے کام دھندوں میں ہی مصروف رہنا کہاں کی دانشمندی ہے۔

فَتَعَلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَقُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ ۱۱۶

ترجمہ کنزالایمان: تو بہت بلندی والا ہے اللہ سچا بادشاہ کوئی معبود نہیں سوا اس کے عزت والے عرش کا مالک۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو وہ اللہ بہت بلندی والا ہے جو سچا بادشاہ ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عزت والے عرش کا مالک ہے۔

﴿فَتَعَلَى اللَّهِ﴾: تو اللہ بہت بلندی والا ہے۔ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾ یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات، صفات اور افعال میں مخلوق کی مماثلت سے پاک ہے، وہی سچا بادشاہ ہے اور ہر چیز اسی کی ملکیت اور اسی کی بادشاہی میں داخل ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں کیونکہ تمام چیزیں اسی کی ملکیت ہیں اور جو ملکیت ہو وہ معبود نہیں ہو سکتی اور وہ اس عرش کا مالک ہے جو عزت والا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کرم و رحمت کا فیضان یہیں سے تقسیم ہوتا ہے اور ہر مخلوق میں اس کی رحمت و کرم کے آثار یہیں سے بٹتے ہیں۔ (۲)

وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا بُرْهَانَ لَهُ بِهِ فَإِنَّمَا حِسَابُهُ عِنْدَ رَبِّهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ ۱۱۷

۱.....القیامہ: ۳۶۔

۲.....روح البیان، المؤمنون، تحت الآية: ۱۱۶، ۱۱۷/۶۔

ترجہ کنزالایمان: اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے خدا کو پوجے جس کی اس کے پاس کوئی سند نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے یہاں ہے بیشک کافروں کو چھٹکارا نہیں۔

ترجہ کنزالعرفان: اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب کے پاس ہی ہے، بیشک کافر فلاح نہیں پائیں گے۔

﴿وَمَنْ يَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ﴾ اور جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت کرے جس کی عبادت کرنے پر اس کے پاس کوئی دلیل نہیں تو اس کا حساب اس کے رب غزّوجلّ کے پاس ہی ہے اور وہی اسے اس عمل کی سزا دے گا، بیشک کافر حساب کی سختی اور عذاب سے چھٹکارا نہیں پائیں گے اور انہیں کوئی سعادت نصیب نہ ہوگی۔^(۱)

وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِينَ ﴿۱۱۸﴾

ترجہ کنزالایمان: اور تم عرض کرو اے میرے رب بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے برتر رحم کرنے والا۔

ترجہ کنزالعرفان: اور تم عرض کرو، اے میرے رب! بخش دے اور رحم فرما اور تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔

﴿وَقُلْ﴾ اور تم عرض کرو۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم دیا تاکہ امت اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت میں سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے آپ کی امت کو استغفار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔^(۲)

استغفار کا سرور

حضرت شہاد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد

①.....روح البیان، المؤمنون، تحت الآیة: ۱۱۷، ۱۱۲/۶-۱۱۳، جلالین، المؤمنون، تحت الآیة: ۱۱۷، ص ۲۹۳، ملقطاً.

②.....قرطبی، المؤمنون، تحت الآیة: ۱۱۸، ۱۱۷/۶، الجزء الثانی عشر.

فرمایا: ”استغفار کا سردار یہ ہے کہ تم کہو ”اللَّهُمَّ أَنْتَ رَبِّي، لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ، خَلَقْتَنِي وَ أَنَا عَبْدُكَ، وَ أَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَ وَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ، أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ، أَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ وَ أَبُوءُ بِذَنْبِي، فَاعْفُرْ لِي، فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ“ یعنی الہی تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا، میں تیرا بندہ ہوں اور اپنی طاقت کے مطابق تیرے عہد و پیمان پر قائم ہوں، میں اپنے کیے کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، تیری نعمت کا جو مجھ پر ہے اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اقراری ہوں، مجھے بخش دے تیرے سوا گناہ کوئی نہیں بخش سکتا۔ حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا کہ جو یقین قلبی کے ساتھ دن میں یہ کہہ لے پھر اسی دن شام سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا اور جو یقین دل کے ساتھ رات میں یہ کہہ لے پھر صبح سے پہلے مر جائے تو وہ جنتی ہوگا۔^(۱)

1.....بخاری، کتاب الدعوات، باب افضل الاستغفار، ۱۸۹/۴، الحدیث: ۶۳۰۶.

سُورَةُ النُّورِ

سورة نور کا تعارف

مقام نزول

سورة نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔^(۱)

رکوع اور آیات کی تعداد

اس میں 9 رکوع اور 64 آیتیں ہیں۔

”نور“ نام رکھنے کی وجہ

اس سورت کی آیت نمبر 35 اور 40 میں بکثرت لفظ ”نور“ ذکر کیا گیا ہے، اس مناسبت سے اسے ”سورة نور“

کہتے ہیں۔

سورة نور کے بارے میں احادیث

(1)..... حضرت مجاہد رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تم اپنے مردوں کو سورة مائدہ سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو سورة نور کی تعلیم دو۔“⁽²⁾

(2)..... حضرت ابووائل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: میں نے اور میرے ایک ساتھی نے حج کیا اور حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بھی حج کر رہے تھے، ایک جگہ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سورہ نور پڑھنے لگے اور اس کی تفسیر بیان کرنا شروع ہوئے تو میرے ساتھی نے کہا ”اے اللہ! عَزَّ وَجَلَّ، تو ہر نقص و عیب سے پاک ہے، یہ شخص کتنا بہترین کلام کر رہا ہے اگر اس کلام کو تر کی لوگ سن لیں تو وہ ایمان لے آئیں۔“⁽³⁾

①..... حازن، تفسیر سورة النور، ۳/۳۳۳۔

②..... شعب الایمان، التاسع عشر من شعب الایمان... الخ، فصل فی فضائل السور والآیات، ۲/۴۶۹، الحدیث: ۲۴۲۸۔

③..... مستدرک، کتاب معرفة الصحابة رضى الله تعالى عنهم، ذکر مجلس ابن عباس، ۴/۶۹۳، الحدیث: ۶۲۴۶۔

سورہ نور کے مضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں پردہ، شرم و حیا اور عفت و عصمت کے احکام بیان کئے گئے ہیں، نیز اس سورت میں یہ مضامین بیان کئے گئے ہیں:

(1)..... اس سورت کی ابتداء میں زنا کرنے والے مردوں اور عورتوں کی شرعی سزا بیان کی گئی، نیز مشرکہ عورت اور زانیہ عورت سے نکاح حرام قرار دے دیا گیا البتہ بعد میں زانیہ عورت سے نکاح کی حرمت منسوخ کر دی گئی اور مشرکہ عورت سے نکاح کی حرمت باقی رکھی گئی۔

(2)..... پاک و امن عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے اور اسے چار گواہوں سے ثابت نہ کر سکنے والے کی شرعی سزا بیان کی گئی۔

(3)..... لعان کے احکام بیان کئے گئے۔

(4)..... اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر منافقین کی طرف سے لگائی جانے والی جھوٹی تہمت کا واقعہ بیان کیا گیا اور جو مرد و عورت اس تہمت لگانے میں شریک تھا اسے 80 کوڑے مارنے کا حکم دیا گیا اور اس معاملے میں چند مسلمانوں پر بھی عتاب کیا گیا۔

(5)..... حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی شان بیان کی گئی۔

(6)..... اجتماعی زندگی گزارنے کے اصول بیان کئے گئے کہ گھروں میں داخل ہوتے وقت اجازت لی جائے، نگاہوں کو جھکا کر رکھا جائے، شرمگاہوں کی حفاظت کی جائے، غیر محرم کے سامنے عورتیں اپنی زینت کی جگہیں ظاہر نہ کریں، جو لوگ شادی شدہ نہیں اور شادی کرنے کی استطاعت رکھتے ہوں تو ان کی شادی کر دی جائے اور جو شادی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے وہ اپنی عفت و عصمت کی حفاظت کریں۔

(7)..... کفار کے اعمال کی مثال بیان کی گئی۔

(8)..... اللہ تعالیٰ کے وجود اور وحدانیت پر دن اور رات کے پلٹنے سے، بارش نازل کرنے، زمین و آسمان کے پیدا کرنے، پوری کائنات کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکنے، پرندوں کی پرواز اور عجیب و غریب قسم کے جانور اور کیڑے مکوڑے پیدا کرنے سے استدلال کیا گیا۔

- (9)..... منافقوں اور سچے مومنوں کے اوصاف بیان کئے گئے کہ منافق اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے حکم سے اعراض کرتے ہیں جبکہ ایمان والے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے احکامات کی اطاعت کرتے ہیں۔
- (10)..... نیک اعمال کرنے والے مسلمانوں سے اللہ تعالیٰ نے زمین کی خلافت عطا کرنے کا وعدہ فرمایا۔
- (11)..... تین اوقات میں غلاموں اور بچوں کے گھروں میں داخل ہونے کے احکام بیان کئے گئے۔
- (12)..... معذور مسلمانوں سے جہاد کے حکم میں تخفیف کی گئی۔
- (13)..... قریبی رشتہ داروں اور دوستوں کے گھروں سے اجازت کے بغیر کھانے کا حکم بیان کیا گیا۔
- (14)..... بارگاہ رسالت کے آداب بیان کئے گئے۔

سورہ مومنوں کے ساتھ مناسبت

سورہ نور کی اپنے سے ما قبل سورت ”مومنوں“ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ مومنوں میں ایمان والوں کا ایک وصف یہ بیان کیا گیا کہ وہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں اور سورہ نور میں ان لوگوں کے احکام بیان کئے گئے جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے۔⁽¹⁾ نیز سورہ مومنوں میں صالحین کے اوصاف بیان کئے گئے ہیں جبکہ سورہ نور میں فاسقین کے اعمال بیان کئے گئے ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

سُوْرَةُ أَنْزَلْنَاهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنْزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لِّعَلَّكُمْ

1.....تناسق الدرر، سورہ النور، ص ۱۰۴۔

تَذَكُّرُونَ ①

ترجمہ کنزالایمان: یہ ایک سورت ہے کہ ہم نے اُتاری اور ہم نے اس کے احکام فرض کئے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں کہ تم دھیان کرو۔

ترجمہ کنزالعرفان: یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس کے احکام فرض کئے اور ہم نے اس میں روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔

﴿سُورَةُ نُورٍ﴾: یہ ایک سورت ہے۔ سورہ نور کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے حدود اور مختلف احکام بیان فرمائے جبکہ اس سورت کے آخر میں توحید کے دلائل ذکر فرمائے اور اس آیت میں بیان فرمایا کہ یہ ایک سورت ہے جو ہم نے نازل فرمائی اور ہم نے اس میں موجود احکام مسلمانوں پر فرض کئے اور ان پر عمل کرنا بندوں پر لازم کیا اور ہم نے اس میں ضروری احکام اور اپنی وحدانیت کے دلائل پر مشتمل روشن آیتیں نازل فرمائیں تاکہ تم نصیحت حاصل کرو۔^(۱)

الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ
الْآخِرِ وَلَيْشهادًا بِهِمَا ظَاهِرَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ②

ترجمہ کنزالایمان: جو عورت بدکار ہو اور جو مرد تو ان میں ہر ایک کو سو کوڑے لگاؤ اور تمہیں ان پر ترس نہ آئے اللہ کے دین میں اگر تم ایمان لاتے ہو اللہ اور پچھلے دن پر اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ حاضر ہو۔

①.....حازن، النور، تحت الآية: ۱، ۳۳۴/۳، صاوی، النور، تحت الآية: ۱، ۱۳۸۲/۴، ملقطاً.

ترجمہ کنز العرفان: جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو تو ان میں ہر ایک کو سو سو کوڑے لگاؤ اور اگر تم اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہو تو تمہیں اللہ کے دین میں ان پر کوئی ترس نہ آئے اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔

﴿ **الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي:** جو زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والا مرد ہو۔ ﴿ اس آیت سے اللہ تعالیٰ نے حدود اور احکام کا بیان شروع فرمایا، سب سے پہلے زنا کی حد بیان فرمائی اور حکام سے خطاب فرمایا کہ جس مرد یا عورت سے زنا سرزد ہو تو اس کی حد یہ ہے کہ اسے سو کوڑے لگاؤ۔ ^(۱)

غیر مُحْصَنُ زانی کی سزا

یاد رہے کہ حد ایک قسم کی سزا ہے جس کی مقدار شریعت کی جانب سے مقرر ہے کہ اس میں کمی بیشی نہیں ہو سکتی اور اس سے مقصود لوگوں کو اس کام سے باز رکھنا ہے جس کی یہ سزا ہے۔ ^(۲) اور اس آیت میں بیان کی گئی زنا کی حد آزاد، غیر مُحْصَنُ کی ہے کیونکہ آزاد، مُحْصَنُ کا حکم یہ ہے کہ اسے رجم کیا جائے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے کہ حضرت ماعز رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كَوْنِي كَرِيم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَعَلِمٍ سَعِي رَجْمٌ كَمَا كَمَا۔ ^(۳)

مُحْصَنُ وہ آزاد مسلمان ہے جو مُكَلَّف ہو اور نکاح صحیح کے ساتھ خواہ ایک ہی مرتبہ اپنی بیوی سے صحبت کر چکا ہو۔ ایسے شخص سے زنا ثابت ہو تو اسے رجم کیا جائے گا اور اگر ان میں سے ایک بات بھی نہ ہو مثلاً آزاد نہ ہو یا مسلمان نہ ہو یا عاقل بالغ نہ ہو یا اس نے کبھی اپنی بیوی کے ساتھ صحبت نہ کی ہو یا جس کے ساتھ صحبت کی ہو اس کے ساتھ نکاح فاسد ہو یا ہو تو یہ سب غیر مُحْصَنُ میں داخل ہیں اور زنا کرنے کی صورت میں ان سب کا حکم یہ ہے کہ انہیں سو کوڑے مارے جائیں۔

زنا کی حد سے متعلق 3 شرعی مسائل

یہاں آیت میں ذکر کی گئی حد سے متعلق 3 اہم شرعی مسائل ملاحظہ ہوں۔

(1)..... زنا کا ثبوت یا تو چار مردوں کی گواہیوں سے ہوتا ہے یا زنا کرنے والے کے چار مرتبہ اقرار کر لینے سے۔ پھر

①..... مدارك، النور، تحت الآية: ۲، ص ۷۶۸.

②..... در مختار مع ردالمحتار، كتاب الحدود، ۵/۶.

③..... بخاری، كتاب المحاربین من اهل الكفر والردة، باب هل يقول الامام للمقر: لعنك لمست او غمزت، ۴ / ۳۴۲،

الحديث: ۶۸۲۴.

بھی حاکم یا قاضی بار بار سوال کرے گا اور دریافت کرے گا کہ زنا سے کیا مراد ہے؟ کہاں کیا؟ کس سے کیا؟ کب کیا؟ اگر ان سب کو بیان کر دیا تو زنا ثابت ہوگا ورنہ نہیں اور گواہوں کو صراحتاً اپنا معائنہ بیان کرنا ہوگا، اس کے بغیر ثبوت نہ ہوگا۔

(2)..... مرد کو کوڑے لگانے کے وقت کھڑا کیا جائے اور تہبند کے سوا اس کے تمام کپڑے اتار دیئے جائیں اور مُتَوَسَّط درجے کے کوڑے سے اس کے سر، چہرے اور شرم گاہ کے علاوہ تمام بدن پر کوڑے لگائے جائیں اور کوڑے اس طرح لگائے جائیں کہ اَلْم یعنی درد گوشت تک نہ پہنچے۔ عورت کو کوڑے لگانے کے وقت نہ اسے کھڑا کیا جائے، نہ اس کے کپڑے اتارے جائیں البتہ اگر پوسٹین یا روئی دار کپڑے پہنے ہوئے ہو تو وہ اتار دیئے جائیں۔ یہ حکم آزاد مرد اور عورت کا ہے جبکہ باندی غلام کی حد اس سے نصف یعنی پچاس کوڑے ہیں جیسا کہ سورہ نساء میں مذکور ہو چکا۔

(3)..... لواطت زنا میں داخل نہیں لہذا اس فعل سے حد واجب نہیں ہوتی لیکن تعزیر واجب ہوتی ہے اور اس تعزیر میں صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کے چند قول مروی ہیں۔ (1) آگ میں جلادینا۔ (2) غرق کر دینا۔ (3) بلندی سے گرانا اور اوپر سے پتھر برسانا۔ فاعل و مفعول یعنی لواطت کا فعل کرنے اور کروانے والے دونوں کا ایک ہی حکم ہے۔⁽¹⁾

نوٹ: زنا کی حد سے متعلق مزید تفصیل جاننے کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 سے ”حدود کا بیان“ مطالعہ فرمائیں۔

﴿وَلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ﴾ تمہیں ان پر کوئی ترس نہ آئے۔ ﴿اس آیت کا معنی یہ ہے کہ ایمان والوں پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں انتہائی سخت ہوں اور اس کی نافذ کردہ حدود کو قائم کرنے میں کسی طرح کی نرمی سے کام نہ لیں کہ کہیں اس کی وجہ سے حد نافذ کرنا ہی چھوڑ دیں یا اس میں تخفیف کرنا شروع کر دیں۔⁽²⁾

حدود نافذ کرنے کے معاملے میں مسلم حکمرانوں کے لئے شرعی حکم

اس آیت میں اور اس کے علاوہ کثیر احادیث میں مسلم حکمرانوں کو حکم دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے جرائم کی جو سزائیں مقرر کی ہیں وہ انہیں سختی سے نافذ کریں، چنانچہ حضرت عبادہ بن صامت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کی حدود کو قریب

1..... تفسیرات احمدیہ، النور، تحت الآية: ۲، ص ۵۴۲-۵۴۳.

2..... مدارك، النور، تحت الآية: ۲، ص ۷۶۹.

و بعد سب میں قائم کرو اور اللہ عَزَّوَجَلَّ کے حکم بجالانے میں ملامت کرنے والے کی ملامت تمہیں نہ روکے۔ (1)

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے

ارشاد فرمایا: ”(اے حاکمو!) عزت داروں کی لغزشیں معاف کر دو، مگر حدود (کہ ان کو معاف نہیں کر سکتے۔) (2)

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے کہ ایک مخزومیہ عورت نے چوری کی تھی، جس

کی وجہ سے قریش کو فکر پیدا ہو گئی (کہ اس کو کس طرح سزا سے بچایا جائے۔) آپس میں لوگوں نے کہا کہ اس کے بارے میں

کون شخص رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے سفارش کرے گا؟ پھر لوگوں نے کہا، حضرت اسامہ بن زید رَضِيَ

اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کے سوا جو کہ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے محبوب ہیں، کوئی شخص سفارش کرنے کی جرأت نہیں

کر سکتا، غرض حضرت اسامہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے سفارش کی، اس پر حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد

فرمایا کہ تو حد کے بارے میں سفارش کرتا ہے! پھر حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ خطبہ کے لیے کھڑے ہوئے اور

اس خطبہ میں یہ فرمایا کہ ”اگلے لوگوں کو اس بات نے ہلاک کیا کہ اگر ان میں کوئی شریف چوری کرتا تو اُسے چھوڑ دیتے

اور جب کمزور چوری کرتا تو اُس پر حد قائم کرتے، خدا کی قسم! اگر فاطمہ بنت محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ چوری کرتی تو

میں اُس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ (3)

اس آیت اور روایات سے اقتدار کی مسندوں پر فائز ان مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہئے کہ جو اللہ تعالیٰ

کی حدوں کو قائم کرنے کی بجائے ان میں تبدیلیاں کرنے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم

عطا فرمائے۔

﴿وَلَيْشَهِدَ عَذَابُهُمْ آيَةً مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾ اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کا ایک گروہ موجود ہو۔ ﴿

یعنی جب زنا کرنے والوں پر حد قائم کی جا رہی ہو تو اس وقت مسلمانوں کا ایک گروہ وہاں موجود ہوتا کہ زنا کی سزا دیکھ کر

انہیں عبرت حاصل ہو اور وہ اس برے فعل سے باز رہیں۔

1..... ابن ماجہ، کتاب الحدود، باب اقامة الحدود، ۲۱۷/۳، الحدیث: ۲۵۴۰.

2..... ابوداؤد، کتاب الحدود، باب فی الحدیث یشفع فیہ، ۱۷۸/۴، الحدیث: ۴۳۷۵.

3..... بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، ۵۶-باب، ۴۶۸/۲، الحدیث: ۳۴۷۵.

زنا کی مذمت

زنا حرام اور کبیرہ گناہ ہے۔ قرآن مجید میں اس کی بہت شدید مذمت کی گئی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا (۱)

ترجمہ کنزالعرفان: اور بدکاری کے پاس نہ جاؤ بیشک وہ بے حیائی ہے اور بہت ہی بُرا راستہ ہے۔

اور ارشاد فرمایا:

وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَ
لَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا
بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ ۚ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ
أَثَمًا ۖ يُضْعَفُ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَ
يَخْلُدُ فِيهِ مُهَانًا (۲)

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہ جو اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور اس جان کو ناحق قتل نہیں کرتے جسے اللہ نے حرام فرمایا ہے اور بدکاری نہیں کرتے اور جو یہ کام کرے گا وہ سزا پائے گا۔ اس کے لئے قیامت کے دن عذاب بڑھا دیا جائے گا اور ہمیشہ اس میں ذلت سے رہے گا۔

نیز کثیر احادیث میں بھی زنا کی بڑی سخت مذمت و برائی بیان کی گئی ہے، یہاں ان میں سے 6 احادیث

ملاحظہ ہوں،

(1)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُرْنُور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب بندہ زنا کرتا ہے تو اُس سے ایمان نکل کر سر پر سائبان کی طرح ہو جاتا ہے اور جب اس فعل سے جدا ہوتا ہے تو اُس کی طرف ایمان لوٹ آتا ہے۔“ (3)

(2)..... حضرت عمرو بن عاص رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جس قوم میں زنا ظاہر ہوگا، وہ قحط میں گرفتار ہوگی اور جس قوم میں رشوت کا ظہور ہوگا، وہ رعب میں گرفتار ہوگی۔“ (4)

(3)..... حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے

1..... بنی اسرائیل: ۳۲۔

2..... فرقان: ۶۸، ۶۹۔

3..... ترمذی، کتاب الایمان، باب ما جاء لا یزنی الزانی وهو مؤمن، ۲۸۳/۴، الحدیث: ۲۶۳۴۔

4..... مشکوٰۃ المصابیح، کتاب الحدود، الفصل الثالث، ۶۵۶/۲، الحدیث: ۳۵۸۲۔

ارشاد فرمایا ”جس بستی میں زنا اور سودِ طاہر ہو جائے تو انہوں نے اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے عذاب کو حلال کر لیا۔“ (1)

(4)..... حضرت عثمان بن ابوالعاصِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”آدھی رات کے وقت آسمانوں کے دروازے کھول دیئے جاتے ہیں، پھر ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے کہ ”ہے کوئی دعا کرنے والا کہ اس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی مانگنے والا کہ اسے عطا کیا جائے، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اس کی مصیبت دور کی جائے۔ اس وقت پیسے لے کر زنا کروانے والی عورت اور ظالمانہ ٹیکس لینے والے شخص کے علاوہ ہر دعا کرنے والے مسلمان کی دعا قبول کر لی جائے گی۔“ (2)

(5)..... حضرت مقداد بن اسود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سے ارشاد فرمایا ”زنا کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے عرض کی: زنا حرام ہے، اللہ عزَّ وَّجَلَّ اور اس کے رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اُسے حرام کیا ہے اور وہ قیامت تک حرام رہے گا۔ رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”دس عورتوں کے ساتھ زنا کرنا اپنے پڑوسی کی عورت کے ساتھ زنا کرنے (کے گناہ) سے ہلکا ہے۔“ (3)

(6)..... حضرت عبد اللہ بن عمرو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جو شخص اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظرِ رحمت نہ فرمائے گا اور نہ ہی اسے پاک کرے گا اور اس سے فرمائے گا کہ جہنمیوں کے ساتھ تم بھی جہنم میں داخل ہو جاؤ۔“ (4)

اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو زنا جیسے بدترین گندے اور انتہائی مذموم فعل سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

الرَّائِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا

1..... مستدرک، کتاب البیوع، اذا ظهر الزنا والربا في قرية فقد احلوا بانفسهم عذاب الله، ۳۳۹/۲، الحدیث: ۲۳۰۸.

2..... معجم الاوسط، باب الالف، من اسمه ابراهيم، ۱۳۳/۲، الحدیث: ۲۷۶۹.

3..... مسند امام احمد، مسند الانصار رضى الله عنهم، بقية حديث المقداد بن الاسود رضى الله تعالى عنه، ۲۲۶/۹، الحدیث:

۲۳۹۱۵.

4..... مسند الفردوس، باب الزاي، ۳۰۱/۲، الحدیث: ۳۳۷۱.

زَانٍ أَوْ مُشْرِكٍ ۚ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ۝۳

ترجمہ کنزالایمان: بدکار مرد نکاح نہ کرے مگر بدکار عورت یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہ کرے مگر بدکار مرد یا مشرک اور یہ کام ایمان والوں پر حرام ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرک سے ہی نکاح کرے گا اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرے گا اور یہ ایمان والوں پر حرام ہے۔

﴿الزَّانِي لَا يَبْتَغِ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً﴾: زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرک سے ہی نکاح کرے گا۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ زنا کرنے والا مرد بدکار عورت یا مشرک سے ہی نکاح کرنا پسند کرے گا اور بدکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرنا پسند کرے گا کیونکہ خبیث کا میلان خبیث ہی کی طرف ہوتا ہے، نیکوں کو خبیثوں کی طرف رغبت نہیں ہوتی۔ اس آیت کا ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ فاسق و فاجر شخص نیک اور پارسا عورت سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتا بلکہ وہ اپنے جیسی فاسقہ فاجرہ عورت سے نکاح کرنا پسند کرتا ہے اسی طرح فاسقہ فاجرہ عورت نیک اور پارسا مرد سے نکاح کرنے کی رغبت نہیں رکھتی بلکہ وہ اپنے جیسے فاسق و فاجر مرد سے ہی نکاح کرنا پسند کرتی ہے۔ شان نزول: اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ مہاجرین میں سے بعض بالکل نادار تھے، نہ اُن کے پاس کچھ مال تھا نہ ان کا کوئی عزیز قریب تھا اور بدکار مشرک عورتیں دولت مند اور مالدار تھیں، یہ دیکھ کر کسی مہاجر کو خیال آیا کہ اگر اُن سے نکاح کر لیا جائے تو ان کی دولت کام میں آئے گی۔ سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے انہوں نے اس کی اجازت چاہی تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور انہیں اس سے روک دیا گیا۔^(۱)

﴿وَحُرِّمَ﴾: اور حرام ہے۔ ﴿یعنی بدکاروں سے نکاح کرنا ایمان والوں پر حرام ہے۔ یاد رہے کہ ابتدائے اسلام میں زانیہ عورت سے نکاح کرنا حرام تھا بعد میں اس آیت ”وَآنُكِحُوا الْاَيَّامِي مِنْكُمْ“ (ترجمہ کنزالعرفان: اور تم میں سے جو

①.....خازن، النور، تحت الآية: ۳، ۳۳۵/۳.

بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو۔ (1) سے یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ (2)

بد عقیدہ اور بد کردار لوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے سے بچیں

اس آیت سے معلوم ہوا کہ بد عقیدہ اور بری عادات و کردار والے لوگوں کا ساتھی بننے اور انہیں اپنا ساتھی بنانے سے بچنا چاہئے اور درست عقائد رکھنے والے نیک و پارسا لوگوں کا ساتھی بننا اور انہیں اپنا ساتھی بنانا چاہئے کیونکہ ایک طبیعت دوسری طبیعت سے اثر لیتی ہے اور ایک دوسرے سے تعلقات اپنا اثر دکھاتے ہیں اور بری عادات بہت جلد بندے میں سرایت کر جاتی ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”بنی اسرائیل میں پہلی خرابی جو آئی وہ یہ تھی کہ ان میں سے ایک آدمی جب دوسرے آدمی سے ملتا تو اس سے کہتا: اے شخص! اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جو برا کام تم کرتے ہو اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ تیرے لئے جائز نہیں ہے۔ پھر جب دوسرے دن اس سے ملتا تو اسے منع نہ کرنا کیونکہ وہ کھانے پینے اور بیٹھنے میں اس کا شریک ہو جاتا تھا۔ جب انہوں نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اچھے دلوں کو برے دلوں سے ملا دیا (اور نیک لوگ بروں کی صحبت میں بیٹھنے کی نحوست سے انہی جیسے ہو گئے۔) (3)

اور جتنے قریبی ساتھی شوہر اور بیوی ہوتے ہیں اتنے کوئی اور نہیں ہوتے اور ان میں سے کوئی ایک بد عقیدہ یا بد کردار ہو تو اس کے اثرات اتنے خطرناک ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے دین و ایمان سے ہی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، جیسا کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”غیر مذہب والیوں کی صحبت آگ ہے، ذی علم، عاقل، بالغ مردوں کے مذہب اس میں بگڑ گئے ہیں، عمران بن حطان رقاشی کا قصہ مشہور ہے، یہ تابعین کے زمانہ میں ایک بڑا محدث تھا، خارجی مذہب کی عورت کی صحبت میں معاذ اللہ خود خارجی ہو گیا اور یہ دعویٰ کیا تھا کہ اسے سنی کرنا چاہتا ہے۔ (4)

لہذا جسے اپنے دین و ایمان کی ذرا سی بھی فکر ہے اسے چاہئے کہ وہ بد مذہب مرد یا عورت سے ہرگز ہرگز شادی نہ کرے، یونہی برے کردار والے مرد یا عورت سے شادی کرنے سے بھی بچے بلکہ درست عقائد، اچھے کردار اور نیک و

1.....النور: ۳۲۔

2.....مدارک، النور، تحت الآية: ۳، ص ۷۶۹۔

3.....ابو داؤد، اول کتاب الملاحم، باب الامر والنہی، ۱۶۲/۴، الحدیث: ۴۳۳۔

4.....فتاویٰ رضویہ، ۲۳/۲۹۲۔

پارسامرد یا عورت سے شادی کی جائے تاکہ دنیا بھی سنور جائے اور آخرت بھی برباد نہ ہو۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ
فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿۴﴾ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا
فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور جو پارسامردوں کو عیب لگائیں پھر چار گواہ معائنہ کے نہ لائیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور ان کی کوئی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہیں۔ مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور سنور جائیں تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور جو پاکدامن عورتوں پر تہمت لگائیں پھر چار گواہ نہ لائیں تو انہیں اسی کوڑے لگاؤ اور ان کی گواہی کبھی نہ مانو اور وہی فاسق ہیں۔ مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں اور اپنی اصلاح کر لیں تو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ﴾ اور جو پاکدامن عورتوں پر تہمت لگائیں۔ ﴿اس آیت مبارکہ میں پاکدامن اجنبی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے والوں کی سزا کا بیان ہے۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو لوگ پاکدامن عورتوں پر زنا کی تہمت لگائیں پھر چار گواہ ایسے نہ لائیں جنہوں نے ان کے زنا کا معائنہ کیا ہو تو ان میں سے ہر ایک کو اسی کوڑے لگاؤ اور کسی چیز میں ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو اور کبیرہ گناہ کے مرتکب ہونے کی وجہ سے وہی فاسق ہیں۔^(۱)

پاکدامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا سے متعلق چند شرعی مسائل

یہاں آیت میں بیان کی گئی سزا سے متعلق چند شرعی مسائل ملاحظہ ہوں،

(۱)..... جو شخص کسی پارسامرد یا عورت کو زنا کی تہمت لگائے اور اس پر چار معائنہ کے گواہ پیش نہ کر سکے تو اس پر 80 کوڑوں

۱..... جلالین، النور، تحت الآية: ۴، ص ۲۹۴.

کی حد واجب ہو جاتی ہے۔ آیت میں مُحْصَنَاتُ كَالْفِطْرِ (یعنی صرف عورتوں پر تہمت لگانے کا بیان) مخصوص واقعہ کے سبب سے وارد ہوا یا اس لئے کہ عورتوں کو تہمت لگانا بکثرت واقع ہوتا ہے۔

(2)..... ایسے لوگ جو زنا کی تہمت میں سزا یا ب ہوں اور ان پر حد جاری ہو چکی ہو وہ مَرْدُو الشَّهَادَةِ ہو جاتے ہیں، یعنی ان کی گواہی کبھی مقبول نہیں ہوتی۔ پارسا سے مراد وہ ہیں جو مسلمان، مُكَلَّف، آزاد اور زنا سے پاک ہوں۔

(3)..... زنا کی گواہی کا نصاب چار گواہ ہیں۔

(4)..... حدِ قذف یعنی زنا کی تہمت لگانے کی سزا مطالبہ پر مشروط ہے، جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ مطالبہ نہ کرے تو قاضی پر حد قائم کرنا لازم نہیں۔

(5)..... جس پر تہمت لگائی گئی ہے اگر وہ زندہ ہو تو مطالبہ کا حق اسی کو ہے اور اگر مر گیا ہو تو اس کے بیٹے پوتے کو بھی ہے۔

(6)..... غلام اپنے مولیٰ کے خلاف اور بیٹا باپ کے خلاف یعنی اپنی ماں پر زنا کی تہمت لگانے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

(7)..... قذف کے الفاظ یہ ہیں کہ وہ صراحتاً کسی کو اے زانی کہے یا یہ کہے کہ تو اپنے باپ سے نہیں ہے یا اس کے باپ کا نام لے کر کہے کہ تو فلاں کا بیٹا نہیں ہے یا اس کو زانیہ کا بیٹا کہہ کر پکارے جبکہ اس کی ماں پارسا ہو تو ایسا شخص قاذف یعنی زنا کی تہمت لگانے والا ہو جائے گا اور اس پر تہمت کی حد لازم آئے گی۔

(8)..... اگر غیر مُحْصَن کو زنا کی تہمت لگائی مثلاً کسی غلام کو یا کافر کو یا ایسے شخص کو جس کا کبھی زنا کرنا ثابت ہو تو اس پر حدِ قذف قائم نہ ہوگی بلکہ اس پر تعزیر واجب ہوگی اور یہ تعزیر 3 سے 39 کوڑے تک جتنے شرعی حاکم تجویز کرے اتنے کوڑے لگانا ہے، اسی طرح اگر کسی شخص نے زنا کے سوا اور کسی گناہ کی تہمت لگائی اور پارسا مسلمان کو اے فاسق، اے کافر، اے خبیث، اے چور، اے بدکار، اے مُخْنَث، اے بددیانت، اے لوطی، اے زندیق، اے دُیُوْث، اے شرابی، اے سودخوار، اے بدکار عورت کے بچے، اے حرام زادے، اس قسم کے الفاظ کہے تو بھی اس پر تعزیر واجب ہوگی۔

نوٹ: حدِ قذف سے متعلق مسائل کی تفصیلی معلومات کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 سے ”قذف کا بیان“

مطالعہ فرمائیں۔

﴿إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ﴾: مگر جو اس کے بعد توبہ کر لیں۔ یعنی تہمت لگانے والا اگر سزا پانے کے بعد توبہ

کر لے اور اپنے احوال و افعال کو درست کر لے تو اب وہ فاسق نہ رہے گا۔^(۱) یاد رہے کہ توبہ کے بعد بھی تہمت لگانے والے کی گواہی قبول نہ ہوگی کیونکہ گواہی سے متعلق مطلقاً ارشاد ہو چکا ہے کہ ان کی گواہی کبھی قبول نہ کرو۔

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ
فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ۖ^۶
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ ۖ إِنَّ كَذِبِيْنَ ۖ وَيَدْرَأُوْهَا
الْعَذَابَ ۖ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ ۖ إِنَّهُ لَمِنَ الْكٰذِبِيْنَ ۖ^۷
وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا ۖ إِنَّ كَانِ مِنَ الصَّادِقِيْنَ ۖ وَلَوْ لَا
فَضَّلَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ حَكِيمٌ ۖ^۸

ترجمہ کنزالایمان: اور وہ جو اپنی عورتوں کو عیب لگائیں اور ان کے پاس اپنے بیان کے سوا گواہ نہ ہوں تو ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ چار بار گواہی دے اللہ کے نام سے کہ وہ سچا ہے۔ اور پانچویں یہ کہ اللہ کی لعنت ہو اس پر اگر جھوٹا ہو۔ اور عورت سے یوں سزا مل جائے گی کہ وہ اللہ کا نام لے کر چار بار گواہی دے کہ مرد جھوٹا ہے۔ اور پانچویں یوں کہ عورت پر غضب اللہ کا اگر مرد سچا ہو۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ توبہ قبول فرماتا حکمت والا ہے تو تمہارا پردہ کھول دیتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں اور ان کے پاس اپنی ذات کے علاوہ گواہ نہ ہوں تو ان میں سے ایسے کسی کی گواہی یہ ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ چار بار گواہی دے کہ بیشک وہ سچا ہے۔ اور پانچویں گواہی یہ ہو کہ اُس پر اللہ کی لعنت ہو اگر وہ جھوٹوں میں سے ہو۔ اور عورت سے سزا کو یہ بات دور کرے گی کہ وہ اللہ کے نام کے ساتھ

①..... ابو سعود، النور، تحت الآية: ۵، ۷۱/۴، ملخصاً.

چار بار گواہی دے کہ بیشک مرد جھوٹوں میں سے ہے۔ اور پانچویں باریوں کہ عورت پر اللہ کا غضب ہوا اگر مرد سچوں میں سے ہو۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا، حکمت والا ہے (تو وہ تمہارے راز کھول دیتا)۔

﴿وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ﴾: اور وہ جو اپنی بیویوں پر تہمت لگائیں۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اجنبی عورتوں پر زنا کی تہمت لگانے کے احکام بیان فرمائے جبکہ اس آیت اور اس کے بعد والی چند آیات میں بیویوں پر زنا کی تہمت لگانے کے احکام بیان فرمائے ہیں۔^(۱) شان نزول: حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے کہ ایک صحابی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنی بیوی پر تہمت لگائی، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”گواہ لاؤ، ورنہ تمہاری پیٹھ پر حد لگائی جائے گی۔ انہوں نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، کوئی شخص اپنی عورت پر کسی مرد کو دیکھے تو گواہ ڈھونڈنے جائے؟ حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے وہی جواب دیا۔ پھر انہوں نے کہا: قسم ہے اُس کی جس نے حضور اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو حق کے ساتھ بھیجا ہے! بیشک میں سچا ہوں اور خدا کوئی ایسا حکم نازل فرمائے گا جو میری پیٹھ کو حد سے بچا دے۔ اُس وقت حضرت جبریل عَلَيْهِ السَّلَامُ اترے اور یہ آیتیں نازل ہوئیں۔^(۲)

بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے شرعی حکم کا خلاصہ

ان آیات میں بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کا جو حکم بیان ہوا اسے شریعت کی اصطلاح میں ”لعان“ کہتے ہیں۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جب مرد اپنی بیوی پر زنا کی تہمت لگائے تو اگر مرد و عورت دونوں گواہی دینے کی اہلیت رکھتے ہوں اور عورت اس پر مطالبہ کرے تو مرد پر لعان واجب ہو جاتا ہے اگر وہ لعان سے انکار کر دے تو اسے اس وقت تک قید میں رکھا جائے گا جب تک وہ لعان کرے یا اپنے جھوٹ کا اقرار کر لے۔ اگر جھوٹ کا اقرار کرے تو اس کو حدِ قذف لگائی جائے گی جس کا بیان اوپر گزر چکا ہے اور اگر لعان کرنا چاہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اسے چار مرتبہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ وہ اس عورت پر زنا کا الزام لگانے میں سچا ہے اور پانچویں مرتبہ کہنا ہوگا کہ اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی مجھ پر لعنت ہو اگر میں یہ الزام لگانے میں جھوٹا ہوں۔ اتنا کرنے کے بعد مرد پر سے حدِ قذف ساقط ہو جائے گی اور عورت پر لعان واجب

①.....تفسیر کبیر، النور، تحت الآیة: ۶، ۳۳۰/۸.

②.....بخاری، کتاب التفسیر، سورة النور، باب و یدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات ... الخ، ۲۸۰/۳، الحدیث:

ہوگا۔ وہ انکار کرے گی تو قید کی جائے گی یہاں تک کہ لعان منظور کرے یا شوہر کے الزام لگانے کی تصدیق کرے۔ اگر تصدیق کی تو عورت پر زنا کی حد لگائی جائے گی اور اگر لعان کرنا چاہے تو اسے بھی چار مرتبہ اللہ عَزَّوَجَلَّ کی قسم کے ساتھ کہنا ہوگا کہ مرد اس پر زنا کی تہمت لگانے میں جھوٹا ہے اور پانچویں مرتبہ یہ کہنا ہوگا کہ اگر مرد اس الزام لگانے میں سچا ہو تو مجھ پر خدا عَزَّوَجَلَّ کا غضب ہو۔ اتنا کہنے کے بعد عورت سے زنا کی حد ساقط ہو جائے گی اور لعان کے بعد قاضی کے جدائی کروا دینے سے میاں بیوی میں جدائی واقع ہوگی، بغیر قاضی کے نہیں اور یہ جدائی طلاقِ بائنہ ہوگی۔ اور اگر مرد گواہی دینے کی اہلیت رکھنے والوں میں سے نہ ہو مثلاً غلام ہو یا کافر ہو یا اس پر قذف کی حد لگ چکی ہو تو لعان نہ ہوگا اور تہمت لگانے سے مرد پر حد قذف لگائی جائے گی اور اگر مرد گواہی کی اہلیت رکھنے والوں میں سے ہو اور عورت میں یہ اہلیت نہ ہو، اس طرح کہ وہ باندی ہو یا کافر ہو یا اس پر قذف کی حد لگ چکی ہو یا بچی ہو یا مجنون نہ ہو یا زانیہ ہو، اس صورت میں نہ مرد پر حد ہوگی اور نہ لعان۔

نوٹ: لعان سے متعلق مزید مسائل کی معلومات کے لئے بہارِ شریعت جلد 2 حصہ 8 سے "لعان کا بیان" مطالعہ

فرمائیں۔

﴿وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ﴾: اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی۔ ﴿یعنی اے تہمت لگانے والے مردو اور تہمت لگائی گئی عورتو! اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور اللہ تعالیٰ بہت توبہ قبول فرمانے والا اور اپنے تمام افعال و احکام میں حکمت والا نہ ہوتا تو وہ تمہارے راز کھول دیتا اور اس کے بعد تمہارا حال بیان سے باہر ہوتا۔^(۱)

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنكُمْ لَا تَحْسَبُوا شُرَّاكُم بِئْسَ لَكُمْ
هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ أُمَّرٍ مِّنْهُمْ مَّا كَتَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي
تَوَلَّىٰ كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ ①

①.....روح البیان، النور، تحت الآية: ۱۰، ۶/۱۲۱.

ترجمہ کنزالایمان: بیشک وہ کہ یہ بڑا بہتان لائے ہیں تمہیں میں کی ایک جماعت ہے اسے اپنے لیے بُرا نہ سمجھو بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے ان میں ہر شخص کے لیے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں وہ جس نے سب سے بڑا حصہ لیا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک جو لوگ بڑا بہتان لائے ہیں وہ تم ہی میں سے ایک جماعت ہے۔ تم اس بہتان کو اپنے لیے برانہ سمجھو، بلکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر شخص کیلئے وہ گناہ ہے جو اس نے کمایا اور ان میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا اس کے لیے بڑا عذاب ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ﴾: بیشک جو بڑا بہتان لائے ہیں۔ ﴿یہ آیت اور اس کے بعد والی چند آیتیں اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی شان میں نازل ہوئیں جن میں آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی عفت و عصمت کی گواہی خود رب العالمین نے دی اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر تہمت لگانے والے منافقین کو سزا کا مشرودہ سنایا۔

واقعہ افک

آیت میں مذکور بڑے بہتان سے مراد اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر تہمت لگانا ہے۔ اس کا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ 5 ہجری میں غزوہ بنی مُصطلق سے واپسی کے وقت قافلہ مدینہ منورہ کے قریب ایک پڑاؤ پر ٹھہرا، تو اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ضرورت کے لئے کسی گوشے میں تشریف لے گئیں، وہاں آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا ہارٹوٹ گیا تو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اس کی تلاش میں مصروف ہو گئیں۔ ادھر قافلے والوں نے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا ٹھہل شریف اونٹ پر کس دیا اور انہیں یہی خیال رہا کہ اُمّ المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اس میں ہیں، اس کے بعد قافلہ وہاں سے کوچ کر گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا واپس تشریف لائیں تو قافلہ وہاں سے جا چکا تھا۔ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اس خیال سے وہیں قافلے کی جگہ پر بیٹھ گئیں کہ میری تلاش میں قافلہ ضرور واپس آئے گا۔ عام طور پر معمول یہ تھا کہ قافلے کے پیچھے گری پڑی چیز اٹھانے کے لئے ایک صاحب رہا کرتے تھے، اس موقع پر حضرت صفوان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اس کام پر مامور تھے۔ جب وہ اس جگہ پر آئے اور انہوں نے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو بلند آواز سے ”إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِمْ رَاجِعُونَ“ پکارا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے

کپڑے سے پردہ کر لیا۔ انہوں نے اپنی اونٹنی بٹھائی اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اس پر سوار ہو کر لشکر میں پہنچ گئیں۔ اس وقت سیاہ باطن منافقین نے غلط باتیں پھیلائیں اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی شان میں بدگوئی شروع کر دی، بعض مسلمان بھی اُن کے فریب میں آگئے اور اُن کی زبان سے بھی کوئی بیجا کلمہ سرزد ہوا۔ اسی دوران اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بیمار ہو گئی تھیں اور ایک ماہ تک بیمار رہیں، بیماری کے عرصے میں انہیں اطلاع نہ ہوئی کہ اُن کے بارے میں منافقین کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک روز حضرت اُمّ مسطح رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے انہیں یہ خبر معلوم ہوئی۔ اس سے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا مرض اور بڑھ گیا اور اس صدمے میں اس طرح روئیں کہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کے آنسو نہ تھمتے تھے اور نہ ایک لمحہ کے لئے نیند آتی تھی، اس حال میں دو عالم کے سردار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر وحی نازل ہوئی اور حضرت اُمّ المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی پاکی میں یہ آیتیں اُتریں اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا شرف و مرتبہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑھایا کہ قرآن کریم کی بہت سی آیات میں آپ کی طہارت و فضیلت بیان فرمائی۔ اس دوران میں سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بھی حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کیلئے برسرِ منبر خیر کے کلمات ہی ارشاد فرمائے، چنانچہ فرمایا: میں اپنے اہل کے متعلق سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتا۔^(۱)

حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا ”منافقین یقینی طور پر جھوٹے ہیں، اُمّ المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا یقینی طور پر پاک ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے جسم پاک کو مکھی کے بیٹھنے سے محفوظ رکھا کہ وہ نجاستوں پر بیٹھتی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو بدعورت کی صحبت سے محفوظ نہ رکھے۔ حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے بھی اس طرح آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی طہارت بیان کی اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا سایہ زمین پر نہ پڑنے دیا تا کہ اس سایہ پر کسی کا قدم نہ پڑے تو جو پروردگار عَزَّوَجَلَّ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے سایہ کو محفوظ رکھتا ہے کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اہل کو محفوظ نہ فرمائے۔

حضرت علی مرتضیٰ کَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ نے فرمایا کہ ایک جوں کا خون لگنے سے پروردگارِ عالم عَزَّوَجَلَّ نے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو نعلین اتار دینے کا حکم دیا تو جو پروردگارِ عَزَّوَجَلَّ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نعلین

①.....بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث الافک، ۶۱/۳، الحدیث: ۴۱۴۱.

شریف کی اتنی سی آلودگی کو گوارا نہ فرمائے تو کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اہل کی آلودگی کو گوارا کرے۔ (1)

اس طرح بہت سے صحابہ اور بہت سی صحابیات رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ نے قسمیں کھائیں۔ آیت نازل ہونے سے پہلے ہی اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی طرف سے دل مطمئن تھے، آیت کے نزول نے ان کی عزت و شرافت اور زیادہ کر دی تو بدگوئیوں کی بدگوئی اللہ عَزَّوَجَلَّ اور اس کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور صحابہ کبار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کے نزدیک باطل ہے اور بدگوئی کرنے والوں کے لئے سخت ترین مصیبت ہے۔

﴿لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم﴾ تم اس بہتان کو اپنے لیے برانہ سمجھو۔ ﴿يَعْنِي﴾ یعنی اے بہتان سے بچنے والو! تم اس بہتان کو اپنے لیے برانہ سمجھو، بلکہ بہتان سے بچنا تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تَبَارَكَ وَتَعَالَى تمہیں اس پر جزا دے گا اور اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی شان اور ان کی براءت ظاہر فرمائے گا، چنانچہ اس براءت میں اللہ تعالیٰ نے اٹھارہ آیتیں نازل فرمائیں۔ (2)

﴿لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ﴾ ان میں سے ہر شخص کیلئے۔ ﴿يَعْنِي﴾ یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے ہر شخص کے لئے اس کے عمل کے مطابق گناہ ہے کہ کسی نے طوفان اُٹھایا، کسی نے بہتان اُٹھانے والے کی زبانی موافقت کی، کوئی ہنس دیا، کسی نے خاموشی کے ساتھ سن ہی لیا، الغرض جس نے جو کیا اس کا بدلہ پائے گا۔ (3)

﴿وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ﴾ ان میں سے وہ شخص جس نے اس کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا۔ ﴿يَعْنِي﴾ یعنی ان بہتان لگانے والوں میں سے وہ شخص جس نے اس بہتان کا سب سے بڑا حصہ اٹھایا کہ اپنے دل سے یہ طوفان گڑھا اور اس کو مشہور کرتا پھر اس کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ آیت میں جس کا ذکر ہے اس سے مراد عبد اللہ بن ابی بن ابی سلول منافق ہے۔

لَوْلَا إِذْ سَعَوْهُ لَظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بِأَنفُسِهِمْ خَيْرًا ۗ

①.....مدارك، النور، تحت الآية: ۱۲، ص ۷۷۲، ملخصاً.

②.....مدارك، النور، تحت الآية: ۱۱، ص ۷۷۱، ملخصاً.

③.....مدارك، النور، تحت الآية: ۱۱، ص ۷۷۱-۷۷۲.

وَقَالُوا هَذَا آفِكٌ مُّبِينٌ ﴿۱۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: کیوں نہ ہو جب تم نے اسے سنا تھا کہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنوں پر نیک گمان کیا ہوتا اور کہتے یہ کھلا بہتان ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: ایسا کیوں نہ ہو کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے اور کہتے: یہ کھلا بہتان ہے۔

﴿لَوْلَا﴾ ایسا کیوں نہ ہو۔ ﴿﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ”ایسا کیوں نہ ہو کہ جب تم نے یہ بہتان سنا تو مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اپنے لوگوں پر نیک گمان کرتے کیونکہ مسلمان کو یہی حکم ہے کہ وہ مسلمان کے ساتھ نیک گمان کرے کہ بدگمانی ممنوع ہے۔ نیز لوگ سن کر کہتے کہ یہ کھلا بہتان ہے، بالکل جھوٹ ہے اور بے حقیقت ہے۔ (1)“

صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”بعضے گمراہ بے باک یہ کہہ گزرتے ہیں کہ سید عالم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ کو مَعَاذَ اللهِ اس معاملہ میں بدگمانی ہوگئی تھی، وہ مُفْتَرِي كَذَّاب (یعنی جھوٹا بہتان لگانے والے) ہیں اور شان رسالت میں ایسا کلمہ کہتے ہیں جو مومنین کے حق میں بھی لائق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنین سے فرماتا ہے کہ تم نے نیک گمان کیوں نہ کیا تو کیسے ممکن تھا کہ رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بدگمانی کرتے اور حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) کی نسبت بدگمانی کا لفظ کہنا بڑی سیاہ باطنی ہے، خاص کر ایسی حالت میں جب کہ بخاری شریف کی حدیث میں ہے کہ حضور (صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) نے بقسم فرمایا کہ میں جانتا ہوں کہ میرے اہل پاک ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان پر بدگمانی کرنا ناجائز ہے اور جب کسی نیک شخص پر تہمت لگائی جائے تو بغیر ثبوت مسلمان کو اس کی موافقت اور تصدیق کرنا روا نہیں۔ (2)“

1.....خازن، النور، تحت الآية: ۱۲، ۳۴۳/۳، تفسیر کبیر، النور، تحت الآية: ۱۲، ۳۴۱/۸، ملتقطاً.

2.....خزائن العرفان، النور، تحت الآية: ۱۲، ص ۶۵۱-۶۵۲۔

بدگمانی سے بچنے کی ترغیب

قرآن مجید میں مسلمانوں کو بدگمانی سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، چنانچہ ارشادِ باری تعالیٰ ہے:

ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو! بہت زیادہ گمان کرنے

سے بچو بیشک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ

الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ (۱)

اسی طرح کثیر احادیث میں بھی بدگمانی سے بچنے اور اچھا گمان رکھنے کا فرمایا گیا ہے، ان میں سے 4 احادیث

درج ذیل ہیں،

(1)..... حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

”جس نے اپنے بھائی سے بدگمانی کی بے شک اس نے اپنے رب عَزَّوَجَلَّ سے بدگمانی کی، کیونکہ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فرماتا ہے

اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ ترجمہ: بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو۔ (2)

(2)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

”بدگمانی سے بچو کیونکہ بدگمانی سب سے جھوٹی بات ہے۔ (3)

(3)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا:

”حَسَنُ ظَنٍّ عَمَدَةُ عِبَادَتٍ هِيَ۔ (4)

(4)..... حضرت عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”تم اپنے بھائی کے منہ سے نکلنے والی کسی بات کا اچھا تحمل

پاتے ہو تو اس کے بارے میں بدگمانی نہ کرو۔ (5)

اللہ تعالیٰ ہمیں بدگمانی سے بچنے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اچھا گمان رکھنے کی توفیق عطا فرمائے،

امین۔ (6)

①..... حجرات: ۱۲۔

②..... در منشور، الحجرات، تحت الآية: ۱۲، ۵۶۶/۷۔

③..... بخاری، کتاب الفرائض، باب تعليم الفرائض، ۳۱۳/۴، الحدیث: ۶۷۲۴۔

④..... ابو داؤد، کتاب الادب، باب في حسن الظن، ۳۸۷/۴، الحدیث: ۴۹۹۳۔

⑤..... در منشور، الحجرات، تحت الآية: ۱۲، ۵۶۶/۷۔

⑥..... بدگمانی سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لئے کتاب ”بدگمانی“ (مطبوعہ مکتبہ المدینہ) کا مطالعہ فرمائیں۔

لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ ۚ فَإِذْ لَمْ يَأْتُوا بِالشُّهَدَاءِ فَأُوبِئِكَ
عِنْدَ اللَّهِ هُمُ الْكٰذِبُونَ ﴿۱۳﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ لَسَسَّكُمْ فِي مَا أَفَضْتُمْ فِيهِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿۱۴﴾

ترجمہ کنزالایمان: اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر دنیا اور آخرت میں نہ ہوتی تو جس چرچے میں تم پڑے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اس پر چار گواہ کیوں نہ لائے تو جب وہ گواہ نہ لائے تو وہی اللہ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو جس معاملے میں تم پڑ گئے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔

﴿لَوْلَا جَاءَ وَعَلَيْهِ﴾ اس پر کیوں نہ لائے۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بہتان لگانے والوں سے فرمایا کہ وہ اپنے بہتان پر گواہ کیوں نہ لائے جو اس کی گواہی دیتے اور جب وہ گواہ نہیں لائے تو وہی اللہ تعالیٰ کے نزدیک جھوٹے ہیں۔ (1) یاد رہے کہ یہاں جھوٹے ہونے سے ظاہری اور باطنی طور پر جھوٹا ہونا مراد ہے اور اگر بالفرض وہ گواہ لے بھی آتے تو ظاہراً جھوٹے نہ رہتے اگرچہ درحقیقت پھر بھی وہ اور ان کے سارے گواہ جھوٹے ہوتے۔ (2) ﴿وَلَوْلَا﴾ اور اگر نہ ہوتا۔ ﴿اس آیت میں بہتان لگانے والوں سے مزید فرمایا کہ اگر دنیا اور آخرت میں تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، جس میں سے توبہ کے لئے مہلت دینا بھی ہے اور آخرت میں عفو و مغفرت فرمانا بھی تو جس بہتان میں تم پڑے تھے اس پر تمہیں بڑا عذاب پہنچتا۔ (3)

إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالْإِسْنِ كُمْ وَتَقُولُونَ بِأَفْوَاهِكُمْ مَا لَيْسَ لَكُمْ بِهِ عِلْمٌ وَ

①.....بخازن، النور، تحت الآية: ۱۳، ۳/۳۴۲.

②.....روح البيان، النور، تحت الآية: ۱۳، ۶/۱۲۷.

③.....بخازن، النور، تحت الآية: ۱۴، ۳/۳۴۳.

تَحْسِبُونَهُ هَيِّئًا ۖ وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴿۱۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: جب تم ایسی بات اپنی زبانوں پر ایک دوسرے سے سن کر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ نکالتے تھے جس کا تمہیں علم نہیں اور اسے سہل سمجھتے تھے اور وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: جب تم ایسی بات ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے معمولی سمجھتے تھے حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا تھا۔

﴿إِذْ تَلْقَوْنَهُ بِالْإِسْنِ كَيْفَ﴾: جب تم اس کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ یہ بڑا عذاب اس وقت پہنچ جاتا جب تم اس بہتان کو ایک دوسرے سے سن کر اپنی زبانوں پر لاتے تھے اور اپنے منہ سے وہ بات کہتے تھے جس کا تمہیں کوئی علم نہ تھا اور تم اسے ہلکا سا معاملہ سمجھتے تھے اور خیال کرتے تھے کہ اس میں بڑا گناہ نہیں حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک جرمِ عظیم تھا۔ (۱)

سب صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَادِلٌ هِيَ

اس سے معلوم ہوا کہ بعض صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ سے گناہ اور مَعْصِيَّتِ صَادِرِ هُوْنِي مگر وہ اس پر قائم نہ ہوئے بلکہ انہیں توبہ کی توفیق ملی، لہذا یہ درست ہے کہ سارے صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ عَادِلٌ هِيَ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا ہے:

وَكُلًّا وَعَدَّ اللَّهُ الْحَسَنِي (۲)
ترجمہ کنزالعرفان: اور ان سب سے اللہ نے سب سے اچھی چیز (جنت) کا وعدہ فرمایا ہے۔

اور فرماتا ہے:

رَاضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ (۳)
ترجمہ کنزالعرفان: ان سب سے اللہ راضی ہوا اور یہ اللہ سے راضی ہیں۔

①..... روح البیان، النور، تحت الآیة: ۱۵، ۱۲۷/۶، مدارک، النور، تحت الآیة: ۱۵، ص ۷۷۳، ملقطاً.

②..... حدید: ۱۰.

③..... توبہ: ۱۰۰.

اور یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ فاسق سے راضی نہیں ہوتا اور نہ اس سے جنت کا وعدہ فرماتا ہے۔

وَلَوْلَا إِذْ سَبَعْتُمْوهٗ قُلْتُمْ مَّا يَكُونُ لَنَا أَنْ نَتَكَلَّمَ بِهَذَا سُبْحٰنَكَ
هٰذَا بَهْتَانٌ عَظِيمٌ ﴿۱۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور کیوں نہ ہو جب تم نے سنا تھا کہا ہوتا کہ ہمیں نہیں پہنچتا کہ ایسی بات کہیں الہی پاکی ہے تجھے یہ بڑا بہتان ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کیوں نہ ہو کہ جب تم نے اُسے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لئے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں۔ (اے اللہ!) تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔

﴿وَلَوْلَا﴾ اور کیوں نہ ہو۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ جب تم نے بہتان سنا تھا تو اس وقت یہ کیوں نہ ہو کہ تم کہہ دیتے: ہمارے لئے درست نہیں کہ یہ بہتان والی بات کہیں کیونکہ یہ درست ہو ہی نہیں سکتی۔ یہاں ایک مسئلہ ذہن نشین رہے کہ کسی نبی علیہ السلام کی بیوی کافر تو ہو سکتی ہے لیکن بدکار ہرگز نہیں ہو سکتی کیونکہ انبیاء علیہم الصلوٰۃ والسلام کفار کی طرف مبعوث ہوتے ہیں تو ضروری ہے کہ جو چیز کفار کے نزدیک بھی قابلِ نفرت ہو اس سے وہ پاک ہوں اور ظاہر ہے کہ عورت کی بدکاری اُن کے نزدیک قابلِ نفرت ہے۔ (1)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائی گئی تہمت واضح بہتان تھی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائی گئی تہمت کا بہتان ہونا بالکل ظاہر تھا۔ اسی لئے بہتان نہ کہنے والوں اور توقف کرنے والوں پر عتاب ہوا، البتہ چونکہ یہ حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا معاملہ تھا اس لئے آپ نے خاموشی اختیار فرمائی۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خاموشی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے معاملے کو نہ جاننے کی وجہ سے نہ تھی بلکہ وحی کے انتظار کی وجہ سے تھی کیونکہ اگر آپ صلی اللہ

1..... تفسیر کبیر، النور، تحت الآیة: ۱۶، ۳۴۲/۸-۳۴۴، مدارك، النور، تحت الآیة: ۱۶، ص ۷۷۳.

تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اپنے علم کی بناء پر اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی عصمت کی خبر دیتے تو منافق کہتے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اپنے اہل بیت کی طرف داری کی۔ اسی لئے حضرت ابوبکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ بھی خاموش رہے بلکہ خود اُمّ المؤمنین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے بھی لوگوں سے نہ کہا کہ میں بے قصور ہوں۔ حالانکہ انہیں تو اپنی پاکدامنی یقین کے ساتھ معلوم تھی۔

يَعْظُمُ اللَّهُ أَنْ تَعُودُوا لِلِثْلَةِ أَبَدًا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿١٤﴾ ج

ترجمہ کنزالایمان: اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ اب کبھی ایسا نہ کہنا اگر ایمان رکھتے ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے کہ دوبارہ کبھی اس طرح کی بات کی طرف نہ لوٹنا اگر تم ایمان والے ہو۔

﴿يَعْظُمُ اللَّهُ﴾ اللہ تمہیں نصیحت فرماتا ہے۔ امام فخر الدین رازی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”اس آیت کا معنی یہ ہے کہ سابقہ آیات میں مذکور کلام سے تمہیں معلوم ہو گیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر تہمت لگانا کتنا بڑا گناہ ہے اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ اس جرم کی وجہ سے حد لگے گی، دنیا میں ذلت و رسوائی اور آخرت میں عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کے ذریعے نصیحت فرماتا ہے تاکہ تم اپنی زندگی میں اس جیسے عمل کی طرف کبھی بھی نہ لوٹو۔ امام رازی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ مزید فرماتے ہیں کہ اس حکم میں وہ شخص تو داخل ہی ہے جو ایسی بات کہے اور وہ بھی داخل ہیں جو ایسی بات سنے اور اس کا رد نہ کرے۔^(۱)

حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر تہمت لگانا خالص کفر ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اب جو حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر تہمت لگائے یا ان کی جناب میں تردد دیں رہے وہ مؤمن نہیں کافر ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں ”اُمّ المؤمنین صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا قذف (یعنی ان پر تہمت لگانا) کفر خالص ہے۔“^(۲)

①.....تفسیر کبیر، النور، تحت الآیة: ۱۷، ۸/۳۴۴.

②.....فتاویٰ رضویہ، ۱۲/۲۲۵۔

وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ ط وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۱۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔

﴿وَيُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ﴾ اور اللہ تمہارے لیے آیتیں صاف بیان فرماتا ہے۔ ﴿علامہ اسماعیل حقی دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شرعی احکام اور اچھے آداب پر دلالت کرنے والی آیتیں صاف بیان فرماتا ہے تاکہ تم ان کے ذریعے نصیحت حاصل کرو اور ادب سیکھو اور اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے سب حالات کا علم رکھنے والا اور اپنے تمام افعال و تدابیر میں حکمت والا ہے تو پھر اس بات کا سچا ہونا کیسے ممکن ہے جو اس عظیم ہستی کی حرمت کے بارے میں کہی گئی جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لئے منتخب فرمایا اور اسے ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا تاکہ وہ حق کی طرف ان کی رہنمائی کریں اور انہیں (گناہ کی آلودگی سے) خوب پاکیزہ فرمادیں اور انہیں پاک کر کے خوب صاف ستھرا کر دیں۔ (۱)

بہتان تراشی کی مذمت

یاد رہے کہ کسی شخص کے پوشیدہ عیب کو جس کا وہ دوسروں کے سامنے ظاہر ہونا پسند نہ کرتا ہو، اس کی برائی کرنے کے طور پر ذکر کرنا غیبت ہے اور اگر اس میں وہ بات ہی نہ ہو تو یہ غیبت نہیں بلکہ بہتان ہے اور بہتان تراشی غیبت سے زیادہ تکلیف دہ ہے کیونکہ یہ جھوٹ ہے، اس لئے یہ ہر ایک پر گراں گزرتی ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ بہتان تراشی کبیرہ گناہ ہے اور حدیث پاک میں اس کی شدید مذمت بیان کی گئی ہے، چنانچہ حضرت معاذ بن انس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”جو کسی مسلمان کو ذلیل کرنے کی غرض سے اس پر الزام عائد کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم کے پل پر اس وقت تک روکے گا جب تک وہ اپنی کہی ہوئی بات (کے گناہ) سے (اس شخص کو راضی کر کے یا اپنے گناہ کی مقدار عذاب پائے) نہ نکل جائے۔ (۲)

①..... روح البیان، النور، تحت الآية: ۱۸، ۱۲۸/۶.

②..... ابو داؤد، کتاب الادب، باب من رد عن مسلم غيبة، ۳۵۴/۴، الحدیث: ۴۸۸۳.

اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جس نے کسی شخص کے بارے میں کوئی ایسی بات ذکر کی جو اس میں نہیں تاکہ اس کے ذریعے اس کو عیب زدہ کرے تو اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں قید کر دے گا یہاں تک کہ وہ اس کے بارے میں اپنی کہی ہوئی بات ثابت کرے۔ (اس سے مراد یہ ہے کہ طویل عرصے تک وہ عذاب میں مبتلا رہے گا)۔“^(۱)

لہذا ہر شخص کو چاہئے کہ وہ بہتان تراشی سے بچے اور جس نے کسی پر بہتان لگایا ہے اسے توبہ کرنا اور معافی مانگنا ضروری ہے بلکہ جن کے سامنے بہتان باندھا ہے ان کے پاس جا کر یہ کہنا ضروری ہے کہ میں نے جھوٹ کہا تھا جو فلاں پر میں نے بہتان باندھا تھا۔

بہتان تراشی کرنے والوں کا رد کرنا چاہئے

آیت نمبر 16 میں جو فرمایا گیا کہ ”اور کیوں نہ ہو کہ جب تم نے سنا تھا تو تم کہہ دیتے کہ ہمارے لئے جائز نہیں کہ یہ بات کہیں“ اس سے معلوم ہوا کہ جس کے سامنے کسی مسلمان پر کوئی بہتان باندھا جا رہا ہو اور کسی مسلمان پر بہتان تراشی کر کے اسے ذلیل کیا جا رہا ہو تو اسے چاہئے کہ خاموش نہ رہے بلکہ بہتان لگانے والوں کا رد کرے اور انہیں اس سے منع کرے اور جس مسلمان پر بہتان لگایا جا رہا ہے اس کی عزت کا دفاع کرے۔ افسوس! ہمارے معاشرے میں لوگوں کا حال یہ ہو چکا ہے کہ وہ کسی کے بارے میں ایک دوسرے سے ہزاروں غلط اور بے سرو پا باتیں سنتے ہیں لیکن اکثر جگہ پر خاموش رہتے ہیں اور بہتان تراشی کرنے والوں کو منع کرتے ہیں نہ ان کا رد کرتے ہیں۔ یہ طرزِ عمل اسلامی احکام کے برخلاف ہے اور ایک مسلمان کی یہ شان نہیں کہ وہ ایسا طرزِ عمل اپنائے۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، امین۔ ترغیب کے لئے یہاں ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ

حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جہاں کسی مسلمان مرد کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جاتی ہو ایسی جگہ جس نے اُس کی مدد نہ کی (یعنی یہ خاموش سنتا رہا اور اُن کو منع نہ کیا) تو اللہ تعالیٰ وہاں اس کی مدد نہیں کرے گا جہاں اسے پسند ہو کہ اس کی مدد کی جائے اور جو شخص ایسے موقع پر کسی مسلمان مرد کی مدد کرے گا جہاں اُس کی بے حرمتی اور بے عزتی کی جا رہی ہو، تو اللہ تعالیٰ ایسے موقع پر اس کی مدد

1..... معجم الاوسط، باب النمیم، من اسمہ: مقدم، ۳۲۷/۶، الحدیث: ۸۹۳۶۔

فرمائے گا جہاں اسے محبوب ہے کہ مدد کی جائے۔“ (۱)

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ
أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ۖ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿١٩﴾ وَلَوْلَا
فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ سَرِءُ وَفٍ سَرِيعٍ ﴿٢٠﴾ ۴

ترجمہ کنزالایمان: وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بُرا چرچا پھیلے ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا اور آخرت میں اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ تم پر نہایت مہربان مہر والا ہے تو تم اس کا مزہ چکھتے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان، رحم فرمانے والا ہے (تو اس عذاب کا مزہ چکھتے)۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ﴾: بیشک جو لوگ چاہتے ہیں۔ ﴿اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ ارادہ کرتے اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد حد قائم کرنا ہے، چنانچہ عبد اللہ بن ابی، حضرت حسان اور حضرت مسطح رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا کو حد لگائی گئی اور آخرت کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر توبہ کئے بغیر مر گئے تو آخرت میں دوزخ ہے۔ مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دلوں کے راز اور باطن کے احوال جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ (۲)

﴿أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا﴾: کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے۔ ﴿

۱..... ابو داؤد، کتاب الادب، باب من رد عن مسلم غيبة، ۴/ ۳۵۵، الحدیث: ۴۸۸۴.

۲..... مدارك، النور، تحت الآية: ۱۹، ص ۷۷۴.

اشاعتِ فاحشہ میں ملوث افراد کو نصیحت

اشاعت سے مراد تشہیر کرنا اور ظاہر کرنا ہے جبکہ فاحشہ سے وہ تمام اقوال اور افعال مراد ہیں جن کی قباحت بہت زیادہ ہے اور یہاں آیت میں اصل مراد زنا ہے۔^(۱) البتہ یہ یاد رہے کہ اشاعتِ فاحشہ کے اصل معنی میں بہت وسعت ہے چنانچہ اشاعتِ فاحشہ میں جو چیزیں داخل ہیں ان میں سے بعض یہ ہیں:

- (۱)..... کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا۔
- (۲)..... کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اسے پھیلانا۔
- (۳)..... علمائے اہلسنت سے بتقدیر الہی کوئی لغزش فاحش واقع ہو تو اس کی اشاعت کرنا۔
- (۴)..... حرام کاموں کی ترغیب دینا۔
- (۵)..... ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا اور تقسیم کرنا جن میں موجود کلام سے لوگ کفر اور گمراہی میں مبتلا ہوں۔
- (۶)..... ایسی کتابیں، اخبارات، ناول، رسائل اور ڈائجسٹ وغیرہ لکھنا اور شائع کرنا جن سے شہوانی جذبات متحرک ہوں۔
- (۷)..... فحش تصاویر اور ویڈیوز بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے ذرائع مہیا کرنا۔
- (۸)..... ایسے اشتہارات اور سائن بورڈ وغیرہ بنانا اور بنوا کر لگانا، لگوانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لئے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا ہو۔
- (۹)..... حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں اور ڈرامے بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور انہیں دیکھنے کی ترغیب دینا۔
- (۱۰) فیشن شو کے نام پر عورت اور حیا سے عاری لباسوں کی نمائش کر کے بے حیائی پھیلانا۔
- (۱۱) زنا کاری کے اڈے چلانا وغیرہ۔

ان تمام کاموں میں مبتلا حضرات کو چاہئے کہ خدا را! اپنے طرزِ عمل پر غور فرمائیں بلکہ بطورِ خاص ان حضرات کو زیادہ غور کرنا چاہئے جو فحاشی و عریانی اور اسلامی روایات سے جدا کچھ کو عام کر کے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں اور بے حیائی، فحاشی و عریانی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جو دیوار قائم کی ہے اسے گرانے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت اور عقلِ سلیم عطا فرمائے اور درج ذیل تین احادیث پر بھی غور و فکر کرنے اور

①..... روح البیان، النور، تحت الآية: ۱۹، ۲۰/۱۳۰، ملخصاً.

ان سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

(1)..... حضرت جریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”جس نے اسلام میں اچھا طریقہ رائج کیا، اس کے لئے اسے رائج کرنے اور اپنے بعد اس پر عمل کرنے والوں کا ثواب ہے، اور ان عمل کرنے والوں کے ثواب میں سے بھی کچھ کم نہ ہوگا اور جس نے اسلام میں بُرا طریقہ رائج کیا، اس پر اس طریقے کو رائج کرنے اور اس پر عمل کرنے والوں کا گناہ ہے اور ان عمل کرنے والوں کے گناہ میں بھی کوئی کمی نہ ہوگی۔“ (1)

(2)..... سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے روم کے شہنشاہ ہرقل کو جو مکتوب بھجوایا اس میں تحریر تھا کہ (اے ہرقل!) میں تمہیں اسلام کی طرف دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے اور اللہ تعالیٰ تمہیں دُگنا اجر عطا فرمائے گا اور اگر تم (اسلام قبول کرنے سے) پیٹھ پھیرو گے تو رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا۔ (2)

(3)..... حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ”جو شخص ظلماً قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ناحق خون میں حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام کے پہلے بیٹے (قائیل) کا حصہ ضرور ہوتا ہے کیونکہ اسی نے پہلے ظلماً قتل کرنا ایجاد کیا۔“ (3)

﴿لَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ﴾ اور اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ اگر تم پر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ عزَّ وَّجَلَّ تم پر نہایت مہربان، رحم فرمانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں تمہاری اس حرکت کا مزہ چکھاتا اور اس کا عذاب تمہیں مہلت نہ دیتا۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبَ الشَّيْطَانِ ط وَمَنْ يَتَّبِعْ خُطُوبَ
الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالنُّكْرِ ط وَلَوْ لَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ
وَمَا حَسَنَةُ مَا زَكَّى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا ط وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن

1..... مسلم، کتاب الزکاة، باب الحث علی الصدقة ولو بشق تمرۃ... الخ، ص ۵۰۸، الحدیث: ۶۹ (۱۰۱۷)۔

2..... بخاری، کتاب بدء الوحی، ۶-باب، ۱۰/۱، الحدیث: ۷۔

3..... بخاری، کتاب احادیث الانبیاء، باب خلق آدم صلوات اللہ علیہ وذریئہ، ۴۱۳/۲، الحدیث: ۳۳۳۵۔

بِشَاءِ ط وَاللّٰهِ سَيِّعٌ عَلَيِّمْ ۝۲۱

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! شیطان کے قدموں پر نہ چلو اور جو شیطان کے قدموں پر چلے تو وہ تو بے حیائی اور بُری ہی بات بتائے گا اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں کوئی بھی کبھی ستھرا نہ ہو سکتا ہاں اللہ ستھرا کر دیتا ہے جسے چاہے اور اللہ سُنتا جانتا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اے ایمان والو! شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو اور جو شیطان کے قدموں کی پیروی کرتا ہے تو بیشک شیطان تو بے حیائی اور بُری بات ہی کا حکم دے گا اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا البتہ اللہ پاکیزہ فرما دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: اے ایمان والو!﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو شیطان کی پیروی کرنے سے منع فرمایا، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو! تم اپنے اعمال اور افعال میں شیطان کے طریقوں پر نہ چلو اور جو شیطان کے طریقوں کی پیروی کرتا ہے تو بیشک شیطان تو بے حیائی اور بُری بات ہی کا حکم دے گا، تم اس کے وسوسوں میں نہ پڑو اور بہتان اُٹھانے والوں کی باتوں پر کان نہ لگاؤ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی شخص بھی کبھی پاکیزہ نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ اس کو توبہ اور حسنِ عمل کی توفیق نہ دیتا اور عفو و مغفرت نہ فرماتا البتہ اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اس کی توبہ قبول فرما کر اسے گناہوں کی گندگی سے پاکیزہ فرما دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔^(۱)

شیطان کا پیروکار

اس آیت سے معلوم ہوا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی عظمت کا منکر شیطان کا پیروکار ہے، بے حیا ہے، بدکار ہے، اس سے بڑا بے حیا کون ہوگا جو اپنی ماں کو تہمت لگائے اور اس کے بارے میں ایسی غلیظ بات کہے۔

①..... ابو سعود، النور، تحت الآية: ۲۱، ۷۷/۴-۷۸، مدارك، النور، تحت الآية: ۲۱، ص ۷۷۴، ملقطاً.

آیت ” يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ “ سے معلوم ہونے والے امور

علامہ اسماعیل حقی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ نے اس آیت سے معلوم ہونے والے تین اہم امور بیان فرمائے ہیں جو کہ درج ذیل ہیں:

(1)..... وہ تمام طریقے شیطان کے ہیں جن پر بے حیائی اور بُری بات ہونے کا اطلاق ہوتا ہے، جیسے زنا کی تہمت لگانا، گالی دینا، جھوٹ بولنا اور لوگوں کے عیبوں کی (شرعی ضرورت کے بغیر) چھان بین کرنا وغیرہ۔

(2)..... گناہ کی گندگی سے پاکیزہ کرنے کا معاملہ اللّٰہ تعالیٰ کے سپرد ہے کیونکہ وہی اپنے فضل و رحمت سے بندے کو عبادات اور اسباب کی توفیق دیتا ہے لیکن بندے کے لئے ایک ایسا وسیلہ ہونا ضروری ہے جس سے وہ اللّٰہ تعالیٰ کی مراد کے مطابق گناہ کی گندگی سے پاک ہونے کی کیفیت سیکھ سکے اور اس سلسلے میں سب سے بڑا وسیلہ حضور پر نور صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ هِیْنَ، پھر وہ لوگ ہیں جو بندے کو اللّٰہ تعالیٰ کی طرف ہدایت دیں (یعنی کامل مرشد۔) شیخ الاسلام عبد اللّٰہ انصاری قُدَسِ سِرُّهُ فرماتے ہیں: شریعت اور حدیث کے علم میں میرے استاد بہت ہیں لیکن طریقت میں میرے استاد حضرت ابو الحسن خرقانی رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ هِیْنَ، اگر میں ان کی زیارت نہ کرتا تو میں حقیقت کو نہ پہچان سکتا۔

کامل مرشد دین کے راستے کے رہنما اور یقین کے دروازوں کی چابیاں ہیں، لہذا کسی کامل انسان کا موجود ہونا بہت بڑی غنیمت ہے اور اس کی صحبت نصیب ہونا ایک عظیم نعمت ہے۔

اے دوست! میری یہ ایک نصیحت قبول کر لے جا کسی (علم و معرفت کی) دولت والے کا دامن تھام لے کیوں کہ پانی کا قطرہ جب تک پیپی کے منہ میں نہیں جاتا اس وقت تک چمکدار اور روشن موتی نہیں بن پاتا پھر حقیقی تزکیہ یہ ہے کہ گناہوں کے میل سے پاک کرنے کے بعد دل کو اغیار کے تعلقات سے پاک کر دیا جائے

اور ہر کوئی اس تزکیہ کی اہلیت نہیں رکھتا (بلکہ جسے اللّٰہ تعالیٰ چاہے اسے ہی یہ دولت نصیب ہوتی ہے جیسا کہ آیت میں بیان ہوا۔)

(3)..... غزوہ بدر میں شریک ہونے والے صحابہ کرام رَضِيَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُمْ هِیْنَ جن سے بہتان کی خطا سرزد ہوئی ان کی خطا

کو اللّٰہ تعالیٰ نے بخش دیا ہے جیسا کہ اگلی آیت میں حضرت مسطح رَضِيَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْهُ کے واقعے سے بھی معلوم ہو رہا ہے۔⁽¹⁾

1..... روح البیان، النور، تحت الآیة: ۲۱، ۶/۱۳۱-۱۳۲۔

وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۗ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۲۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے ہیں قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں، کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور تم میں فضیلت والے اور (مالی) گنجائش والے یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ رشتے داروں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو (مال) نہ دیں گے اور انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہاری بخشش فرمادے اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

﴿وَلَا يَأْتِلْ﴾ اور قسم نہ کھائیں۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ تم میں جو دین میں فضیلت اور منزلت والے ہیں اور مال و ثروت میں گنجائش والے ہیں یہ قسم نہ کھائیں کہ وہ اپنے رشتے داروں، مسکینوں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو اپنے مال سے نہ دیں گے اور ان فضیلت والوں کو چاہیے کہ معاف کر دیں اور درگزر کریں، کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری بخشش فرمادے اور اللہ عز و جل بخشنے والا مہربان ہے۔ شان نزول: یہ آیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں نازل ہوئی، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم کھائی تھی کہ حضرت مسطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں گے۔ حضرت مسطح رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کے بیٹھے تھے، نادار تھے، مہاجر تھے، بدری تھے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ان کا خرچ اٹھاتے تھے مگر چونکہ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانے والوں کے ساتھ انہوں نے مؤانقت کی تھی اس لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ

نے یہ قسم کھائی۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جب یہ آیت حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے پڑھی تو حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے کہا: بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کرے اور میں حضرت مسطح رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کے ساتھ جو سلوک کرتا تھا اس کو کبھی موقوف نہ کروں گا۔ چنانچہ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس کو جاری فرمادیا۔^(۱)

آیت ”وَلَا يَأْتِلْ أَوْلُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ“ سے معلوم ہونے والے مسائل

اس آیت سے 3 مسئلے معلوم ہوئے:

(1)..... جو شخص کوئی کام نہ کرنے کی قسم کھائے پھر معلوم ہو کہ اس کا کرنا ہی بہتر ہے تو اسے چاہیے کہ اس کام کو کر لے، لیکن یہ یاد رہے کہ اسے قسم کا کفارہ دینا ہوگا جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو شخص قسم کھائے اور دوسری چیز اس سے بہتر پائے تو قسم کا کفارہ دیدے اور وہ کام کر لے۔“⁽²⁾

(2)..... اس آیت سے حضرت صدیق اکبر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی فضیلت ثابت ہوئی اور اس سے آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی بلند شان اور مرتبہ ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو **أَوْلُوا الْفَضْلِ** فرمایا۔⁽³⁾

(3)..... رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ (اور دیگر انبیاء و رُسُل عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام) کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ تمام مخلوق سے افضل ہیں۔⁽⁴⁾

إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعُنُوا فِي الدُّنْيَا
وَالْآخِرَةِ ۖ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝۲۳

①..... بخاری، کتاب المغازی، باب حدیث الافک، ۶۱/۳، الحدیث: ۴۱۴۱، خازن، النور، تحت الآیة: ۲۲، ۳/۴۴۵-۳۴۵.

②..... مسلم، کتاب الایمان والنذور، باب ندب من حلف یمیناً فرأى غیرها خیراً منها... الخ، ص ۸۹، الحدیث: ۱۲ (۱۶۵۰).

③..... خازن، النور، تحت الآیة: ۲۲، ۳/۴۴۵.

④..... روح البیان، النور، تحت الآیة: ۲۲، ۶/۱۳۳.

ترجیہ کنزالایمان: بیشک وہ جو عیب لگاتے ہیں انجان پارسا ایمان والیوں کو ان پر لعنت ہے دنیا اور آخرت میں اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

ترجیہ کنزالعرفان: بیشک وہ جو انجان، پاکدامن، ایمان والی عورتوں پر بہتان لگاتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔

﴿إِنَّ الَّذِينَ﴾ بیشک وہ جو۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں تہمت لگانے والے منافقین کی سزا بیان کی گئی ہے، اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ عورتیں جو بدکاری اور فسق و فجور کو جانتی بھی نہیں اور برا خیال ان کے دل میں بھی نہیں گزرتا اور وہ پاکدامن اور ایمان والی ہیں، ایسی پاکیزہ عورتوں پر بدکاری کا بہتان لگانے والوں پر دنیا اور آخرت میں لعنت ہے اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا کہ آیت میں عورتوں کے بیان کردہ اوصاف سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ازواجِ مطہرات کے اوصاف ہیں، اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے تمام ایماندار اور پارسا عورتیں مراد ہیں، انہیں عیب لگانے والوں پر اللہ تعالیٰ لعنت فرماتا ہے۔^(۱)

اور تفسیر حازن میں ہے کہ اس آیت میں جو وعید ذکر کی گئی یہ عبداللہ بن اُبی بن سلول منافق کے حق میں ہے۔^(۲)

خلاصہ کلام یہ ہے کہ آیت کا شان نزول اگرچہ خاص ہے لیکن معنی اور حکم سب کو عام ہے۔

يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿۲۳﴾

ترجیہ کنزالایمان: جس دن ان پر گواہی دیں گی ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں جو کچھ کرتے تھے۔

ترجیہ کنزالعرفان: جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی

①.....مدارك، النور، تحت الآية: ۲۳، ص ۷۷۵.

②.....حازن، النور، تحت الآية: ۲۳، ۳/۳۴۵.

دیں گے۔

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ﴾: جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ان کے خلاف ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں ان کے اعمال کی گواہی دیں گے۔ زبانوں کا گواہی دینا تو ان کے مونہوں پر مہر سے لگائے جانے سے پہلے ہوگا اور اس کے بعد مونہوں پر مہر سے لگادی جائیں گی جس سے زبانیں بند ہو جائیں گے اور اعضاء بولنے لگیں گے اور دنیا میں جو عمل کئے تھے وہ ان کی خبر دیں گے۔ (1)

يَوْمَ يَدْعُ فِيهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ ﴿۲۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اس دن اللہ انہیں ان کی سچی سزا پوری دے گا اور جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اس دن اللہ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی صریح حق ہے۔

﴿يَوْمَ يَدْعُ فِيهِمُ اللَّهُ دِيْنَهُمُ الْحَقَّ﴾: اس دن۔ ﴿﴾ منافقین کی سزا کے بیان میں ہی ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں ان کی پوری سچی سزا دے گا جس کے وہ قانونی طور پر مستحق ہیں اور وہ جان لیں گے کہ اللہ عزوجل ہی صریح حق ہے یعنی موجود، ظاہر ہے، اسی کی قدرت سے ہر چیز کا وجود ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ معنی یہ ہیں کہ کفار دنیا میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں میں شک کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ آخرت میں انہیں ان کے اعمال کی جزا دے کر ان وعدوں کا حق ہونا ظاہر فرما دے گا۔ (2)

سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كَابِلْدَمَقَامِ

قرآن کریم میں کسی گناہ پر ایسی سختی، شدت اور تکرار و تادیب نہیں فرمائی گئی جیسی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر بہتان باندھنے پر فرمائی گئی، اس سے تا جدار رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی رفعت منزلت ظاہر

1.....خازن، النور، تحت الآية: ۲۴، ۳/۳۴۵.

2.....خازن، النور، تحت الآية: ۲۵، ۳/۳۴۵.

ہوتی ہے۔ (۱) اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے صدقے آپ سے نسبت رکھنے والوں کا بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقام بہت بلند ہے اور جس کی جتنی نسبت قریب ہے اس کا اتنا ہی مقام بلند ہے اور آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے نسبت رکھنے والوں کی بے ادبی اللہ تعالیٰ کے غضب و جلال کا حق دار ٹھہرنے کا باعث ہے۔

الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ وَالْخَبِيثُونَ لِلْخَبِيثَاتِ وَالطَّيِّبَاتُ لِلطَّيِّبِينَ
وَالطَّيِّبُونَ لِلطَّيِّبَاتِ أُولَئِكَ مُبَرَّءُونَ مِمَّا يَقُولُونَ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ
وَالزَّالِمُونَ

سَدَقُ كَرِيمٌ ۲۶

ترجمہ کنزالایمان: گندیاں گندوں کے لیے اور گندے گندیوں کے لیے اور ستھریاں ستھروں کے لیے اور ستھرے ستھریوں کے لیے وہ پاک ہیں ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں ان کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: گندی عورتیں گندے مردوں کیلئے ہیں اور گندے مرد گندی عورتوں کیلئے ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کیلئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کیلئے ہیں۔ وہ ان باتوں سے بری ہیں جو لوگ کہہ رہے ہیں۔ ان (پاکیزہ لوگوں) کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔

﴿الْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ﴾: گندی عورتیں گندے مردوں کیلئے ہیں۔ ﴿آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ گندے کے لئے گندہ لائق ہے، گندی عورت گندے مرد کے لئے اور گندہ مرد گندی عورت کے لئے اور گندہ آدمی گندی باتوں کے درپے ہوتا ہے اور گندی باتیں گندے آدمی کا و طیرہ ہوتی ہیں اور پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کیلئے ہیں اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کیلئے ہیں۔ وہ پاک مرد اور عورتیں جن میں سے حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور حضرت صفوان رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ ہیں، ان باتوں سے بری ہیں جو یہ تہمت لگانے والے کہہ رہے ہیں۔ ان پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش اور جنت میں عزت کی روزی ہے۔

1.....مدارك، النور، تحت الآية: ۲۵، ص ۷۷۵۔

حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كِي فَضِيلَتِ اور خصوصيات

اس آیت سے حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كِي كَمَالِ فَضْلِ وَشَرَفِ ثَابِتِ هُوَا كِه وَوَه طَيِّبِ اور پاك پيدا كِي كُنَّيْنِ اور قرآنِ كَرِيمِ ميْنِ اُنْ كِي پاكي كا بيان فرمايا گيا اور انھيں مغفرت اور رزقِ كَرِيمِ كا وعده ديا گيا۔ اُمُّ الْمُؤْمِنِيْنَ حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كِي وَوَاللّٰهُ تَعَالَى نِيْ بَهْتِ سِيْ خِصَا نِصْ عِظَا فرمائے جو آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كِي لِنِيْ قَابِلِ فِخْرِ هِيْنِ، ان ميْنِ سِيْ بَعْضِ يِه هِيْنِ:

- (1)..... حضرت جبريلِ اَمِيْنِ عَلَيْهِ السَّلَامِ رَسُوْلِ كَرِيْمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي بارگاہ ميْنِ اِيْكَ رِيْشْمِيْ كِيْطْرِيْ پَرِ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كِي تَصْوِيْرَ لَائِيْ اور عرض كيا كِه يِه آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي رُؤْجِه هِيْنِ۔
- (2)..... نبِيْ كَرِيْمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نِيْ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كِي سِوَا كِسِيْ كِنُوَارِيْ عِوْرَتِ سِيْ نِكَاحِ نِيْ فرمايا۔
- (3)..... رَسُوْلِ كَرِيْمِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي وَفَاتِ آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كِي كِهْرِ تَشْرِيْفِ آوْرِيْ كِي دِيْنِ هُوِيْ۔
- (4)..... آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا هِيْ كَا حِجْرَةُ شَرِيْفِه حَضُوْرِ اِقْدَسِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي آ رَامِ گَاهِ بِنَا۔
- (5)..... بَعْضِ اَوْقَاتِ اِيْسيْ حَالَتِ ميْنِ حَضُوْرِ پُرْ نُوْرِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پَرِ وَجِيْ نَاظِلِ هُوِيْ كِه حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا كِي آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي سَا تَهْرَا پَرِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي كِخَا فِ ميْنِ هُوْتِيْنِ۔
- (6)..... آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ كِي خَلِيْفِه حضرت صَدِيْقِ اَكْبَرِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ كِي دُخْتَرِ هِيْنِ۔
- (7)..... آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پاك پيدا كِي كُنَّيْنِ اور آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سِيْ مَغْفِرَتِ وَرِزْقِ كَرِيمِ كا وعده فرمايا گيا هِيْ۔^(۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ بُيُوتِكُمْ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا
وَتُسَلِّمُوا عَلَى أَهْلِهَا ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿۲۷﴾

1.....خازن، النور، تحت الآية: ۲۶، ۳/۳۴۶، مدارك، النور، تحت الآية: ۲۶، ص ۷۷۶، ملتقطاً.

ترجمہ کنزالایمان: اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور ان کے سارے کونوں پر سلام نہ کر لو یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اے ایمان والو! اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں داخل نہ ہو جب تک اجازت نہ لے لو اور ان میں رہنے والوں پر سلام نہ کر لو۔ یہ تمہارے لیے بہتر ہے تاکہ تم نصیحت مان لو۔

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا: اے ایمان والو!﴾ اس آیت اور اس کے بعد والی دو آیات میں اللہ تعالیٰ نے دوسروں کے گھروں میں جانے کے آداب اور احکام بیان فرمائے ہیں۔ شانِ نزول: حضرت عدی بن ثابت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ انصار کی ایک عورت نے بارگاہِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میں عرض کی: یا رسولَ اللهُ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، اپنے گھر میں میری حالت کچھ اس طرح کی ہوتی ہے کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھے اس حالت میں دیکھے، چاہے وہ میرے والد یا بیٹا ہی کیوں نہ ہو اور میری اسی حالت میں گھر میں مردوں کا آنا جانا رہتا ہے تو میں کیا کروں؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔^(۱)

دوسروں کے گھر جانے سے متعلق 3 شرعی احکام

یہاں اس آیت کے حوالے سے 3 شرعی احکام ملاحظہ ہوں،

(1)..... اس آیت سے ثابت ہوا کہ غیر کے گھر میں کوئی بے اجازت داخل نہ ہو۔ اجازت لینے کا طریقہ یہ بھی ہے کہ بلند آواز سے سُبْحَانَ اللَّهِ يَا أَلْحَمْدُ لِلَّهِ يَا اللَّهُ أَكْبَرُ کہے، یا گھنکارے جس سے مکان والوں کو معلوم ہو جائے کہ کوئی آنا چاہتا ہے (اور یہ سب کام اجازت لینے کے طور پر ہوں) یا یہ کہے کہ کیا مجھے اندر آنے کی اجازت ہے۔ غیر کے گھر سے وہ گھر مراد ہے جس میں غیر رہتا ہو خواہ وہ اس کا مالک ہو یا نہ ہو۔⁽²⁾

(2)..... غیر کے گھر جانے والے کی اگر صاحبِ مکان سے پہلے ہی ملاقات ہو جائے تو پہلے سلام کرے پھر اجازت چاہے اور اگر وہ مکان کے اندر ہو تو سلام کے ساتھ اجازت لے اور اس طرح کہے: السلام علیکم، کیا مجھے اندر آنے کی

①..... تفسیر طبری، النور، تحت الآية: ۲۷، ۲۹۷/۹.

②..... روح البیان، النور، تحت الآية: ۲۷، ۱۳۷/۶، ملخصاً.

اجازت ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ سلام کو کلام پر مُتَقَدِّم کرو۔^(۱)

(3)..... اگر دروازے کے سامنے کھڑے ہونے میں بے پردگی کا اندیشہ ہو تو دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو کر

اجازت طلب کرے۔ حدیث شریف میں ہے اگر گھر میں ماں ہو جب بھی اجازت طلب کرے۔^(۲)

فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ وَافِيهَا أَحَدًا فَلَا تَدْخُلْهَا حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ وَإِنْ قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا هُوَ أَزْكى لَكُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿۲۸﴾

ترجمہ کنز الایمان: پھر اگر ان میں کسی کو نہ پاؤ جب بھی بے مالکوں کی اجازت کے ان میں نہ جاؤ اور اگر تم سے کہا جائے واپس جاؤ تو واپس ہو یہ تمہارے لیے بہت ستھرا ہے اللہ تمہارے کاموں کو جانتا ہے۔

ترجمہ کنز العرفان: پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دیدی جائے اور اگر تمہیں کہا جائے ”واپس لوٹ جاؤ“ تو تم واپس لوٹ جاؤ، یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔

﴿فَإِنْ لَّمْ تَجِدْ وَافِيهَا أَحَدًا﴾ پھر اگر تم ان گھروں میں کسی کو نہ پاؤ۔ یعنی اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود نہ ہو تو بھی ان میں داخل نہ ہونا جب تک تمہیں اجازت نہ دیدی جائے کیونکہ غیر کی ملک میں تَصْرُف کرنے کے لئے اس کی رضا مندی ضروری ہے۔ اور اگر مکان میں اجازت دینے والا موجود ہو اور وہ تمہیں کہے کہ ”واپس لوٹ جاؤ“ تو تم واپس لوٹ جاؤ اور اجازت طلب کرنے میں اصرار اور منت سماجت نہ کرو۔

کسی کا دروازہ بجانے سے متعلق دو اہم باتیں

جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دروازہ بجانے سے پہلے دو باتوں کا ضرور لحاظ رکھیں۔

(1)..... کسی کا دروازہ بہت زور سے کھٹ کھٹانا اور شدید آواز سے چیخنا خاص کر علماء اور بزرگوں کے دروازوں پر ایسا

①..... ترمذی، کتاب الاستئذان والآداب عن رسول اللہ، باب ما جاء في السلام قبل الكلام، ۳۲۱/۴، الحدیث: ۲۷۰۸۔

②..... موطا امام مالک، کتاب الاستئذان، باب الاستئذان، ۴۴۶/۲، الحدیث: ۱۸۴۷۔

کرنا اور ان کو زور سے پکارنا مکروہ و خلافِ ادب ہے۔^(۱) لہذا درمیانے انداز میں دروازہ بجائیں اور آواز دینے کی ضرورت ہو تو درمیانی آواز سے پکاریں، یونہی جس کے گھر پہ پیل لگی ہو تو ایسا نہ کریں کہ بٹن پر ہاتھ رکھ کر ہی کھڑے ہو جائیں اور جب تک دروازہ کھل نہ جائے اس سے ہاتھ نہ ہٹائیں بلکہ ایک بار بٹن دبا کر کچھ دیر انتظار کریں، اگر دروازہ نہ کھلے تو دوبارہ بجالیں، کچھ دیر انتظار کے بعد پھر بجالیں، اگر تیسری بار بجانے کے بعد بھی جواب نہ ملے تو کسی شدید مجبوری اور ضرورت کے بغیر چوتھی بار نہ بجائیں بلکہ واپس چلے جائیں اور کسی دوسرے وقت میں ملاقات کر لیں۔ نیز یہاں یہ بھی یاد رہے کہ تین مرتبہ تک دروازہ بجانے یا گھنٹی بجانے کی اجازت ہے، کوئی واجب نہیں لہذا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دو یا ایک مرتبہ دروازہ بجانے پر اگر کوئی دروازہ نہ کھولے تو واپس چلے جائیں۔

(۲)..... جب کسی کا دروازہ بجائیں اور اندر سے پوچھا جائے کہ کون ہے تو اس کے جواب میں یہ نہ کہیں کہ میں ہوں، بلکہ اپنا نام بتائیں تاکہ پوچھنے والا آپ کو پہچان سکے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے والد کے قرض کے سلسلے میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو میں نے دروازہ بجایا۔ آپ نے پوچھا: کون ہے؟ میں نے عرض کی: میں ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا: ”میں، میں۔“ (یعنی میں تو میں بھی ہوں) گویا آپ نے اس جواب کو ناپسند فرمایا۔^(۲)

نوٹ: مزید تفصیل کے لئے بہارِ شریعت جلد 3 حصہ 16 سے ”مکان میں جانے کا بیان“ مطالعہ فرمائیں۔
﴿هُوَ أَزْكَىٰ لَكُمْ﴾: یہ تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ یعنی اجازت نہ ملنے کی صورت میں تمہارا لوٹ جانا تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ کام ہے کیونکہ بعض اوقات لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اس وقت وہ کسی کا اپنے پاس آنا پسند نہیں کرتے۔^(۳)

دینِ اسلام کا وصف

مذکورہ بالا آیات کریمہ سے معلوم ہوا کہ اسلام نے ہمیں زندگی کے ہر چھوٹے بڑے معاملے میں اپنی تعلیمات سے نوازا ہے اور زندگی کے آداب سکھائے ہیں نیز دوسروں کی سہولت کا خیال رکھنا بھی سکھایا ہے۔

①..... مدارک، النور، تحت الآیة: ۲۸، ص ۷۷۶.

②..... بخاری، کتاب الاستئذان، باب ما اذا قال: من ذا؟ فقال: انا، ۱۷۱/۴، الحدیث: ۶۲۵۰.

③..... خازن، النور، تحت الآیة: ۲۸، ۳/۳۴۷.

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ ط
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ ۲۹

ترجمہ کنزالایمان: اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی سکونت کے نہیں اور ان کے برتنے کا تمہیں اختیار ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں جن میں تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ﴾: تم پر کچھ گناہ نہیں۔ ﴿شانِ نزول﴾: یہ آیت ان صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کے جواب میں نازل ہوئی جنہوں نے آیتِ اسْتِئْذَانٍ یعنی اُوپر والی آیت نازل ہونے کے بعد دریافت کیا تھا کہ مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیان اور شام کے راستے میں جو مسافر خانے بنے ہوئے ہیں کیا ان میں داخل ہونے کے لئے بھی اجازت لینا ضروری ہے۔ اس پر فرمایا گیا کہ اس بارے میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ ان گھروں میں جاؤ جو خاص کسی کی رہائش نہیں جیسے سرائے اور مسافر خانے وغیرہ کہ اس میں جانے کے لئے اجازت حاصل کرنے کی حاجت نہیں اور ان سے تمہیں نفع اٹھانے کا اختیار ہے۔ بعض مفسرین کے نزدیک ان گھروں سے دوکانیں مراد ہیں۔^(۱) کیونکہ دکانوں میں اجازت لے کر داخل نہیں ہو جاتا بلکہ کھلی ہوئی دکانیں ہوتی ہی اس لئے ہیں کہ لوگ ان میں آئیں اور خریداری کریں۔ حقیقت میں اس سے مراد ہر وہ جگہ ہے جہاں شرعاً و عرفاً اجازت لے کر جانے کی حاجت نہیں۔

﴿وَاللَّهُ يَعْلَمُ﴾: اور اللہ جانتا ہے۔ ﴿آیت کے اس حصے میں ان لوگوں کے لئے وعید ہے جو ان مقامات پر چوری وغیرہ کی نیت سے یا عورتوں کو جھانکنے کے لئے جائیں۔ یہ لوگ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو وہ ظاہر کرتے ہیں اور جو چھپاتے ہیں۔^(۲)

①.....حازن، النور، تحت الآية: ۲۹، ۳۴۷/۳.

②.....روح البيان، النور، تحت الآية: ۲۹، ۱۳۹/۶.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۗ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿۳۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں یہ ان کے لیے بہت ستر ہے بیشک اللہ ان کے کاموں کی خبر ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: مسلمان مردوں کو حکم دو کہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، بیشک اللہ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ﴾: مسلمان مردوں کو حکم دو۔ ﴿اس آیت میں مسلمان مردوں کو حکم دیا گیا کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور جس چیز کو دیکھنا جائز نہیں اس پر نظر نہ ڈالیں۔﴾^(۱)

نگاہیں جھکا کر رکھنے اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کی ترغیب

کثیر احادیث میں بھی مسلمان مردوں کو اپنی نظریں نیچی رکھنے اور اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو دیکھنے سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، ان میں سے چند یہاں بیان کی جاتی ہیں۔

(۱)..... حضرت ابوسعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تم راستوں میں بیٹھنے سے بچو۔“ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، راستوں میں بیٹھے بغیر ہمارا گزارہ نہیں، ہم وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے ہیں۔ ارشاد فرمایا: ”اگر راستوں میں بیٹھے بغیر تمہیں کوئی چارہ نہیں تو راستے کا حق ادا کرو۔“ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نے عرض کی: راستے کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ”نظر نیچی رکھنا۔ تکلیف دہ چیز کو دور کرنا۔ سلام کا جواب دینا۔ نیکی کی دعوت دینا اور بُرائی سے منع کرنا۔“^(۲)

①..... حازن، النور، تحت الآية: ۳۰، ۳/۳۴۸۔

②..... بخاری، کتاب المظالم و الغصب، باب افنية الدور و الجلوس فيها و الجلوس على الصعدات، ۱۳۲/۲، الحدیث: ۲۴۶۵۔

(2)..... حضرت ابو سعید خدری رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”ایک مرد دوسرے مرد کے ستر کی جگہ نہ دیکھے اور نہ عورت دوسری عورت کے ستر کی جگہ دیکھے اور نہ مرد دوسرے مرد کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے اور نہ عورت دوسری عورت کے ساتھ ایک کپڑے میں برہنہ سوئے۔“ (1)

(3)..... حضرت بریدہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت علی كَرِيمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمَ سے فرمایا کہ ”ایک نظر کے بعد دوسری نظر نہ کرو (یعنی اگرچانک بلا قصد کسی عورت پر نظر پڑ جائے تو فوراً نظر ہٹالے اور دوبارہ نظر نہ کرے) کہ پہلی نظر جائز ہے اور دوسری نظر جائز نہیں۔“ (2)

(4)..... حضرت ابو امامہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو مسلمان کسی عورت کے حُسن و جمال کی طرف (بلا ارادہ) پہلی بار نظر کرے، پھر اپنی آنکھ جھکالے تو اللہ تعالیٰ اسے ایسی عبادت کرنے کی توفیق دے گا جس کا وہ مزہ پائے گا۔“ (3)

لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکا کر رکھا کرے اور جن چیزوں کو دیکھنا حرام ہے انہیں دیکھنے سے بچے۔ مزید ترغیب کے لئے امام محمد غزالی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ کا یہ کلام ملاحظہ ہو، فرماتے ہیں: نظر نیچی رکھنا دل کو بہت زیادہ پاک کرتا ہے اور نیکیوں میں اضافے کا ذریعہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم نظر نیچی نہ رکھو بلکہ اسے آزادانہ ہر چیز پر ڈالو تو بسا اوقات تم بے فائدہ اور فضول بھی ادھر ادھر دیکھنا شروع کر دو گے اور رفتہ رفتہ تمہاری نظر حرام پر بھی پڑنا شروع ہو جائے گی، اب اگر جان بوجھ کر حرام پر نظر ڈالو گے تو یہ بہت بڑا گناہ ہے اور عین ممکن ہے کہ تمہارا دل حرام چیز پر فریفتہ ہو جائے اور تم تباہی کا شکار ہو جاؤ، اور اگر اس طرف دیکھنا حرام نہ ہو بلکہ مباح ہو، تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا دل (اس میں) مشغول ہو جائے اور اس کی وجہ سے تمہارے دل میں طرح طرح کے وسوسے آنا شروع ہو جائیں اور ان وسوسوں کا شکار ہو کر نیکیوں سے رہ جاؤ، لیکن اگر تم نے (حرام اور مباح) کسی طرف دیکھا ہی نہیں تو ہر فتنے اور وسوسے سے محفوظ رہو گے اور اپنے اندر راحت و نشاط محسوس کرو گے۔ (4)

1..... مسلم، کتاب الحيض، باب تحريم النظر الى العورات، ص ۱۸۶، الحدیث: ۷۴ (۳۳۸).

2..... ابو داؤد، کتاب النکاح، باب ما يؤمر به من غرض البصر، ۳۵۸/۲، الحدیث: ۲۱۴۹.

3..... مسند امام احمد، مسند الانصار رضى الله عنهم، حدیث ابی امامة الباهلی... الخ، ۲۹۹/۸، الحدیث: ۲۲۳۴۱.

4..... منهاج العابدین، تقوی الاعضاء الخمسة، الفصل الاول: العين، ص ۷۲-۷۳.

نوٹ: پردے کے بارے میں مزید معلومات کیلئے بہارِ شریعت جلد 3 حصہ 16 سے ”دیکھنے اور چھونے کا بیان“ مطالعہ فرمائیں۔

﴿وَيَحْفَظُوا أَرْوَاحَهُمْ﴾ اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ ﴿آیت کے اس حصے کا ایک معنی یہ ہے کہ زنا اور حرام سے بچیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں اور ان سے مُتَّصِل وہ تمام اعضاء جن کا ستر ضروری ہے انہیں چھپائیں اور پردے کا اہتمام رکھیں۔ (1)

﴿ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ﴾: یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزہ ہے۔ ﴿یعنی نگاہوں کو جھکا کر رکھنا اور شرمگاہ کی حفاظت کرنا مردوں کے لیے گناہ کی میل کے مقابلے میں بہت زیادہ پاکیزہ طریقہ اور کام ہے۔ اور فرمایا کہ بیشک اللہ تعالیٰ ان کے کاموں سے خبردار ہے۔ امام عبد اللہ بن احمد نسفی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”اس میں نگاہیں جھکا کر رکھنے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کی ترغیب اور ایسا نہ کرنے پر ترہیب یعنی اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ مردوں کے حالات، ان کے افعال اور ان کے نظریں گھمانے کے انداز سے خبردار ہے، وہ آنکھوں کی خیانت اور دلوں کی چھپی ہوئی باتیں جانتا ہے۔ جب مرد اس بات سے آگاہ ہیں تو ان پر لازم ہے کہ وہ اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ہر غلط حرکت و سکون سے بچیں۔ (2)

وَقُلْ لِلَّهِ مِمَّنْ يَعْضُنْ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُرُجِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي

1.....روح البیان، النور، تحت الآیة: ۳۰، ۶/۱۴۰، ملخصاً.

2.....مدارك، النور، تحت الآیة: ۳۰، ص ۷۷۷.

إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَمْلُوكَاتٍ أَيْبَانِهِنَّ أَوْ
 التُّبَعِينَ غَيْرِ أَوْلِي الْأَرْبَابَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا
 عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ ۖ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۖ مِنْ
 زِينَتِهِنَّ ۗ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿۳۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور مسلمان عورتوں کو حکم دو اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنا بناؤ نہ دکھائیں مگر جتنا خود ہی ظاہر ہے اور دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رہیں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹے یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائی یا اپنے بھتیجے یا اپنے بھانجے یا اپنے دین کی عورتیں یا اپنی کنیریں جو اپنے ہاتھ کی ملک ہوں یا نوکر بشرطیکہ شہوت والے مرد نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے ان کا چھپا ہوا سنگار اور اللہ کی طرف توبہ کرو اے مسلمانو سب کے سب اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور مسلمان عورتوں کو حکم دو کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور اپنی پارسائی کی حفاظت کریں اور اپنی زینت نہ دکھائیں مگر جتنا (بدن کا حصہ) خود ہی ظاہر ہے اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہروں پر یا اپنے باپ یا شوہروں کے باپ یا اپنے بیٹوں یا شوہروں کے بیٹے یا اپنے بھائیوں یا اپنے بھتیجوں یا اپنے بھانجوں یا اپنی (مسلمان) عورتوں یا اپنی کنیروں پر جو ان کی ملکیت ہوں یا مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں یا وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں اور زمین پر اپنے پاؤں اس لئے زور سے نہ ماریں کہ ان کی اس زینت کا پتہ چل جائے جو انہوں نے چھپائی ہوئی ہے اور اے مسلمانو! تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔

﴿وَقُلْ لِلَّهِ الْمُنْتَبِهَاتُ﴾ اور مسلمان عورتوں کو حکم دو۔ ﴿آیت کے اس حصے میں مسلمان عورتوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنی نگاہیں کچھ نیچی رکھیں اور غیر مردوں کو نہ دیکھیں۔ حضرت اُمّ سلمہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ میں اور حضرت میمونہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا بارگاہ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میں حاضر تھیں، اسی وقت حضرت ابنِ اُمّ مکتوم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ حاضر ہوئے۔ حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ہمیں پردہ کا حکم فرمایا تو میں نے عرض کی: وہ تو نابینا ہیں، ہمیں دیکھ اور پہچان نہیں سکتے۔ حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”کیا تم دونوں بھی نابینا ہو اور کیا تم ان کو نہیں دیکھتیں۔“ (1)

عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنے کا شرعی حکم

یہاں ایک مسئلہ یاد رہے کہ عورت کا اجنبی مرد کی طرف نظر کرنے کا وہی حکم ہے، جو مرد کا مرد کی طرف نظر کرنے کا ہے اور یہ اس وقت ہے کہ عورت کو یقین کے ساتھ معلوم ہو کہ اس کی طرف نظر کرنے سے شہوت پیدا نہیں ہوگی اور اگر اس کا شبہ بھی ہو تو ہرگز نظر نہ کرے۔

﴿وَلَا يَبِينُ زِينَتَهُنَّ﴾ اور اپنی زینت نہ دکھائیں۔ ﴿ابو البرکات عبد اللہ بن احمد نسفی رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: ”زینت سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے عورت سجتی سنورتی ہے جیسے زیور اور سرمہ وغیرہ اور چونکہ محض زینت کے سامان کو دکھانا مباح ہے اس لئے آیت کا معنی یہ ہے کہ مسلمان عورتیں اپنے بدن کے ان اعضا کو ظاہر نہ کریں جہاں زینت کرتی ہیں جیسے سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کہنیاں اور پنڈلیاں، البتہ بدن کے وہ اعضا جو عام طور پر ظاہر ہوتے ہیں جیسے چہرہ، دونوں ہاتھ اور دونوں پاؤں، انہیں چھپانے میں چونکہ مشقت واضح ہے اس لئے ان اعضا کو ظاہر کرنے میں حرج نہیں۔ (لیکن فی زمانہ چہرہ بھی چھپایا جائے گا جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے۔) (2)

اس آیت مبارکہ کے بارے میں ملا جیون رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اپنا نکتہ نظر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ”زیادہ ظاہر یہ ہے کہ آیت میں مذکور حکم نماز کے بارے میں ہے (یعنی عورت نماز پڑھتے وقت چہرے دونوں ہاتھوں اور دونوں پاؤں

1.....ترمذی، کتاب الادب، باب ما جاء فی احتجاب النساء من الرجال، ۴/ ۳۵۶، الحدیث: ۲۷۸۷، ابو داؤد، کتاب اللباس، باب فی قوله عز وجل: وقال للمؤمنات يغضضن... الخ، ۴/ ۸۷، الحدیث: ۴۱۱۲.

2.....مدارک، النور، تحت الآیة: ۳۱، ص ۷۷۷.

کے علاوہ پورا بدن چھپائے۔ یہ حکم عورت کو دیکھنے کے بارے میں نہیں کیونکہ عورت کا تمام بدن عورت یعنی چھپانے کی چیز ہے۔ شوہر اور محرم کے سوا کسی اور کے لئے اس کے کسی حصہ کو بے ضرورت دیکھنا جائز نہیں اور علاج وغیرہ کی ضرورت سے بقدر ضرورت جائز ہے۔^(۱)

﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ﴾: اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں۔ یعنی مسلمان عورتیں اپنے دوپٹوں کے ذریعے اپنے بالوں، گردن، پہنے ہوئے زیور اور سینے وغیرہ کو ڈھانپ کر رکھیں۔^(۲)

اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں صحابیات رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ کا جذبہ

جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو اس حکم پر عمل کرنے میں صحابیات رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُنَّ کا جذبہ قابل دید ہے، چنانچہ اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: ”اللہ تعالیٰ ان عورتوں پر رحم فرمائے جنہوں نے سب سے پہلے ہجرت کی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نازل فرمایا ”اور وہ اپنے دوپٹے اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں“ تو انہوں نے اپنی اوئی چادروں کو پھاڑ کر اوڑھنیاں بنا لیا تھا۔“^(۳)

اب یہاں پردے سے متعلق تین عظیم واقعات ملاحظہ ہوں:

(۱)..... حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ پردے کی آیات نازل ہونے کے بعد (میرے رضاعی چچا) فلح نے مجھ سے میرے پاس آنے کی اجازت طلب کی تو میں نے کہا: میں اس وقت تک اجازت نہیں دے سکتی جب تک نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے اجازت نہ لے لوں کیونکہ ابوالقحیس کے بھائی نے مجھے دودھ نہیں پلایا بلکہ ابوالقحیس کی بیوی نے دودھ پلایا ہے۔ جب رسول اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تشریف لائے اور حضرت عائشہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے ان سے صورت حال عرض کی تو ارشاد فرمایا ”اے عائشہ! رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فلح کو اجازت دے دو کیونکہ وہ تمہارے رضاعی چچا ہیں۔“^(۴)

(۲)..... خاتونِ جنت حضرت فاطمہ زہرا رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو یہ تشویش تھی کہ عمر بھر تو غیر مردوں کی نظروں سے خود کو

①..... تفسیرات احمدیہ، النور، تحت الآیة: ۳۱، ص ۵۶۲.

②..... خازن، النور، تحت الآیة: ۳۱، ۳/۳۴۸.

③..... بخاری، کتاب التفسیر، سورة النور، باب ولیضربن بخمرهن علی جیوبهن، ۳/۲۹۰، الحدیث: ۴۷۵۸.

④..... بخاری، کتاب التفسیر، سورة الاحزاب، باب قوله: ان تبدوا شیئاً او تخفروا... الخ، ۳/۳۰۶، الحدیث: ۴۷۹۶.

بچائے رکھا ہے اب کہیں وفات کے بعد میری کفن پوش لاش ہی پر لوگوں کی نظر نہ پڑ جائے! ایک موقع پر حضرت اسماء بنت عمیس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے عرض کی: میں نے حبشہ میں دیکھا ہے کہ جنازے پر درخت کی شاخیں باندھ کر اور ایک ڈولی کی سی صورت بنا کر اس پر پردہ ڈال دیتے ہیں۔ پھر انہوں نے کھجور کی شاخیں منگوا کر انہیں جوڑا اور اس پر کپڑا اتان کر خاتونِ جنت رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کو دکھایا۔ اسے دیکھ کر آپ بہت خوش ہوئیں اور لبوں پر مسکراہٹ آگئی۔ بس آپ کی یہی ایک مسکراہٹ تھی جو سرکارِ مدینہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے وصالِ ظاہری کے بعد دیکھی گئی۔^(۱)

(3)..... حضرت اُمِّ خَلادِ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کیلئے چہرے پر نقاب ڈالے با پردہ بارگاہِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میں حاضر ہوئیں، اس پر کسی نے حیرت سے کہا: اس وقت بھی آپ نے منہ پر نقاب ڈال رکھا ہے! آپ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا نے جواب دیا: میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے لیکن حیا ہرگز نہیں کھوئی۔^(۲)

مذکورہ بالا حدیث پاک اور ان تین واقعات میں ان عورتوں کے لئے بڑی نصیحت ہے جو مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے حکم پر عمل کرنے کی بجائے دنیا کے ناجائز فیشن اور رسم و رواج کو اپنانے میں بڑی کوشش کرتی ہیں اور پردے سے جان چھڑانے کے لئے طرح طرح کے حیلے بہانے تراشتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں عقل سلیم اور شرعی احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ﴾: اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں۔ ﴿اس آیت سے ان مردوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جن کے سامنے عورت اپنی پوشیدہ زینت کے اعضا مثلاً سر، کان، گردن، سینہ، بازو، کہنیاں اور پنڈلیاں وغیرہ ظاہر کر سکتی ہے۔ چنانچہ وہ مرد حضرات درج ذیل ہیں،

(1)..... شوہر۔

(2)..... باپ۔ اس کے حکم میں دادا پر دادا وغیرہ تمام اصول شامل ہیں۔

(3)..... شوہروں کے باپ یعنی سسر کہ وہ بھی محرم ہو جاتے ہیں۔

①..... جذب القلوب، باب دوازدهم در ذکر مقبره شریفه بقیع... الخ، ص ۱۵۹۔

②..... ابو داؤد، کتاب الجهاد، باب فضل قتال الروم علی غیرہم من الامم، ۹/۲، الحدیث: ۲۴۸۸۔

(4).....اپنے بیٹے۔ انہیں کے حکم میں ان کی اولاد بھی داخل ہے۔

(5).....شوہروں کے بیٹے کہ وہ بھی محرم ہو گئے۔

(6،7).....سگے بھائی۔ سگے بھتیجے۔

(8).....سگے بھانجے۔ انہیں کے حکم میں چچا ماموں وغیرہ تمام محارم داخل ہیں۔

(9).....مسلمان عورتوں کے سامنے۔ غیر مسلم عورتوں کے سامنے کھولنا منع ہے چنانچہ حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ

نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو خط لکھا تھا کہ کفار اہل کتاب کی عورتوں کو مسلمان عورتوں کے ساتھ حمام میں داخل ہونے سے منع کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مسلمان عورت کو کافرہ عورت کے سامنے اپنا بدن کھولنا جائز نہیں۔ مسئلہ: عورت اپنے غلام سے بھی اجنبی مرد کی طرح پردہ کرے۔

(10).....اپنی ملکیت میں موجود کنیزوں کے سامنے۔ ان پر اپنا سنگار ظاہر کرنا ممنوع نہیں اور غلام ان کے حکم میں نہیں، اس کو اپنی مالکہ کی زینت کی جگہوں کو دیکھنا جائز نہیں۔

(11).....مردوں میں سے وہ نوکر جو شہوت والے نہ ہوں مثلاً ایسے بوڑھے ہوں جنہیں اصلاً شہوت باقی نہیں رہی ہو اور وہ نیک ہوں۔

یاد رہے کہ ائمہ حنفیہ کے نزدیک خصی اور عنین نظر کی حرمت کے معاملے میں اجنبی کا حکم رکھتے ہیں۔ اس طرح بُرے افعال کرنے والے پیچڑوں سے بھی پردہ کیا جائے جیسا کہ مسلم شریف کی حدیث سے ثابت ہے۔

(12).....وہ بچے جنہیں عورتوں کی شرم کی چیزوں کی خبر نہیں، وہ ابھی نا سمجھ نابالغ ہیں۔⁽¹⁾

یاد رہے کہ شوہر کے علاوہ دیگر محارم کے سامنے بھی عورت اپنے بناؤ سنگار کے اعضاء اس وقت ظاہر کر سکتی ہے جب ان میں سے کسی کو شہوت کا اندیشہ نہ ہو، اگر شہوت کا اندیشہ ہو تو ظاہر کرنا ناجائز ہے۔

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ﴾ اور زمین پر اپنے پاؤں زور سے نہ ماریں۔ ﴿یعنی عورتیں چلنے پھرنے میں پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار نہ سُنی جائے۔ اسی لئے چاہیے کہ عورتیں بچنے والے جھانجھن نہ پہنیں۔ حدیث

①.....مدارك، النور، تحت الآية: ۳۱، ص ۷۷۸، حازن، النور، تحت الآية: ۳۱، ۳/ ۳۴۹، خزائن العرفان، النور، تحت الآية: ۳۱، ص ۲۵۲، ملتقطاً۔

شریف میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجھن پہنتی ہوں۔ اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جب زیور کی آواز دعا قبول نہ ہونے کا سبب ہے تو خاص عورت کی آواز اور اس کی بے پردگی کیسی اللہ تعالیٰ کے غضب کو لازم کرنے والی ہوگی۔ پردے کی طرف سے بے پروائی تباہی کا سبب ہے (اللہ کی پناہ)۔^(۱)

پردے کے دینی اور دنیوی فوائد

یہاں پردہ کرنے کے چند دینی اور دنیوی فوائد ملاحظہ ہوں، چنانچہ اس کے 4 دینی فوائد یہ ہیں:

- (1)..... پردہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی خوشنودی حاصل کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔
- (2)..... پردہ ایمان کی علامت، اسلام کا شعار اور مسلمان خواتین کی پہچان ہے۔
- (3)..... پردہ شرم و حیا کی علامت ہے اور حیا اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔
- (4)..... پردہ عورت کو شیطان کے شر سے محفوظ بنا دیتا ہے۔

اور پردے کے 4 دنیوی فوائد یہ ہیں:

- (1)..... باحیا اور پردہ دار عورت کو اسلامی معاشرے میں بہت عزت و وقار کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔
- (2)..... پردہ عورت کو بڑی نظر اور فتنے سے محفوظ رکھتا اور بُرائی کے راستے کو روکتا ہے۔
- (3)..... عورت کے پردے سے معاشرے میں بگاڑ پیدا نہیں ہوتا اور معاشرے میں امن و سکون رہتا ہے۔
- (4)..... پردہ عورت کے وقار میں اضافہ کرتا اور اس کی خوبصورتی کی حفاظت کرتا ہے۔

پردے کی ضرورت و اہمیت سے متعلق ایک مثال

یہاں پردے کی ضرورت اور اہمیت کو آسانی کے ساتھ سمجھنے کے لئے ایک مثال ملاحظہ ہو، چنانچہ وہ مثال یہ ہے کہ اگر ایک پلیٹ میں مٹھائی رکھ دی جائے اور اسے کسی چیز سے ڈھانپ دیا جائے تو وہ مکھیوں کے بیٹھنے سے محفوظ ہو جاتی ہے اور اگر اسے ڈھانپا نہ جائے، پھر اس پر مکھیاں بیٹھ جائیں تو یہ شکایت کرنا کہ اس پر مکھیاں کیوں بیٹھ گئیں بہت بڑی بے وقوفی ہے کیونکہ مٹھائی ایسی چیز ہے جسے مکھیوں کے تصرّف سے بچانے کے لئے اسے ڈھانپ کر رکھنا ضروری ہے ورنہ انہیں مٹھائی پر بیٹھنے سے روکنا بڑا مشکل ہے، اسی طرح اگر عورت جو کہ چھپانے کی چیز ہے، اسے پردے میں رکھا

①..... تفسیر احمدی، النور، تحت الآیة: ۳۱، ص ۵۶۵، خزائن العرفان، النور، تحت الآیة: ۳۱، ص ۶۵۶، ملقطاً۔

جائے تو بہت سے معاشرتی مسائل سے بچ سکتی ہے اور عزت و ناموس کے لٹیروں سے اپنی حفاظت کر سکتی ہے اور جب اسے پردے کے بغیر رکھا جائے تو اس کے بعد یہ شکایت کرنا کہاں کی عقلمندی ہے کہ لوگ عورت کو تانک جھانک کرتے ہیں، اسے چھیڑتے ہیں اور اس کے ساتھ دست درازی کرتے ہیں کیونکہ جب اسے بے پردہ کر دیا تو غیر مردوں کی فتنہ باز نظریں اس کی طرف ضرور اٹھیں گی، ان کے لئے عورت کے جسم سے لطف اندوز ہونا اور اس میں تصرّف کرنا آسان ہوگا اور شریر لوگوں سے اپنے جسم کو بچانا عورت کے لئے انتہائی مشکل ہوگا کیونکہ فطری طور پر مردوں میں عورتوں کے لئے رغبت رکھی گئی ہے اور جب وہ بے پردہ عورت کا جسم دیکھتا ہے تو وہ اپنی شہوت و رغبت کو پورا کرنے کے لئے اس کی طرف لپکتا ہے۔

پردے کی طرف سے بے پروائی تباہی کا سبب ہے

موجودہ دور میں میڈیا کے ذریعے اور دیگر ذرائع سے لوگوں کا یہ ذہن بنانے کی بھرپور کوشش کی جاتی ہے کہ عورت بھی ایک انسان ہے اور آزادی اس کا بھی حق ہے اور اسے پردہ کروانا اس کی آزادی اور روشن خیالی کے برخلاف ہے اور یہ ایک طرح کی جبری قید ہے حالانکہ پردہ تو عورت کی آزادی کا ضامن ہے، پردہ اس کی عزت و ناموس کا محافظ ہے، اسی میں عورت کی عزت اور اس کا وقار ہے۔ آج ہر عقلمند انسان انصاف کی نظر سے یہ دیکھ سکتا ہے کہ جن ممالک میں عورت کے پردے کو اس کے انسانی حق اور آزادی کے خلاف قرار دے کر اس کی بے پردگی کو رواج دیا گیا، ایسے ذرائع اور حالات پیدا کئے گئے جن سے عورتوں اور مردوں کا باہم اختلاف طر ہے اور ان کا ایک دوسرے کے ساتھ میل جول ہوتا رہے اور قانونی طور پر عورت کو یہ اختیار دیا گیا کہ وہ جب اور جس مرد کے ساتھ چاہے اپنا وقت گزارے اور اپنی فطری خواہشات کو پورا کرے تو وہاں کا حال کیسا عبرت ناک ہے کہ ان کا معاشرہ بگڑ گیا اور خاندانی نظام تباہ ہو کر رہ گیا، شادیوں کی ناکامی، طلاقوں کی تعداد اور حرامی بچوں کی پیدائش میں اضافہ ہو گیا اور یہ سب تباہی عورت کو بے پردہ کرنے کا ہی نتیجہ ہے۔^(۱)

﴿وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا﴾ تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو۔ ﴿یعنی اے مسلمانو! جن باتوں کا تمہیں حکم دیا گیا اور جن سے منع کیا گیا، اگر ان میں بشری تقاضے کی بنا پر تم سے کوئی تقصیر واقع ہو جائے تو تم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس امید پر توبہ

①..... پردے سے متعلق شرعی احکام کی تفصیلی معلومات حاصل کرنے کے لئے امیر اہلسنت دامت بركاتہم العالیہ کی کتاب ”پردے کے بارے میں سوال جواب“ (مطبوعہ مکتبۃ المدینہ) کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔

کر لو کہ تم فلاح پا جاؤ۔^(۱)

اور توبہ سے متعلق حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ”اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ پر اس سے بھی زیادہ راضی ہوتا ہے جیسے تم میں سے کسی کا اونٹ جنگل میں گم ہونے کے بعد دوبارہ اسے مل جائے۔“^(۲)

وَأَنْتُمْ حُوَالِي يَأْمُرُ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۖ إِنَّ
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِمُهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝۳۲

ترجمہ کنزالایمان: اور نکاح کر دو اپنوں میں ان کا جو بے نکاح ہوں اور اپنے لائق بندوں اور کنیزوں کا اگر وہ فقیر ہوں تو اللہ انہیں غنی کر دے گا اپنے فضل کے سبب اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔ اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا اور اللہ وسعت والا، علم والا ہے۔

﴿وَأَنْتُمْ حُوَالِي يَأْمُرُ مِنْكُمْ﴾ اور تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں ان کے نکاح کر دو۔ ﴿﴾ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے مردوں اور عورتوں کو نکاح میں جھکا کر رکھنے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اب اس آیت میں شرمگاہوں کی حفاظت کا ایک طریقہ بیان کیا جا رہا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہوں خواہ مرد ہوں یا عورتیں، کنوارے یا غیر کنوارے (یعنی شادی شدہ تھے لیکن پھر طلاق یا ایک کی موت ہو گئی) اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو۔^(۳)

①.....خازن، النور، تحت الآية: ۳۱، ۳۵۰/۳۔

②.....بخاری، کتاب الدعوات، باب التوبة، ۱۹۱/۴، الحدیث: ۶۳۰۹۔

③.....خازن، النور، تحت الآية: ۳۲، ۳۵۰/۳۔

نکاح کرنے کا شرعی حکم

نکاح کرنے کا شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نامرد بھی نہ ہو، مہر اور نان نفقہ پر قدرت رکھتا ہو تو نکاح سنتِ مؤکدہ ہے۔ زینا میں پڑنے کا اندیشہ ہے اور زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر ہے تو واجب اور اگر زینا میں پڑنے کا یقین ہو تو نکاح کرنا فرض ہے، زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو نکاح مکروہ اور حقوق پورے نہ کر سکنے کا یقین ہو تو حرام ہے۔^(۱)

نوٹ: نکاح سے متعلق مسائل کی مزید معلومات کے لئے بہارِ شریعت جلد 2 سے حصہ 7 کا مطالعہ فرمائیں۔
﴿إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ﴾: اگر وہ فقیر ہوں گے۔ ارشاد فرمایا کہ اگر نکاح کرنے والے فقیر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔ اس غناء کے بارے میں مفسرین کے چند قول ہیں:
 (1)..... اس غناء سے مراد قناعت ہے۔

(2)..... اس سے مراد کفایت ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لئے کافی ہو جائے جیسا کہ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”ایک شخص کا کھانا دو کو کافی ہے۔“^(۲)
 (3)..... اس غناء سے شوہر اور بیوی کے دو رزقوں کا جمع ہو جانا نکاح کی برکت سے فراخی حاصل ہونا مراد ہے۔^(۳)

تنگدستی دور ہونے اور فراخ دستی حاصل ہونے کا ذریعہ

اس آیت سے معلوم ہوا کہ نکاح کی برکت سے تنگدستی دور ہو جاتی اور فراخ دستی حاصل ہوتی ہے۔ کثیرا حدیث میں بھی اس چیز کو بیان کیا گیا ہے، ترغیب کے لئے 6 احادیث درج ذیل ہیں۔

(1)..... حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”تین شخصوں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا۔ (1) اللہ عزَّ وَّجَلَّ کی راہ میں جہاد کرنے والا۔ (2) مکاتب (غلام) کہ (کتابت کی رقم) ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ (3) پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا۔“^(۴)

①..... بہارِ شریعت، حصہ ہفتم، نکاح کا بیان، ۲/۳-۵، ملخصاً۔

②..... مسلم، کتاب الاشریة، باب فضیلة المواساة فی الطعام القلیل... الخ، ص ۱۱۴۰، الحدیث: ۱۷۹ (۲۰۵۹)۔

③..... مدارک، النور، تحت الآیة: ۳۲، ص ۷۷۹، حازن، النور، تحت الآیة: ۳۲، ۳/۳۵۰، ملنقطاً۔

④..... ترمذی، کتاب فضائل الجہاد، باب ما جاء فی المجاہد و الناکح و المکاتب... الخ، ۳/۲۴۷، الحدیث: ۱۶۶۱۔

(2)..... حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تم نکاح کے ذریعے رِزق تلاش کرو۔“ (1)

(3)..... حضرت عمروہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضورِ انور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تم عورتوں سے نکاح کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس (اللہ تعالیٰ کی طرف سے رِزق اور) مال لائیں گی۔“ (2)

(4)..... حضرت جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے بارگاہ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ میں حاضر ہو کر اپنی تنگدستی کی شکایت کی تو آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے اسے نکاح کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ (3)

(5)..... حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ نے جو تمہیں نکاح کا حکم فرمایا، تم اس کی اطاعت کرو اس نے جو غنی کرنے کا وعدہ کیا ہے پورا فرمائے گا۔ اللّٰهُ تَعَالَى نے فرمایا: ”اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔“ (4)

(6)..... حضرت عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں: ”مجھے اس شخص پر تعجب ہوتا ہے جو نکاح کے بغیر غنی ہونے کی کوشش کر رہا ہے حالانکہ اللّٰهُ تَعَالَى نے ارشاد فرمایا ہے: ”اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے گا۔“ (5)

نکاح کی وجہ سے غنی ہونے کی ایک نفسیاتی وجہ بھی ہے اور وہ یہ کہ اکیلا آدمی عموماً بے فکر ہوتا ہے لیکن جب شادی ہو جاتی ہے تو احساسِ ذمہ داری پیدا ہو جاتی ہے تو آدمی تن دہی سے کوشش کرتا ہے جس کے نتیجے میں اس کیلئے رِزق کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اس بات کا ہزاروں لوگوں میں مشاہدہ بھی ہے کہ شادی سے پہلے بے فکر و بے روزگار اور دوستوں کے ساتھ وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں لیکن شادی کے بعد کام بھی شروع کر دیتے ہیں اور فضولیات سے بھی بچنا شروع کر دیتے ہیں۔

1..... مسند الفردوس، باب الالف، ۸۸/۱، الحدیث: ۲۸۲.

2..... مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب النکاح، فی التزوید من کان یأمر بہ ویحث علیہ، ۲۷۱/۳، الحدیث: ۱۰.

3..... تاریخ بغداد، باب محمد، ۳۰۷-محمد بن احمد بن نصر ابو جعفر... الخ، ۳۸۲/۱.

4..... تفسیر ابن ابی حاتم، النور، تحت الآیة: ۳۲، ۲۵۸۲/۸.

5..... حازن، النور، تحت الآیة: ۳۲، ۳۵۰/۳.

وَلَيْسَتَعْفِيفُ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُعْذِرَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۖ
 وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ
 فِيهِمْ خَيْرًا ۗ وَأَتَوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ ۗ وَلَا تَكْرِهُوا
 فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَادْنَ تَحْصِيلًا تَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ
 الدُّنْيَا ۗ وَمَنْ يُكْرِهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿۳۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور چاہیے کہ بچے رہیں وہ جو نکاح کا مقدور نہیں رکھتے یہاں تک کہ اللہ انہیں مقدور والا کر دے اپنے فضل سے اور تمہارے ہاتھ کی ملک باندی غلاموں میں سے جو یہ چاہیں کہ کچھ مال کمانے کی شرط پر انہیں آزادی لکھ دو تو لکھ دو اگر ان میں کچھ بھلائی جانو اور اس پر ان کی مدد کرو اللہ کے مال سے جو تم کو دیا اور مجبور نہ کرو اپنی کنیزوں کو بدکاری پر جب کہ وہ بچنا چاہیں تاکہ تم دنیوی زندگی کا کچھ مال چاہو اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بیشک اللہ بعد اس کے کہ وہ مجبوری ہی کی حالت پر رہیں بخشنے والا مہربان ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور جو لوگ نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ پاکدامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دے اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو مال کما کر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو تم انہیں (یہ معاہدہ) لکھ دو اگر تم ان میں کچھ بھلائی جانو اور تم ان کی اللہ کے اس مال سے مدد کرو جو اس نے تمہیں دیا ہے اور تم دنیوی زندگی کا مال طلب کرنے کیلئے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو (خصوصاً) اگر وہ خود (بھی) بچنا چاہتی ہوں اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بیشک اللہ ان کے مجبور کئے جانے کے بعد بہت بخشنے والا مہربان ہے۔

﴿وَلَيْسَتَعْفِيفُ﴾ اور چاہیے کہ پاکدامنی اختیار کریں۔ ﴿اس آیت میں ان لوگوں کا حکم بیان کیا جا رہا ہے جو نکاح کرنے

کی استطاعت نہیں رکھتے چنانچہ ارشاد فرمایا کہ جو لوگ مہر اور نان نفقہ میسر نہ ہونے کی وجہ سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں چاہیے کہ حرام کاری سے بچے رہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے اور وہ مہر و نان نفقہ ادا کرنے کے قابل ہو جائیں۔^(۱)

نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے متعلق ۲ شرعی مسائل

یہاں نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں کے بارے میں دو شرعی مسائل ملاحظہ ہوں،

- (۱)..... اگر یہ اندیشہ ہے کہ نکاح کرے گا تو نان نفقہ نہ دے سکے گا یا جو ضروری باتیں ہیں ان کو پورا نہ کر سکے گا تو نکاح کرنا مکروہ ہے اور اگر ان باتوں کا یقین ہو تو نکاح کرنا حرام ہے مگر نکاح کر لیا تو نکاح بہر حال ہو جائے گا۔
- (۲)..... جو لوگ کسی وجہ سے نکاح کی استطاعت نہیں رکھتے تو انہیں چاہئے کہ کثرت سے روزے رکھیں جیسا کہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اے جوانو! تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے۔“^(۲)

﴿وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَابَ﴾ اور جو مال کما کر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں۔ ﴿آیت کے اس حصے میں غلاموں اور لونڈیوں کے بارے میں چند احکام بیان ہوئے ہیں۔ ان کا خلاصہ یہ ہے۔

- (۱)..... جو غلام اور لونڈی مخصوص مقدار میں مال کما کر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو انہیں اس کا معاہدہ لکھ دینا مستحب ہے، اس طرح کی آزادی کو شریعت کی اصطلاح میں کتابت اور ایسا معاہدہ کرنے والے غلام کو مکاتب کہتے ہیں جبکہ جو مال دینا طے پائے اسے بدل کتابت کہتے ہیں۔

- (۲)..... غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ ایسا معاہدہ کرنا اس وقت مستحب ہے جب وہ امانت و دیانت اور کمائی پر قدرت رکھتے ہوں تاکہ وہ حلال روزی سے مال حاصل کر کے آزاد ہو سکیں اور اپنے آقا کو مال دے کر آزادی حاصل کرنے

①..... مدارك، النور، تحت الآية: ۳۳، ص ۷۷۹.

②..... مسلم، کتاب النکاح، باب استحباب النکاح لمن طاقت نفسه اليه... الخ، ص ۷۲۵، الحدیث: ۳ (۱۴۰۰).

کے لئے بھیک نہ مانگتے پھریں، اسی لئے حضرت سلمان فارسی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اپنے اس غلام کو مکاتب کرنے سے انکار فرما دیا جو بھیک مانگنے کے علاوہ کمائی کا کوئی ذریعہ نہ رکھتا تھا۔

(3)..... مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ مکاتب غلاموں کو زکوٰۃ وغیرہ دے کر ان کی مدد کریں تاکہ وہ بدل کتابت دے کر اپنی گردن چھڑا سکیں اور آزاد ہو سکیں۔

شان نزول: حویطب بن عبدالعزیٰ کے غلام صبیح نے اپنے مولیٰ سے کتابت کی درخواست کی، مولیٰ نے انکار کیا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی تو حویطب نے اس کو سودینار پر مکاتب کر دیا اور ان میں سے بیس اس کو بخش دیئے باقی اس نے ادا کر دیئے۔⁽¹⁾

نوٹ: غلاموں اور لونڈیوں کو آزاد کرنے کے بارے میں تفصیلی مسائل کی معلومات کے لئے بہار شریعت جلد 2 حصہ 9 سے ”آزاد کرنے کا بیان“ مطالعہ فرمائیں۔ نیز یاد رہے کہ فی زمانہ عالمی سطح پر انسانوں کو غلام یا لونڈی بنانے کا قانون ختم ہو چکا ہے۔

﴿وَلَا تُكْرَهُوا فَتْيَتِكُمْ عَلَى الْبِعَاءِ﴾ اور تم اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو۔ ﴿شان نزول: عبد اللہ بن ابی بن سلول منافق مال حاصل کرنے کے لئے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا، ان کنیزوں نے تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے اس کی شکایت کی، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم مال کے لالچ میں اندھے ہو کر کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو خصوصاً اگر وہ خود بھی پچنا چاہتی ہوں اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بیشک اللہ تعالیٰ ان کے مجبور کئے جانے کے بعد بہت بخشے والا، مہربان ہے اور اس کا وبال گناہ پر مجبور کرنے والے پر ہے۔⁽²⁾

زنا پر مجبور کئے جانے کی تفصیل

علامہ اسماعیل حقی رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فرماتے ہیں: زنا پر مجبور کیا جانا اس وقت ثابت ہوگا جب کوئی جان سے مار دینے یا جسم کا کوئی عضو ضائع کر دینے کی دھمکی دے اور اگر (ایسی دھمکی نہ ہو بلکہ) تھوڑی بہت دھمکی ہو تو زنا پر مجبور کیا جانا ثابت نہ ہوگا۔⁽³⁾ اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ کوئی عورت سچے دل کے ساتھ زنا سے پچنا چاہتی ہے اور کوئی شخص اسے زنا

①.....خازن، النور، تحت الآية: ۳۳، ۳/۳۵۱، ملخصاً.

②.....خازن، النور، تحت الآية: ۳۳، ۳/۳۵۲-۳۵۳، ملخصاً.

③.....روح البيان، النور، تحت الآية: ۳۳، ۶/۱۵۰.

نہ کرنے کی صورت میں جان سے مار دینے یا اس کا کوئی عضو ضائع کر دینے یا شدید مار مارنے کی دھمکی دے رہا ہے اور عورت سمجھتی ہے کہ اگر میں نے اس کی بات نہ مانی تو یہ جو کہہ رہا ہے وہ کر گزرے گا، اس صورت میں وہ زنا کئے جانے پر مجبور شمار ہوگی اور اگر اس کے ساتھ زنا ہوا تو وہ گناہگار نہیں ہوگی اور اگر دھمکی کی نوعیت ایسی نہیں بلکہ قید کر دینے یا معمولی مار مارنے وغیرہ کی دھمکی ہے تو ایسی صورت میں عورت زنا پر مجبور شمار نہ ہوگی اور زنا ہونے کی صورت میں گناہگار بھی ہوگی۔

عورتوں کو زنا پر مجبور کرنے والے غور کریں

یاد رہے کہ اس آیت مبارکہ میں جو کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرنے سے منع فرمایا گیا، اس حکم میں کنیزوں کے ساتھ ساتھ آزاد عورتیں بھی داخل ہیں اور انہیں بھی زنا پر مجبور کرنا منع ہے، نیز زنا پر مجبور کرنا دنیا کا مال طلب کرنے کیلئے ہو یا کسی اور غرض سے بہر صورت حرام اور شیطانی کام ہے اور آیت کے آخر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زنا پر مجبور کرنے والے گناہگار ہیں۔ اسے سامنے رکھتے ہوئے ان لوگوں کو اپنے طرزِ عمل پر غور کرنے کی شدید ضرورت ہے جو محنت مزدوری کر کے خود کما کر لانے سے جی چرانے کی بنا پر گھر کے اخراجات چلانے کیلئے یا اپنی خواہشات اور نشے کی لت پوری کرنے کیلئے کمینے پن کی حد پار کر دیتے اور اپنی بیویوں، بیٹیوں اور بہوؤں وغیرہ کو زنا کروانے پر مجبور کرتے ہیں تاکہ اس ذریعے سے حاصل ہونے والا مال گھر کے اخراجات چلانے، اپنی خواہشات اور نشہ پورا کرنے میں کام آئے، اسی طرح وہ لوگ بھی اپنی حالت پر غور کریں جو عورتوں کو ورغلا کر پہلے ان کی گندی تصاویر اور وڈیوز بنا لیتے ہیں، یا ان کی نجی زندگی کے کچھ ایسے پہلو ٹوٹ کر لیتے ہیں جن کا ظاہر ہو جانا عورت اپنے حق میں شدید نقصان دہ سمجھتی ہے، پھر یہ لوگ ان چیزوں کو منظر عام پر لانے کی دھمکیاں دے کر انہیں زنا کروانے پر مجبور کرتے رہتے ہیں، ایسے لوگ یاد رکھیں کہ جس عورت کے حق میں شریعت کے اصولوں کے مطابق زنا پر مجبور کیا جانا ثابت ہو اسے تو اللہ تعالیٰ مہربانی فرماتے ہوئے بخش دے گا لیکن زنا پر مجبور کرنے والا بہر حال گناہگار ہوگا اور اگر اس نے توبہ نہ کی اور اس چیز سے باز نہ آیا تو وہ اللہ تعالیٰ کے غضب اور جہنم کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو عققل سلیم اور ہدایت عطا فرمائے، آمین۔

وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ وَمَثَلًا مِّنَ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُمْ

وَمَوْعِظَةٌ لِّلْمُتَّقِينَ ﴿۳۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بیشک ہم نے اُتاریں تمہاری طرف روشن آیتیں اور کچھ ان لوگوں کا بیان جو تم سے پہلے ہو گزرے اور ڈروالوں کے لیے نصیحت۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور بیشک ہم نے تمہاری طرف روشن آیتیں اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈروالوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی۔

﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا: اور بیشک ہم نے اُتاریں۔﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے تین اوصاف بیان فرمائے ہیں:

(1)..... قرآن پاک کی آیتیں روشن اور مُفَصَّل ہیں۔

(2)..... اس میں سابقہ لوگوں کی مثالیں ہیں۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جس طرح تورات اور انجیل میں حدود قائم کرنے کے احکام دیئے گئے اسی طرح قرآن مجید میں بھی دیئے گئے ہیں۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ سابقہ اُمتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے کی وجہ سے جن پر عذاب نازل ہوا ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے اور اسے ہم نے تمہارے لئے مثال بنا دیا تاکہ تمہیں معلوم ہو جائے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے میں اُن کی روش اختیار کی تو تم پر بھی ویسا ہی عذاب نازل ہو سکتا ہے۔

(3)..... مُتَّقِينَ کے لئے نصیحت ہے۔ متقین کا بطور خاص اس لئے ذکر فرمایا کہ قرآن کی نصیحت سے یہی فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ (1)

قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب

اس آیت سے معلوم ہوا کہ قرآن مجید نصیحت حاصل کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے اور اس کی برکت سے دلوں کی سختی دُور ہو جاتی، دلوں پر چڑھا ہوا گناہوں کا زنگ ختم ہو جاتا اور خشک آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کے خوف کے سبب آنسو

1..... تفسیر کبیر، النور، تحت الآية: ۳۴، ۳۷۸/۸.

رواں ہو جاتے ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”یہ دل ایسے زنگ آلود ہوتے رہتے ہیں جیسے لوہا پانی لگنے سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ عرض کی گئی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ان دلوں کی صفائی کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: موت کی زیادہ یاد اور قرآن کریم کی تلاوت۔^(۱) لہذا ہر مسلمان کو چاہئے کہ وہ موت کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرے اور سُنے، قرآن کریم کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس کی نصیحتوں کو قبول کرے اور ظاہری و باطنی اعمال اور دیگر چیزوں سے متعلق اس کے دیئے ہوئے احکامات پر عمل کرے۔

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۗ مِثْلُ نُورِهَا كَيْسُوكَ فِيهَا مِصْبَاحٌ ۗ
 الْبُصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ ۗ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ
 شَجَرَةٍ مُّبْرَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ ۗ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ
 وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ۗ نُورٌ عَلَى نُورٍ ۗ يَهْدِي اللهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ۗ
 وَيَضْرِبُ اللهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ ۗ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝۳۵

ترجمہ کنز الایمان: اللہ نور ہے آسمانوں اور زمین کا، اس کے نور کی مثال ایسی جیسے ایک طاق کہ اس میں چراغ ہے وہ چراغ ایک فانوس میں ہے وہ فانوس گویا ایک ستارہ ہے موتی سا چمکتا روشن ہوتا ہے برکت والے پیڑ زیتون سے جو نہ پورب کا نہ پچھم کا قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے نور پر نور ہے اللہ اپنے نور کی راہ بتاتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے لوگوں کے لیے اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

①..... شعب الایمان، التاسع عشر من شعب الایمان... الخ، فصل فی ادمان تلاوته، ۳۵۲/۲، الحدیث: ۲۰۱۴.

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے۔ اس کے نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو جس میں چراغ ہے، وہ چراغ ایک فانوس میں ہے، وہ فانوس گویا ایک موتی کی طرح چمکتا ہوا ستارہ ہے جو زیتون کے برکت والے درخت سے روشن ہوتا ہے جو نہ مشرق والا ہے اور نہ مغرب والا ہے۔ قریب ہے کہ اس کا تیل بھڑک اٹھے اگرچہ اسے آگ نہ چھوئے۔ نور پر نور ہے، اللہ اپنے نور کی راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے اور اللہ لوگوں کیلئے مثالیں بیان فرماتا ہے اور اللہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے۔

﴿اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾: اللہ آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے۔ ﴿نور اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا فرماتے ہیں: ”آیت کے اس حصے کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کا ہادی ہے تو زمین و آسمان والے اس کے نور سے حق کی راہ پاتے ہیں اور اس کی ہدایت سے گمراہی کی حیرت سے نجات حاصل کرتے ہیں۔“ بعض مفسرین نے فرمایا: ”اس کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں اور زمینوں کو منور فرمانے والا ہے اور اُس نے آسمانوں کو فرشتوں سے اور زمین کو انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ سے منور کیا۔“ (1)

﴿مَثَلُ نُورٍ﴾: اس کے نور کی مثال۔ بعض مفسرین کے نزدیک اللہ تعالیٰ کے نور سے مؤمن کے دل کی وہ نورانیت مراد ہے جس سے وہ ہدایت پاتا اور راہ یاب ہوتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نور کی مثال ہے جو اس نے مؤمن کو عطا فرمایا۔ بعض مفسرین نے اس نور سے قرآن مراد لیا اور ایک تفسیر یہ ہے کہ اس نور سے مراد سید کائنات، افضل موجودات، رحمت عالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ہیں۔

نور کی مثال کے مختلف معانی

اہل علم نے اس آیت میں بیان کی گئی مثال کے کئی معنی بیان فرمائے ہیں، ان میں سے دو معنی درج ذیل ہیں،

(1)..... نور سے مراد ہدایت ہے اور معنی یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت انتہائی ظہور میں ہے کہ عالم محسوسات میں اس کی تشبیہ ایسے روشن دان سے ہو سکتی ہے جس میں صاف شفاف فانوس ہو، اس فانوس میں ایسا چراغ ہو جو نہایت ہی بہتر اور پاک صاف زیتون سے روشن ہوتا ہے کہ اس کی روشنی نہایت اعلیٰ اور صاف ہو۔

(2)..... یہ سید المرسلین، محمد مصطفیٰ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے نور کی مثال ہے۔ اس کی تفصیل کچھ اس طرح ہے۔

1..... حازن، النور، تحت الآية: ۳۵، ۳/۳۵۳.

حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے حضرت کعب احبار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے فرمایا کہ اس آیت کے معنی بیان کرو۔ انہوں نے فرمایا: ”اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی مثال بیان فرمائی۔ روشن دان (یعنی طاق) تو حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا سینہ شریف ہے اور فانوس، قلبِ مبارک اور چراغ، نبوت ہے جو کہ شجرِ نبوت سے روشن ہے اور اس نورِ محمدی کی روشنی کمالِ ظہور میں اس مرتبہ پر ہے کہ اگر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اپنے نبی ہونے کا بیان بھی نہ فرمائیں جب بھی خَلْق پر ظاہر ہو جائے۔

اور حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے مروی ہے کہ روشن دان تو دو عالم کے سردار صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا سینہ مبارک ہے اور فانوس قلبِ اطہر اور چراغ وہ نور جو اللہ تعالیٰ نے اس میں رکھا کہ شرقی ہے نہ غربی نہ یہودی، نہ نصرانی، ایک شجرہ مبارک سے روشن ہے، وہ شجرہ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں۔ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے دل کے نور پر نور محمدی، نور پر نور ہے۔

حضرت محمد بن کعب قرظی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا کہ روشن دان اور فانوس تو حضرت اسمعیل عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ ہیں اور چراغ حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور شجرہ مبارک حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کہ اکثر انبیاء عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ آپ کی نسل سے ہیں اور شرقی و غربی نہ ہونے کے یہ معنی ہیں کہ حضرت ابراہیم عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نہ یہودی تھے نہ عیسائی، کیونکہ یہودی مغرب کی طرف نماز پڑھتے ہیں اور عیسائی مشرق کی طرف۔ قریب ہے کہ محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے محاسن و کمالات نزولِ وحی سے پہلے ہی مخلوق پر ظاہر ہو جائیں۔ نور پر نور یہ کہ نبی کی نسل سے نبی ہیں اور نور محمدی نورِ ابراہیمی پر ہے۔^(۱) اس مثال کی تشریح میں ان کے علاوہ اور بھی بہت اقوال ہیں۔

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں عَلَيْهِ رَحْمَةُ الرَّحْمٰن نے اس آیت کا خلاصہ ایک شعر میں سمودیا، چنانچہ فرماتے ہیں،

شمع دل مشکوٰۃ تن سینہ زجابه نور کا تیری صورت کے لئے آیا ہے سورہ نور کا

﴿مِنْ شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ﴾: برکت والے درخت زیتون سے۔ ﴿زیتون کا درخت انتہائی برکت والا ہے کیونکہ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، جیسے اس کا روغن جس کو زیت کہتے ہیں انتہائی صاف اور پاکیزہ روشنی دیتا ہے۔ سر میں بھی لگایا جاتا ہے اور سالن کی جگہ روٹی سے بھی کھایا جاتا ہے۔ دنیا کے اور کسی تیل میں یہ وصف نہیں۔ زیتون کے درخت کے

1.....حازن، النور، تحت الآیة: ۳۵، ۳/۳۵۴.

پتے نہیں گرتے۔ یہ درخت نہ سرد ملک میں واقع ہے نہ گرم ملک میں بلکہ ان کے درمیان ملک شام ہے کہ نہ اُسے گرمی سے نقصان پہنچے نہ سردی سے اور وہ نہایت عمدہ و اعلیٰ ہے اور اس کے پھل انتہائی مُعْتَدِل ہیں۔^(۱)

زیتون سے متعلق حضرت ابواسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: ”زیتون کھاؤ اور اس کا تیل استعمال کرو یہ مبارک درخت ہے۔“^(۲)

فِي بُيُوتِ الَّذِينَ أَنزَلْنَا لَهُمُ الْكِتَابَ أَنْ تُرْفَعُوا فِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْأَصْوَاتِ ۗ

ترجمہ کنزالایمان: ان گھروں میں جنہیں بلند کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے اور ان میں اس کا نام لیا جاتا ہے، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں ان میں صبح اور شام۔

ترجمہ کنزالعرفان: ان گھروں میں ہے جن کی تعظیم کرنے اور ان میں اللہ کا نام ذکر کئے جانے کا اللہ نے حکم دیا ہے، ان میں صبح و شام اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔

﴿فِي بُيُوتِ﴾: گھروں میں۔ اس آیت کا تعلق اس سے پہلے والی آیت کے ساتھ ہے اور معنی یہ ہے کہ نور الہی کی مثال اس طاق کی طرح ہے جو ان گھروں میں ہے جنہیں بنانے، اُن کی تعظیم و تطہیر کرنے اور ان میں اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کئے جانے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ اُن گھروں سے مسجدیں مراد ہیں۔^(۳)

مسجد سے متعلق 4 احادیث

آیت کی مناسبت سے یہاں مسجد بنانے کے حکم، مسجد بنانے کے فضائل اور انہیں پاک صاف رکھنے سے متعلق 4 احادیث ملاحظہ ہوں،

①.....بخاری، النور، تحت الآية: ۳۵، ۳۵۳/۳-۳۵۴، ملخصاً.

②.....ترمذی، کتاب الاطعمة، باب ما جاء في اكل الزيت، ۳۳۷/۳، الحدیث: ۱۸۵۹.

③.....بخاری، النور، تحت الآية: ۳۶، ۳۵۵/۳.

(1)..... حضرت عبد اللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا: مسجدیں زمین میں اللہ تعالیٰ کے گھر ہیں، یہ آسمان والوں کے لئے ایسے روشن ہوتی ہیں جیسے زمین والوں کے لئے آسمان کے ستارے روشن ہوتے ہیں۔ (1)

(2)..... حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا سے روایت ہے، حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے مخلووں میں مسجدیں تعمیر کرنے اور انہیں پاک صاف رکھنے کا حکم دیا ہے۔ (2)

(3)..... حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پر نور صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لئے مسجد بنائے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں گھر بناتا ہے۔“ (3)

(4)..... حضرت واثلہ بن اسقع رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اپنی مسجدوں کو بچوں، پاگلوں، (مسجد میں) خرید و فروخت کرنے، شور کرنے، حد جاری کرنے اور تلواریں تنگی کرنے سے محفوظ رکھو۔“ (4)

﴿يَسْبِحُ لَهُ: اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں۔﴾ تسبیح سے مراد نمازیں ہیں، صبح کی تسبیح سے فجر اور شام سے ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کی نمازیں مراد ہیں۔ (5)

صبح یا شام مسجد میں جانے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جو صبح یا شام مسجد میں گیا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لئے مہمانی کا اہتمام کرے گا جب بھی وہ صبح یا شام کو جائے۔“ (6)

رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ وَ
إِيتَاءِ الزَّكَاةِ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ﴿۳۷﴾

1..... معجم الكبير، ومن مناقب عبد الله بن عباس و اخباره، ۲۶۲/۱، الحديث: ۱۰، ۶۰۸.

2..... ابو داؤد، كتاب الصلاة، باب اتخاذ المساجد في الدور، ۱۹۷/۱، الحديث: ۴۵۵.

3..... ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب من بنى لله مسجداً، ۴۰۷/۱، الحديث: ۷۳۵.

4..... ابن ماجه، كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، ۴۱۵/۱، الحديث: ۷۵۰.

5..... مدارك، النور، تحت الآية: ۳۶، ص ۷۸۲.

6..... بخاری، كتاب الاذان، باب فضل من غدا الى المسجد وراح، ۲۳۷/۱، الحديث: ۶۶۲.

لِيَجْزِيَ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ
يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴿۳۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: وہ مرد جنہیں غافل نہیں کرتا کوئی سود اور نہ خرید و فروخت اللہ کی یاد اور نماز پر پار کھنے اور زکوٰۃ دینے سے ڈرتے ہیں اس دن سے جس میں اُلٹ جائیں گے دل اور آنکھیں۔ تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے ان کے سب سے بہتر کام کا اور اپنے فضل سے انہیں انعام زیادہ دے اور اللہ روزی دیتا ہے جسے چاہے بے گنتی۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی، وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گے۔ تاکہ اللہ انہیں ان کے بہتر کاموں کا بدلہ دے اور اپنے فضل سے انہیں مزید عطا فرمائے اور اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا فرماتا ہے۔

﴿**رِبَّالْ**﴾: مرد۔ ﴿اس آیت میں نور سے ہدایت حاصل کرنے والوں کے چند ظاہری و باطنی اعمال ذکر فرمائے گئے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ نور سے ہدایت حاصل کرنے والے وہ مرد ہیں جنہیں تجارت اور خرید و فروخت اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے قلبی و لسانی ذکر اور نماز کے اوقات پر مسجدوں کی حاضری سے، نماز قائم کرنے اور انہیں وقت پر ادا کرنے سے اور زکوٰۃ کو وقت پر دینے سے غافل نہیں کرتی۔﴾^(۱)

نماز سے متعلق صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ كَا حَال

حضرت عبد اللہ بن عمر رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمَا بازار میں تھے، مسجد میں نماز کے لئے اقامت کہی گئی تو آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے دیکھا کہ بازار والے اُٹھے اور دوکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے۔ یہ دیکھ کر آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا کہ آیت ”**رِبَّالْ لَا تَلْمِيزُهُمْ**“ ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے۔^(۲) **سُبْحَانَ اللَّهِ!** ان مقدس ہستیوں کے

①.....مدارك، النور، تحت الآية: ۳۷، ص ۷۸۳، حازن، النور، تحت الآية: ۳۷، ۳/۳۵۵، ملقطاً.

②.....تفسیر ابن ابی حاتم، النور، تحت الآية: ۳۷، ۸/۲۶۰۷.

نزدیک نماز کی اہمیت عملی طور پر تجارت، کاروبار اور دوکانداری سے بڑھ کر تھی اسی لئے یہ اقامت کی آواز سنتے ہی سب کچھ بند کر کے نماز کے لئے حاضر ہو جاتے تھے اور اب کے مسلمانوں کا حال سب کو معلوم ہے کہ دوکان کے پاس مسجد ہونے کے باوجود جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے لئے حاضر ہونے کی بجائے اپنی دوکانداری میں مصروف رہتے ہیں اور اس اندیشے سے بھی نماز کے لئے حاضر نہیں ہوتے کہ پیچھے سے کوئی گاہک آجائے اور وہ خالی چلا جائے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نماز کی اہمیت سمجھنے اور اسے وقت پر، جماعت کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وقت پر اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل

آیت کی مناسبت سے یہاں وقت پر اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل ملاحظہ ہوں،

- (1)..... حضرت عبداللہ بن مسعود رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں، میں نے رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے سوال کیا: اعمال میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ ارشاد فرمایا: ”وقت کے اندر نماز۔“ (1)
- (2)..... حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جس نے کامل وضو کیا، پھر نماز فرض کے لیے چلا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھی تو اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔“ (2)
- (3)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”منافقین پر سب سے زیادہ گراں نمازِ عشا اور فجر ہے اور وہ جانتے کہ ان میں کیا ہے؟ تو گھسٹتے ہوئے آتے۔ پیشک میں نے ارادہ کیا کہ نماز قائم کرنے کا حکم دوں پھر کسی کو حکم فرماؤں کہ لوگوں کو نماز پڑھائے اور میں اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو جن کے پاس لکڑیوں کے گٹھے ہوں ان کے پاس لے کر جاؤں، جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے اور ان کے گھر ان پر آگ سے جلا دوں۔“ (3)

زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل

قرآن و حدیث میں زکوٰۃ ادا کرنے کے بہت فضائل بیان کئے گئے ہیں، یہاں ایک آیت اور ایک حدیث پاک ملاحظہ ہو، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

- ①..... بخاری، کتاب مواقیب الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها، ۱۹۶/۱، الحدیث: ۵۲۷.
- ②..... صحیح ابن خزیمہ، کتاب الامامة فی الصلاة، باب فضل المشی الی الجماعة متوضیاً... الخ، ۳۷۲/۲، الحدیث: ۱۴۸۹.
- ③..... صحیح مسلم، کتاب المساجد و مواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة... الخ، ص ۳۲۷، الحدیث: ۲۵۲ (۶۵۱).

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآتَوْا
الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ
وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (۱)

ترجمہ کنز العرفان: بیشک وہ لوگ جو ایمان لائے اور
انہوں نے اچھے کام کئے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی ان کا
اجران کے رب کے پاس ہے اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور
نہ وہ غمگین ہوں گے۔

اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا:
”جس نے اپنے مال کی زکوٰۃ ادا کر دی تو بیشک اس کے مال کا شر اس سے چلا گیا۔“ (۲)

عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا باعث ہے

یاد رہے کہ اس آیت میں بطور خاص مردوں کا ذکر اس لئے ہوا کہ عورتوں پر جمعہ یا جماعت کے ساتھ دیگر نمازوں
کی ادائیگی کے لئے مسجد میں حاضر ہونا لازم نہیں۔ (۳) عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا حامل ہے،
چنانچہ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد
فرمایا: ”عورت کا دالان یعنی بڑے کمرے میں نماز پڑھنا، صحن میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے اور کوٹھری میں نماز ادا کرنا
دالان میں نماز ادا کرنے سے بہتر ہے۔“ (۴)

﴿يَخَافُونَ﴾ ڈرتے ہیں۔ آیت کی ابتداء میں جن مردوں کے اعمال ذکر فرمائے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ
وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گی۔ یعنی وہ فرمانبردار بندے جو ذکرو طاعت میں نہایت
مُسْتَعِدِّ رہتے ہیں اور عبادت کی ادائیگی میں سرگرم رہتے ہیں، اس حُسنِ عمل کے باوجود وہ اس دن سے خائف رہتے ہیں
اور سمجھتے ہیں کہ ان سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہ ہو سکا۔ آیت میں قیامت کے دن کا ایک حال بتایا گیا کہ اس دن
دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دلوں کا اُلٹ جانا یہ ہے کہ شدتِ خوف اور اضطراب سے
دل اُلٹ کر گلے تک چڑھ جائیں گے، نہ باہر نکلیں نہ نیچے اتریں اور آنکھیں اوپر چڑھ جائیں گی یا اس کے یہ معنی ہیں

①..... بقرہ: ۲۷۷۔

②..... معجم الاوسط، باب الالف، من اسمہ: احمد، ۴۳۱/۱، الحدیث: ۱۵۷۹۔

③..... سخا، النور، تحت الآیة: ۳۷، ۳۵۵/۳۔

④..... ابو داؤد، کتاب الصلاة، باب التشدید فی ذلك، ۲۳۵/۱، الحدیث: ۵۷۰۔

کہ کفار کے دل کفر و شک سے ایمان و یقین کی طرف پلٹ جائیں گے اور آنکھوں سے پردے اٹھ جائیں گے۔ (1)

﴿لِيَجْزِيََهُمُ اللَّهُ﴾ تاکہ اللہ انہیں بدلہ دے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے مقبول بندے ان نیک کاموں میں اس لئے مشغول ہوتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کے بہتر اعمال کا ثواب عطا کرے اور صرف یہی نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے انہیں مزید بھی عطا کرے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ (2)

وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّانُّ مَاءً ط
حَتَّىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا وَجَدَ اللَّهُ عِنْدَهُ فَوْقَهُ حِسَابَهُ ط
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝۳۹

ترجمہ کنز الایمان: اور جو کافر ہوئے ان کے کام ایسے ہیں جیسے دھوپ میں چمکتا ریتا کسی جنگل میں کہ پیاسا سے پانی سمجھے یہاں تک جب اُس کے پاس آیا تو اُسے کچھ نہ پایا اور اللہ کو اپنے قریب پایا تو اُس نے اس کا حساب پورا بھر دیا اور اللہ جلد حساب کر لیتا ہے۔

ترجمہ کنز العرفان: اور کافروں کے اعمال ایسے ہیں جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو، پیاسا آدمی اسے پانی سمجھتا ہے یہاں تک جب وہ اس کے پاس آتا ہے تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا اور وہ اللہ کو اپنے قریب پائے گا تو اللہ اسے اس کا پورا حساب دے گا اور اللہ جلد حساب کر لینے والا ہے۔

﴿وَالَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور جو کافر ہوئے۔ اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے حالات بیان فرمائے اور اس آیت سے کافروں کے بارے میں بیان فرمایا کہ وہ آخرت میں شدید خسارے کا شکار ہوں گے اور دنیا میں بھی انہیں طرح طرح کی ظلمتوں کا سامنا ہوگا۔ اسی سلسلے میں یہاں دو مثالیں بیان کی گئیں، اس آیت میں ذکر کی گئی مثال کا خلاصہ

1.....خازن، النور، تحت الآية: ۳۷، ۳۵۵/۳-۳۵۶.

2.....خازن، النور، تحت الآية: ۳۸، ۳۵۶/۳.

یہ ہے کہ کفار کے ظاہری اچھے اعمال کی مثال ایسی ہے جیسے کسی بیابان میں دھوپ میں پانی کی طرح چمکنے والی ریت ہو، پیاسا آدمی اسے پانی سمجھ کر اس کی تلاش میں چلا اور جب وہاں پہنچا تو پانی کا نام و نشان نہ تھا تو وہ سخت مایوس ہو گیا ایسے ہی کافر اپنے خیال میں نیکیاں کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے اس کا ثواب پائے گا، لیکن جب میدانِ قیامت میں پہنچے گا تو ثواب نہ پائے گا بلکہ عذابِ عظیم میں گرفتار ہوگا اور اس وقت اس کی حسرت اور اس کا غم اس پیاس سے بدرجہا زیادہ ہوگا۔ (۱)

کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے لئے نصیحت

اس آیت میں ان مسلمانوں کے لئے بھی بڑی عبرت و نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے حکم کی نافرمانی اور مخالفت کرنے میں صرف کرتے ہیں، پھر عادت و رسم، ریا کاری و دکھلاوے کے طور پر، اور غفلت کے ساتھ نیک اعمال کرتے ہیں اور جہالت کی وجہ سے یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ نیک کام کر رہے ہیں حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ شیطان نے ان کے لئے ان کے اعمال کو مُزین کر دیا اور ان کے اعمال کی مثال صحراء میں چمکنے والی ریت کی طرح ہے، اسی طرح وہ اپنے اعمال کے بارے میں یہ گمان کر رہے ہوتے ہیں کہ ان نیک اعمال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان پر کوئی غضب و جلال نہ فرمائے گا اور ان کے لئے جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا جائے گا، لیکن جب انہیں موت آئے گی تو معاملہ ان کے گمان سے انتہائی برعکس ہوگا، قیامت کے دن میزانِ عمل میں ان کے اعمال کا کوئی وزن نہ ہوگا، اللہ تعالیٰ ان کے بُرے اعمال کی وجہ سے ان پر غضب فرمائے گا اور جس سزا کے یہ حق دار ہیں وہ سزا انہیں دے گا۔ لہذا ہر عقلمند انسان کو چاہئے کہ اس مثال کو سمجھے اور اس سے نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنے اعمال کی اصلاح کی طرف بھرپور توجہ دے۔

أَوْ كُظِّبْتَ فِي بَحْرِ لَبِّي بِعُشْبِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ مَوْجٌ مِّنْ فَوْقِهِ
سَحَابٌ ۖ ظَلِمْتُ بَعْضَهُمَا فَوْقَ بَعْضٍ ۖ إِذَا أَخْرَجَ يَدَهُ لَمْ يَكِدْ
يَرُهَا ۖ وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِنْ نُورٍ ۝٤

①..... تفسیر کبیر، النور، تحت الآیة: ۳۹، ۳۹/۸، ۳۹/۹، حازن، النور، تحت الآیة: ۳۹، ۳۹/۳، ملنقطاً.

ترجمہ کنزالایمان: یا جیسے اندھیریاں کسی کُنڈے کے دریا میں اس کے اوپر موج موج کے اوپر اور موج اس کے اوپر بادل، اندھیرے ہیں ایک پر ایک جب اپنا ہاتھ نکالے تو سو جھائی دیتا معلوم نہ ہو اور جسے اللہ نور نہ دے اُس کے لیے کہیں نور نہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: یا جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک اور موج ہو، (پھر) اس (دوسری) موج پر بادل ہوں۔ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ایک کے اوپر دوسرا اندھیرا ہے کہ جب کوئی اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو اور جس کیلئے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔

﴿ **أَوْ كُظِّلَتْ** : یا جیسے تاریکیاں ہوں۔ ﴾ اس آیت میں کفار کے بُرے اعمال کی مثال بیان گئی، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافروں کے بُرے اعمال ایسے ہوں گے جیسے کسی گہرے سمندر میں تاریکیاں ہوں جس کو اوپر سے ایک موج نے ڈھانپ لیا ہو، اس موج پر ایک دوسری موج ہو، پھر اس دوسری موج پر بادل ہوں، اندھیرے ہی اندھیرے ہیں کہ ایک اندھیرا دریا کی گہرائی کا، اس پر ایک اور اندھیرا تہ بہ تہ موجوں کا، اس پر اور اندھیرا بادلوں کی گھری ہوئی گھٹا کا، ان اندھیروں میں شدت کا یہ عالم کہ جو اس میں ہو، وہ اپنا ہاتھ نکالے تو اسے اپنا ہاتھ بھی دکھائی دیتا معلوم نہ ہو حالانکہ اپنا ہاتھ انتہائی قریب اور اپنے جسم کا جزو ہے جب وہ بھی نظر نہ آئے تو اور دوسری چیز کیا نظر آئے گی۔ ایسا ہی کفار کا حال ہے کہ وہ تین اندھیروں یعنی باطل، اعتقاد، ناحق قول اور قبیح عمل کی تاریکیوں میں گرفتار ہے۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ دریا کے کُنڈے اور اس کی گہرائی سے کافر کے دل کو اور موجوں سے جہل، شک اور حیرت کو جو کافر کے دل پر چھائے ہوئے ہیں اور بادلوں سے مہر کو جو اُن کے دلوں پر ہے تشبیہ دی گئی۔^(۱)

﴿ **وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَبِأَلْسِنَةٍ أُولَىٰ** : اور جس کیلئے اللہ نور نہ بنائے اس کے لیے کوئی نور نہیں۔ ﴾ یعنی جسے اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے نور سے ہدایت دینا اور قرآن کریم پر ایمان لانے کی توفیق دینا نہ چاہے تو اسے اصلاً کوئی ہدایت

①.....حازن، النور، تحت الآية: ۴۰، ۳/۳۵۶-۳۵۷

نہیں دے سکتا۔ (۱)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْبِغُ لَهٗ مَنْ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَالطَّيْرِ
صَفَتْ كُلُّ شَيْءٍ مِّنْهُ قَدْ عَلِمَ صَلَاتَهُ وَتَسْبِيحَهُ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَفْعَلُونَ ﴿۳۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے پر پھیلائے سب نے جان رکھی ہے اپنی نماز اور اپنی تسبیح، اور اللہ ان کے کاموں کو جانتا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کوئی آسمانوں اور زمین میں ہیں وہ سب اور پرندے (اپنے) پر پھیلائے ہوئے اللہ کی تسبیح کرتے ہیں سب کو اپنی نماز اور اپنی تسبیح معلوم ہے اور اللہ ان کے کاموں کو خوب جاننے والا ہے۔

﴿أَلَمْ تَرَ﴾: کیا تم نے نہ دیکھا۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت اور قدرت پر دلائل بیان فرمائے اور ان کے بعد منافقین کا حال بیان فرمایا ہے۔ اس آیت میں حضور سید المرسلین صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو یہ خبر دینے کے لئے خطاب فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نور کے اعلیٰ مراتب پر فائز فرمایا ہے اور ان کے سامنے ملکوت و ملک کے انتہائی باریک اور مخفی ترین اسرار بیان فرمائے ہیں، چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ کو مضبوط اور قوی مشاہدے، صریح وحی اور صحیح استدلال کے ذریعے اس چیز کا یقینی علم حاصل ہے کہ آسمانوں اور زمین میں موجود تمام مخلوق اور ان کے درمیان پرندے اپنے پر پھیلائے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور افعال میں ہر اس نقص و عیب سے پاک بیان کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی شانِ جلیل کے لائق نہیں۔ ان میں سے ہر ایک اپنی نماز اور اپنی تسبیح جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے نماز و تسبیح کا جسے جو طریقہ سکھایا اسی کے مطابق وہ عمل کرتا ہے۔ (اگرچہ ہمیں وہ طریقہ دکھائی نہ دے یا سمجھ نہ آئے۔) (۲)

①..... روح البیان، النور، تحت الآية: ۴۰، ۶/۱۶۳.

②..... ابو سعود، النور، تحت الآية: ۴۱، ۴/۹۸، تفسیر سمرقندی، النور، تحت الآية: ۴۱، ۲/۴۴۳، ملنقطاً.

وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ ﴿۲۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ ہی کے لیے ہے سلطنت آسمانوں اور زمین کی اور اللہ ہی کی طرف پھر جانا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے اور اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے۔

﴿وَاللَّهُ مَلِكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ اور آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے۔ ارشاد فرمایا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہت کسی اور کے لئے نہیں بلکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے کیونکہ وہی ان کا خالق ہے اور وہی ان میں ہر طرح کا تصرف فرمانے کی قدرت رکھتا ہے اور مخلوق کو فنا ہونے کے بعد جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو سب نے صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہی لوٹنا ہے لہذا ہر عقلمند انسان کو چاہئے کہ صرف ایسے قوت والے مالک کی ہی عبادت کرے اور زبان و دل سے اسی کی پاکی بیان کرے۔^(۱)

أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي سَحَابًا ثُمَّ يُؤَلِّفُ بَيْنَهُ ثُمَّ يَجْعَلُهُ رُكَّامًا
فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خَلَلِهِ وَيُنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ
فِيهَا مِنْ بَرَدٍ فَيُصِيبُ بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَصْرِفُهُ عَنْ مَنْ يَشَاءُ ط يَكَادُ
سَنَا بَرْقُهُ يَذْهَبُ بِالْأَبْصَارِ ط ﴿۲۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ نرم نرم چلاتا ہے بادل کو پھر انہیں آپس میں ملاتا ہے پھر انہیں تہ پر تہ کر دیتا ہے تو تو دیکھے کہ اس کے بیچ میں سے مینہ نکلتا ہے اور اتارتا ہے آسمان سے اس میں جو برف کے پہاڑ ہیں ان میں سے کچھ اولے پھر ڈالتا ہے انہیں جس پر چاہے اور پھیر دیتا ہے انہیں جس سے چاہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک

۱..... روح البیان، النور، تحت الآیة: ۴۲، ۶/۱۶۴.

آنکھ لے جائے۔

ترجیہ کنز العرفان: کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے پھر انہیں تہہ در تہہ کر دیتا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اُلے اُتارتا ہے پھر جس پر چاہتا ہے اس پر انہیں ڈال دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے انہیں پھیر دیتا ہے قریب ہے کہ اس کی بجلی کی چمک آنکھیں لے جائے۔

﴿**الْمُتَرِّ:** کیا تم نے نہ دیکھا۔﴾ اس آیت میں حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہر عقلمند سے بھی خطاب ہے کیونکہ جو ان چیزوں میں غور و فکر کرے گا تو وہ جان لے گا اور جاننے والے کا علم و یقین مزید بڑھ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ قدرت والا، حکمت والا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے ”کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ جس سرزمین اور جن شہروں کی طرف چاہے نرمی کے ساتھ بادل کو چلاتا ہے، پھر انہیں آپس میں ملا دیتا ہے اور ان کے جدا جدا ٹکڑوں کو یک جا کر دیتا ہے، پھر انہیں تہہ در تہہ کر دیتا ہے، تو تم دیکھتے ہو کہ اس کے درمیان میں سے بارش نکلتی ہے اور اللہ تعالیٰ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اُلے اُتارتا ہے، پھر جس پر چاہتا ہے اس پر ڈال دیتا ہے اور جس کے جان و مال کو چاہتا ہے ان سے ہلاک و تباہ کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے اس سے اولوں کو پھیر دیتا ہے اور اُس کے جان و مال کو محفوظ رکھتا ہے، قریب ہے کہ اس بادل کی بجلی کی چمک آنکھوں کے نور کو لے جائے اور روشنی کی تیزی سے آنکھوں کو بے کار کر دے۔ آگ ٹھنڈک اور پانی کی ضد ہے اور آگ کا ٹھنڈک سے ظاہر ہونا ایک شے کا اپنی ضد سے ظاہر ہونا ہے اور یہ کسی قادر و حکیم کی قدرت کے بغیر ممکن نہیں۔“^(۱)

﴿**وَيُنزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ جِبَالٍ فِيهَا مِنْ بَرَدٍ:** اور وہ آسمان میں موجود برف کے پہاڑوں سے اُلے اُتارتا ہے۔﴾ امام فخر الدین رازی دَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْہِ فَرَمَاتے ہیں ”اس آیت کے بارے میں مفسرین کے دو قول ہیں، (1) آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اسی طرح پیدا فرمایا ہے، پھر وہ ان پہاڑوں میں سے جتنے اُلے چاہتا ہے

①.....صاوی، النور، تحت الآیة: ۴۳، ۴/ ۱۴۱-۱۴۱، مدارك، النور، تحت الآیة: ۴۳، ص ۷۸۴-۷۸۵، حازن، النور، تحت الآیة: ۴۳، ۳/ ۳۵۷، تفسیر کبیر، النور، تحت الآیة: ۴۳، ۴/ ۸-۴۰، ملتقطاً.

نازل فرماتا ہے۔ یہ اکثر مفسرین کا قول ہے۔ (2) آسمان سے مراد حقیقی آسمان نہیں بلکہ وہ بادل ہے جو لوگوں کے سروں پر بلند ہے، اسے بلندی کی وجہ سے آسمان فرمایا گیا کیونکہ ”سما“ اس چیز کو کہتے ہیں جو تجھ سے بلند ہے اور تیرے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بادل سے ازلے نازل فرماتا ہے، جبکہ پہاڑوں سے بڑے بڑے بادل مراد ہیں کیونکہ وہ بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے مشابہ ہیں، جیسے مال کی وسعت کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ فلاں آدمی مال کے پہاڑوں کا مالک ہے (اسی طرح یہاں بادلوں کو بڑا ہونے کی وجہ سے پہاڑوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے) اور یہ مفسرین کہتے ہیں کہ ازلے جما ہوا پانی ہیں جسے اللہ تعالیٰ نے بادلوں میں پیدا فرمایا ہے، پھر وہ انہیں زمین کی طرف نازل فرماتا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ پہلا قول زیادہ مناسب ہے کیونکہ آسمان ایک مخصوص جسم کا نام ہے اور اسے بادل کا نام قرار دینا مجازی طور پر ہے اور جس طرح یہ درست ہے کہ اللہ تعالیٰ بادلوں میں پانی رکھے، پھر اسے اولوں کی صورت میں نازل فرمائے تو بلاشبہ یہ بھی صحیح ہے کہ آسمان میں اولوں کے پہاڑ ہوں اور جب دونوں کاموں کا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہونا صحیح ہے تو اس آیت کے ظاہری معنی کو ترک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ (1)

یاد رہے کہ امام عبد اللہ بن عمر بیضاوی دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے ”تفسیر بیضاوی“ میں، علامہ شہاب الدین احمد بن عمر خفاجی دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے بیضاوی کی شرح ”عناية القاضی“ میں اور محمد بن مصلح الدین دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے تفسیر بیضاوی پر اپنے حاشیے ”محی الدین شیخ زاده“ میں، امام ابوسعود محمد بن محمد دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے ”تفسیر ابوسعود“ میں اور علامہ اسماعیل حقی دَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِ نے ”تفسیر روح البیان“ میں دوسرے قول کو اختیار فرمایا ہے کہ یہاں آسمان سے مراد بادل ہیں۔

يُقَلِّبُ اللَّهُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِّأُولِي الْأَبْصَارِ ﴿۴۳﴾

ترجمہ کنزالایمان: اللہ بدلی کرتا ہے رات اور دن کی بیشک اس میں سمجھنے کا مقام ہے نگاہ والوں کو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے، بیشک اس میں آنکھ والوں کیلئے سمجھنے کا مقام ہے۔

1.....تفسیر کبیر، النور، تحت الآیة: ۴۳، ۴۰/۸.

﴿يُقَلِّبُ اللَّهُ: اللہ تبدیل فرماتا ہے۔﴾ یعنی اللہ تعالیٰ رات اور دن کو تبدیل فرماتا ہے اس طرح کہ رات کے بعد دن لاتا اور دن کے بعد رات لاتا ہے۔ بیشک بادلوں کو چلانے، ان سے بارش نکلنے، آسمانوں سے اولے برسمانے، بادلوں سے بجلی ظاہر کرنے اور دن رات کو تبدیل کرنے میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے اللہ تعالیٰ کے وجود، اس کی قدرت اور وحدانیت پر واضح دلائل موجود ہیں۔^(۱)

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ ۚ فَمِنْهُمْ مَّن يَّسِي عَلَىٰ بَطْنِهِ ۚ وَ
مِنْهُمْ مَّن يَّسِي عَلَىٰ رِجْلَيْنِ ۚ وَمِنْهُمْ مَّن يَّسِي عَلَىٰ أَرْبَعٍ ۚ
يَخْلُقُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴿۲۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اللہ نے زمین پر چلنے والا پانی سے بنایا تو ان میں کوئی اپنے پیٹ پر چلتا ہے اور ان میں کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے اللہ بناتا ہے جو چاہے بیشک اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا تو ان میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے اور ان میں کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے اور ان میں کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے۔ اللہ جو چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ بیشک اللہ ہر شے پر قادر ہے۔

﴿وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ﴾: اور اللہ نے زمین پر چلنے والا ہر جاندار پانی سے بنایا۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں آسمانوں اور زمین کے احوال سے اور آسمانی آثار سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر دلائل ذکر کئے گئے اور اس آیت سے جانداروں کے احوال سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و وحدانیت پر استدلال کیا جا رہا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانداروں کی تمام اجناس کو پانی کی جنس سے پیدا کیا اور پانی ان سب کی اصل ہے اور اپنی اصل میں متحد ہونے کے باوجود ان سب کا حال ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہے، یہ کائنات کو تخلیق فرمانے والے کے علم و حکمت اور اس کی

1..... مدارك، النور، تحت الآية: ۴۴، ص ۷۸۵، ملخصاً.

قدرت کے کمال کی روشن دلیل ہے کہ اس نے پانی جیسی چیز سے ایسی عجیب مخلوق پیدا فرمادی۔ مزید فرمایا کہ ان جانداروں میں کوئی اپنے پیٹ کے بل چلتا ہے جیسا کہ سانپ، مچھلی اور بہت سے کیڑے اور ان میں کوئی دو پاؤں پر چلتا ہے جیسا کہ آدمی اور پرندے اور ان میں کوئی چار پاؤں پر چلتا ہے جیسا کہ چوپائے اور درندے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے اور جیسے چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے۔ بیشک اللہ عَزَّوَجَلَّ ہر شے پر قادر ہے تو کچھ بھی اس کے لئے مشکل نہیں۔^(۱)

نوٹ: اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب مخلوقات کے بارے میں تفصیلی معلومات کے لئے کتاب ”حیاء الحیوان“ کا مطالعہ فرمائیں۔

لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ ۖ وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿۳۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: بیشک ہم نے اُتاریں صاف بیان کرنے والی آیتیں اور اللہ ہدایت دیتا ہے جسے چاہے سیدھی راہ دکھائے۔

ترجمہ کنزالعرفان: بیشک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائیں اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے۔

﴿لَقَدْ أَنْزَلْنَا آيَاتٍ مُّبِينَاتٍ﴾: بیشک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں نازل فرمائیں۔ ﴿﴾ ارشاد فرمایا کہ بیشک ہم نے صاف بیان کرنے والی آیتیں یعنی قرآن کریم نازل فرمایا جس میں ہدایت و احکام اور حلال و حرام کا واضح بیان ہے اور اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے اور سیدھی راہ جس پر چلنے سے اللہ تعالیٰ کی رضا اور آخرت کی نعمت میسر ہو، وہ دین اسلام ہے۔^(۲)

①.....تفسیر کبیر، النور، تحت الآیة: ۴۵، ۸/۶، ۴۰۷-۴۰۸، مدارک، النور، تحت الآیة: ۴۵، ص ۷۸۵، حازن، النور، تحت الآیة: ۴۵، ۳/۳۵۸، ملتقطاً.

②.....حازن، النور، تحت الآیة: ۴۶، ۳/۳۵۸.

قرآن پاک نازل کرنے کا ذکر فرمانے کے بعد بتایا جا رہا ہے کہ انسان تین فرقوں میں تقسیم ہو گئے۔ ایک وہ جنہوں نے ظاہری طور پر حق کی تصدیق کی اور باطنی طور پر اس کی تکذیب کرتے رہے، وہ منافق ہیں۔ دوسرا وہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی تصدیق کی اور باطنی طور پر بھی مُعْتَقِد رہے، یہ مخلص لوگ ہیں۔ تیسرا وہ جنہوں نے ظاہری طور پر بھی تکذیب کی اور باطنی طور پر بھی، وہ کفار ہیں۔ اگلی آیات میں ترتیب سے ان کا ذکر فرمایا جا رہا ہے۔^(۱)

وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ
مِّنْهُمْ مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ ﴿۴۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور رسول پر اور حکم مانا پھر کچھ ان میں کے اس کے بعد پھر جاتے ہیں اور وہ مسلمان نہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور (منافقین) کہتے ہیں: ہم اللہ اور رسول پر ایمان لائے اور ہم نے اطاعت کی پھر ان میں سے ایک گروہ اس کے بعد پھر جاتا ہے اور (حقیقت میں) وہ مسلمان نہیں ہیں۔

﴿وَيَقُولُونَ﴾ اور کہتے ہیں۔ ﴿اس آیت میں انسانوں کے پہلے گروہ کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے اور ہم نے ان کی اطاعت کی، پھر ان میں سے ایک گروہ اس اقرار کے بعد پھر جاتا ہے اور اپنے قول کی پابندی نہیں کرتا اور حقیقت میں وہ مسلمان نہیں منافق ہیں کیونکہ ان کے دل ان کی زبانوں کے موافق نہیں۔^(۲)

وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ

①.....مدارك، النور، تحت الآية: ۴۷، ص ۷۸۶.

②.....جلالین، النور، تحت الآية: ۴۷، ص ۳۰۰، ملخصاً.

مُعْرِضُونَ ﴿۲۸﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور جب بلائے جائیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے تو جی بھی ان کا ایک فریق منہ پھیر جاتا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرما دے تو اسی وقت ان میں سے ایک فریق منہ پھیرنے لگتا ہے۔

﴿وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ﴾ اور جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے۔ ﴿اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ بشر نامی منافق کا زمین کے معاملے میں ایک یہودی سے جھگڑا تھا، یہودی جانتا تھا کہ اس معاملہ میں وہ سچا ہے اور اس کو یقین تھا کہ رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ حق و عدل کا فیصلہ فرماتے ہیں، اس لئے اُس نے خواہش کی کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول کریم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے کرایا جائے۔ لیکن منافق بھی جانتا تھا کہ وہ باطل پر ہے اور سرکارِ دو عالم صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ عدل و انصاف میں کسی کی رُو رعایت نہیں فرماتے، اس لئے وہ حضورِ انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے فیصلہ پر تو راضی نہ ہوا اور کعب بن اشرف یہودی سے فیصلہ کرانے کا اصرار کیا اور تاجدارِ رسالت صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں کہنے لگا کہ وہ ہم پر ظلم کریں گے، اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔^(۱)

آیت ”وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ سے معلوم ہونے والے امور

اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں:

(۱)..... حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہِ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ہے اور ان کے ہاں حاضری اللہ تعالیٰ کے حضورِ حاضری ہے کیونکہ ان لوگوں کو حضورِ پر نور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی طرف بلایا گیا تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ و رسول کی طرف بلایا گیا۔

(۲)..... حضورِ انور صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا حکم اللہ تعالیٰ کا حکم ہے جس کے خلاف اپیل ناممکن ہے اور حضورِ اکرم

۱..... مدارك، النور، تحت الآية: ۴۸، ص ۷۸.

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے حکم سے منہ موڑنا رب تعالیٰ کے حکم سے منہ موڑنا ہے۔

وَإِنْ يَكُنْ لَهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ ﴿۳۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور اگر ان کی ڈگری ہو تو اس کی طرف آئیں مانتے ہوئے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور اگر فیصلہ ان کیلئے ہو جائے تو اس کی طرف خوشی خوشی جلدی سے آتے ہیں۔

﴿وَإِنْ﴾ اور اگر۔ اس آیت میں کفار و منافقین کا حال بیان کیا گیا کہ وہ بارہا تجربہ کر چکے تھے اور انہیں کامل یقین تھا کہ سید المرسلین صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فیصلہ سراسر حق اور عدل و انصاف پر مبنی ہوتا ہے اس لئے ان میں جو سچا ہوتا وہ تو خواہش کرتا تھا کہ حضور پر نور صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اس کا فیصلہ فرمائیں اور جو حق پر نہ ہوتا وہ جانتا تھا کہ رسول اکرم صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی سچی عدالت سے وہ اپنی ناجائز مراد نہیں پاسکتا اس لئے وہ حضور اقدس صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے فیصلہ سے ڈرتا اور گھبراتا تھا۔^(۱)

أَفِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ أَمْ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَنْ يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولَهُ ۗ بَلْ أُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ﴿۴۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے یا شک رکھتے ہیں یا یہ ڈرتے ہیں کہ اللہ و رسول ان پر ظلم کریں گے بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ یا انہیں شک ہے؟ یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ اور اس کا رسول ان پر ظلم کریں گے؟ بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں۔

①.....مدارك، النور، تحت الآية: ۴۹، ص ۷۸۶.

﴿أَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ﴾: کیا ان کے دلوں میں بیماری ہے؟ ﴿اس آیت میں منافقین کے اعراض کی قباحت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ کیا ان کے دلوں میں کفر و منافقت کی بیماری ہے؟ یا انہیں ہمارے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نبوت میں شک ہے؟ یا کیا وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ان پر ظلم کریں گے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ خوب جانتے ہیں کہ رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا فیصلہ حق و قانون کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا اور کوئی بددیانت آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عدالت سے غلط فیصلہ کروانے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، اسی وجہ سے وہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے فیصلہ سے اعراض کرتے ہیں اور وہ حق سے اعراض کرنے کی بنا پر خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں۔^(۱)

إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَنْ يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا ۗ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿۵۱﴾

ترجمہ کنزالایمان: مسلمانوں کی بات تو یہی ہے جب اللہ اور رسول کی طرف بلائے جائیں کہ رسول ان میں فیصلہ فرمائے تو عرض کریں ہم نے سنا اور حکم مانا اور یہی لوگ مراد کو پہنچے۔

ترجمہ کنزالعرفان: مسلمانوں کی بات تو یہی ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا یا جاتا ہے تاکہ رسول ان کے درمیان فیصلہ فرمادے تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی اور یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

﴿إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ﴾: مسلمانوں کی بات تو یہی ہے۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو شریعت کا ادب سکھاتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ مسلمانوں کو ایسا ہونا چاہئے کہ جب انہیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولِ کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی طرف بلا یا جائے تاکہ رسولِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ان کے درمیان اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے احکامات کے مطابق فیصلہ فرمادیں تو وہ عرض کریں کہ ہم نے سنا اور اسے قبول کر کے اطاعت کی اور جو ان صفات

1.....خازن، النور، تحت الآية: ۵۰، ۳/۳۵۹، مدارك، النور، تحت الآية: ۵۰، ص ۷۸۶، ملقطاً.

کے حامل ہیں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔^(۱)

دین و دنیا میں کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ

اس سے معلوم ہوا کہ سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے حکم کے سامنے اپنی عقل کے گھوڑے نہ دوڑائے جائیں اور نہ ہی آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے حکم کو قبول کرنے یا نہ کرنے کے معاملے میں صرف اپنی عقل کو معیار بنایا جائے بلکہ جس طرح ایک مریض اپنے آپ کو ڈاکٹر کے سپرد کر دیتا ہے اور اس کی دی ہوئی دوائی کو چون و چرا کئے بغیر استعمال کرتا ہے اسی طرح خود کو حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے حوالے کر دینا اور آپ کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہئے کیونکہ ہماری عقلیں ناقص ہیں اور تا جہدِ ارسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی عقل مبارک وحی کے نور سے روشن اور کائنات کی کامل ترین عقل ہے۔ اگر اس پر عمل ہو گیا تو پھر دین و دنیا میں کامیابی نصیب ہوگی۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ ﴿۵۲﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور جو حکم مانے اللہ اور اس کے رسول کا اور اللہ سے ڈرے اور پرہیزگاری کرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے اور اللہ سے ڈرے اور اس (کی نافرمانی) سے ڈرے تو یہی لوگ کامیاب ہیں۔

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ﴾ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ ﴿اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جو فرانس میں اللہ تعالیٰ کی اور سنتوں میں اس کے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت کرے اور ماضی میں اللہ تعالیٰ کی ہونے والی نافرمانیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور آئندہ کے لئے پرہیزگاری اختیار کرے تو ایسے لوگ

1.....حازن، النور، تحت الآية: ۵۱، ۳۵۹/۳، مدارك، النور، تحت الآية: ۵۱، ص ۷۸۷، ملقطاً.

ہی کامیاب ہیں۔ (۱)

اُخروی کامیابی کے اسباب کی جامع آیت

یہ آیت مبارکہ جَوَامِعُ الْكَلِمِ میں سے ہے۔ اس کے الفاظ اگرچہ کم ہیں لیکن اُخروی کامیابی کے تمام اسباب اس میں جمع کر دیئے گئے ہیں۔

ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب

ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ مسجدِ نبوی شریف میں کھڑے تھے، اسی دوران روم کے دہقانوں میں سے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا: ”میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔“ حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس سے فرمایا: ”کیا تمہارے اسلام قبول کرنے کا کوئی خاص سبب ہے؟“ اس نے عرض کی: جی ہاں۔ میں نے تورات، انجیل، زبور اور دیگر انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کے صحائف کا مطالعہ کیا ہوا ہے۔ میں نے ایک قیدی کو قرآن پاک کی ایک آیت پڑھتے ہوئے سنا جو سابقہ تمام کتابوں میں دیئے گئے احکامات کی جامع ہے، اس سے میں نے جان لیا کہ قرآن پاک واقعی اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے اس سے دریافت فرمایا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ تو اس نے یہ آیت تلاوت کی ” **وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقْهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ**“ حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا: ”حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا ہے کہ مجھے جَوَامِعُ الْكَلِمِ عطا کئے گئے ہیں۔“ (۲)

وَأَقْسُوا بِاللهِ جَهْدَ أَيَّانِهِمْ لِيُنْزِلَ عَلَيْهِمُ لِيُخْرِجَنَّ قُلُوبَهُمْ
لَا تُقْسُوا طَاعَةً مَعْرُوفَةً ۖ إِنَّ اللهَ خَيْرٌ رِبًّا تَعْمَلُونَ ﴿٥٣﴾

①.....مدارك، النور، تحت الآية: ۵۲، ص ۷۸۷.

②.....تفسير قرطبي، النور، تحت الآية: ۵۲، ۲۲۷/۶، الجزء الثاني عشر.

ترجمہ کنزالایمان: اور انہوں نے اللہ کی قسم کھائی اپنے حلف میں حد کی کوشش سے کہ اگر تم انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور جہاد کو نکلیں گے تم فرما دو قسمیں نہ کھاؤ مَوَافِقِ شَرَعِ حُكْمِ بَرَدَارِي چاہیے، اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور انہوں نے پوری کوشش سے اللہ کی قسمیں کھائیں کہ اگر آپ انہیں حکم دو گے تو وہ ضرور نکلیں گے۔ تم فرماؤ: قسمیں نہ کھاؤ، شریعت کے مطابق اطاعت ہونی چاہیے، بیشک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے۔

﴿وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ آيَاتِهِمْ﴾ اور انہوں نے پوری کوشش کر کے اللہ کی قسمیں کھائیں۔ ﴿اس آیت سے دوبارہ منافقین کا تذکرہ شروع کیا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ منافقین رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے احکام کو پسند نہیں کرتے تو منافقین حضور پر نور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کہنے لگے: اللہ عَزَّ وَجَلَّ کی قسم! اگر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیں حکم دیں کہ ہم اپنے گھروں سے، اپنے مالوں اور اپنی عورتوں کے پاس سے نکل جائیں تو ہم ضرور نکل جائیں گے اور اگر آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ہمیں جہاد کرنے کا حکم دیں تو ہم جہاد کریں گے، جب ہمارا یہ حال ہے تو ہم آپ صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے حکم سے کیسے راضی نہ ہوں گے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم سے فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، آپ ان سے فرمائیں کہ تم قسمیں نہ کھاؤ، تمہیں اس کی بجائے شریعت کے مطابق اطاعت کرنی چاہیے، بیشک اللہ تعالیٰ تمہارے تمام پوشیدہ اعمال سے خبردار ہے، وہ تمہیں ضرور رسوا کرے گا اور تمہاری منافقت کی سزا دے گا۔^(۱)

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اپنے قول کو اپنے عمل سے سچا کر کے دکھانا چاہیے، صرف قسموں سے سچا کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ بارگاہِ خداوندی میں عمل دیکھے جاتے ہیں نہ کہ محض زبانی دعوے۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنبَاءَ عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ ﴿۵۴﴾

1..... تفسیر کبیر، النور، تحت الآیة: ۵۳، ۸/۴۱۱-۴۱۲، حازن، النور، تحت الآیة: ۵۳، ۳/۳۵۹، ملقطاً.

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی ہے جو اس پر لازم کیا گیا اور تم پر وہ ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا اور اگر رسول کی فرمانبرداری کرو گے راہ پاؤ گے، اور رسول کے ذمہ نہیں مگر صاف پہنچا دینا۔

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو پھر اگر تم منہ پھیرو تو رسول کے ذمہ وہی تبلیغ ہے جس کی ذمہ داری کا بوجھ ان پر رکھا گیا ہے اور تم پر وہ (اطاعت) لازم ہے جس کا بوجھ تم پر رکھا گیا ہے اور اگر تم رسول کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول کے ذمہ صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے۔

﴿قُلْ: تم فرماؤ۔﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، آپ ان قسمیں کھانے والوں سے فرمادیں کہ تم سچے دل اور سچی نیت سے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت کرو۔ اگر تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت و فرمانبرداری سے منہ پھیرو گے تو اس میں ان کا نہیں بلکہ تمہارا اپنا ہی نقصان ہے کیونکہ رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ذمہ صرف دین کی تبلیغ اور احکام الہی کا پہنچا دینا ہے اور جب انہوں نے یہ ذمہ داری اچھی طرح نبھادی ہے تو وہ اپنے فرض سے عہدہ برآ ہو چکے اور تمہیں چونکہ رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت و فرمانبرداری کا پابند کیا گیا ہے لہذا تم پر یہ لازم ہے۔ اگر اس سے روگردانی کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب اور اس کی ناراضی کا تمہیں ہی سامنا کرنا پڑے گا اور اگر تم رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی فرمانبرداری کرو گے تو ہدایت پاؤ گے اور رسول اللہ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کے ذمہ صرف صاف صاف تبلیغ کر دینا لازم ہے، تمہاری ہدایت ان کے ذمہ داری نہیں۔^(۱)

حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت قبولیت کی چابی ہے

علامہ اسماعیل حقی دَحْمَةُ اللہ تَعَالٰی عَلَیْہِ فرماتے ہیں: تا جدار رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی اطاعت قبولیت کے دروازے کی چابی ہے اور اطاعت کی فضیلت پر یہ بات تیری رہنمائی کرتی ہے کہ اصحاب کہف کے کتے نے

1.....تفسیر طبری، النور، تحت الآیة: ۵۴، ۳۴۲/۹، حازن، النور، تحت الآیة: ۵۴، ۳۵۹/۳-۳۶۰، مدارک، النور، تحت الآیة: ۵۴، ص ۷۸۷، ملنقطاً.

جب اللہ تعالیٰ کی طاعت میں اصحابِ کہف کی پیروی کی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے جنت کا وعدہ فرمایا اور جب اطاعت کرنے والوں کی پیروی کرنے کی یہ برکت ہے تو خود اطاعت کرنے والوں کے بارے میں تیرا کیا گمان ہے۔ اور حضرت امام احمد بن حنبل رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ نے جب حمام میں لوگوں کے درمیان سترِ عورت کھولنے کے معاملے میں شرعی حکم کی رعایت کی (یعنی وہاں پردہ کر کے نہانے کا حکم ہے اور آپ نے اس پر عمل کیا) تو ان سے خواب میں کہا گیا: شرعی حکم کی رعایت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو لوگوں کا امام بنا دیا ہے۔^(۱)

اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو صحیح طریقے سے اپنے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی اطاعت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

وَعَدَا اللهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لِيَسْتَخْلِفَهُمْ
فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۚ وَلِيُبَيِّنَ لَهُمْ
دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلِيُبَيِّنَ لَهُمْ مِّنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أُمَّنًا
يَعْبُدُونَ ۖ وَنَبِيُّ لَا يُشْرِكُونَ بِشَيْءٍ ۗ وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ
هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

ترجمہ کنزالایمان: اللہ نے وعدہ دیا ان کو جو تم میں سے ایمان لائے اور اچھے کام کیے کہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو دی اور ضرور ان کے لیے جمادے گا ان کا وہ دین جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اور ضرور ان کے اگلے خوف کو امن سے بدل دے گا میری عبادت کریں میرا شریک کسی کو نہ ٹھہرائیں، اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ بے حکم ہیں۔

①..... روح البیان، النور، تحت الآية: ۵۴، ۱۷۲/۶-۱۷۳.

ترجیہ کنز العرفان: اللہ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے وعدہ فرمایا ہے کہ ضرور ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں کو خلافت دی ہے اور ضرور ضرور ان کے لیے ان کے اُس دین کو جما دے گا جو ان کے لیے پسند فرمایا ہے اور ضرور ضرور ان کے خوف کے بعد ان (کی حالت) کو امن سے بدل دے گا۔ وہ میری عبادت کریں گے، میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے اور جو اس کے بعد ناشکری کرے تو وہی لوگ نافرمان ہیں۔

وَعَدَ اللَّهُ: اللہ نے وعدہ فرمایا ہے۔ ﴿اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے دوسرے گروہ یعنی مخلص مؤمنوں کا ذکر فرمایا ہے۔ آیت کا شان نزول یہ ہے کہ سرکارِ دو عالم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے وحی نازل ہونے سے لے کر دس سال تک مکہ مکرمہ میں صحابہ کرام رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ کے ساتھ قیام فرمایا اور شب و روز کفار کی طرف سے پہنچنے والی ایذاؤں پر صبر کیا، پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مدینہ طیبہ کو ہجرت فرمائی اور انصار کے مکانات کو اپنی سکونت سے سرفراز کیا، مگر قریش اس پر بھی باز نہ آئے، آئے دن ان کی طرف سے جنگ کے اعلان ہوتے اور طرح طرح کی دھمکیاں دی جاتیں۔ صحابہ کرام رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُمْ ہر وقت خطرہ میں رہتے اور ہتھیار ساتھ رکھتے۔ ایک روز ایک صحابی رَضِيَ اللہُ تَعَالَى عَنْہُ نے فرمایا کبھی ایسا بھی زمانہ آئے گا کہ ہمیں امن میسر ہو اور ہتھیاروں کے بوجھ سے ہم سبکدوش ہوں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ایمان والوں اور اچھے اعمال کرنے والوں سے یہ وعدہ فرمایا ہے کہ وہ ضرور انہیں زمین میں خلافت دے گا جیسی ان سے پہلوں یعنی حضرت داؤد اور حضرت سلیمان وغیرہ انبیاء کرام عَلَیْہِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو خلافت دی ہے اور جیسا کہ مصر و شام کے جابر کافروں کو ہلاک کر کے بنی اسرائیل کو خلافت دی اور ان ممالک پر ان کو مسلط کیا اور اللہ تعالیٰ ضرور ان کے لیے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب فرما دے گا اور ضرور ان کے خوف کے بعد ان کی حالت کو امن سے بدل دے گا۔ چنانچہ یہ وعدہ پورا ہوا اور سرزمین عرب سے کفار مٹا دیئے گئے، مسلمانوں کا تسلط ہوا، مشرق و مغرب کے ممالک اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے فتح فرمائے، قیصر و کسریٰ کے ممالک اور خزانے ان کے قبضہ میں آئے اور پوری دنیا پر ان کا رعب چھا گیا۔^(۱)

1.....خازن، النور، تحت الآية: ۵۵، ۳/۳۶۰، مدارک، النور، تحت الآية: ۵۵، ص ۷۸۸، ملنقطاً.

خلافتِ راشدہ کی دلیل

علامہ علی بن محمد خازن رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ فَرَمَاتے ہیں: اس آیت میں حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ اور آپ کے بعد ہونے والے خلفاءِ راشدین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی خلافت کی دلیل ہے کیونکہ ان کے زمانے میں عظیم فتوحات ہوئیں اور کسریٰ وغیرہ بادشاہوں کے خزانے مسلمانوں کے قبضہ میں آئے اور امن، قوت و شوکت اور دین کا غلبہ حاصل ہوا۔^(۱)

ترمذی اور ابوداؤد کی حدیث میں ہے کہ تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”خلافت میرے بعد تیس سال ہے پھر ملک ہوگا۔“^(۲) اس کی تفصیل یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی خلافت دو برس تین ماہ، حضرت عمر رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی خلافت دس سال چھ ماہ، حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی خلافت بارہ سال اور حضرت علی مرتضیٰ كَرَّمَ اللهُ تَعَالَى وَجْهَهُ الْكَرِيمِ کی خلافت چار سال نو ماہ اور حضرت امام حسن رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی خلافت چھ ماہ ہوئی۔^(۳)

﴿وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ: اور جو اس کے بعد ناشکری کرے۔﴾ یعنی جو اس وعدے کے بعد نعمت کی ناشکری کرے گا تو وہی فاسق ہے کیونکہ انہوں نے اہم ترین نعمت کی ناشکری کی اور اسے حقیر سمجھنے پر دلیر ہوئے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس نعمت کی سب سے پہلی جو ناشکری ہوئی وہ حضرت عثمان غنی رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کو شہید کرنا ہے۔^(۴)

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿۵۲﴾
لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَهُمُ النَّارُ
وَلَيْسَ الْبَصِيرُ ﴿۵۴﴾

①.....خازن، النور، تحت الآية: ۵۵، ۳/۳۶۰.

②.....ترمذی، کتاب الفتن، باب ما جاء في الخلافة، ۹۷/۴، الحدیث: ۲۲۳۳، ابو داؤد، کتاب السنّة، باب في الخلفاء، ۲۷۸/۴، الحدیث: ۴۶۴۶.

③.....خازن، النور، تحت الآية: ۵۵، ۳/۳۶۱.

④.....مدارك، النور، تحت الآية: ۵۵، ص ۷۸۸.

ترجمہ کنزالایمان: اور نماز برپا رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرمانبرداری کرو اس امید پر کہ تم پر رحم ہو۔ ہرگز کافروں کو خیال نہ کرنا کہ وہ کہیں ہمارے قابو سے نکل جائیں زمین میں اور ان کا ٹھکانا آگ ہے، اور ضرور کیا ہی بُرا انجام۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو اور رسول کی فرمانبرداری کرتے رہو اس امید پر کہ تم پر رحم کیا جائے۔ ہرگز کافروں کو یہ خیال نہ کرو کہ وہ ہمیں زمین میں عاجز کرنے والے ہیں اور ان کا ٹھکانہ آگ ہے اور بیشک وہ کیا ہی بُری لوٹنے کی جگہ ہے۔

﴿وَأَقِمْ الصَّلَاةَ﴾ اور نماز قائم رکھو۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! نماز کو اس کے ارکان و شرائط کے ساتھ قائم رکھو، اسے ضائع نہ کرو اور جو زکوٰۃ اللہ تعالیٰ نے تم پر فرض فرمائی ہے اسے ادا کرو اور احکامات و ممنوعات میں اپنے رب عزوجل کے حبیب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو تا کہ تم پر رحم کیا جائے اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے عذاب سے نجات دے۔ (۱)

﴿لَا تَحْسَبَنَّ﴾ ہرگز گمان نہ کرو۔ ﴿یعنی ان کفار نابکار کا زمین میں امن سے رہنا اس وجہ سے نہیں کہ وہ رب کے قابو سے باہر ہیں بلکہ یہ رب تعالیٰ کی مہلت ہے لہذا ان کے بارے میں یہ خیال نہ کرو کہ یہ ہماری پکڑ سے بھاگ کر زمین میں ہمیں عاجز کر دیں گے، ان کا ٹھکانہ جہنم کی آگ ہے اور بیشک وہ کیا ہی بُری لوٹنے کی جگہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِيَسْتَأْذِنَكُمْ الَّذِينَ مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ۖ مِنْ قَبْلِ صَلَاةِ الْفَجْرِ وَحِينَ تَضَعُونَ ثِيَابَكُمْ مِنَ الظَّهِيرَةِ وَمِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ۖ ثَلَاثُ عَوْرَاتٍ لَكُمْ ۖ لَيْسَ عَلَيْكُمْ وَلَا عَلَيْهِمْ جُنَاحٌ بَعْدَ هُنَّ ۖ طُوفُونَ عَلَيْكُمْ بَعْضُكُمْ

1.....تفسیر طبری، النور، تحت الآیة: ۵۶، ۳۴۴/۹.

عَلَىٰ بَعْضٍ ۖ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ الْاٰيٰتِ ۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ ﴿۵۸﴾

ترجمہ کنز الایمان: اے ایمان والو! چاہیے کہ تم سے اذن لیں تمہارے ہاتھ کے مال غلام اور وہ جو تم میں ابھی جوانی کو نہ پہنچے تین وقت نماز صبح سے پہلے اور جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو دوپہر کو اور نماز عشاء کے بعد یہ تین وقت تمہاری شرم کے ہیں ان تین کے بعد کچھ گناہ نہیں تم پر نہ ان پر آمد و رفت رکھتے ہیں تمہارے یہاں ایک دوسرے کے پاس اللہ یونہی بیان کرتا ہے تمہارے لیے آیتیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

ترجمہ کنز العرفان: اے ایمان والو! تمہارے غلام اور تم میں سے جو بالغ عمر کو نہیں پہنچے، انہیں چاہیے کہ تین اوقات میں، فجر کی نماز سے پہلے اور دوپہر کے وقت جب تم اپنے کپڑے اتار رکھتے ہو اور نماز عشاء کے بعد (گھر میں داخلے سے پہلے) تم سے اجازت لیں۔ یہ تین اوقات تمہاری شرم کے ہیں۔ ان تین اوقات کے بعد تم پر اور ان پر کچھ گناہ نہیں۔ وہ تمہارے ہاں ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں۔ اللہ تمہارے لئے یونہی آیات بیان کرتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔

﴿يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا: اے ایمان والو!﴾ ﴿شان نزول﴾: حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک انصاری غلام مدح لُج بن عمرو کو دوپہر کے وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلانے کے لئے بھیجا، وہ غلام اجازت لئے بغیر ویسے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں چلا گیا اور اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے تکلف اپنے دولت سرانے میں تشریف فرما تھے۔ غلام کے اچانک چلے آنے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ کاش غلاموں کو اجازت لے کر مکانوں میں داخل ہونے کا حکم ہوتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اس آیت میں غلاموں، باندیوں اور بلوغت کے قریب لڑکے، لڑکیوں کو تین اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اجازت لینے کا حکم دیا گیا۔ وہ تین اوقات یہ ہیں۔

(1)..... فجر کی نماز سے پہلے۔ کیونکہ یہ خواب گا ہوں سے اٹھنے اور شب خوابی کا لباس اتار کر بیداری کے کپڑے پہننے

کا وقت ہے۔

- (2)..... دوپہر کے وقت، جب لوگ قیلولہ کرنے کے لئے اپنے کپڑے اتار کر رکھ دیتے اور تہ بند باندھ لیتے ہیں۔
- (3)..... نماز عشاء کے بعد، کیونکہ یہ بیداری کی حالت میں پہنا ہوا لباس اتارنے اور سوتے وقت کا لباس پہننے کا ٹائم ہے۔
- یہ تین اوقات ایسے ہیں کہ ان میں خلوت و تنہائی ہوتی ہے، بدن چھپانے کا بہت اہتمام نہیں ہوتا، ممکن ہے کہ بدن کا کوئی حصہ کھل جائے جس کے ظاہر ہونے سے شرم آتی ہے، لہذا ان اوقات میں غلام اور بچے بھی بے اجازت داخل نہ ہوں اور ان کے علاوہ جو ان لوگ تمام اوقات میں اجازت حاصل کریں، وہ کسی وقت بھی اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں۔ ان تین وقتوں کے سوا باقی اوقات میں غلام اور بچے بے اجازت داخل ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ کام اور خدمت کیلئے ایک دوسرے کے پاس بار بار آنے والے ہیں تو ان پر ہر وقت اجازت طلب کرنا لازم ہونے میں حرج پیدا ہوگا اور شریعت میں حرج کو ڈور کیا گیا ہے۔⁽¹⁾

لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں؟

یاد رہے کہ لڑکے اور لڑکی میں جب بلوغت کے آثار ظاہر ہوں مثلاً لڑکے کو احتلام ہو اور لڑکی کو حیض آئے اس وقت سے وہ بالغ ہیں اور اگر بلوغت کے آثار ظاہر نہ ہوں تو پندرہ برس کی عمر پوری ہونے سے بالغ سمجھے جائیں گے۔⁽²⁾

وَإِذَا بَدَعَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلْمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿۵۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور جب تم میں لڑکے جو ان کو پہنچ جائیں تو وہ بھی اذن مانگیں جیسے ان کے اگلوں نے اذن مانگا اللہ یونہی بیان فرماتا ہے تم سے اپنی آیتیں، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔

①..... حازن، النور، تحت الآیة: ۵۸، ۳/۳۶۱-۳۶۲، مدارك، النور، تحت الآیة: ۵۸، ص ۷۸۹، ملتقطاً.

②..... فتاویٰ رضویہ، ۱۲/۳۹۹، ملخصاً۔

ترجہ کنز العرفان: اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی (گھر میں داخل ہونے سے پہلے) اسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے (بالغ ہونے) والوں نے اجازت مانگی۔ اللہ تم سے اپنی آیتیں یونہی بیان فرماتا ہے اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔

﴿وَإِذَا بَدَأَ لِطِفَالٍ مِنْكُمْ الْحُلُمَ﴾ اور جب تم میں سے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں۔ ﴿اس آیت میں ارشاد فرمایا: جب تمہارے یا قریبی رشتہ داروں کے چھوٹے لڑکے جوانی کی عمر کو پہنچ جائیں تو وہ بھی تمام اوقات میں گھر میں داخل ہونے سے پہلے اسی طرح اجازت مانگیں جیسے ان سے پہلے بڑے مردوں نے اجازت مانگی۔ اللہ تعالیٰ اپنے دین کے شرعی احکام اسی طرح بیان فرماتا ہے جیسے اس نے لڑکوں کے اجازت طلب کرنے کا حکم بیان فرمایا اور اللہ تعالیٰ مخلوق کی تمام مصلحتوں کو جانتا ہے اور وہ اپنی مخلوق کے معاملات کی تدبیر فرمانے میں حکمت والا ہے۔^(۱)

گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی ایک حکمت

گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی بے شمار حکمتیں ہیں، ان میں سے ایک یہاں ذکر کی جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت عطاء بن یسار رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نے رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے دریافت کیا: کیا میں اپنی ماں کے پاس جاؤں تو اس سے بھی اجازت لوں۔ حضورِ اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ہاں۔ انہوں نے عرض کی: میں تو اس کے ساتھ اسی مکان میں رہتا ہی ہوں۔ حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: اجازت لے کر اس کے پاس جاؤ، انہوں نے عرض کی: میں اس کی خدمت کرتا ہوں (یعنی بار بار آنا جانا ہوتا ہے، پھر اجازت کی کیا ضرورت ہے؟) رسولُ اللهِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا: ”اجازت لے کر جاؤ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ اسے بُرہنہ دیکھو؟“ عرض کی: نہیں، فرمایا: تو اجازت حاصل کرو۔^(۲)

اسی حکم سے کچھ اور احکام کی حکمت بھی سمجھ آتی ہے جیسے باپ یا بھائی اگر بیٹیوں یا بہنوں کو جگانے کیلئے کمرے میں جائیں تو کمرے کے باہر سے آواز دیں اور جگائیں کہ بلا اجازت اندر جانا نامناسب ہے کیونکہ حالتِ نیند میں بعض اوقات بدن سے کپڑے ہٹ جاتے ہیں۔

①.....تفسیر ضبری، النور، تحت الآية: ۵۹، ۳۴۸/۹.

②.....موطا امام مالک، کتاب الاستئذان، باب الاستئذان، ۴۴۶/۲، الحدیث: ۱۸۴۷.

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَّهُنَّ ۖ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿۲۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور بوڑھی خانہ نشین عورتیں جنہیں نکاح کی آرزو نہیں ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے بالائی کپڑے اتار رکھیں جب کہ سنگار نہ چکائیں اور اس سے بھی بچنا ان کے لیے اور بہتر ہے، اور اللہ سنتا جانتا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی وہ بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی کوئی خواہش نہیں ان پر کچھ گناہ نہیں کہ اپنے اوپر کے کپڑے اتار رکھیں جبکہ زینت کو ظاہر نہ کر رہی ہوں اور ان کا اس سے بھی بچنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے اور اللہ سننے والا، جاننے والا ہے۔

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ﴾: اور گھروں میں بیٹھ رہنے والی بوڑھی عورتیں۔ ﴿اس آیت میں بوڑھی عورتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ ایسی بوڑھی عورتیں جن کی عمر زیادہ ہو چکی ہو اور ان سے اولاد پیدا ہونے کی امید نہ رہی ہو اور عمر زیادہ ہونے کی وجہ سے انہیں نکاح کی کوئی خواہش نہ ہو تو ان پر کچھ گناہ نہیں کہ وہ اپنے اوپر کے کپڑے یعنی اضافی چادر وغیرہ اتار کر رکھ دیں جبکہ وہ اپنی زینت کی جگہوں مثلاً بال، سینہ اور پنڈلی وغیرہ کو ظاہر نہ کر رہی ہوں اور ان بوڑھی عورتوں کا اس سے بھی بچنا اور اضافی چادر وغیرہ پہنے رہنا ان کے لیے سب سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ سننے والا، جاننے والا ہے۔^(۱)

مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ حکم ایسی بوڑھی عورتوں کے لئے ہے جنہیں دیکھنے سے مردوں کو شہوت نہ آئے، اگر بڑھاپے کے باوجود عورت کا اتنا حسن و جمال قائم ہے کہ اسے دیکھنے سے شہوت آتی ہو تو وہ اس آیت کے حکم میں داخل نہیں۔^(۲)

۱.....مدارک، النور، تحت الآية: ۶۰، ص ۷۹، ملخصاً.

۲.....خازن، النور، تحت الآية: ۶۰، ۳/۳۶۲.

فتوے پر عمل کرنے سے تقوے پر عمل کرنا زیادہ اولیٰ ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ جب کسی کام میں فتنے کا اندیشہ باقی نہ رہے تو شریعت اس کے حکم میں سختی ختم کر دیتی ہے اور اس کے معاملے میں آسان حکم اور کچھ رخصت دے دیتی ہے، البتہ اس رخصت و اجازت کے باوجود تقویٰ و پرہیزگاری کی وجہ سے اسی سابقہ حکم پر عمل کرنا زیادہ بہتر ہے۔

لَيْسَ عَلَى الْإِعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْإِنْسَانِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ
حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْوَجْدِ أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ آبَائِكُمْ أَوْ بُيُوتِ
أُمَّهَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخَوَاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ
بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ إِخْوَانِكُمْ أَوْ بُيُوتِ خَالَاتِكُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ
مَفَاتِحَهُ أَوْ صَدِيقِكُمْ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَأْكُلُوا جَمِيعًا
أَوْ شَتَاً إِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّتُوا عَلَى أَنْفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ
مُبْرَكَةً طَيِّبَةً ۚ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ۝ ٦١

ترجمہ کنزالایمان: نہ اندھے پر تنگی اور نہ لنگڑے پر مضائقہ اور نہ بیمار پر روک اور نہ تم میں کسی پر کہ کھاؤ اپنی اولاد کے گھر یا اپنے باپ کے گھر یا اپنی ماں کے گھر یا اپنے بھائیوں کے گھر یا اپنی بہنوں کے گھر یا اپنے چچاؤں کے گھر یا اپنی پھپیوں کے گھر یا اپنے ماموؤں کے گھر یا اپنی خالائوں کے گھر یا جہاں کی کنجیاں تمہارے قبضہ میں ہیں یا اپنے

دوست کے یہاں تم پر کوئی الزام نہیں کہ مل کر کھاؤ یا الگ الگ پھر جب کسی گھر میں جاؤ تو اپنوں کو سلام کرو ملتے وقت کی اچھی دعا اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ اللہ یونہی بیان فرماتا ہے تم سے آیتیں کہ تمہیں سمجھ ہو۔

ترجہ کنز العرفان: اندھے اور لنگڑے اور بیمار پر کوئی پابندی نہیں اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں کہ تم کھاؤ اپنی اولاد کے گھروں سے یا اپنے باپ کے گھروں یا اپنی ماں کے گھر سے یا اپنے بھائیوں کے گھروں یا اپنی بہنوں کے گھروں سے یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے یا اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے یا اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے قبضہ میں ہیں یا اپنے دوست کے گھر سے۔ تم پر کوئی پابندی نہیں کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، (یہ) ملتے وقت کی اچھی دعا ہے، اللہ کے پاس سے مبارک پاکیزہ (کلمہ ہے) اللہ یونہی اپنی آیات تمہارے لئے بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔

﴿لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرْجٌ﴾: اندھے پر کوئی پابندی نہیں۔ ﴿اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تین قول ہیں:

پہلا قول: حضرت سعید بن مسیب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نَبِيَّ كَرِيمٍ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ جہاد کو جاتے تو اپنے مکانوں کی چابیاں نابیناؤں، بیماروں اور اپاہجوں کو دے جاتے جو ان عذروں کے باعث جہاد میں نہ جاسکتے اور انہیں اجازت دیتے کہ ان کے مکانوں سے کھانے کی چیزیں لے کر کھائیں، لیکن وہ لوگ اس خیال سے اسے گوارا نہ کرتے کہ شاید یہ اُن کو دل سے پسند نہ ہو، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں اس کی اجازت دی گئی۔

دوسرا قول: یہ ہے کہ اندھے، اپاہج اور بیمار لوگ تندرستوں کے ساتھ کھانے سے بچتے کہ کہیں کسی کو نفرت نہ ہو، اس آیت میں انہیں تندرستوں کے ساتھ کھانے کی اجازت دی گئی۔

تیسرا قول: یہ ہے کہ جب کبھی اندھے، نابینا اور اپاہج کسی مسلمان کے پاس جاتے اور اس کے پاس اُن کے کھلانے کے لئے کچھ نہ ہوتا تو وہ انہیں کسی رشتہ دار کے یہاں کھلانے کے لئے لے جاتا، یہ بات ان لوگوں کو گوارا نہ ہوتی، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور انہیں بتایا گیا کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔^(۱)

①.....مدارك، النور، تحت الآية: ۶۱، ص ۷۹۱، حازن، النور، تحت الآية: ۶۱، ۳۶۳/۳، ملقطاً.

﴿وَلَا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ﴾ اور تم پر بھی کوئی پابندی نہیں۔ ﴿آیت کے اس حصے سے گیارہ مقامات ایسے بتائے گئے جہاں سے کھانا مباح ہے۔ (1) اپنی اولاد کے گھروں سے، کیونکہ اولاد کا گھر اپنا ہی گھر ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ رسول کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے۔“ (1) اسی طرح شوہر کے لئے بیوی کا اور بیوی کے لئے شوہر کا گھر بھی اپنا ہی گھر ہے۔ (2) اپنے باپ کے گھروں سے۔ (3) اپنی ماں کے گھر سے۔ (4) اپنے بھائیوں کے گھروں سے۔ (5) اپنی بہنوں کے گھروں سے۔ (6) اپنے چچاؤں کے گھروں سے۔ (7) اپنی پھوپھیوں کے گھروں سے۔ (8) اپنے ماموؤں کے گھروں سے۔ (9) اپنی خالاؤں کے گھروں سے۔ (10) اس گھر سے جس کی چابیاں تمہارے قبضہ میں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا نے فرمایا کہ اس سے مراد آدمی کا وکیل اور اس کے معاملات کے انتظامات پر مامور شخص ہے۔ (11) اپنے دوست کے گھر سے۔ (2)

کسی کی غیر موجودگی میں یا اجازت کے بغیر اس کی چیز نہ کھائی جائے

خلاصہ یہ ہے کہ ان سب لوگوں کے گھر کھانا، کھانا جائز ہے خواہ وہ موجود ہوں یا نہ ہوں لیکن یہ اجازت اس صورت میں جب کہ وہ اس پر رضا مند ہوں اور اگر وہ اس پر رضا مند نہ ہوں تو اگرچہ وہ واضح طور پر اجازت دے دیں تب بھی ان کا کھانا، کھانا مکروہ ہے اور فی زمانہ تو یہی سمجھ آتا ہے کہ کسی کی غیر موجودگی میں اور اجازت کے بغیر بالکل نہ کھائے کیونکہ ہمارے زمانے کے حالات میں مادیت پرستی بہت بڑھ چکی ہے۔ امام غزالی رَحْمَةُ اللہِ تَعَالَى عَلَیْہِ فرماتے ہیں: ”جب آدمی اپنے کسی دوست کے گھر جائے اور صاحب خانہ گھر پر نہ ہو اور اسے اس کی دوستی پر کامل یقین ہو، نیز وہ آدمی جانتا ہو کہ اس کا دوست اس کے کھانے پر خوش ہوگا تو وہ اپنے دوست کی اجازت کے بغیر کھا سکتا ہے کیونکہ اجازت سے مراد رضا مندی ہے اور بعض لوگ صراحتاً اجازت دے دیتے ہیں اور اس اجازت پر قسم کھاتے ہیں لیکن وہ دل سے راضی نہیں ہوتے (لہذا اگر قرآن کے ذریعے تجھ پر یہ ظاہر ہو کہ اسے تیرا کھانا پسند نہیں تو اس کا کھانا مت کھاؤ کہ) ایسے لوگوں کا کھانا، کھانا مکروہ ہے۔“ (3)

1..... ابو داؤد، کتاب الاجارۃ، باب فی الرجل یأکل من مال ولده، ۴۰۳/۳، الحدیث: ۳۵۳۰.

2..... خازن، النور، تحت الآیة: ۶۱، ۳۶۳/۳، مدارک، النور، تحت الآیة: ۶۱، ص ۷۹۱، جلالین، النور، تحت الآیة: ۶۱، ص ۳۰۲، ملقطاً.

3..... احیاء علوم الدین، کتاب آداب الاکل، الباب الثالث، آداب الدخول للطعام، ۱۳/۲.

ابوالبرکات عبداللہ بن احمد نسفی رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيهِ فرماتے ہیں ہمارے اسلاف کا تو یہ حال تھا کہ آدمی اپنے دوست کے گھر اس کی غیر موجودگی میں پہنچتا تو اس کی باندی سے اس کا تھیلہ طلب کرتا اور جو چاہتا اس میں سے لے لیتا، جب وہ دوست گھر آتا اور باندی اس کو خبر دیتی تو اس خوشی میں وہ باندی کو آزاد کر دیتا مگر اس زمانہ میں یہ فیاضی کہاں؟ لہذا اب اجازت کے بغیر نہیں کھانا چاہئے۔^(۱)

﴿أَنْ تَأْكُلُوا جَبِيحًا وَأَشْتَاتًا﴾ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ قبیلہ بنی لیث بن عمرو کے لوگ تنہا بغیر مہمان کے کھانا نہ کھاتے تھے کبھی کبھی مہمان نہ ملتا تو صبح سے شام تک کھانا لئے بیٹھے رہتے، ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی۔^(۲) اور فرمایا گیا کہ تم مل کر کھاؤ یا الگ الگ تم پر کوئی پابندی نہیں۔

مہمان نوازی سے متعلق دو احادیث

آیت کے شان نزول سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ بڑے مہمان نواز ہو کر تھے، اسی مناسبت سے یہاں مہمان نوازی سے متعلق 2 احادیث ملاحظہ ہوں۔

(1)..... حضرت ابو شریح کعبی رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اللہ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا کہ ”جو شخص اللہ تعالیٰ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، وہ مہمان کا اکرام کرے، ایک دن رات اس کا جائزہ ہے (یعنی ایک دن اس کی پوری خاطر داری کرے، اپنے مقدور بھر اس کے لیے تکلف کا کھانا تیار کرے) اور ضیافت تین دن ہے (یعنی ایک دن کے بعد جو موجود ہو وہ پیش کرے) اور تین دن کے بعد صدقہ ہے، مہمان کے لیے یہ حلال نہیں کہ اس کے یہاں گھمرا رہے کہ اسے حرج میں ڈال دے۔“⁽³⁾

(2)..... حضرت ابوالاحوص رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، یہ فرمائیے کہ میں ایک شخص کے یہاں گیا، اس نے میری مہمانی نہیں کی، اب وہ میرے یہاں آئے تو اس کی مہمانی کروں یا بدلا دوں۔ ارشاد فرمایا: ”بلکہ تم اس کی مہمانی کرو۔“⁽⁴⁾

①..... مدارك، النور، تحت الآية: ۶۱، ص ۷۹۱.

②..... حازن، النور، تحت الآية: ۶۱، ۳/۳۶۴.

③..... بخاری، کتاب الادب، باب اکرام الضيف وخدمته ايام بنفسه، ۴/۱۳۶، الحديث: ۶۱۳۵.

④..... ترمذی، کتاب البر والصلة، باب ما جاء في الاحسان والعفو، ۳/۴۰۵، الحديث: ۲۰۱۲.

مل کر کھانے کے 3 فضائل

یہاں آیت میں مل کر کھانا کھانے کا ذکر ہوا اس مناسبت سے مل کر کھانے کے 3 فضائل ملاحظہ ہوں:

(1)..... حضرت عمر بن خطاب رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور پُرْنُورِ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”مل کر کھاؤ اور الگ الگ نہ کھاؤ کیونکہ برکت جماعت کے ساتھ ہے۔“ (1)

(2)..... ایک مرتبہ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نے بارگاہ رسالت میں عرض کی: یا رسول الله! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، ہم کھانا تو کھاتے ہیں لیکن سیر نہیں ہوتے۔ ارشاد فرمایا: ”تم الگ الگ کھاتے ہو گے۔“ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ نے عرض کی: جی ہاں! رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”تم مل بیٹھ کر کھانا کھایا کرو اور کھاتے وقت بِسْمِ اللّٰهِ پڑھ لیا کرو تمہارے لئے کھانے میں برکت دی جائے گی۔“ (2)

(3)..... حضرت جابر بن عبد اللہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند وہ کھانا ہے جسے کھانے والے زیادہ ہوں۔“ (3)

﴿فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا:﴾ پھر جب گھروں میں داخل ہو۔ ارشاد فرمایا کہ پھر جب گھروں میں داخل ہو تو اپنے لوگوں کو سلام کرو، یہ ملتے وقت کی اچھی دعا ہے اور اللہ تعالیٰ کے پاس سے مبارک پاکیزہ کلمہ ہے۔ (4)

گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے متعلق دو شرعی مسائل

یہاں گھر میں داخل ہوتے وقت اہل خانہ کو سلام کرنے سے متعلق دو شرعی مسائل ملاحظہ ہوں:

(1)..... جب آدمی اپنے گھر میں داخل ہو تو اپنے اہل خانہ کو سلام کرے اور ان لوگوں کو جو مکان میں ہوں بشرطیکہ وہ مسلمان ہوں۔

(2)..... اگر خالی مکان میں داخل ہو جہاں کوئی نہیں ہے تو کہے: ”السَّلَامُ عَلَى النَّبِيِّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ“

1..... ابن ماجہ، کتاب الاطعمه، باب الاجتماع على الطعام، ۲۱/۴، الحدیث: ۳۲۸۷

2..... ابو داؤد، کتاب الاطعمه، باب فی الاجتماع على الطعام، ۴۸۶/۳، الحدیث: ۳۷۶۴.

3..... شعب الایمان، الثامن والستون من شعب الایمان... الخ، فصل فی التکلف للضيف عند القدرة علیه، ۹۸/۷، الحدیث: ۹۶۲۰.

4..... حازن، النور، تحت الآية: ۶۱، ۳۶۴/۳.

عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ السَّلَامُ عَلَىٰ أَهْلِ الْبَيْتِ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ“ حضرت عبداللہ بن عباس رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُمَا نے فرمایا کہ مکان سے یہاں مسجدیں مُراد ہیں۔ امامِ نَجَاحِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں کوئی نہ ہو تو کہے ”السَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ (1)

ملا علی قاری رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ نے شفا شریف کی شرح میں لکھا کہ خالی مکان میں سرکارِ دُعا صَلَّى اللَّهُ تَعَالَىٰ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر سلام عرض کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اہلِ اسلام کے گھروں میں روحِ اقدس جلوہ فرما ہوتی ہے۔ (2)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُوا مَعَهُ عَلَىٰ أَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوا حَتَّىٰ يَسْتَأْذِنُوهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَأْذِنُونَكَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ فَإِذَا اسْتَأْذَنُوكَ لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأَذَنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ اللَّهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿٢٢﴾

ترجمہ کنز الایمان: ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر یقین لائے اور جب رسول کے پاس کسی ایسے کام میں حاضر ہوئے ہوں جس کے لیے جمع کیے گئے ہوں تو نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں وہ جو تم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر جب وہ تم سے اجازت مانگیں اپنے کسی کام کے لیے تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ترجمہ کنز العرفان: ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور جب کسی ایسے کام پر رسول

①..... الشفاء، القسم الثاني، الباب الرابع في حكم الصلاة عليه، فصل في الموطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام... الخ، ص ۶۷، الجزء الثاني.

②..... شرح الشفاء، القسم الثاني، الباب الرابع في حكم الصلاة عليه والتسليم، فصل في الموطن التي يستحب فيها الصلاة والسلام، ۱۱۸/۲.

کے ساتھ ہوں جو انہیں (رسول اللہ کی بارگاہ میں) جمع کرنے والا ہو تو اس وقت تک نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں۔ بیشک وہ جو آپ سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے ہیں پھر (اے محبوب!) جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ سے (جانے کی) اجازت مانگیں تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ سے معافی مانگو، بیشک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

﴿إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ﴾ ایمان والے تو وہی ہیں۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت سے مقصود مخلص مؤمنوں کی تعریف اور منافقوں کی مذمت بیان کرنا ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ ایمان والے تو وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائیں اور جب کسی ایسے کام پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں جو انہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جمع کرنے والا ہو جیسے کہ جہاد، جنگی تدبیر، جمعہ، عیدین، مشورہ اور ہر اجتماع جو اللہ تعالیٰ کے لئے ہو، تو اس وقت تک نہ جائیں جب تک ان سے اجازت نہ لے لیں یا وہ خود انہیں اجازت نہ دے دیں۔ بیشک وہ جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت مانگتے ہیں وہی ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کا اجازت چاہنا فرمانبرداری کا نشان اور صحت ایمان کی دلیل ہے۔ پھر اے محبوب! صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، جب وہ اپنے کسی کام کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے جانے کی اجازت مانگیں تو ان میں جسے تم چاہو اجازت دے دو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، بیشک اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے۔ (۱)

آیت ”إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ“ سے معلوم ہونے والے اہم امور

اس آیت سے چند باتیں معلوم ہوتی ہیں۔

(۱)..... حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس پاک کا ادب یہ ہے کہ وہاں سے اجازت کے بغیر نہ جائیں، اسی لئے اب بھی روضہ مطہرہ پر حاضری دینے والے رخصت ہوتے وقت اَلوِ دَاعِیِ سَلَامِ عَرَضِ كَرْتِے ہوئے اجازت طلب کرتے ہیں۔

(۲)..... اس آیت سے دربار رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب بھی معلوم ہوا کہ آئیں بھی اجازت لے کر اور

۱..... صاوی، النور، تحت الآیة: ۶۲، ۴/۱۴۲۰-۱۴۲۱، مدارك، النور، تحت الآیة: ۶۲، ص ۷۹۲، ملتقطاً.

جائیں بھی اذن حاصل کر کے، جیسا کہ غلاموں کا مولیٰ کے دربار میں طریقہ ہوتا ہے۔

(3).....سلطانِ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دربار کے آداب خود رب تعالیٰ سکھاتا ہے بلکہ اسی نے ادب کے قوانین بنائے۔

(4).....سرکارِ دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اجازت دینے یا نہ دینے میں مختار ہیں۔

(5).....حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت برحق ہے کہ رب تعالیٰ نے حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو شفاعت کا حکم دیا ہے۔

(6).....اللہ تعالیٰ مسلمانوں پر بڑا مہربان ہے کہ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے لئے دعائے خیر کا حکم دیتا ہے۔

(7).....ہر مومن سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا محتاج ہے کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو اولیاء اللہ کے سردار ہیں ان کے متعلق شفاعت کا حکم دیا گیا تو اوروں کا کیا پوچھنا۔

(8).....اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ افضل یہی ہے کہ حاضر رہیں اور اجازت طلب نہ کریں۔ یاد رہے کہ اسما تذہ و مشائخ اور دینی پیشواؤں کی مجلس سے بھی اجازت کے بغیر نہ جانا چاہیے۔

لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا قَدْ يَعْلَمُ
اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ مِنْكُمْ لِوَاذًا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ
أَمْرٍ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿۱۳﴾

ترجمہ کنز الایمان: رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ ٹھہراؤ جیسا تم میں ایک دوسرے کو پکارتا ہے بیشک اللہ جانتا ہے جو تم میں چپکے نکل جاتے ہیں کسی چیز کی آڑ لے کر تو ڈریں وہ جو رسول کے حکم کے خلاف کرتے ہیں کہ انہیں کوئی فتنہ پہنچے یا ان پر دردناک عذاب پڑے۔

ترجمہ کنزالعرفان: (اے لوگو!) رسول کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے، بیشک اللہ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں تو رسول کے حکم کی مخالفت کرنے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں دردناک عذاب پہنچے۔

﴿لَا تَجْعَلُوا: نہ بنا لو۔﴾ ارشاد فرمایا کہ اے لوگو! میرے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے پکارنے کو آپس میں ایسا نہ بنا لو جیسے تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ اس کا ایک معنی یہ ہے کہ اے لوگو! میرے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے پکارنے کو آپس میں ایسا معمولی نہ بنا لو جیسے تم میں سے کوئی دوسرے کو پکارتا ہے کیونکہ جسے رسولُ اللهُ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پکاریں اس پر جواب دینا اور عمل کرنا واجب اور ادب سے حاضر ہونا لازم ہو جاتا ہے اور قریب حاضر ہونے کے لئے اجازت طلب کرے اور اجازت سے ہی واپس ہو۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ اے لوگو! میرے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا نام لے کر نہ پکارو بلکہ تعظیم، تکریم، توقیر، نرم آواز کے ساتھ اور عاجزی و انکساری سے انہیں اس طرح کے الفاظ کے ساتھ پکارو: يَا رَسُولَ اللهِ، يَا نَبِيَّ اللهِ، يَا حَبِيبَ اللهِ، يَا اِمَامَ الْمُرْسَلِينَ، يَا رَسُولَ رَبِّ الْعَالَمِينَ، يَا خَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ تا جدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ظاہری حیاتِ طیبہ میں اور وصالِ ظاہری کے بعد بھی انہیں ایسے الفاظ کے ساتھ ندا کرنا جائز نہیں جن میں ادب و تعظیم نہ ہو۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ جس نے بارگاہِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو حقیر سمجھا وہ کافر ہے اور دنیا و آخرت میں ملعون ہے۔^(۱)

اسی لئے نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو ”یا محمد“ کہہ کر پکارنے کی اجازت نہیں۔ لہذا اگر کسی نعت وغیرہ میں اس طرح لکھا ہوا ملے تو اسے تبدیل کر دینا چاہیے۔

نوٹ: حضورِ اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو ”یا محمد“ کہہ کر پکارنے سے متعلق مزید تفصیل ”صراطِ الجحان“ کی جلد 1، صفحہ 48 پر ملاحظہ فرمائیں۔

﴿قَدْ يَعْلَمُ اللهُ: بیشک اللہ جانتا ہے۔﴾ شانِ نزول: جمعہ کے دن منافقین پر مسجد میں ٹھہر کر نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ

1..... بیضاوی، النور، تحت الآیة: ۶۳، ۲۰۳/۴، خازن، النور، تحت الآیة: ۶۳، ۳۶۵/۳، صاوی، النور، تحت الآیة: ۶۳، ۱۴۲۱/۴، ملتقطاً.

وَالِهٖ وَسَلَّم کے خطبے کا سننا گراں ہوتا تھا تو وہ چپکے چپکے، آہستہ آہستہ صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی آڑ لے کر سرکتے سرکتے مسجد سے نکل جاتے تھے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ بیشک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جانتا ہے جو تم میں سے کسی چیز کی آڑ لے کر چپکے سے نکل جاتے ہیں تو میرے حبیب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهٖ وَسَلَّم کے حکم سے اعراض کرنے والے اور ان کی اجازت کے بغیر چلے جانے والے اس بات سے ڈریں کہ انہیں دنیا میں تکلیف، قتل، زلزلے، ہولناک حوادث، ظالم بادشاہ کا مُسَلِّط ہونا یا دل کا سخت ہو کر معرفتِ الہی سے محروم رہنا وغیرہ کوئی مصیبت پہنچے یا انہیں آخرت میں دردناک عذاب پہنچے۔^(۱)

إِنَّا لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط قَدْ يَعْلَمُ مَا اَنْتُمْ عَلَيْهِ ط وَيَوْمَ
يُرْجَعُوْنَ اِلَيْهِ فَيَنْبِئُهُمْ بِمَا عَمِلُوْا ط وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمٌ ۝۶۴

ترجمہ کنزالایمان: سُن لو بیشک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بیشک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن کو جس میں اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا، اور اللہ سب کچھ جانتا ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: سُن لو! بیشک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، بیشک وہ جانتا ہے جس حال پر تم ہو اور اس دن کو (جانتا ہے) جس میں لوگ اس کی طرف پھیرے جائیں گے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ انہوں نے کیا اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے۔

﴿آلا: سُن لو!﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی عظمت و شان بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ سُن لو! جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہی ہے، بیشک وہ تمہارے ہر اُس حال کو جانتا ہے جس پر تم ہو یعنی ایمان پر ہو یا نفاق پر اور وہ اس دن کو جانتا ہے جس میں لوگ اس کی طرف جزا کے لئے پھیرے جائیں گے اور وہ دن روزِ قیامت ہے تو وہ انہیں بتا دے گا جو کچھ اچھا بُرا عمل انہوں نے کیا اور اللہ تعالیٰ ہر شے کو جاننے والا ہے اس سے کچھ چھپا نہیں۔^(۲)

①.....خازن، النور، تحت الآية: ۶۳، ۳۶۵/۳، مدارك، النور، تحت الآية: ۶۳، ص ۷۹۲، ملقطاً.

②.....خازن، النور، تحت الآية: ۶۴، ۳۶۵/۳، مدارك، النور، تحت الآية: ۶۴، ص ۷۹۳، ملقطاً.

سُورَةُ الْفُرْقَانِ

سورة فرقان کا تعارف

مقام نزول

سورة فرقان مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔^(۱)

رکوع اور آیات کی تعداد

اس میں 6 رکوع اور 77 آیتیں ہیں۔

”فرقان“ نام رکھنے کی وجہ

اس سورت کی پہلی آیت میں لفظ ”الْفُرْقَان“ مذکور ہے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام ”سورة فرقان“ رکھا

گیا ہے۔

سورة فرقان کے مضامین

اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے توحید، نبوت اور قیامت کے احوال کے بارے میں بیان فرمایا، نیز اس میں یہ مضامین بیان کئے گئے ہیں۔

(1)..... اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا، اس کی عظمت و شان، اولاد اور شریک سے رب تعالیٰ کے پاک ہونے کو بیان کیا گیا۔

(2)..... بتوں کے مجبور اور بے بس ہونے کو واضح کیا گیا۔

(3)..... قرآن پاک پر اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے اعتراضات ذکر کر کے ان کا رد کیا گیا۔

(4)..... قیامت کے دن کو جھٹلانے والے کافروں کی ہولناک سزا بیان کی گئی۔

(5)..... مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کئے جانے، کفار کے اعمال ضائع جانے اور شرک کرنے کی وجہ سے ان کے نادم

1..... خازن، تفسیر سورة الفرقان، ۳۶۵/۲.

ہونے کو بیان کیا گیا۔

(6)..... نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی تسلی کے لئے حضرت موسیٰ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی قوم، حضرت نوح عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی قوم، عاد، ثمود، اصحاب الرس اور حضرت لوط عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کی قوم کے واقعات بیان کئے گئے کہ ان لوگوں نے بھی اپنے انبیاء عَلَيْهِم الصَّلَاةُ وَالسَّلَام کو بہت ستایا اور اذیتیں دیں، انہیں جھٹلایا اور ان کی نافرمانیاں کیں اس لئے آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اپنی قوم کے کفار کے جھٹلانے سے غمزدہ نہ ہوں یہ کفار کا پُرانا دستور ہے۔

(7)..... اللہ تعالیٰ کی مختلف مصنوعات سے اس کی وحدانیت اور قدرت پر دلائل قائم کئے گئے۔

(8)..... اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے اور اس کی راہ میں تکلیفیں برداشت کرنے والے مؤمنین کی تعریف بیان کی گئی اور یہ بتایا گیا ہے کہ جھٹلانے والوں پر عنقریب عذاب نازل ہوگا۔

سورہ نور کے ساتھ مناسبت

سورہ فرقان کی اپنے سے ما قبل سورت ”نور“ کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ سورہ نور کے آخر میں بیان کیا گیا کہ زمین و آسمان اور ان میں موجود تمام چیزوں کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور سورہ فرقان کی ابتداء میں زمین و آسمان کے مالک رب تعالیٰ کی عظمت و شان بیان کی گئی کہ وہ اولاد سے پاک ہے اور اس کی ملکیت میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ نیز سورہ نور میں تین طرح کے دلائل سے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا (1) آسمان اور زمین کے احوال سے۔ (2) بارش نازل ہونے، اولے برسنے اور برف باری ہونے سے۔ (3) حیوانات کے احوال سے، جبکہ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرنے والی تمام مخلوقات کو بیان کیا گیا ہے جیسے سائے کا پھیلنا، دن اور رات، ہوا اور پانی، جانور اور انسان، سمندروں کا بہنا، انسان کی پیدائش، نسبی اور سسرالی رشتوں کا تقرر، 6 دن میں زمین و آسمان کی پیدائش، عرش پر استواء، آسمانوں میں بروج، سورج چاند اور اسی طرح کی دیگر چیزیں بیان کی گئیں ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے واحد و یکتا ہونے پر دلالت کرتی ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

ترجمہ کنزالایمان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان، رحمت والا ہے۔

تَبْرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۝۱

ترجمہ کنزالایمان: بڑی برکت والا ہے وہ کہ جس نے اُنٹا قرآن اپنے بندہ پر جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا ہو۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ (اللہ) بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے بندے پر قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔

﴿تَبْرَكَ﴾ وہ (اللہ) بڑی برکت والا ہے۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ وہ اللہ بڑی برکت والا ہے جس نے اپنے خاص بندے اور اپنے حبیب، انبیاء کے سردار، محمد مصطفیٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر حق اور باطل کے درمیان فرق کر دینے والا قرآن نازل فرمایا تاکہ وہ اس کے ذریعے تمام جہان والوں کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے پر اس کے عذاب کا ڈر سنانے والے ہوں۔^(۱)

﴿لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا﴾ تاکہ وہ تمام جہان والوں کو ڈر سنانے والا ہو۔ ﴿آیت کے اس حصے میں حضور سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی رسالت عام ہونے کا بیان ہے کہ آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ساری مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے، خواہ جن ہوں یا بشر، فرشتے ہوں یا دیگر مخلوقات، سب آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے اُمتی ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کے سوا ہر چیز کو عالم کہتے ہیں اور اس میں یہ سب داخل ہیں۔

نیز مسلم شریف میں حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: "أُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَآفَّةً" یعنی میں تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔^(۲)

علامہ علی قاری دَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِ اس کی شرح میں فرماتے ہیں: "یعنی تمام موجودات کی طرف (رسول بنا کر بھیجا

①.....روح البیان، الفرقان، تحت الآية: ۱، ۶/۱۸۷-۱۸۸.

②.....مسلم، کتاب المساجد ومواضع الصلاة، ص ۲۶۶، الحدیث: ۵ (۵۲۳).

گیا ہوں، خواہ) جن ہوں یا انسان یا فرشتے یا حیوانات یا جمادات۔“ (1)

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ
لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدْ رَأَاهُ تَقْدِيرًا ۝۲

ترجمہ کنزالایمان: وہ جس کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت اور اس نے نہ اختیار فرمایا بچہ اور اس کی سلطنت میں کوئی ساجھی نہیں اس نے ہر چیز پیدا کر کے ٹھیک اندازہ پر رکھی۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے اور اس نے نہ اولاد اختیار فرمائی اور نہ اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک ہے اور اس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا پھر اسے ٹھیک اندازے پر رکھا۔

﴿الَّذِي لَهُ: وہ جس کے لیے ہے۔﴾ اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی پانچ صفات بیان ہوئی ہیں:

- (1)..... آسمانوں اور زمین کی بادشاہت خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لئے ہے۔
- (2)..... اللہ تعالیٰ نے اولاد اختیار نہ فرمائی۔ اس میں ان یہودیوں اور عیسائیوں کا رد ہے جو حضرت عزیز اور حضرت عیسیٰ علیہما الصلوٰۃ والسلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں، مَعَاذَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔
- (3)..... اللہ تعالیٰ کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ اس میں بت پرستوں کا رد ہے جو بتوں کو خدا کا شریک ٹھہراتے ہیں۔

(4)..... ہر چیز کو صرف اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔

(5)..... ہر چیز کو اس کے حال کے مطابق ٹھیک اندازے پر رکھا۔ (2)

①..... مرقاة المفاتیح، کتاب الفضائل، باب فضائل سید المرسلین صلوات اللہ و سلامہ علیہ، الفصل الاول، ۱۰ / ۱۴، تحت الحدیث: ۵۷۴۸.

②..... حازن، الفرقان، تحت الآیة: ۲، ۳ / ۳۶، ملخصاً.

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا
يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا

نُسُورًا ③

ترجمہ کنزالایمان: اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے کہ وہ کچھ نہیں بناتے اور خود پیدا کیے گئے ہیں اور خود اپنی جانوں کے بُرے بھلے کے مالک نہیں اور نہ مرنے کا اختیار نہ جینے کا نہ اٹھنے کا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنائے جو کسی شے کو پیدا نہیں کرتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے اور وہ اپنے لئے کسی نقصان اور نفع کے مالک نہیں ہیں اور نہ وہ (کسی کی) موت اور زندگی کے اور نہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔

﴿وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً﴾ اور لوگوں نے اس کے سوا بہت سے معبود بنائے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے جو معبود، خالق، مالک اور قادر ہونے میں یکتا ہے، بت پرست اس کی عبادت کرنے پر بتوں کی عبادت کرنے کو ترجیح دے رہے ہیں حالانکہ وہ بت ایسے عاجز اور بے قدرت ہیں کہ کسی شے کو پیدا ہی نہیں کر سکتے بلکہ خود انہیں بنایا جاتا ہے اور وہ اپنے آپ سے کوئی ضرر دُور کرنے کی طاقت رکھتے ہیں نہ ہی خود کو کوئی نفع پہنچا سکتے ہیں، کسی کو موت اور زندگی دینے کے مالک ہیں نہ کسی کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے کا اختیار رکھتے ہیں۔^(۱)

مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگز نہیں

یاد رہے کہ مشہور اور معتبر تمام مفسرین نے نقصان دُور نہ کر سکنے اور نفع نہ پہنچا سکنے کا وصف بتوں کے لئے ثابت کیا ہے کسی نے بھی اس سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد نہیں لئے، فی زمانہ بعض لوگ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے مزارات مراد لیتے ہیں جو کہ انتہائی غلط اور قرآنی آیات کے معنی اپنی رائے سے گھڑنے کے مترادف ہے۔

①.....مدارك، الفرقان، تحت الآية: ۳، ص ۷۹۵.

بتوں کے بارے میں نازل ہونے والی آیتیں انبیاء کرام عَلَیْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ یا اولیاءِ عظامِ رَحْمَةُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَیْهِمْ پر چسپاں کرنا خارجیوں کا طریقہ ہے۔ مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں پوجتے ہرگز نہیں، احترام اور پوجنے میں بڑا فرق ہے۔

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا إِفْكٌ افْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ
آخَرُونَ فَقَدْ جَاءُوا ظُلْمًا وَزُورًا ۚ

ترجمہ کنزالایمان: اور کافر بولے یہ تو نہیں مگر ایک بہتان جو انہوں نے بنا لیا ہے اور اس پر اور لوگوں نے انہیں مدد دی ہے بیشک وہ ظلم اور جھوٹ پر آئے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کافروں نے کہا: یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو انہوں نے خود بنا لیا ہے اور اس پر دوسرے لوگوں نے (بھی) ان کی مدد کی ہے تو بیشک وہ (کافر) ظلم اور جھوٹ پر آگئے ہیں۔

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ اور کافروں نے کہا۔ ﴿اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں کلام کیا گیا اور اس کے بعد بت پرستوں کا رد کیا گیا اور اب یہاں سے قرآن مجید اور نبی کریم صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نبوت پر کفار کی طرف سے ہونے والے اعتراضات ذکر کر کے ان کا جواب دیا جا رہا ہے۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ نضر بن حارث اور اس کے ساتھیوں نے قرآن کریم کے بارے میں کہا کہ یہ قرآن تو صرف ایک بڑا جھوٹ ہے جو رسول اللہ صَلَّی اللَّهُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے خود بنا لیا ہے اور اس پر یہودیوں اور عدا سے ویسا وغیرہ اہل کتاب نے بھی ان کی مدد کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں ارشاد فرمایا کہ وہ یعنی نضر بن حارث وغیرہ مشرکین جو یہ بے ہودہ بات کہہ رہے ہیں، ظلم اور جھوٹ پر آگئے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی مثل لانے سے عاجز کر دینے والے کلام کو یہودیوں کے تعاون سے گھڑا ہوا جھوٹ کہا اور اس مقدس کلام کی طرف وہ بات منسوب کی جو اس کی شان کے لائق ہی نہیں۔^(۱)

1..... روح البیان، الفرقان، تحت الآية: ۴، ۱۸۹/۶-۱۹۰، حازن، الفرقان، تحت الآية: ۴، ۳۶۶/۳، ملقطاً.

وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُلَىٰ عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور بولے اگلوں کی کہانیاں ہیں جو انہوں نے لکھی ہیں تو وہ ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کافروں نے کہا: (یہ قرآن) پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو اس (نبی) نے کسی سے لکھوائی ہیں تو یہی ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں۔

﴿وَقَالُوا﴾ اور کافروں نے کہا۔ ﴿یعنی وہی مشرکین قرآن کریم کے بارے میں یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بلکہ رستم و اسفندیار وغیرہ کے قصوں کی طرح پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی سے لکھوائی ہیں، کیونکہ کسی سے پڑھے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے یہ خود لکھ نہیں سکتے، اس لئے دوسروں سے لکھوائی ہیں، پھر یہی کہانیاں ان پر صبح و شام پڑھی جاتی ہیں تاکہ سن سن کر انہیں یاد ہو جائیں اور جب آپ کو یاد ہو جاتی ہیں تو وہی کہانیاں ہمیں سنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے۔^(۱)

قُلْ أَنْزَلَهُ الَّذِي يَعْلَمُ السِّرَّ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ

غَفُورًا رَحِيمًا ۝

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ اسے تو اس نے اُتارا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر چھپی بات جانتا ہے بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: اسے تو اُس نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر پوشیدہ بات جانتا ہے، بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔

①.....خازن، الفرقان، تحت الآیة: ۵، ۳۶۶/۲، روح البیان، الفرقان، تحت الآیة: ۵، ۱۹۰/۶، ملتقطاً.

﴿قُلْ: تم فرماؤ۔﴾ اللہ تعالیٰ نے کفار کا رد کرتے ہوئے فرمایا کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ ان کفار سے فرمادیں کہ اس قرآن کو تو اس اللہ عَزَّوَجَلَّ نے نازل فرمایا ہے جو آسمانوں اور زمین کی ہر بات جانتا ہے، یعنی قرآن کریم غیبی علوم پر مشتمل ہے اور یہ اس بات کی صریح دلیل ہے کہ قرآن پاک غیبوں کو جاننے والے رب تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ (1)

﴿إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا﴾: بیشک وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ ﴿یعنی اے کافرو! تم نے قرآن مجید کے بارے میں جو بات کہی اس کی وجہ سے تم اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ہو گئے اور اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب دینے پر کامل قدرت بھی رکھتا ہے لیکن اس نے تم پر مہربانی کرتے ہوئے فوری عذاب نازل نہیں فرمایا بلکہ تمہیں مہلت دی تاکہ تم اپنی بات سے رجوع اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کر سکو، اگر تم نے ایسا کر لیا تو وہ تمہیں بخشنے والا مہربان ہے۔ (2)

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَشِي فِي الْأَسْوَاقِ ۗ لَوْلَا
أُنزِلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ۝

ترجمہ کنزالایمان: اور بولے اس رسول کو کیا ہوا کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں چلتا ہے کیوں نہ اتارا گیا ان کے ساتھ کوئی فرشتہ کہ ان کے ساتھ ڈر سنا تا۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور کافروں نے کہا: اس رسول کو کیا ہوا؟ کہ یہ کھانا بھی کھاتا ہے اور بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے، اس کی طرف کوئی فرشتہ کیوں نہ اتار دیا گیا جو اس کے ساتھ (لوگوں کو) ڈرانے والا ہوتا؟

﴿وَقَالُوا: اور کافروں نے کہا۔﴾ اس آیت سے کفار کی جانب سے تاجدارِ رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی نبوت پر ہونے والے اعتراضات کو ذکر کیا گیا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ کفار قریش نے کعبہ شریف کے نزدیک

1..... مدارك، الفرقان، تحت الآية: ۶، ص ۷۹۵.

2..... روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ۶، ۷/۱۹۰، ملخصاً.

جمع ہو کر یہ کہا: اس رسول کو کیا ہوا کہ یہ ہماری طرح کھانا بھی کھاتا ہے اور ہماری طرح رزق کی تلاش میں بازاروں میں بھی چلتا پھرتا ہے۔ اس سے ان کافروں کی مراد یہ تھی کہ اگر آپ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نبی ہوتے تو نہ کھاتے، نہ بازاروں میں چلتے اور یہ بھی نہ ہوتا تو ان کی طرف ان کی تائید کیلئے کوئی فرشتہ کیوں نہ اُتار دیا گیا جو ان کے ساتھ ہوتا اور لوگوں کو ان کی اطاعت کا کہتا ہے اور نافرمانی سے ڈراتا نیز ان کی تصدیق کرتا اور ان کی نبوت کی گواہی دیتا۔^(۱)

أَوْ يُلْقَىٰ إِلَيْهِ كَنزٌ أَوْ تَكُونُ لَهُ جَنَّةٌ يَأْكُلُ مِنْهَا وَقَالَ الظَّالِمُونَ
إِنْ تَتَّبِعُونَ إِلَّا مَرْجُلًا مَّسْحُورًا ۝۸

ترجمہ کنزالایمان: یا غیب سے انہیں کوئی خزانہ مل جاتا یا ان کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے کھاتے اور ظالم بولے تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔

ترجمہ کنزالعرفان: یا اس کی طرف کوئی (غیبی) خزانہ ڈال دیا جاتا یا اس کا کوئی باغ ہوتا جس میں سے یہ کھاتا؟ اور ظالموں نے کہا: تم تو پیروی نہیں کرتے مگر ایک ایسے مرد کی جس پر جادو ہوا۔

﴿أَوْ يُلْقَىٰ﴾: یا ڈال دیا جاتا۔ ﴿اس آیت میں رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں کفار قریش کی مزید بیہودہ باتیں بیان کی گئیں کہ انہوں نے کہا: ان کی طرف آسمان سے کوئی خزانہ ڈال دیا جاتا اور یہ معاش کے حصول سے بے نیاز ہو جاتے، اور اگر انہیں کوئی خزانہ نہیں ملنا تھا تو کم از کم ان کا کوئی باغ تو ہوتا جس میں سے یہ مالداروں کی طرح کھاتے۔^(۲)

اللہ تعالیٰ کی عطا سے غیبی خزانے حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے قبضہ میں ہیں

یاد رہے کہ ان سب باتوں سے کفار کا منشا یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو کھانے

①.....صاوی، الفرقان، تحت الآية: ۷، ۴ / ۱۴۲۵، روح البیان، الفرقان، تحت الآية: ۷، ۶ / ۱۹۱، مدارك، الفرقان، تحت الآية: ۷-۸، ص ۷۹۶، ملتقطاً.

②.....روح البیان، الفرقان، تحت الآية: ۸، ۶ / ۱۹۲.

پینے سے بے نیاز کیوں نہ کر دیا، یا تو انہیں کھانا کھانے کی حاجت ہی نہ ہوتی، اگر تھی تو غیبی خزانے ان پر آجاتے جس سے انہیں کمانے کی ضرورت نہ ہوتی، یہ بھی انہوں نے ظاہر کے لحاظ سے کہہ دیا، ورنہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں غیبی خزانے تھے اور حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جنتی باغوں پر قابض بھی تھے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: **”إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ“** ہم نے آپ کو کوثر بخش دیا۔^(۱)

اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم خود فرماتے ہیں: **”أُعْطِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ“** مجھے زمینی خزانوں کی کنجیاں عطا فرمادی گئیں۔^(۲)

اور فرماتے ہیں کہ ”اگر میں چاہوں تو میرے ساتھ سونے کے پہاڑ چلا کر میں۔“^(۳) اور فرماتے ہیں کہ میں نے (دوران نماز قبلہ کی دیوار میں) جنت دیکھی اور اس سے ایک خوشہ لینا چاہا اور اگر لے لیتا تو جب تک دنیا باقی رہتی تم اس سے کھاتے۔^(۴)

مگر چونکہ کفار کے سامنے ان چیزوں کا ظہور نہ تھا اس لئے کفار ایسی باتیں کہا کرتے تھے۔
﴿وَقَالَ الظَّالِمُونَ﴾ اور ظالموں نے کہا۔ ﴿کفار کے بارے میں مزید ارشاد فرمایا کہ انہوں نے مسلمانوں سے کہا: تم ایک ایسے مرد کی پیروی کرتے ہو جس پر جادو ہے اور معاذ اللہ ان کی عقل ٹھکانے پر نہیں ہے۔^(۵)
 اس سے معلوم ہوا کہ کفار کو خود اپنی بات پر فرار نہ تھا کبھی حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جادو گر کہتے تھے اور کبھی کہتے کہ ان پر جادو کیا گیا ہے۔ کبھی شاعر کہتے، کبھی کاہن، وہ خود اپنے قول سے جھوٹے تھے۔

أَنْظُرُ كَيْفَ ضَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ فَضَلُّوا فَلَا يَسْتَطِيعُونَ سَبِيلًا ۝

ترجمہ کنزالایمان: اے محبوب دیکھو کیسی کہاوتیں تمہارے لیے بنا رہے ہیں تو گمراہ ہوئے کہ اب کوئی راہ نہیں پاتے۔

① کوثر: ۱.

② بخاری، کتاب الجنائز، باب الصلاة على الشهيد، ۴۵۲/۱، الحدیث: ۱۳۴۴.

③ شرح السنہ، کتاب الفضائل، باب تواضعه صلی اللہ علیہ وسلم، ۴۰/۷، الحدیث: ۳۵۷۷.

④ بخاری، کتاب الاذان، باب رفع البصر الى الامام في الصلاة، ۲۶۵/۱، الحدیث: ۷۴۸.

⑤ جلالین، الفرقان، تحت الآية: ۸، ص ۳۰۳.

ترجمہ کنز العرفان: اے حبیب! دیکھو تمہارے لئے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں تو یہ گمراہ ہو گئے ہیں کہ اب انہیں کسی راہ کی طاقت نہیں۔

﴿ **أَنْظُرْ كَيْفَ صَرَبُوا لَكَ الْأَمْثَالَ** ﴾: دیکھو تمہارے لئے کیسی مثالیں بیان کر رہے ہیں۔ ﴿ اس سے اوپر والی آیات میں نبی کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں بیان کی گئی کفار کی بیہودہ باتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، آپ دیکھیں کہ یہ کفار آپ کے بارے میں کیسی عجیب و غریب اور عقل سے خارج باتیں کر رہے ہیں اور یہ باتیں عجیب ہونے کی وجہ سے کہاوتوں کی طرح ہیں اور انہوں نے آپ کے لئے کیسے احوال گھڑ لئے ہیں جن کا واقع ہونا ہی بعید ہے۔ یہ لوگ آپ کی شان سے جاہل اور آپ کے جمال سے غافل ہیں کہ انہوں نے جادو کئے ہوئے اور محتاج کے ساتھ آپ کو تشبیہ دے دی حالانکہ جادو کیا ہوا اور محتاج شخص کبھی بھی رسول ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اسی وجہ سے یہ لوگ واضح طور پر حق سے گمراہ ہو گئے اور اب انہیں ہدایت کی کسی راہ کی طاقت نہیں اور اپنی گمراہی سے نکلنے کا ان کے پاس کوئی راستہ نہیں۔^(۱)

**تَبْرَكَ الَّذِي أَنْ شَاءَ جَعَلَ لَكَ خَيْرًا مِنْ ذَلِكَ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ وَيَجْعَلُ لَكَ قُصُورًا ۝۱۰**

ترجمہ کنز الایمان: بڑی برکت والا ہے وہ کہ اگر چاہے تو تمہارے لیے بہت بہتر اس سے کر دے جنتیں جن کے نیچے نہریں بہیں اور کر دے تمہارے لیے اونچے اونچے محل۔

ترجمہ کنز العرفان: وہ (اللہ) بڑی برکت والا ہے جو اگر چاہے تو تمہارے لیے اس سے بہتر بنا دے، وہ باغات جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور تمہارے لئے بلند و بالا محلات بنا دے۔

①..... روح لبیان، الفرقان، تحت الآية: ۹، ۶/۱۹۲، ملخصاً.

﴿إِنْ شَاءَ﴾: اگر چاہے۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ وہ اگر چاہے تو اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، تمہارے لیے کافروں کے ان بیان کردہ خزانوں اور باغات سے بہتر چیزیں عطا فرمادے اور دنیا میں ایسے باغات بنا دے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں اور تمہارے لئے بلند و بالا محلات بنا دے لیکن اللہ تعالیٰ چونکہ اپنی مشیت اور بندوں کی مصلحت کے مطابق ان کے معاملات کی تدبیر فرماتا ہے اس لئے اس کے کام پر کسی کو اعتراض کا حق حاصل نہیں۔^(۱)

حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے دنیا کے مال و دولت پر فقر کو ترجیح دی

اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تاجدار رسالت صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کا مقام اتنا بلند ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کو دنیا کی بڑی سے بڑی نعمتیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ آسائشیں عطا فرمادے لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے لئے دنیا کی زیب و زینت اور اس کی آسائشوں کو پسند نہیں فرمایا اور حضور پُر نور صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے بھی دنیا میں فقر کو ترجیح دی، اسی سلسلے میں 2 احادیث ملاحظہ ہوں،

(1)..... حضرت اُمّ سلیم رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: میں حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی ایک زوجہ محترمہ کے حجرے میں تھی اور نبی کریم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بھی اپنی زوجہ محترمہ کے پاس تھے کہ ایک شخص حاضر ہوا اور اس نے آپ سے حاجت مند ہونے کی شکایت کی۔ آپ نے اس سے ارشاد فرمایا: ”تم صبر کرو، خدا کی قسم! محمد (صَلَّى اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) کی آل کے پاس سات دن سے کچھ نہیں ہے اور (ان کے گھروں میں) تین دن سے ہنڈیا کے نیچے آگ نہیں جلائی گئی، اللہ کی قسم! اگر میں اللہ تعالیٰ سے تہامہ کے تمام پہاڑوں کو سونا بنا دینے کا سوال کروں تو وہ ان سب پہاڑوں کو ضرور سونا بنا دے گا۔“⁽²⁾

(2)..... اُمّ المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں: میں نے عرض کی: یا رسول اللہ! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ، کیا آپ اللہ تعالیٰ سے کھانا نہیں مانگتے کہ وہ آپ کو عطا کرے؟ آپ فرماتی ہیں کہ میں رسول اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بھوک کو دیکھ کر رو پڑی تھی۔ حضور اکرم صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اے عائشہ!

①..... جلالین، الفرقان، تحت الآية: ۱۰، ص ۳۰۳، تفسیر کبیر، الفرقان، تحت الآية: ۱۰، ۴۳۵/۸، ملقطاً.

②..... مجمع الزوائد، کتاب الزهد، باب فی عیش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والسلف، ۵۸۳/۱۰، الحدیث: ۱۸۲۸۶.

رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، اس ذات کی قسم! جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر میں اللہ تعالیٰ سے سوال کروں کہ وہ دنیا کے پہاڑوں کو سونے کا بنا کر میرے ساتھ چلائے تو میں زمین میں جہاں جاؤں اللہ تعالیٰ وہیں پہاڑوں کو سونا بنا کر میرے ساتھ چلا دے گا لیکن میں نے دنیا کی بھوک کو اس کے سیر ہونے پر، دنیا کے فقر کو اس کی مالداری پر اور اس کے غم کو اس کی خوشی پر ترجیح دی ہے، اے عائشہ! رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا، دنیا محمد (صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ) اور ان کی آل کے لیے مناسب نہیں۔^(۱)

بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ ^ق وَأَعْتَدْنَا لِمَنْ كَذَّبَ بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا ^ج ۱۱ إِذَا
رَأَوْهُمْ مِنْ مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُوا لَهَا تَغِيظًا وَزَفِيرًا ۱۲ وَإِذَا أَلْقَا مِنْهَا
مَكَانًا ضِيقًا مُقْرَبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا ^ط ۱۳ لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا
وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا ۱۴

ترجمہ کنزالایمان: بلکہ یہ تو قیامت کو جھٹلاتے ہیں اور جو قیامت کو جھٹلائے ہم نے اس کے لیے تیار کر رکھی ہے بھڑکتی ہوئی آگ۔ جب وہ انہیں دُور جگہ سے دیکھے گی تو سنیں گے اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا۔ اور جب اس کی کسی تنگ جگہ میں ڈالے جائیں گے زنجیروں میں جکڑے ہوئے تو وہاں موت مانگیں گے۔ فرمایا جائے گا آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔

ترجمہ کنزالعرفان: بلکہ انہوں نے قیامت کو جھٹلایا ہے اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کیلئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ جب وہ آگ انہیں دُور کی جگہ سے دیکھے گی تو کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے۔ اور جب انہیں اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں زنجیروں میں جکڑ کر ڈالا جائے گا تو وہاں موت مانگیں گے۔ (فرمایا جائے گا) آج ایک موت

1..... احیاء علوم الدین، کتاب الفقر والزهد، الشطر الثانی، فضیلة الزهد، ۲۷۳/۴.

نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو۔

﴿بَلْ: بلکہ۔﴾ یعنی اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم، ان کافروں نے آپ صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم کی شان میں گستاخیاں ہی نہیں کیں بلکہ انہوں نے قیامت کو بھی جھٹلایا ہے اور ہم نے قیامت کو جھٹلانے والوں کیلئے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے۔ (1)

﴿اِذَا رَاٰنْتُمْ مِّنْ مَّکَانَ بَعِیْدٍ﴾: جب وہ آگ انہیں دُور کی جگہ سے دیکھے گی۔ ﴿ارشاد فرمایا کہ جب وہ بھڑکتی ہوئی آگ انہیں دُور کی جگہ سے دیکھے گی تو اس قدر جوش مارے گی کہ کافر اس کا جوش مارنا اور چنگھاڑنا سنیں گے۔ دُور کی جگہ سے مراد ایک برس کی راہ ہے اور بعض مفسرین کے نزدیک سو برس کی راہ مراد ہے اور آگ کا دیکھنا کچھ بعید نہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو اس کو حیات، عقل اور دیکھنے کی صلاحیت عطا فرمادے۔ بعض مفسرین کے نزدیک اس سے جہنم میں مامور فرشتوں کا دیکھنا مراد ہے۔ (2)

﴿وَ اِذَا اُلْقُوْا﴾: اور جب انہیں ڈالا جائے گا۔ ﴿اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ان کفار کو اس آگ کی کسی تنگ جگہ میں جو انتہائی کرب و بے چینی پیدا کرنے والی ہو، زنجیروں میں جکڑ کر اس طرح ڈالا جائے گا کہ اُن کے ہاتھ گردنوں سے ملا کر باندھ دیئے گئے ہوں یا اس طرح کہ ہر ہر کافر اپنے اپنے شیطان کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہو، تو وہ وہاں موت مانگیں گے اور ”وَاثْبُوْرَاہُ، وَاثْبُوْرَاہُ“ یعنی ہائے! اے موت آ جا، کاشور چائیں گے اور اس وقت ان سے فرمایا جائے گا: آج ایک موت نہ مانگو اور بہت سی موتیں مانگو کیونکہ تم طرح طرح کے عذابوں میں مبتلا کئے جاؤ گے۔ (3)

حضرت انس بن مالک رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم نے ارشاد فرمایا: ”سب سے پہلے جس شخص کو آتشی لباس پہنایا جائے گا وہ ابلیس ہے اور اس کی ذریت اس کے پیچھے ہوگی اور یہ سب موت موت پکارتے ہوں گے۔“ ان سے کہا جائے گا: ”آج ایک موت نہ مانگو بلکہ بہت سی موتیں مانگو۔“ (4)

①.....مدارک، الفرقان، تحت الآية: ۱۱، ص ۷۹۶، ملخصاً.

②.....حازن، الفرقان، تحت الآية: ۱۲، ص ۳۶۷/۳.

③.....مدارک، الفرقان، تحت الآية: ۱۳-۱۴، ص ۷۹۶-۷۹۷.

④.....مصنف ابن ابی شیبہ، کتاب ذکر النار، ما ذکر فیما اعد لاهل النار وشدتہ، ۸/۹۰، الحدیث: ۵۲.

قُلْ أَذَلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ ۖ كَانَتْ لَهُمْ
جَزَاءً وَّ مَصِيرًا ﴿۱۵﴾

ترجمہ کنزالایمان: تم فرماؤ کیا یہ بھلا یا وہ ہمیشگی کے باغ جس کا وعدہ ڈروالوں کو ہے وہ ان کا صلہ اور انجام ہے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تم فرماؤ: کیا یہ (عذابِ جہنم) بہتر ہے یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے، وہ باغ ان کے لئے بدلہ اور لوٹنے کی جگہ ہے۔

﴿قُلْ﴾ تم فرماؤ۔ ﴿یعنی اے حبیب! صَلَّی اللہُ تَعَالَى عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمَ﴾، آپ ان سے فرمائیں کہ کیا جہنم کا عذاب اور اس کی ہولناکیاں جن کا ذکر کیا گیا، یہ بہتر ہیں یا وہ ہمیشہ رہنے کا باغ جس کا اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے عذاب سے ڈرنے والوں کو وعدہ دیا گیا ہے، وہ باغ اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کے کرم کے مطابق ان کے لئے اعمال کا بدلہ اور وہ جگہ ہے جس کی طرف یہ لوٹ کر جائیں گے۔ (۱)

لَهُمْ فِيهَا مَا يَشَاءُونَ خُلْدٍ ۖ يَنْظُرُونَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعُودًا مَّسْوُورًا ﴿۱۶﴾

ترجمہ کنزالایمان: ان کے لیے وہاں من مانی مرادیں ہیں جن میں ہمیشہ رہیں گے تمہارے رب کے ذمہ وعدہ ہے مانگا ہوا۔

ترجمہ کنزالعرفان: جنتوں کیلئے جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جو وہ چاہیں گے، وہاں ہمیشہ رہیں گے، یہ تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے۔

﴿لَهُمْ﴾ ان کے لیے۔ ﴿یعنی جنتوں کے لئے جنت میں ان کے مرتبے کے مطابق ہر وہ نعمت اور لذت ہوگی جو وہ چاہیں

①.....جلالین، الفرقان، تحت الآية: ۱۵، ص ۳۰۳، روح البیان، الفرقان، تحت الآية: ۱۵، ۱۹۵/۶-۱۹۶، ملتقطاً۔

گے اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔^(۱)

﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ وَعْدًا مَسْئُولًا﴾: یہ تمہارے رب کے ذمہ کرم پر مانگا ہوا وعدہ ہے۔ ﴿مَا نَكَّ هُوَ وَعْدَے سے مراد یہ ہے کہ وہ وعدہ مانگنے کے لائق ہے یا اس سے مراد وہ وعدہ ہے جو مومنین نے دنیا میں یہ عرض کر کے مانگا: ”رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً“ یعنی اے ہمارے رب! ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور ہمیں آخرت میں (بھی) بھلائی عطا فرما۔ یا یہ عرض کر کے مانگا: ”رَبَّنَا وَآتِنَا مَا وَعَدْتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ“ یعنی اے ہمارے رب! اور ہمیں وہ سب عطا فرما جس کا تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ہم سے وعدہ فرمایا ہے۔^(۲)

وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ ءَأَنْتُمْ أَصَلَّيْتُمْ
عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ ﴿۱۷﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور جس دن اکٹھا کرے گا انہیں اور جن کو اللہ کے سوا پوجتے ہیں پھر ان معبودوں سے فرمائے گا کیا تم نے گمراہ کر دیئے یہ میرے بندے یا یہ خود ہی راہ بھولے۔

ترجمہ کنزالعرفان: اور جس دن وہ انہیں اور جن (بتوں) کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں ان کو جمع فرمائے گا تو (ان بتوں سے) فرمائے گا: کیا میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی راستے سے بھٹکے تھے؟

﴿وَيَوْمَ يُحْشَرُهُمْ﴾: اور جس دن انہیں اکٹھا کرے گا۔ ﴿یعنی جس دن اللہ تعالیٰ مشرکین کو اور ان کے باطل معبودوں کو جن کی یہ اللہ تعالیٰ کے سوا عبادت کیا کرتے تھے، جمع فرمائے گا تو ان معبودوں سے فرمائے گا: کیا میرے بندوں کو تم نے گمراہ کیا تھا یا یہ خود ہی ہدایت کے راستے سے بھٹکے تھے؟ اللہ تعالیٰ حقیقتِ حال کا جاننے والا ہے اس سے کچھ بھی مخفی نہیں، یہ سوال مشرکین کو ذلیل کرنے کے لئے ہے تاکہ ان کے معبود انہیں جھٹلائیں تو ان کی حسرت و ذلت اور زیادہ ہو۔ باطل

①..... روح البیان، الفرقان، تحت الآية: ۱۶، ۱۹۶/۶.

②..... خازن، الفرقان، تحت الآية: ۱۶، ۳۶۸/۳.

معبودوں سے عام معبود مراد ہیں چاہے وہ ذوی العقول ہوں یا غیر ذوی العقول، جبکہ کلبی نے کہا کہ ان معبودوں سے بُت مراد ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ بولنے کی قوت دے گا۔^(۱)

قَالُوا سُبْحٰنَكَ مَا كَانَ يُبٰغِي لَنَا اَنْ نَّتَّخِذَ مِنْ دُوْنِكَ مِنْ اَوْلِيَاءٍ
وَلٰكِنْ مَتَّبَعْتَهُمْ وَاٰبَاءَهُمْ حَتّٰى نَسُوَ الَّذِيْ كَرِهَ وَكَانُوْا قَوْمًا بُرًا ۝۱۸

ترجمہ کنزالایمان: وہ عرض کریں گے پاکی ہے تجھ کو ہمیں سزاوار نہ تھا کہ تیرے سوا کسی اور کو مولیٰ بنائیں لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو برتنے دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے اور یہ لوگ تھے ہی ہلاک ہونے والے۔

ترجمہ کنزالعرفان: وہ عرض کریں گے: (اے اللہ!) تو پاک ہے، ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو فائدہ اٹھانے دیا یہاں تک کہ انہوں نے (تیری) یاد کو بھلا دیا اور یہ لوگ ہلاک ہونے والے ہی تھے۔

قَالَ: وہ عرض کریں گے۔ یعنی وہ باطل معبود عرض کریں گے: اے اللہ! عَزَّوَجَلَّ، تو اس سے پاک ہے کہ کوئی تیرا شریک ہو، خود ہمارے لئے ہرگز جائز نہیں تھا کہ ہم تیرے سوا کسی اور کو مددگار بنائیں تو کیا ہم کسی دوسرے کو تیرے غیر کو معبود بنانے کا حکم دے سکتے تھے؟ ہم تیرے بندے ہیں، لیکن تو نے انہیں اور ان کے باپ داداؤں کو دنیا سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور انہیں اموال، اولاد، لمبی عمر، صحت و سلامتی عنایت کی یہاں تک کہ یہ غفلت میں پڑے اور انہوں نے تیری یاد کو بھلا دیا اور تیری نعمتوں کو یاد کرنا اور تیری آیتوں میں غور و تدبیر کرنا چھوڑ دیا اور انہوں نے اپنے بُرے اختیار کی وجہ سے ہدایت کے اسباب کو گمراہی اور سرکشی کا ذریعہ بنا لیا اور یہ لوگ تیری آذلی قضا میں ہلاک ہونے والے ہی تھے۔^(۲)

فَقَدْ كَذَّبُوْكُمْ بِمَا تَقُوْلُوْنَ ۗ فَمَا تَسْتَطِيعُوْنَ صِرْفًا وَّلَا نَصْرًا ۗ

۱..... مدارك، الفرقان، تحت الآية: ۱۷، ص ۷۹۷.

۲..... خازن، الفرقان، تحت الآية: ۱۸، ۳۶۸/۳-۳۶۹، مدارك، الفرقان، تحت الآية: ۱۸، ۷۹۷-۷۹۸، روح البيان، الفرقان، تحت الآية: ۱۸، ۱۹۷/۶، منقطاً.

مَنْ يَظْلِمِ مِنْكُمْ نُدِقُهُ عَذَابًا كَبِيرًا ﴿۱۹﴾

ترجمہ کنزالایمان: تو اب معبودوں نے تمہاری بات جھٹلا دی تو اب تم نہ عذاب پھیر سکو نہ اپنی مدد کر سکو اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔

ترجمہ کنزالعرفان: تو بیشک ان (جھوٹے معبودوں) نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا تو اب تم نہ عذاب پھیرنے کی طاقت رکھو گے اور نہ اپنی مدد کر سکو گے اور تم میں جو ظالم ہے ہم اسے بڑا عذاب چکھائیں گے۔

﴿فَقَدْ كَذَّبْتُمْ بِمَا تَقُولُونَ﴾ پس بیشک انہوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا۔ ﴿جب کفار کے باطل معبود جو اب دے لیں گے تو اللہ تعالیٰ مشرکوں سے فرمائے گا: اے مشرک! تم نے اپنے معبودوں کو خدا کہا اور انہوں نے تمہیں جھوٹا کر دیا اب یہ بت نہ تمہاری مدد کر سکیں گے، نہ ہم کریں گے اور نہ تم ایک دوسرے کی مدد کر سکو گے اور تم میں جو ظالم یعنی کافر اور کافر گرہے ہم اسے جہنم کا بڑا عذاب چکھائیں گے۔^(۱)

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الرُّسُلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ
وَيَشْرَبُونَ فِي الْأَسْوَاقِ ۖ وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً ۖ أَتَصْبِرُونَ ۗ وَ
كَانَ رَبُّكَ بِصِيرٍ ۙ ﴿۲۰﴾

ترجمہ کنزالایمان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب ایسے ہی تھے کھانا کھاتے اور بازاروں میں چلتے اور ہم نے تم میں ایک کو دوسرے کی جانچ کیا ہے اور اے لوگو! کیا تم صبر کرو گے اور اے محبوب تمہارا رب دیکھتا ہے۔

۱..... روح البیان، الفرقان، تحت الآية: ۱۹، ۶/۱۹، ملخصاً.

ترجمہ کنز العرفان: اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے سب یقیناً کھانا کھاتے تھے اور بازاروں میں چلتے تھے اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کیلئے آزمائش بنایا اور (اے لوگو!) کیا تم صبر کرو گے؟ اور (اے محبوب!) تمہارا رب خوب دیکھنے والا ہے۔

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ﴾ اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے۔ ﴿اس آیت میں کفار کے اس طعن کا جواب دیا گیا ہے جو انہوں نے سید المرسلین صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ پر کیا تھا کہ وہ بازاروں میں چلتے ہیں اور کھانا کھاتے ہیں، یہاں بتایا گیا کہ یہ امور نبوت کے منافی نہیں بلکہ یہ تمام انبیاء عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی مستقل عادت تھی لہذا یہ اعتراض محض جہالت اور عناد پر مبنی ہے۔

﴿وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً﴾ اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کیلئے آزمائش بنایا۔ ﴿اس آیت کے شان نزول کے بارے میں تین قول ہیں:

(1)..... امیر لوگ جب اسلام لانے کا ارادہ کرتے تھے تو وہ غریب صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کو دیکھ کر یہ خیال کرتے کہ یہ ہم سے پہلے اسلام لائے اس لئے انہیں ہم پر ایک فضیلت رہے گی۔ اس خیال سے وہ اسلام قبول کرنے سے باز رہتے اور امیروں کے لئے غریب صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ آزمائش بن جاتے۔

(2)..... یہ آیت ابو جہل، ولید بن عقبہ، عاص بن وائل سہمی اور نضر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی، ان لوگوں نے حضرت ابو ذر، حضرت عبد اللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر، حضرت بلال، حضرت صہیب اور حضرت عامر بن فہیرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کو دیکھا کہ پہلے سے اسلام لائے ہیں تو غرور سے کہا کہ ہم بھی اسلام لے آئیں تو انہیں جیسے ہو جائیں گے تو ہم میں اور ان میں فرق کیا رہ جائے گا۔

(3)..... یہ آیت مسلمان فقراء کی آزمائش میں نازل ہوئی جن کا کفار قریش مذاق اڑایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ تاجدار رسالت صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی پیروی کرنے والے یہ لوگ ہیں جو ہمارے غلام اور اَرْدَل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی اور ان مؤمنین سے فرمایا: ”کیا تم اس فقر و شدت پر اور کفار کی اس بدگوئی پر صبر کرو گے اور اے حبیب! صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ تمہارا رب عَزَّ وَجَلَّ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو صبر کرے اور اس کو بھی جو بے صبری کرے۔“ (1)

1..... حازن، الفرقان، تحت الآية: ۲۰، ۳۶۹/۳۔

غربت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے

اس آیت سے معلوم ہوا کہ دنیا کا مال نہ ہونا اور غربت کا شکار ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش ہے، ایسے موقع پر صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑنا چاہئے، اس جگہ ہم 3 ایسی احادیث ذکر کرتے ہیں کہ اگر غریب اور مفلوک الحال مسلمان ان پر عمل کر لیں تو ان شاء اللہ عزوجل انہیں صبر و قرار نصیب ہو جائے گا۔

(1)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، رسول کریم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”جب تم میں سے کوئی شخص اس کی طرف دیکھتا ہے جس کو اس پر مال اور شکل و صورت میں فضیلت حاصل ہو تو اس کو چاہئے کہ وہ اپنے سے کم درجے والے کی طرف دیکھے جس پر اسے فضیلت حاصل ہے۔“ (1)

(2)..... حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، حضور اقدس صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”اپنے سے کم حیثیت والے کی طرف دیکھو اور جو تم سے زیادہ حیثیت کا ہے اس کی طرف نہ دیکھو کیونکہ یہ عمل اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم (اپنے اوپر) اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو حقیر نہ جانو۔“ (2)

(3)..... حضرت عبد اللہ بن عمرو رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا سے روایت ہے، رسول اللہ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: ”دو باتیں ایسی ہیں جس میں وہ پائی جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر لکھتا ہے اور جس میں یہ دونوں حاصل نہیں نہ ہوں اسے اللہ تعالیٰ صابر و شاکر نہیں لکھے گا۔ (1) جو شخص دینی معاملات میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس کی پیروی کرے۔ (2) دُنْیوی اُمور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف دیکھے اور اللہ تعالیٰ کا اس بات پر شکر ادا کرے کہ اسے اس پر فضیلت دی۔ اور جو آدمی دینی اُمور میں اپنے سے نیچے والے کی طرف اور دُنْیوی اُمور میں اپنے سے اوپر والے کی طرف دیکھے اور اس پر افسوس کرے جو اسے نہیں ملا تو اللہ تعالیٰ اسے صابر و شاکر نہیں لکھتا۔“ (3)

اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو ان احادیث پر عمل کرنے اور غربت و مسکینی کی حالت میں صبر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔

①..... مسلم، کتاب الزهد والرقائق، ص ۱۵۸۴، الحدیث: ۸ (۲۹۶۳)۔

②..... مسلم، کتاب الزهد والرقائق، ص ۱۵۸۴، الحدیث: ۹ (۲۹۶۳)۔

③..... ترمذی، کتاب صفة القيامة، ۵۸-باب، ۴/۲۲۹، الحدیث: ۲۵۲۰۔

مآخذ و مراجع

نمبر شمار	نام کتاب	مصنف / مؤلف	مطبوعات
1	کنز الإیمان	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۲۰ھ	مکتبہ المدینہ، باب المدینہ کراچی
2	کنز العرفان	شیخ الحدیث والتفسیر ابوالصالح مفتی محمد قاسم قادری	مکتبہ المدینہ، باب المدینہ کراچی

کتاب التفسیر و علوم القرآن

1	تفسیر طبری - جامع البیان	امام ابو جعفر محمد بن جریر طبری، متوفی ۳۱۰ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
2	تفسیر ابن ابی حاتم	حافظ عبدالرحمن بن محمد بن ادريس رازی ابن ابی حاتم، متوفی ۳۲۷ھ	مکتبہ نزار مصطفیٰ الباز، ریاض ۱۴۱۷ھ
3	تاویلات اهل السنة	امام ابو منصور محمد بن منصور ماتریدی، متوفی ۳۳۳ھ	پشاور
4	تفسیر سمرقندی	ابواللیث نصر بن محمد بن ابراهیم سمرقندی، متوفی ۳۷۵ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۳ھ
5	تفسیر بغوی	امام ابو محمد حسین بن مسعود فراء بغوی، متوفی ۵۱۶ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۴ھ
6	تفسیر کبیر	امام فخر الدین محمد بن عمر بن حسین رازی، متوفی ۶۰۶ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۰ھ
7	تفسیر قرطبی	ابوعبداللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی، متوفی ۶۷۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ
8	تفسیر بیضاوی	ناصر الدین عبداللہ بن ابو عمر بن محمد شیرازی بیضاوی، متوفی ۶۸۵ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ
9	تفسیر مدارک	امام عبداللہ بن احمد بن محمود نسفی، متوفی ۷۱۰ھ	دار المعرف، بیروت ۱۴۲۱ھ
10	تفسیر خازن	علاء الدین علی بن محمد بغدادی، متوفی ۷۴۱ھ	مطبعہ میمنیہ، مصر ۱۳۱۷ھ
11	البحر المحيط	ابوحیان محمد بن یوسف اندلسی، متوفی ۷۴۵ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ
12	تفسیر ابن کثیر	ابوقداء اسماعیل بن عمر بن کثیر دمشقی شافعی، متوفی ۷۷۴ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
13	تفسیر جلالین	امام جلال الدین محلی، متوفی ۸۶۳ھ و امام جلال الدین سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	باب المدینہ کراچی
14	تفسیر ڈر منشور	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	دار الفکر، بیروت ۱۴۰۳ھ

15	تناسق الدرر	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۰۶ھ
16	تفسیر ابو سعود	علامہ ابو سعود محمد بن مصطفیٰ عمادی، متوفی ۹۸۲ھ	دارالفکر، بیروت
17	تفسیرات احمدیہ	شیخ احمد بن ابی سعید ملا جیون جو پوری، متوفی ۱۱۳۰ھ	پشاور
18	روح البیان	شیخ اسماعیل حقی بروسی، متوفی ۱۱۳۷ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۰۵ھ
19	تفسیر جمال	علامہ شیخ سلیمان جمل، متوفی ۱۲۰۳ھ	باب المدینہ کراچی
20	تفسیر صاوی	احمد بن محمد صاوی مالکی خلوتی، متوفی ۱۲۴۱ھ	دارالفکر، بیروت ۱۴۲۱ھ
21	روح المعانی	ابو الفضل شہاب الدین سید محمود آلوسی، متوفی ۱۲۷۰ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۰ھ
22	خزانة العرفان	صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی، متوفی ۱۳۶۷ھ	مکتبہ المدینہ، کراچی
23	عجائب القرآن مع غرائب القرآن	مولانا عبدالمصطفیٰ اعظمی، متوفی ۱۴۰۶ھ	مکتبہ المدینہ، کراچی

کتاب الحدیث و متعلقاته

1	کتاب الجامع	حافظ معمر بن راشد از دی، متوفی ۱۵۳ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ
2	موطا امام مالک	امام مالک بن انس اصبحی، متوفی ۱۷۹ھ	دارالمعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
3	مصنف ابن ابی شیبہ	حافظ عبد اللہ بن محمد بن ابی شیبہ کوفی عسبی، متوفی ۲۳۵ھ	دارالفکر، بیروت ۱۴۱۲ھ
4	مسند امام احمد	امام احمد بن محمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ	دارالفکر، بیروت ۱۴۱۲ھ
5	دارمی	امام حافظ عبد اللہ بن عبد الرحمن دارمی، متوفی ۲۵۵ھ	دارالکتب العربی، بیروت ۱۴۰۷ھ
6	بخاری	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	دارالکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ
7	مسلم	امام ابو الحسین مسلم بن حجاج قشیری، متوفی ۲۶۱ھ	دار ابن حزم، بیروت ۱۴۱۹ھ
8	ابن ماجہ	امام ابو عبد اللہ محمد بن یزید ابن ماجہ، متوفی ۲۷۳ھ	دارالمعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ
9	ابوداؤد	امام ابوداؤد سلیمان بن اشعث سجستانی، متوفی ۲۷۵ھ	دار احیاء التراث العربی، بیروت ۱۴۲۱ھ
10	ترمذی	امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ ترمذی، متوفی ۲۷۹ھ	دارالفکر، بیروت ۱۴۱۲ھ

11	مسند البزار	امام ابو بكر احمد عمر و بن عبد الخالق بزار، متوفى ٢٩٢ هـ	مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة ١٢٢٢ هـ
12	سنن نسائي	امام ابو عبد الرحمن احمد بن شبيب نسائي، متوفى ٣٠٣ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢٢٦ هـ
13	سنن الكبرى	امام ابو عبد الرحمن احمد بن شبيب نسائي، متوفى ٣٠٣ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢١١ هـ
14	مسند ابي يعلى	امام ابو يعلى احمد بن علي بن مثنى موصلى، متوفى ٣٠٤ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢١٨ هـ
15	صحيح ابن خزيمة	امام محمد بن اسحاق بن خزيمة، متوفى ٣١١ هـ	المكتب الاسلامى، بيروت ١٢١٢ هـ
16	نوادير الاصول	امام ابو عبد الله محمد بن علي الحكيم ترمذى، متوفى ٣٢٠ هـ	مكتبة الامام بخارى، قاهره
17	معجم الكبير	امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبرانى، متوفى ٣٢٠ هـ	دار احياء التراث العربى، بيروت ١٢٢٢ هـ
18	معجم الأوسط	امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبرانى، متوفى ٣٢٠ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢٢٠ هـ
19	معجم الصغير	امام ابو القاسم سليمان بن احمد طبرانى، متوفى ٣٢٠ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢٠٣ هـ
20	البعث	حافظ ابو بكر عبد الله بن ابى داود سجستاني، متوفى ٣٢١ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢٠٤ هـ
21	مستدرک	امام ابو عبد الله محمد بن عبد الله حاكم نيشاپورى، متوفى ٤٠٥ هـ	دار المعرفة، بيروت ١٢١٨ هـ
22	حلية الاولياء	حافظ ابو نعيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعى، متوفى ٢٣٠ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢١٩ هـ
23	مسند امام اعظم	حافظ ابو نعيم احمد بن عبد الله اصفهاني شافعى، متوفى ٢٣٠ هـ	مكتبة الكوثر، رياض ١٢١٥ هـ
24	شعب الإيمان	امام ابو بكر احمد بن حسين بن علي بيهقي، متوفى ٢٥٨ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢٢١ هـ
25	السنن الصغرى	امام ابو بكر احمد بن حسين بن علي بيهقي، متوفى ٢٥٨ هـ	دار المعرفة، بيروت ١٢٢٠ هـ
26	تاريخ بغداد	حافظ ابو بكر احمد بن علي خطيب بغدادى، متوفى ٢٦٣ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢١٤ هـ
27	مسند الفردوس	ابوشجاع شيرويه بن شهر دار بنى شيرويه ديلمى، متوفى ٥٠٩ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢٠٦ هـ
28	شرح السنّة	امام ابو محمد حسين بن مسعود بغوى، متوفى ٥١٦ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢٢٢ هـ
29	ابن عساكر	امام ابو قاسم علي بن حسن شافعى، متوفى ٥٤١ هـ	دار الفکر، بيروت ١٢١٥ هـ
30	مشكاة المصابيح	علامه ولى الدين تبريزى، متوفى ٤٢٢ هـ	دار الكتب العلمية، بيروت ١٢٢٢ هـ

دار الفکر، بیروت ۱۴۲۰ھ	حافظ نور الدین علی بن ابوبکر عیشی، متوفی ۸۰۷ھ	مجمع الزوائد	31
دار الفکر، بیروت ۱۴۱۳ھ	امام جلال الدین بن ابی بکر سیوطی، متوفی ۹۱۱ھ	جامع الاحادیث	32
دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۹ھ	علی متقی بن حسام الدین ہندی برہان پوری، متوفی ۹۷۵ھ	کنز العمال	33

کتب شروح الحدیث

مکتبۃ الرشید، ریاض ۱۴۲۰ھ	ابوالحسن علی بن خلف بن عبد الملک، متوفی ۴۴۹ھ	شرح البخاری لابن بطلان	1
دار الفکر، بیروت ۱۴۱۳ھ	علی بن سلطان محمد ہروی قاری حنفی، متوفی ۱۰۱۳ھ	مرقاۃ المفاتیح	2
مکتبۃ اسلامیہ، مرکز الاولیاء لاہور	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	مرآۃ المناجیح	3

کتب الفقہ

دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ	علامہ علاء الدین محمد بن علی حصکفی، متوفی ۱۰۸۸ھ	در مختار	1
دار الفکر، بیروت ۱۴۰۳ھ	علامہ ہمام مولانا شیخ نظام، متوفی ۱۱۶۱ھ وجماعت من علماء الہند	عالمگیری	2
باب المدینہ، کراچی	علامہ احمد بن محمد بن اسماعیل طحاوی، متوفی ۱۲۴۱ھ	ماشیۃ الطحاوی عن زمرانی	3
دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۰ھ	علامہ محمد امین ابن عابدین شامی، متوفی ۱۲۵۲ھ	رد المحتار	4
رضا فاؤنڈیشن، لاہور	اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	فتاویٰ رضویہ	5
مکتبۃ المدینہ، باب المدینہ کراچی	مفتی محمد امجد علی اعظمی، متوفی ۱۳۶۷ھ	بہار شریعت	6
دارالعلوم حنفیہ فریدی، نصیر پور ۱۴۲۳ھ	ابوالخیر محمد نور اللہ نعیمی، متوفی ۱۴۰۳ھ	فتاویٰ نوریہ	7

کتب التصوف

دار النجد الحدید، ۱۴۲۶ھ	امام ابو عبد اللہ احمد بن محمد بن حنبل، متوفی ۲۴۱ھ	الزهد	1
مؤسسۃ الکتب الثقافیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ	امام ابوبکر احمد بن حسین بن علی بیہقی، متوفی ۴۵۸ھ	الزهد الکبیر	2
دار صادر، بیروت ۲۰۰۰ء	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی شافعی، متوفی ۵۰۵ھ	احیاء علوم الدین	3

4	منہاج العابدین	امام ابو حامد محمد بن محمد غزالی شافعی، متوفی ۵۰۵ھ	مؤسسۃ السیر وان، بیروت ۱۴۱۶ھ
5	التذکرۃ	ابو عبد اللہ محمد بن احمد انصاری قرطبی، متوفی ۶۷۱ھ	دار السلام، قاہرہ ۱۴۲۹ھ
6	تنبیہ المغترین	عبدالوہاب بن احمد بن علی شعرانی، متوفی ۹۷۳ھ	دار المعرفہ، بیروت ۱۴۲۵ھ
7	اتحاف ائسادۃ المتقین	سید محمد بن محمد حسینی زبیدی، متوفی ۱۲۰۵ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت

کتب السیرۃ والطبقات

1	الشفی	قاضی ابوالفضل عیاض مالکی، متوفی ۵۴۴ھ	مرکز اہلسنت برکات رضا، ہند
2	الروض الانف	ابوالقاسم عبدالرحمن بن عبداللہ شمس سہیلی، متوفی ۵۸۱ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۲ھ
3	شرح الشفا	علی بن سلطان محمد بروی قاری حنفی، متوفی ۱۰۱۴ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۲۱ھ
4	مدارج النبوت	شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	مرکز اہلسنت برکات رضا، ہند
5	جذب القلوب	شیخ محقق عبدالحق محدث دہلوی، متوفی ۱۰۵۲ھ	نوریہ رضویہ پبلشنگ کمپنی، لاہور ۱۴۳۱ھ
6	شرح الزرقانی علی المواہب	محمد بن عبدالباقی بن یوسف زرقانی، متوفی ۱۱۲۲ھ	دار الکتب العلمیہ، بیروت ۱۴۱۷ھ

الکتب المتفرقة

1	خلق افعال العباد	امام ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بخاری، متوفی ۲۵۶ھ	مؤسسۃ الرسالہ، بیروت ۱۴۱۱ھ
2	الفقیہ و المتفقہ	ابوبکر احمد بن علی بن ثابت خطیب بغدادی، متوفی ۴۶۲ھ	دار ابن جوزی، دامام ۱۴۲۸ھ
3	بحر الدموع	ابوالفرج عبدالرحمن بن علی جوزی، متوفی ۵۹۷ھ	مکتبہ دار الفجر، دمشق ۱۴۲۴ھ
4	فضائل دعا	مصنف: رئیس المتکلمین مولانا نقی علی خان، متوفی ۱۲۹۷ھ شارح: اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان، متوفی ۱۳۴۰ھ	مکتبہ المدینہ، باب المدینہ کراچی
5	ملفوظات اعلیٰ حضرت	شہزادہ اعلیٰ حضرت علامہ محمد مصطفیٰ رضا خان، متوفی ۱۲۰۲ھ	مکتبہ المدینہ، باب المدینہ کراچی
6	رسائل نعیمیہ	حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی، متوفی ۱۳۹۱ھ	ضیاء القرآن پبلی کیشنز، لاہور

ضمینی فہرست

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
154	باقی رہنے والی نیک باتیں		عقائد متعلقہ ذات باری تعالیٰ
163	اللہ تعالیٰ کے پاس عہد	71	حقیقی مؤثر اللہ تعالیٰ ہے
178	بلند آواز سے ذکر کرنے کا مقصد	87	تمام مخلوقات کو پہلی بار اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا
301	فرشتوں کی تسبیح کی کیفیت	136	اللہ تعالیٰ بھول سے پاک ہے
301	قرب و شرف رکھنے والوں کا وصف	176	عرش پر استواء فرمانے سے متعلق ایک اہم بات
572	استغفار کا سردار		اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رحمت و قدرت
	تخلیق انسانی	48	جنتی نعمتیں اور سب سے اعلیٰ جنت
405	انسانی تخلیق کے مراحل	61	نیک بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے
	عقائد متعلقہ انبیاء و سید الانبیاء علی نبینا وعلیہم الصلوٰۃ والسلام	202	رحمت الہی کی جھلک
27	حضرت خضر علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام زندہ ہیں	510	انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے
	سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہنے سے متعلق 3 اہم باتیں		اللہ عَزَّوَجَلَّ کی مدد
53	متعلق 3 اہم باتیں	414	اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے
108	آزر حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام کا باپ تھا یا چچا؟	450	عزت و نصرت بالآخر مسلمانوں کے لئے ہے
	انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کی عصمت سے متعلق		اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا و ناراضی
256	اہلسنت و جماعت کا عقیدہ	228	اللہ تعالیٰ کے لئے راضی یا ناراض ہونا چاہئے
345	انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام پر زکوٰۃ فرض نہیں	229	اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ایک سبب
364	حضرت ذوالکفل علیہ الصلوٰۃ والسلام نبی تھے یا نہیں؟	360	آزمائش و امتحان ناراضی کی دلیل نہیں
383	انبیاء، صحابہ اور اولیاء کا حشر لباس میں ہوگا	381	سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ
406	انتہائی ضعیفی کی عمر میں عقل و حواس ختم ہونے سے محفوظ لوگ	535	کفار کی ترقی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں
			اللہ عَزَّوَجَلَّ کا ذکر و تسبیح اور استغفار

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
411	کر قبول کیا جائے	427	انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام شرک سے پاک ہیں
414	اللہ تعالیٰ مسلمانوں کا مددگار ہے		سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر رسولوں کا
450	عزت و نصرت بالآخر مسلمانوں کے لئے ہے	486	چناؤ ختم ہو گیا
455	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی دین اسلام پر استقامت		اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی خزانے حضور اقدس صلی اللہ
614	دین اسلام کا وصف	685	تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں ہیں
	کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے		عقائد متعلقہ صحابہ کرام و ائمہات المؤمنین
643	لئے نصیحت		رِضْوَانُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ اَجْمَعِينَ
656	ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب	596	سب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم عادل ہیں
	اسلامی تعلیمات و احکام		حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائی گئی
134	بیکار باتوں سے پرہیز کریں	597	تہمت واضح بہتان تھی
240	وقت ایک قیمتی جوہر ہے اسے ضائع نہ کریں		حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگانا
336	باپ دادا کا برا طریقہ عمل کے قابل نہیں	598	خالص کفر ہے
336	دینی معاملے میں کسی کی رعایت نہیں		اسلام و مسلمان
336	شریعت کے خلاف کام میں کثرت رائے معتبر نہیں		کافروں کی سزا کے بارے میں سن کر مسلمانوں کو بھی
418	عزت و ناموری کسی کی میراث نہیں	162	ڈرنا چاہئے
435	اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کی جائے		اخروی حساب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی روش
	ظلم کے مطابق سزا دینا عدل و انصاف اور معاف کر	280	اور مسلمانوں کا حال
472	دینا بہتر ہے		پہلے کافروں اور اب مسلمانوں پر زمین کے کناروں
480	ہر باتونی اور جھگڑالو سے مناظرہ نہیں کرنا چاہیے	326	کی کمی
	نفس کو مذموم صفات سے پاک کرنا کامیابی حاصل		حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا مسلمانوں کے
502	ہونے کا ذریعہ ہے	367	لیے بھی ہے
	بد عقیدہ اور بد کردار لوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے سے		دین اسلام دنیوی منفعت کی وجہ سے نہیں بلکہ حق سمجھ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
401	شیطان انسانوں اور جنوں سے نجات کی صورت	584	بچیں
490	نفس و شیطان کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب		کسی کی غیر موجودگی میں یا اجازت کے بغیر اس کی چیز
559	شیطان سے حفاظت انتہائی اہم چیز ہے	669	نہ کھائی جائے
604	شیطان کا پیروکار		ایمان و مومن
	کفار	243	اہل ایمان کی شفاعت کے دلیل
101	عیسائیوں کے مختلف فرقے اور ان کے عقائد	438	ایمان کی اہمیت
142	کفار کے عذاب میں فرق ہوگا	483	دل کا آئینہ اور مومن کی علامت
157	کفار کی جاہلانہ اور احمقانہ حرکت		حقیقی کامیابی حاصل کرنے کے لئے ایمان پر خاتمہ
211	کفار کے میڈے میں جانے کا شرعی حکم	495	ضروری ہے
270	کفار کی ترقی ان کے لئے آزمائش ہے		جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں
375	کفار کے انجام میں عبرت و نصیحت	526	بتلا ہونے کا سبب
419	جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی کیفیت	537	نیکی کرنا اور ڈرنا، ایمان کے کمال کی علامت ہے
474	کافروں کے غلبے سے دل تنگ نہیں ہونا چاہئے		فرشتے
522	کافر بہت بڑا بے عقل ہے	301	فرشتوں کی تسبیح کی کیفیت
535	کفار کی ترقی اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی دلیل نہیں		فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں بھی
	موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کافر	310	کریں گے
561	دونوں کریں گے	311	فرشتوں کا خوف خدا
	بد مذہب	383	سج کا معنی
42	خارجیوں کا مختصر تعارف		شیاطین
42	ظاہری اعمال اچھے ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں	140	دنیا و آخرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب
403	بد مذہبوں سے دوستی اور تعلقات رکھنے کی ممانعت		شیطان کی حضرت آدم عَلَیْهِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام سے دشمنی
	بد عقیدہ اور بد کردار لوگوں کا ساتھی بننے اور بنانے سے	253	کی وجہ

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
633	قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب	584	بچپن
	تلاوت و درس قرآن کریم		نظریات و معمولاتِ اہلسنت
124	درس قرآن اور درس علم دین کے فضائل		ولادت کے دن خوشی کرنے اور وفات کے دن غم کا اظہار نہ کرنے کی وجہ
125	قرآن مجید کا درس دینے سے متعلق اہم تنبیہ	79	نوری وجود بشری صورت میں آسکتا ہے
127	اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا شعار	82	زوجہ اہل بیت میں داخل ہے
129	سجدہ تو کر لیا مگر آنسو نہ نکلے	180	تعظیم کے طور پر غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام اور اس سے بچنا فرض ہے
	آیت ”اِذَا تَلَّيْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمٰنِ“ سے حاصل ہونے والی معلومات	252	”فلاں کے حکم سے یہ کام ہوتا ہے“ کہنا شرک نہیں
129		357	اولیاء کرام رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَيْهِمْ كِي طرف منسوب جانوروں کا شرعی حکم
406	انتہائی ضعیفی کی عمر میں عقل و حواس ختم ہونے سے محفوظ لوگ	435	اللہ تعالیٰ کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کی جائے
	موت	435	اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس کی اجازت سے عاجز اور بے بس نہیں
25	عبرت انگیز عبارات	485	خلافت راشدہ کی دلیل
184	موت اور قیامت کا وقت چھپائے جانے کی حکمت	661	مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں، پوجتے ہرگز نہیں
	راہ خدا میں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت مرنے والے سے افضل ہے	681	قرآن کریم
469		174	قرآن مجید کی عظمت بیان کرنے کا مقصد
	موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کافر دونوں کریں گے	258	دنیا میں گمراہی اور آخرت میں بدبختی سے بچنے کا ذریعہ
561		295	قرآن مجید کی تعلیمات سے منہ پھیرنے کا انجام
	دنیا و آخرت	415	ہدایت حاصل ہونے کا ایک عظیم ذریعہ
38	دنیا فنا ہونے سے پہلے یا جوج و ماجوج کا نکلنا		
103	اخروی تیاری کی ترغیب		
140	دنیا و آخرت میں شیطان کا ساتھی بننے کا سبب		
151	دنوی ترقی کو اخروی بہتری کی دلیل بنانا درست نہیں		
258	دنیا میں گمراہی اور آخرت میں بدبختی سے بچنے کا ذریعہ		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
184	موت اور قیامت کا وقت چھپائے جانے کی حکمت		اخروی حساب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی روش
281	مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں	280	اور مسلمانوں کا حال
282	جب حساب کا وقت قریب ہے تو یہ دیوار نہیں بنے گی		فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں
329	میزان کے خطرے سے نجات پانے والا شخص	310	بھی کریں گے
	قیامت کے ذکر سے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کا		موت کے وقت دنیا میں واپسی کا سوال مومن و کافر
398	حال	561	دونوں کریں گے
	پل صراط	655	دین دنیا میں کامیابی حاصل ہونے کا ذریعہ
144	پل صراط سے متعلق چند اہم باتیں	656	اخروی کامیابی کے اسباب کی جامع آیت
145	پل صراط کا خوفناک منظر		اعمال
148	نجانے ہم پل صراط سے نجات پا جائیں گے یا نہیں	42	ظاہری اعمال اچھے ہونا حق پر ہونے کی دلیل نہیں
149	پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے لئے 3 اعمال	44	بدکار سے زیادہ بد نصیب
	عذاب الہی	45	اعمال میں وزن سے محروم ہونے والے لوگ
140	کفار کے عذاب میں فرق ہوگا	159	نیک عمل کرنے میں جلدی کرنی چاہئے
	کافروں کی سزا کے بارے میں سن کر مسلمانوں کو بھی	177	برے کاموں سے بچنے اور نیک اعمال کرنے کی ترغیب
162	ڈرنا چاہئے	247	نیک اعمال کی قبولیت ایمان کے ساتھ مشروط ہے
265	اس امت پر عذاب عام نہ آنے کی وجوہات	247	نیک اعمال اور لوگوں کا حال
325	غفلت و عذاب کا عمومی سبب	447	اچھی نیت اور اخلاص کے بغیر نیک عمل مقبول نہیں
371	خود ساختہ اختلاف اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے	483	جنت اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال
462	ظلم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے	488	نیک اعمال کس امید پر کرنے چاہئیں؟
	جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں		قیامت
526	بتلا ہونے کا سبب		اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری کے وقت بہت بڑا
565	جہنم کا ایک عذاب	167	خطرہ ہوگا

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
483	جنت اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال		شفاعت
507	ہر شخص کے دو مقام ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں	243	اہل ایمان کی شفاعت کے دلیل
	جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں	243	شفاعت سے متعلق 6 احادیث
526	بتلا ہونے کا سبب		فرشتے دنیا میں شفاعت کرتے ہیں اور آخرت میں
565	جہنم کا ایک عذاب	310	بھی کریں گے
567	جہنمیوں کی فریاد		جنت
	عبادت	48	جنتی نعمتیں اور سب سے اعلیٰ جنت
73	ہماری پیدائش کا اصلی مقصد	160	اہل جنت کے اعزاز و کرام سے متعلق 4 روایات
272	اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑنے کا انجام	187	عصا کے ساتھ جنت میں چہل قدمی
301	قرب و شرف رکھنے والوں کا وصف	423	آیت میں بیان کی گئی جنتی نعمتوں سے متعلق 3 احادیث
507	عظیم الشان عبادت	483	جنت اور جہنم کی طرف لے جانے والے اعمال
531	عبادت کرنے سے کوئی مستغنی نہیں	506	6 چیزوں کی ضمانت دینے پر جنت کی ضمانت
537	پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال	507	ہر شخص کے دو مقام ہیں، ایک جنت میں اور ایک جہنم میں
570	اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت دانشمندی نہیں	508	اللہ تعالیٰ سے سب سے اعلیٰ جنت کا سوال کریں
	مسجد		جنت کی نعمتیں پانے کا ذریعہ اور جہنم کے عذاب میں
149	پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے لئے 13 اعمال	526	بتلا ہونے کا سبب
427	مسجد تعمیر کرنے اور اسے صاف ستھرا رکھنے کے فضائل		جہنم
428	مسجد کا متولی کیسا ہونا چاہئے؟	132	جہنم کی وادی ”نخی“ کا تعارف
637	مسجد سے متعلق 4 احادیث	304	بدترین اعتراضات اور ان کا انجام
638	صبح یا شام مسجد میں جانے کی فضیلت	419	جہنم میں کفار پر ڈالے جانے والے پانی کی کیفیت
	نماز	420	جہنم کے گرز
	اہل خانہ کو نماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ	421	جہنم کو پیدا فرمانے میں حکمت

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
430	پیدل حج کرنے کے فضائل	122	عَلَيْهِ وَالْآلِ وَسَلَّمَ کی سیرت
430	حج کا دینی اور دنیوی فائدہ	123	اہل خانہ کو نماز کا حکم دینے کی ترغیب
439	حج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟	123	نماز فجر کے لئے جگانے کی فضیلت
	قربانی	131	نماز ضائع کرنے کی صورتیں اور 3 وعیدیں
432	حرم میں کی جانے والی قربانی سے متعلق 4 شرعی مسائل	163	اللہ تعالیٰ کے پاس عہد
439	حج کے موقع پر کیسے جانور کی قربانی دی جائے؟	271	نماز اور مسلمانوں کا حال
443	جانور ذبح کرتے وقت اللہ تعالیٰ کا نام ذکر کرنا شرط ہے	496	نماز میں ظاہری و باطنی خشوع
444	قربانی کا دنیوی اور اخروی فائدہ	497	خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور دو واقعات
	آیت ”وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا“ پر عمل سے متعلق بزرگان	507	عظیم الشان عبادت
445	دین کے دو واقعات	639	نماز سے متعلق صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کا حال
446	اونٹ نحر کرنے سے متعلق دو شرعی مسائل	640	وقت پر اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کے 3 فضائل
449	حضرت مالک بن دینار رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ اور ایک حاجی		عورت کے لئے گھر میں نماز پڑھنا زیادہ فضیلت کا
	نکاح	641	باعث ہے
627	نکاح کرنے کا شرعی حکم		سجدہ
	نکاح کی استطاعت نہ رکھنے والوں سے متعلق 2 شرعی	129	سجدہ تو کر لیا مگر آنسو نہ نکلے
630	مسائل		تعظیم کے طور پر غیر خدا کو سجدہ کرنا حرام اور اس سے
	جہاد	252	بچنا فرض ہے
453	جہاد کی برکت		زکوٰۃ
490	نفس و شیطان کے خلاف جہاد کرنے کی ترغیب	345	انبیاء کرام عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ پر زکوٰۃ فرض نہیں
	شہید	501	زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل اور نہ دینے کی وعید
381	سب سے بڑی گھبراہٹ سے امن میں رہنے والے لوگ	640	زکوٰۃ ادا کرنے کے فضائل
	راہ خدا میں شہید ہونے والا اس راہ میں طبعی موت مرنے		حج

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
624	پردے کی ضرورت و اہمیت سے متعلق ایک مثال	469	والے سے افضل ہے
625	پردے کی طرف سے بے پروائی تباہی کا سبب ہے		زنا
	گھر میں آنے جانے کے احکام و آداب	578	زنا کی حد سے متعلق 3 شرعی مسائل
612	دوسروں کے گھر جانے سے متعلق 3 شرعی احکام	581	زنا کی مذمت
613	کسی کا دروازہ بجانے سے متعلق دو اہم باتیں		پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا
665	گھر میں اجازت لے کر داخل ہونے کی ایک حکمت	585	سے متعلق چند شرعی مسائل
	گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرنے سے متعلق دو	588	بیوی پر زنا کی تہمت لگانے کے شرعی حکم کا خلاصہ
671	شرعی مسائل	631	زنا پر مجبور کئے جانے کی تفصیل
	متفرق مسائل و احکام	632	عورتوں کو زنا پر مجبور کرنے والے غور کریں
22	باطن کا حال جان کر کسی کو قتل کرنا جائز ہے یا نہیں؟		حدود
90	چپ رہنے کا روزہ منسوخ ہو چکا ہے	578	زنا کی حد سے متعلق 3 شرعی مسائل
96	آدمی سب تک شرعی احکام کا پابند ہے؟	578	غیر مُحَصَّن زانی کی سزا
211	کفار کے میلے میں جانے کا شرعی حکم		حدود نافذ کرنے کے معاملے میں مسلم حکمرانوں کے لئے
227	سبب کی طرف نسبت کرنا جائز ہے	579	شرعی حکم
351	مجتہد کو اجتہاد کرنے کا حق حاصل ہے		پاک دامن مرد یا عورت پر زنا کی تہمت لگانے کی سزا
	اولیاء کرام رَحْمَةُ اللهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ کی طرف منسوب	585	سے متعلق چند شرعی مسائل
435	جانوروں کا شرعی حکم		حلال و حرام
488	سورہ حج کی آیت نمبر 77 سے متعلق ایک اہم شرعی مسئلہ	423	مردوں کے لئے ریشم پہننے کی وعیدیں
	حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا پر تہمت لگانا	505	ہم جنس پرستی، مشیت زنی اور متعہ حرام ہے
598	خالص کفر ہے		پردہ
664	لڑکا اور لڑکی کب بالغ ہوتے ہیں؟	620	عورت کا اجنبی مرد کو دیکھنے کا شرعی حکم
667	فتوے پر عمل کرنے سے تقوے پر عمل کرنا زیادہ اولیٰ ہے	624	پردے کے دینی اور دنیوی فوائد

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
356	عاجزی		واقعات
360	حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بیماری	86	یوسف نجار کے سوال کا جواب
	حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم	129	سجدہ تو کر لیا مگر آنسو نہ نکلے
67	آیت ”یٰۤاَکْرِیْبًا اِنَّا نُبَشِّرُکَ“ سے متعلق تین باتیں	148	نجانے ہم پل صراط سے نجات پا جائیں گے یا نہیں
	نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پاک کرنے	202	رحمت الہی کی جھلک
75	والے ہیں	281	مجھے تمہاری جائیداد کی کوئی ضرورت نہیں
75	نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوفِ خدا	282	جب حساب کا وقت قریب ہے تو یہ دیوار نہیں بنے گی
	نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بچپن میں ملنے		آیت ”وَالْبَدَنَ جَعَلْنَاهَا“ پر عمل سے متعلق بزرگان
93	والے عظیم ترین فضائل	445	دین کے دو واقعات
95	تاجدارِ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات	449	حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ایک حاجی
119	کلیم اور حبیب میں فرق	497	خشوع کے ساتھ نماز ادا کرنے کی فضیلت اور دو واقعات
121	رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وعدہ وفا کی	590	واقعا فک
190	کلیم اور حبیب کو دکھائی گئی نشانیوں میں فرق	656	ایک عیسائی کے قبول اسلام کا سبب
265	اس امت پر عذاب عام نہ آنے کی وجوہات		فضائل و مناقب
	حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کا		انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام
320	انجام	118	حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام کی پانچ صفات
	رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا نسب اس	124	حضرت ادريس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مختصر تعارف
563	وقت بھی فائدہ دے گا جب رشتے منقطع ہو جائیں گے	344	حضرت لوط علیہ الصلوٰۃ والسلام کا مختصر تعارف
	اللہ تعالیٰ کی عطا سے نبی خزانے حضور اقدس صلی اللہ		حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے
685	تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبضہ میں ہیں	346	احسانات
	حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے	354	انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پیشے
688	مال و دولت پر فقر کو ترجیح دی		حضرت سلیمان علیہ الصلوٰۃ والسلام کی بادشاہی اور

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
122	اہل خانہ کو نماز کی تلقین کرنے میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت	225	حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و رضا
386	حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت	268	کلیم اور حبیب کی رضا میں فرق
389	حضرت عیسیٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رحمت میں فرق	658	اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا چاہتا ہے
473	بدلہ نہ لینے سے متعلق تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت	557	حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت قبولیت کی چابی ہے
557	رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت سے برائی کو بھلائی کے ساتھ ٹالنے کی مثالیں	174	حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت
28	صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین و بزرگان دین رحمہم اللہ المسین	358	اللہ تعالیٰ کی باگاہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت
80	حضرت ذوالقرنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مختصر تعارف	388	اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شان
89	حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی فضیلت	543	آیت ”وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ“ اور عظمت مصطفیٰ
94	حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اللہ تعالیٰ کی عنایت و کرم نوازی	609	حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت پہچاننے کا ایک طریقہ
107	حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی براءت میں فرق	229	سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بلند مقام
168	مقام صدیق اور مقام نبوت میں فرق	378	حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت و رحمت
229	محبوبیت کی دلیل اور ولی کی علامت	74	حضرت یحییٰ علیہ الصلوٰۃ والسلام اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نرم دلی اور رحمت
378	اللہ تعالیٰ کی ناراضی کا ایک سبب		
383	صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی عظمت و شان انبیاء، صحابہ اور اولیاء کا حشر لباس میں ہوگا		

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
492	سورہ مؤمنون کا تعارف		قیامت کے ذکر سے صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کا
574	سورہ نور کا تعارف	398	حال
677	سورہ فرقان کا تعارف		خلفاء راشدین رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی پاکیزہ سیرت
	سورتوں اور آیتوں کے فضائل	454	کی جھلک
57	سورہ مریم سے متعلق احادیث	455	صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کی دین اسلام پر استقامت
170	سورہ طہ کے فضائل	510	حضرت عمر فاروق رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ کی سعادت
394	سورہ حج کے بارے میں حدیث		حضرت عائشہ صدیقہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا کی فضیلت
492	سورہ مؤمنون کی فضیلت	611	اور خصوصیات
495	سورہ مؤمنون کی ابتدائی دس آیات کی فضیلت		اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے میں صحابیات رَضِيَ اللهُ
574	سورہ نور کے بارے میں احادیث	621	تَعَالَى عَنْهُنَّ کا جذبہ
	سورتوں کے مضامین	639	نماز سے متعلق صحابہ کرام رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمْ کا حال
58	سورہ مریم کے مضامین		مقدس مقامات
171	سورہ طہ کے مضامین	344	برکت والی سرزمین
276	سورہ انبیاء کے مضامین	433	خانہ کعبہ کی شان
395	سورہ حج کے مضامین	434	مکہ مکرمہ کی بے حرمتی کرنے والے کا انجام
492	سورہ مؤمنون کے مضامین		مسلمان ولیوں کے مزارات کا احترام کرتے ہیں،
575	سورہ نور کے مضامین	681	پوجتے ہرگز نہیں
677	سورہ فرقان کے مضامین		سورتوں کا تعارف
	پچھلی سورت کے ساتھ مناسبت	57	سورہ مریم کا تعارف
60	سورہ کہف کے ساتھ مناسبت	170	سورہ طہ کا تعارف
172	سورہ مریم کے ساتھ مناسبت	276	سورہ انبیاء کا تعارف
278	سورہ طہ کے ساتھ مناسبت	394	سورہ حج کا تعارف

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
	سورہ مریم کی آیت نمبر 44 اور 45 سے حاصل ہونے	396	سورہ انبیاء کے ساتھ مناسبت
112	والی معلومات	494	سورہ حج کے ساتھ مناسبت
	آیت ”وَاعْتَزِلْكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ“	576	سورہ مؤمنون کے ساتھ مناسبت
115	سے حاصل ہونے والی معلومات	678	سورہ نور کے ساتھ مناسبت
	آیت ”فَلَمَّا اعْتَزَلْتَهُمْ“ سے حاصل ہونے والی		
116	معلومات		
	حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰۃ والسلام اور آزر کے واقعے		
117	سے حاصل ہونے والی معلومات	19	آیت ”قَالَ هَذَا اِفْرَاقٌ بَيْنِي وَبَيْنِكَ“ سے حاصل
	آیت ”وَوَهَبْنَا لَهُ مِنْ رَحْمَتِنَا“ سے حاصل ہونے	20	ہونے والی معلومات
120	والی معلومات		آیت ”اَمَّا السَّفِينَةُ“ سے حاصل ہونے والی معلومات
	آیت ”اِذَا تَنَلَىٰ عَلَيْهِمُ اَيُّتُ الرَّحْمٰنِ“ سے حاصل	23	آیت ”فَاَمْرَدْنَا اَنْ يُّبَدِلَهُمَا رَبُّهُمَا“ سے حاصل ہونے
129	ہونے والی معلومات		والی معلومات
	سورہ مریم کی آیت نمبر 77 تا 80 سے حاصل ہونے	64	آیت ”رَبِّ اِنِّي وَهِنَ الْعَظْمِ مِثْيُ“ سے حاصل
156	والی معلومات		ہونے والی معلومات
	آیت ”الْم تَرَانَا اَمْرَسَلْنَا الشَّيْطٰنِ“ سے حاصل	66	سورہ مریم کی آیت 5 اور 6 سے حاصل ہونے والی
158	ہونے والی معلومات	67	معلومات
	آیت ”وَنَسُوْقِ الْمَجْرِمِيْنَ“ سے حاصل ہونے		آیت ”يٰۤاٰكْرِبِيَّ اِنَّا نَبْشُرُكَ“ سے متعلق تین باتیں
162	والی معلومات	84	آیت ”لَا هَبَ لَكَ عَلِمًا ذِكِيًّا“ سے حاصل ہونے
	سورہ مریم کی آیت 97 سے متعلق 13 ہم باتیں		والی معلومات
169	آیت ”فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ“ سے حاصل ہونے والی	97	آیت ”وَبَرًّا بِوَالِدِيْ“ سے حاصل ہونے والی
	معلومات		معلومات
181	آیت ”وَاقِمِ الصَّلٰوةَ لِيذْكُرِيْ“ سے حاصل ہونے	111	آیت ”يٰۤاَبَتِ اِنِّي قَدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ“ سے
			حاصل ہونے والی معلومات

آیات سے حاصل ہونے والی معلومات
وبائیں

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
327	ہونے والے مسائل	183	والی معلومات
	آیت ”فَلَسْتَجِبْنَا لَهُ فَعَجَبُنَا“ سے دعا کے بارے		سورۃ طہ کی آیت نمبر 29 تا 35 سے حاصل ہونے
349	میں معلوم ہونے والے دو احکام	193	والی معلومات
350	کھیتی والے واقعے سے معلوم ہونے والے مسائل		سورۃ طہ کی آیت نمبر 117 تا 119 سے حاصل ہونے
	حضرت ایوب عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی دعا سے معلوم	254	والی معلومات
361	ہونے والے مسائل		حضرت زکریا عَلَیْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ کی دعا سے معلوم
	آیت ”فَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ“ سے معلوم	368	ہونے والی باتیں
372	ہونے والے مسائل		آیت ”وَقَالَ الْمَلَأَمِنْ قَوْمِهِ“ سے معلوم ہونے
	آیت ”وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُّجَادِلُ“ سے معلوم ہونے	521	والی باتیں
409	والے احکام		آیت ”يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا خُطُوبِ
	آیت ”إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا“ سے معلوم	605	الشَّيْطَانِ“ سے معلوم ہونے والے امور
417	ہونے والے مسائل		آیت ”وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ“ سے معلوم
	آیت ”وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا“ سے معلوم ہونے	652	ہونے والے امور
467	والے مسائل		آیت ”إِسْمَاءُ الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَ
	آیت ”وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ“	673	رَسُولِهِ“ سے معلوم ہونے والے اہم امور
607	سے معلوم ہونے والے مسائل		آیات سے معلوم ہونے والے عقائد اور
	دل		مسائل و احکام
440	پرہیزگاری کا مرکز		آیت ”وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَى آدَمَ“ سے حاصل ہونے
459	دل کے اندھے پن کا نقصان	250	والے عقائد و مسائل
483	دل کا آئینہ اور مومن کی علامت		آیت ”وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ“ سے معلوم ہونے
	علم و علماء	308	والے مسائل
47	اہل حق علماء کا مذاق اڑانے والوں کو نصیحت		آیت ”قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ“ سے معلوم

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
537	پہلے زمانے کے اور موجودہ زمانے کے لوگوں کا حال	124	درس قرآن اور درس علم دین کے فضائل
	تقویٰ و پرہیزگاری	186	سوال پوچھنے کی وجہ لاعلمی ہونا ضروری نہیں
26	باپ کے تقویٰ اور پرہیزگاری کا فائدہ	194	علماء اور نیک بندوں کی صحبت اختیار کرنے کی ترغیب
440	پرہیزگاری کا مرکز	287	شرعی معلومات نہ ہونے اور نہ لینے کے نقصانات
	زبان و اعضاء کی حفاظت	288	فرض علوم سیکھنے کی ضرورت و اہمیت
134	بیکار باتوں سے پرہیز کریں	292	سوال کرنا علم کے حصول کا ایک ذریعہ ہے
	زبان کی حفاظت کرنے کی ضرورت اور اس کے فوائد و	307	فساد کی سب سے بڑی جڑ
499	نقصانات	352	علم دین کے مالدار پر فضائل
499	لغو سے کیا مراد ہے؟	400	علم کلام اچھا علم ہے
504	شرمگاہ کی حفاظت کرنے کی فضیلت		دعوت و تبلیغ (نیکی کی دعوت)
504	شرمگاہ کی شہوت کا علمی اور عملی علاج		نیکی کی دعوت دینے اور برائی سے منع کرنے والوں
	نگاہیں جھکا کر رکھنے اور حرام چیزوں کو دیکھنے سے بچنے	113	کے لئے درس
516	کی ترغیب	232	وعظ و نصیحت کی عمدہ ترتیب
	مہمان نوازی	462	مبلغین کے لئے نصیحت
18	مہمان نوازی نہ کرنے کی مذمت		خوف خدا
670	مہمان نوازی سے متعلق دو احادیث	75	نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خوف خدا
	اولاد	105	گناہگاروں کے لئے مقام خوف
61	نیک بیٹا اللہ تعالیٰ کی بڑی رحمت ہے		کافروں کی سزا کے بارے میں سن کر مسلمانوں کو بھی
345	نیک اولاد کا فائدہ	162	ڈرنا چاہئے
	رزق حلال	311	فرشتوں کا خوف خدا
273	روزی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ	333	بن دیکھے اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کی فضیلت
	حلال رزق حاصل کرنے کیلئے جائز پیشہ اختیار کرنے	537	نیکی کرنا اور ڈرنا، ایمان کے کمال کی علامت ہے

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
459	چیزیں	355	کے فضائل
602	اشاعتِ فاحشہ میں ملوث افراد کو نصیحت		پاکیزہ اور حلال چیزیں کھانے کی ترغیب اور ناپاک و
633	قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے کی ترغیب	530	حرام چیزیں کھانے کی مذمت
	کفار کے لئے بیان کی گئی مثال میں مسلمانوں کے لئے	531	حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی توفیق ملنے کی دعا
643	نصیحت	627	تنگدستی دور ہونے اور فراخ دستی حاصل ہونے کا ذریعہ
	توبہ		مصائب و آزمائشیں
224	توبہ کی اہمیت اور اس کی قبولیت	270	کفار کی ترقی ان کے لئے آزمائش ہے
265	اس امت پر عذابِ عام نہ آنے کی وجوہات	318	مصیبت آنے پر صبر اور نعمت ملنے پر شکر کرنے کی ترغیب
298	کون سی توبہ فائدہ مند ہے؟	360	آزمائش و امتحان ناراضی کی دلیل نہیں
329	میزان کے خطرے سے نجات پانے والا شخص	362	مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب
	ظلم	696	غربت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ہے
462	ظلم اللہ تعالیٰ کے عذاب کا سبب ہے		صبر و شکر و توکل
	ظلم کے مطابق سزا دینا عدل و انصاف اور معاف کر	17	تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تمنا
472	دینا بہتر ہے	203	مخلوق سے ایذا کا خوف توکل کے خلاف نہیں
	جھوٹ و حسد	318	مصیبت آنے پر صبر اور نعمت ملنے پر شکر کرنے کی ترغیب
	شیطان کی حضرت آدم علیہ الصلوٰۃ والسلام سے دشمنی	362	مصیبت پر صبر کرنے کا ثواب
253	کی وجہ	478	شکر گزار اور ناشکرابندہ
285	اہل باطل اور جھوٹے کسی ایک بات پر قائم نہیں رہتے		وعظ و نصیحت
	جھوٹی گواہی دینے اور جھوٹ بولنے کی مذمت پر 4	47	اہل حق علماء کا مذاق اڑانے والوں کو نصیحت
436	احادیث	232	وعظ و نصیحت کی عمدہ ترتیب
	تکبر و ریا کاری	375	کفار کے انجام میں عبرت و نصیحت
56	ریا کاری کی مذمت پر 14 احادیث		عبرت و نصیحت حاصل کرنے کے لئے فائدہ مند دو

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
367	حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا مسلمانوں کے لیے بھی ہے	77	تکبر سے بچنے کی فضیلت اور عاجزی کے فضائل
368	حضرت زکریا علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا سے معلوم ہونے والی باتیں	594	بدگمانی و بہتان تراشی
369	دعائیں قبول ہونے والا بننے کیلئے تین کام کئے جائیں	597	بدگمانی سے بچنے کی ترغیب
149	دعائیں، وظائف و اعمال	599	حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر لگائی گئی تہمت واضح بہتان تھی
365	پل صراط پر آسانی اور حفاظت کے لئے 13 اعمال	600	بہتان تراشی کی مذمت
531	مقبول دعائیہ کلمات	280	بہتان تراشی کرنے والوں کا رد کرنا چاہئے
24	حلال رزق پانے اور نیک کاموں کی توفیق ملنے کی دعا	325	غفلت
77	متفرقات	328	اخروی حساب سے غفلت کے معاملے میں کفار کی روش اور مسلمانوں کا حال
187	یتیم کے ساتھ نیکی کرنے کا ثواب	570	غفلت و عذاب کا عمومی سبب
201	لفظ ”جبار“ کے مختلف معنی	62	غفلت و بدبختی کا شکار لوگوں کا حال
263	عصار کھنے کے فوائد	114	اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غفلت و انشمندی نہیں
313	نرمی کے فضائل	349	دعا
321	دونوں جہاں میں گناہ اور نیکی کا نتیجہ	671	آہستہ آواز میں دعا مانگنے کی فضیلت اور دعا مانگنے کا ایک ادب
370	آسمان وزمین ملے ہوئے ہونے سے کیا مراد ہے؟	635	آزر کے لئے دعائے مغفرت کا وعدہ کرنے کی وجہ
635	جلد بازی کی مذمت اور مستقل مزاجی کی اہمیت	361	آیت ” فَاسْتَجِبْنَا لَهُ فَبَجَّيْنَاهُ “ سے دعا کے بارے میں معلوم ہونے والے دو احکام
671	پاک دامنی عورت کے لئے بہترین وصف ہے		حضرت ایوب علیہ الصلوٰۃ والسلام کی دعا سے معلوم ہونے والے مسائل
	نور کی مثال کے مختلف معانی		
	مل کر کھانے کے 3 فضائل		

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَقَابَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور اسے سیکھنے کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے، نبی اکرم صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ارشاد فرمایا: جو لوگ اللہ تعالیٰ کے گھروں میں سے کسی گھر میں قرآن پڑھنے اور آپس میں قرآن سیکھنے سکھانے کے لیے جمع ہوتے ہیں ان پر سیکنہ (یعنی چین) اترتا ہے، اور (اللہ کی) رحمت ان پر چھا جاتی ہے اور فرشتے انہیں گھیر لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو (مقرب فرشتوں کی) اُس جماعت میں یاد کرتا ہے جو اللہ کے خاص قرب میں ہے۔

(مسلم، ص ۱۴۴۷، الحدیث: ۳۸ (۲۶۹۹))



ISBN 978-969-631-644-2



0126306



ایضاً ایڈسواک ایچ آر سرور ایٹان کی اپنی کاپی
۱۹۱۱ نوڈ آرکسٹ کے لیے پڑھیں ۱۳۱۱



آئی فون ایچ آر سرور ایٹان کی اپنی کاپی
۱۹۱۱ نوڈ آرکسٹ کے لیے پڑھیں ۱۳۱۱



فیضانِ مدینہ، محلہ سوداگران، پرانی سبزی منڈی، باب المدینہ (کراچی)

UAN: +92 21 111 25 26 92 Call Center: +92 313 11 39 278

Web: www.maktabatulmadinah.com / www.dawateislami.net

Email: feedback@maktabatulmadinah.com / ilmia@dawateislami.net

